

حُكْمَاتٌ  
حُكْمُ الْأُمَّةِ

ادارهٔ تبلیغات اشرفیه

چوک فواره نہت ان پرستان نون: 4540513-4519240

بسیله خطبات حکیم الامت جلد - ۹

# فضائل پروردگار

(جدید ایڈیشن)

حکیم الامم مولانا محمد شرف علی مخانوی نواں شرقہ

عنوانات و ترتیب

مشی عبد الرحمن خان رحمہ اللہ

تصحیح و تزئین تحریج احادیث

صوفی محمد اقبال قریشی مدظلہ مولانا زاہد محمود قادری

ادارہ تالیفات آشرفیہ  
چوک فوارہ ملتان پاکستان

(061-4540513-4519240)

# فضائل صبر و شکر

تاریخ اشاعت ..... رجب الرجب ۱۴۳۰ھ  
 ناشر ..... ادارہ تالیفات اشرفیہ ملان  
 طباعت ..... سلامت اقبال پر لیں ملان

## انتباہ

اس کتاب کی کاپی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں  
 کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

### قانون د مشیر

## قیصر احمد خان

(ایم دوکیٹ ہائی کورٹ ملان)

## قارئین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف رینگ معیاری ہو۔  
 الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود ہتی ہے۔  
 پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مطلع فرمایا کر منون فرمائیں  
 تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ ..... جوک فوارہ ..... ملان      مکتبہ الفاروق ..... مصریاں ..... دہلی ..... پنڈی

ادارہ اسلامیات ..... اماراتی ..... لاہور      دارالاشاعت ..... اردو بازار ..... کراچی

مکتبہ سید احمد شہید ..... اردو بازار ..... لاہور      مکتبہ القرآن ..... نجف آن ..... کراچی

مکتبہ رحمانی ..... اردو بازار ..... لاہور      مکتبہ دارالخلاف ..... قص خوانی بازار ..... پشاور

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K.      119-121- HALLIWELL ROAD  
 (ISLAMIC BOOKS CENTER)      BOLTON BL1 3NE. (U.K.)

مذکور  
کتب



## عرض ناشر

الله تعالى کے فضل و کرم اور اپنے اکابرین کی دعاؤں کے طفیل "خطبات حکیم الامت" مکمل ۳۲ جلدوں میں شائع کرچکا ہے۔

بہت سے بزرگوں کی تمنا تھی کہ خطبات میں آنے والی احادیث مبارکہ کی تحریج ہو جائے اور فارسی اشعار وغیرہ کا ترجمہ ہو جائے۔

بتوفیقہ تعالیٰ ادارے نے زر کش خرچ کر کے یہ کام کیا۔ محترم جناب مولانا زاہد محمود صاحب نے تحریج احادیث اور حضرت صوفی محمد اقبال قریشی صاحب مدظلہ نے فارسی اشعار کے ترجمہ وغیرہ کے کام انجام دیئے۔

اس طرح الحمد لله یہ جدید ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔  
الله تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے آمین۔

احقر: محمد الحق عفی عنہ

رجب المرجب ۱۴۳۰ھ بمطابق جولائی 2009ء

# مِاجِمَالُ الْفَهْرِسِت

الصبر.....	١٢
حقيقة الصبر .....	٣٢
ما عليه الصبر .....	١٠٥
الصبر والصلوة.....	١٣٦
الصبر بالصبر .....	١٧٧
الجبر بالصبر .....	٢٠٣
الامتحان.....	٢٥٣
آداب المصاب.....	٢٩٦
دواضيق .....	٣٣١
الاجر النبيل.....	٣٣٣
سلوة الحزين .....	٣٣٦
تحریم المحرم.....	٣٨٥

# فہرست مضمون

۳۵	ممنوع تعویذ
۳۷	نقووفاقہ
۴۰	ظاہرو باطن
<b>۴۲</b>	<b>حقیقت الصبر</b>
۴۳	ظاہرو باطن پر حالات کا اثر
۴۵	دین پر مصیبت کا اثر
۴۷	پابندی کے اثرات
۴۸	ترک معمول کے نتائج
۴۹	غائب کا ظاہر پر اثر
۵۰	مصادب اور حواس
۵۱	راحت کا خاصہ
۵۲	کامیں کی آزمائش
۵۳	ناقص و کامل کی صورت
۵۶	سعد و سُخّس
۵۶	تجددی غم و اظہار حزن
۵۸	عالم برزخ
۵۹	المصیبت کا ثواب

<b>۱۲</b>	<b>الصبر</b>
۱۵	طريق شکوه
۱۶	رضا اور لذت
۱۸	ترجمہ قرآن کی اہمیت
۱۹	صبر کی تین حالتیں
۲۰	صبر کی تعریف
۲۲	دعا کی حقیقت و صورت
۲۳	صبر اور تدبیر
۲۴	غلبہ حال اور تدبیر
۲۵	بے صبری کی علامت
۲۶	رومی و تبریزی
۲۷	عوام و حواس کا فرق
۲۸	آج کل کے صوفی
۳۰	اسباب ظاہرہ اور سنت
۳۰	دوا اور دعا
۳۳	تعویذ گندے
۳۵	تدبیر و تقدیر

۹۳	ذاتی اصلاح کا طریقہ
۹۷	اسباب تنزل
۱۰۰	فساد ذات الیمن
۱۰۱	صابرین کی دینیوی جزا
۱۰۲	اطمینان بخش دولت
۱۰۳	ہدایت کی صورت
۱۰۵	<b>ما علیہ الصبر</b>
۱۰۷	محل صبر
۱۰۹	عقلی ناگواری
۱۱۰	ترک اعمال کا نتیجہ
۱۱۱	صابرین کی نشانی
۱۱۲	نیت کی اہمیت
۱۱۳	غلوفی الدین
۱۱۶	تفقه فی الدین
۱۱۷	حق اللہ و حق العباد
۱۱۸	پابندی طریق کی حقیقت
۱۱۹	اعمال کی قسمیں
۱۲۱	حسن معاشرت
۱۲۳	ناقص و کامل کا فرق
۱۲۵	مباحات اور فضولیات
۱۲۶	جمعیت قلب
۱۲۷	آج کل کامداق
۱۲۸	مصادب اور معمولات

۶۱	فرقہ و وصال
۶۲	رنج و غم
۶۳	خلوت مع اللہ
۶۷	فضیلت شب قدر
۶۷	واقعہ کربلا سے سبق
۶۸	حسین اور اکثریت
۷۰	لذت شہادت
۷۱	فضیلت شہادت
۷۲	شہداء پر اظہار غم
۷۳	طبع غم و غصہ کی حد
۷۵	اظہار غم پر وعدہ
۷۶	نام و نمود کی صورتیں
۷۸	بے غرضی و بے تفسی کی صورتیں
۸۰	تعلق مہمان و میزبان
۸۱	شر میں خیر
۸۲	اخلاص کی علامت
۸۳	امور بدعت کی علامت
۸۴	صابرین کو بشارت
۸۶	حقیقت حجابات
۸۷	انا اللہ کی فضیلت
۸۹	صبر کی حقیقت
۹۱	اجروں و ثواب
۹۳	صبر کے معنی

۱۶۵	غم کی حکمت و حقیقت
۱۶۶	تعزیت کی مدت
۱۶۸	غم غلط کرنے کا طریقہ
۱۶۹	تاولوں کے مفاسد
۱۷۱	صبر اور طاعات
۱۷۱	نمایز کی گرانی کا علاج
۱۷۳	خشوی کی حقیقت
۱۷۳	آئینہ جمال حق
۱۷۴	وحدت الوجود
۱۷۵	معیت الہی
۱۷۷	<b>السبر بالصبر</b>
۱۷۸	نعمت و مصیبت
۱۸۰	علم انبیاء
۱۸۳	کثرت رائے کی حقیقت
۱۸۳	حضرت خالدؑ کی قابلیت
۱۸۳	اجتہادی غلطی
۱۸۳	حکمت ربی
۱۸۷	عسر اور یسر
۱۸۸	تلائی مصائب کی صورت
۱۸۹	تحیص و ابتلاء کا فرق
۱۹۰	رحمت و قدرت حق تعالیٰ
۱۹۱	مرنج پر آبادی
۱۹۲	مصائب اور عبدیت

۱۲۹	شیطانی و نفسانی خطرات
۱۳۲	وشام محبت
۱۳۶	<b>الصبر والصلوة</b>
۱۳۸	مقصود زندگی
۱۳۹	دین کی آسانی
۱۴۰	ظرزمعاشرت کی تنگی
۱۴۲	فتاوے اور معاملہ
۱۴۵	نفس کی مزاحمت
۱۴۷	کسل کی وجہ
۱۴۷	جاہ کی قیمت
۱۴۸	صبر کے معنی
۱۴۸	اعمال میں اولیت
۱۵۱	مراقبہ ذات و صفات
۱۵۲	شیخ محقق کا قاعدہ
۱۵۲	نمایز کی جامعیت
۱۵۳	نمایز کی خاصیت
۱۵۶	نمایز کی تاکید
۱۵۷	نمایز اور جماعت
۱۵۸	تجھیل فی الصلوۃ
۱۵۸	فاسد عقیدہ
۱۶۰	امام کے فرائض
۱۶۱	تفسیر بالرأی
۱۶۲	حقیقی تعزیت

۲۲۵	صبر کی ترغیب
۲۲۶	عالم ارواح
۲۲۷	تو اخشع اور رحم
۲۲۹	آخرت کا نعم البدل
۲۳۱	تجارت آخرت
۲۳۳	میزان عمل
۲۳۴	دور قدیم کے طلباء
۲۳۶	صحیح استغراق
۲۳۸	تاویل کا دروازہ
۲۳۸	میزان گناہ و ثواب
۲۳۹	عنایت ربی
۲۴۱	حق تفویض
۲۴۲	مشاهدہ مصلحت و حکمت
۲۴۳	شریعت کا خلاصہ
۲۴۴	ترقی کی حقیقت
۲۴۵	ترقی کی صورت
۲۴۶	تفاخر و تکبر
۲۴۷	حدود کی تمیز
۲۴۹	دین میں تصرف
۲۴۹	دنیا کی ہوس
۲۵۱	انسان کی محبت
۲۵۳	محبت بزرگان
۲۵۴	الامتحان

۱۹۳	پھر کا گریہ
۱۹۳	محبت آمیز نکیر
۱۹۶	مراقبہ عظمت قدرت
۱۹۷	اصلاح قلب
۱۹۷	مصیبت اور نعمت
۱۹۸	کریم کی عادت
۲۰۲	جنت کی غذا
۲۰۲	مناہی عمل پر غیر مناہی ثواب
۲۰۲	مصیبت کے منافع
۲۰۴	<b>الجبر بالصبر</b>
۲۰۷	حیقیقی کمال
۲۰۸	راحت کی صورت
۲۰۹	مقروض کا فرض
۲۱۱	موت سے وحشت
۲۱۲	انسان کی خود غرضی
۲۱۳	مصیبت کی حقیقت
۲۱۵	عمل صبر و شکر
۲۱۷	المصیبت اور تجارت
۲۱۹	ایک جبری - کی بے صبری
۲۲۰	مصلحت خداوندی
۲۲۲	علیٰ و معاویہ
۲۲۲	عظمت حق
۲۲۳	اولاد اور شفاقت

۲۸۱	نقاضاً محبت	۲۵۵	انعام و ابتلاء
۲۸۲	محبت اور ایمان	۲۵۶	کثرت مال کا اثر
۲۸۳	اہل اللہ کا نماذق	۲۵۷	مضرت میں منفعت
۲۸۵	عشق رسول مقبول	۲۵۹	نعمت میں مضرت
۲۸۶	محبت اور عمل	۲۶۰	چہالت اور دولت
۲۸۷	حکمتوں کی تحقیق	۲۶۱	رزق اور عقل
۲۸۸	حکمت مصائب	۲۶۲	دولت اور غفلت
۲۸۹	عقل اور حکمت	۲۶۳	تکبیر کا عملی علاج
۲۹۰	حکمت جعلی و خفی	۲۶۴	خدا سے بے تعلقی
۲۹۱	شان جلال و جمال	۲۶۵	رحمت عامہ اور نافرمان
۲۹۲	دعویٰ اور دلیل	۲۶۶	قرب قیامت
۲۹۳	امتحان کی حقیقت	۲۶۷	اعمال کی لذت و کلفت
۲۹۴	خلاصہ بیان	۲۶۸	اہل اللہ کا استغنا
۲۹۵	<b>آداب المصاب</b>	۲۶۹	تعلق مع اللہ
۲۹۶	مصطفیٰ تکویدیہ و تشریعیہ	۲۷۰	مشاهد جمال الہی
۲۹۷	غذاۓ روحانی	۲۷۱	مومن کی شان
۲۹۸	خلق کا ادب	۲۷۲	اخباری نماذق
۲۹۹	ادب کامدار	۲۷۳	عوام کا نماذق
۳۰۰	رحمت بلا علت	۲۷۴	خبروں کا اثر
۳۰۱	بشرات با واسطہ	۲۷۵	عظیم گستاخیاں
۳۰۲	درجات صبر	۲۷۶	گستاخیوں کی سزا
۳۰۳	روح اور جسد کا تعلق	۲۷۷	علم اسرار الہی

۳۲۷	حکم سوم صوم	صبرا اور اجر
۳۲۸	چند مسائل	اتصال امر
۳۲۹	حکم چہارم	القائے نسبت و سلب نشاط
۳۳۰	حکم پنجم اعتکاف	ضرورت اعتدال
۳۴۱	<b>دوآلضیق</b>	از الہ حزن و غم
۳۳۲	انسان کا طبعی تقاضا	راحت تفویض
۳۳۳	دولت کی خاصیت	راحت دنیا و آخرت
۳۳۵	مشاہدت و مناسبت	مصیبۃ کے آداب
۳۳۷	جدبات کی حکمت	آداب مصیبۃ کی تفریعات
۳۳۸	دین اور عقل	شبان موئی
۳۳۹	انجام اندیشی	حب و بغض
۳۵۰	شریعت اور رحمت	ثواب مصیبۃ اور تسلی نفس
۳۵۱	انبیاء اور مجذزے	مراقبہ راحت
۳۵۲	امور دنیا اور اعتدال	اسباب تسلی
۳۵۳	موت اور مال	انبیاء اور غالبہ حال
۳۵۵	واصل و شاغل کا فرق	آنسو بہانا
۳۵۶	الا ہم فالا ہم	آنسو نہ بہانے کا اثر
۳۵۷	اسلام کی خوبی	رزق حلال
۳۵۸	ناول اور اخبار بینی	حزن اور مجاہدہ
۳۵۹	طاعون اور شہادت	محبت اور رحمت
۳۶۰	طبیب کامل	غم اور شغل
۳۶۱	اختلاف خاصیت	ضمیر

۳۹۲	کیفیت ایمان
۳۹۳	بے نظر و بے مثال انسان
۳۹۵	حدود عشق
۳۹۵	قدر نعمت
۳۹۷	ظهور حکمت
۳۹۸	مشابہت ملت ابراہیمیہ
۴۰۰	غلوفی التقوی
۴۰۱	حدود خاطر و مدارت
۴۰۲	احداث فی الدین
۴۰۳	استغفار لالمشرکین
۴۰۴	حدود دعنا
۴۰۶	حاکمانہ کلام
۴۰۶	حکیمانہ جواب
۴۰۷	تفسیر آیت کریمہ
۴۰۹	علاج غموم و افکار
۴۱۱	راضی بر ضار بہنے کی ضرورت
۴۱۳	اتباع سنت کی برکت
۴۱۳	توحید خالص
۴۱۵	درجات خوف و حزن
۴۱۸	فلکر عذاب آخرت
۴۱۹	تقلید شخصی
۴۲۰	روح اور عقل
۴۲۱	حضرت ابراہیم اور نمرود مردود
۴۲۳	مسئلہ تقدیر کی حکمت

۳۶۲	مشغولیت کا اثر
۳۶۲	محبت کی وجہ
۳۶۵	تصور شیخ
۳۶۶	اطمینان قلب
۳۶۷	اطمینان کے درجات
۳۶۹	جدب سلوک اور استغراق
۳۷۰	استغراق اور قرب
۳۷۱	کیفیات نفسانیہ
۳۷۲	مکرات قرآن
۳۷۳	تینگی کا علاج
۳۷۳	قوت قلب
۳۷۴	آداب عیادت
۳۷۵	حیات آخرت
۳۷۷	مراقبہ موت
۳۷۸	محبت کا اثر
۳۷۹	علامت قبول طاعت
۳۸۰	توکل و رضا
۳۸۱	صورت شکر
۳۸۳	<b>الاجر النبیل</b>
۳۸۳	صحیح عقائد
۳۸۶	محل مصائب
۳۸۷	محل غم
۳۸۷	برکات اسلام
۳۹۰	اثر اسلام

۳۶۰	والدہ موسیٰ اور توکل
۳۶۲	حضرت آدم اور ایا ز
۳۶۳	محققین کامداق
۳۶۵	کمال انسانی
۳۶۷	حضرت موسیٰ اور عزرائیل
۳۶۹	قصہ الکلیم والحسیف
۳۷۰	خوف و حزن کا فرق
۳۷۰	ضبط نفس کی تعلیم
۳۷۲	بدوؤں کی حالت
۳۷۳	مومن اور دوزخ
۳۷۵	دوزخ کا حمام
۳۷۶	موت سے تعلیم
۳۷۸	عتاب الہی
۳۷۹	جنت میں قیام کا عرصہ
۳۷۹	پیدائش عالم کی غایت
۳۸۱	بقاء انسانی کامدار
۳۸۲	اضطراری اور اختیاری غم
۴۸۵	<b>تحریم الحرم</b>
۳۸۶	زمانہ فضیلت
۳۸۷	تکشیر جماعت کا اثر
۳۸۸	اختراع فی الدین
۳۸۸	زیادت فی الدین
۳۸۹	یوم عاشوراء کی فضیلت



۳۲۵	بچپن کی موت کی اہمیت
۳۲۷	اولادت ہونے کی حکمت
۳۲۸	اولاد اور امانت
۳۳۰	سالکیں کو تنبیہ
۳۳۲	تعلق مع اللہ کی افادیت
۴۳۶	<b>سلوہ الحزین</b>
۳۳۸	ضرورت صبر و شکر
۳۳۹	طلب دنیا و آخرت
۳۴۰	نعمت اور مصیبہ کی مقدار
۳۴۱	انسان کی ناشکری و ناقدری
۳۴۲	آج کل کے واعظین
۳۴۳	بزرگی کی علامات
۳۴۵	شان بندگی
۳۴۶	عبادت و طاعوت کا فرق
۳۴۷	آج کل کی بزرگی کا معیار
۳۴۸	حقوق نفس
۳۴۹	شرعی چله
۳۵۰	شکر نعمت
۳۵۲	نعمتوں پر ناگواری
۳۵۳	حکمت ولادت حضرت موسیٰ
۳۵۶	یزید اور لعنت
۳۵۶	امتحان حضرت موسیٰ
۳۵۷	حضرت موسیٰ کا توکل
۳۵۹	حضرت یوسف کا توکل

## الصبر

صبر کے متعلق یہ وعظ ۲۳ شوال ۱۴۲۳ھ کو جامع مسجد تھانہ بھون میں کھڑے ہو کر  
بیان فرمایا جواز ہائی گھنٹے میں ختم ہوا۔ مولانا محمد عبداللہ صاحبؒ نے قلمبند  
فرمایا۔ حاضرین کی تعداد ۱۰۰ تھی۔

## خطبہ ما تورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَوْمُنْ بِهِ وَنَوَّكُلُ عَلَيْهِ  
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا  
مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا  
شَرِيكَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدَ عَبْدَهُ، وَرَسُولَهُ، وَصَلَى  
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَغَلَى إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضُّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ طَأْوِيلُكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا طَأْوِيلُكَ هُمُ الْمُتَقْرُونَ ۝ (البقرہ آیت نمبر ۷۷)

(ترجمہ: اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں، سنگدی میں اور بیماری میں اور قبال میں یہ لوگ  
ہیں جوچے (کمال کے ساتھ) موصوف ہیں اور یہی لوگ ہیں جوچے (متقی) کہے جاسکتے ہیں۔  
تمہید: یہ ایک بڑی آیت کا نکڑا ہے اس میں ایک خاص مضمون مذکور ہے جس کا حاصل اجمالی  
ہے کہ اس میں حق تعالیٰ نے بعض مصائب کے بعض آداب کا ذکر فرمایا ہے۔ شریعت مقدسہ نے ہماری  
ہر حالت کے متعلق ہم کو ایک دستور العمل تعلیم فرمایا ہے خواہ وہ کوئی حالت ہوان میں سے ایک حالت  
مصیبت کی بھی ہے اس کے متعلق بھی ایک دستور العمل ہے کہ اس حال میں کیا کرنا چاہئے یہ حاصل ہے  
اس مضمون کا۔ وجہ اس بیان کی یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ دو حالتوں میں مبتلا ہیں ایک تو اسک باراں،

کہ جس کی وجہ سے خشک سالی ہے اس کے متعلق تو لوگوں کا دستور اعمال یہ ہے کہ حکایت کرتے ہیں اور رائے دیتے ہیں حکایت تو یہ کہ بارش نہیں ہوئی اور رائے یہ بڑی ضرورت ہے۔ ہوتا چاہئے۔

صاحب! عاقل بالغ کے ہر فعل کی کوئی غایت ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس حکایت سے کیا مقصود ہے اور یہ رائے کس کو دی جاتی ہے اور کس کو سناتے ہو اور اگر کسی کو نہیں سناتے تو کیا اس حکایت کے الفاظ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جن کا زبان سے نکالنا موجب ثواب ہے اور یہ ظاہر ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہو گی تو وہ غرض بجز اس کے شکایت ہو اور کچھ نہیں اور ظاہر ہے کہ خالق اس حالت کا حق تعالیٰ شانہ ہیں تو یہ شکایت ان کی ہوئی اور ان کو یہ رائے دی جاتی ہے۔ ادھر یہ مقدمہ بھی مسلم ہے کہ کسی امر کی شکایت اس کے نامناسب ہونے اور اس کے مباشر کے نامناسب فعل کے مرتكب کہنے کو تلزم ہے اس لئے کہ جب آپ کسی فعل کے نامناسب ہونے کو بیان کریں گے تو اس سے اس کے مباشر کو مرتكب امر نا مناسب کہنا ضرور لازم آئے گا یہ وہ بات ہے کہ اگر قصد احمد آہ تو کفر ہے۔ لیکن چونکہ یہ لازم بدلوں التزام ہے اس لئے فتواء تو کفر کا نہ دیا جاوے گا۔ مگر ہاں سخت بے ادبی و گستاخی و جسارت سے اس کو ضرور تعبیر کیا جاوے گا۔ اگر کسی کے ذھینا مارہ اور نیت چوٹ لگنے کی نہ ہو تو چوٹ لگے ہی گی خواہ نیت ہو یا نہ ہو۔ پس وہ امور جن کی وجہ گستاخی اور بے ادبی ہو ماہیت تو ان کی حقیقت میں جرم ہی ہے اور باعث عتاب ہے جو بمحضدار ہیں ان پر تو اس سے بھی خفیف کلمات پر عتاب ہو گیا ہے ایک بزرگ ایک چنگل میں رہا کرتے تھے ایک روز بارش ہوئی براہ رحم کہنے لگے کہ اگر یہ بارش کھیتوں میں ہوئی تو اچھا ہوتا ان پر عتاب ہوا۔

ایک اور بزرگ کا قصہ ہے کہ بارش ہوئی تو کہنے لگے کہ کیا موقعہ پر بارش ہوئی ہے دیکھئے ظاہر یہ لفظ شکایت کے لئے تو کیا موضوع ہوتا بلکہ مدح و تحسین کیلئے ہے لیکن معا عتاب ہوا کہ اوبے ادب بے موقع کس روز ہوئی تھی چونکہ وہ صاحب فہم و بصیرت تھے ان پر عتاب ہوا۔ کم فہموں پر عتاب نہ کسی لیکن کیا آپ کو بے ادبی و بے تمیزی کی بات گوارا ہے ایک کلمہ تو یہ تھا جس کا حاصل اعتراض اور شکایت ہے۔

دوسرًا اس سے زیادہ فتنج ہے وہ کیا ہے؟ کہ بڑی ضرورت ہے یہ خدا تعالیٰ کو نعوذ بالله ناواقف جانتے ہیں اور وجہ اس کی جہل ہے شریعت کو سیکھتے نہیں اول تو شریعت کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے اور بھی ہیں تو بس شریعت نام صرف نماز روزہ کا جانتے ہیں۔

## طريق شکوه

صاحب! شریعت وہ قانون ہے کہ اس نے ہماری کوئی حالت نہیں چھوڑی کہ اس کے متعلق

دستورالعمل نہ بیان فرمایا ہوا حاصل ایک حالت تو ہماری یہ تھی کہ جس کے متعلق ہمارا یہ بتاؤ ہے جو بیان کیا گیا میں اس کے متعلق شریعت کا دستورالعمل بیان کرنا چاہتا ہوں۔

دوسری وہ حالت ہے جس میں ہم بتلا ہیں مرض ہے چنانچہ بخار کی کثرت ہے اس کے متعلق ہمارا دستورالعمل ایک تو وہی ہے جو اور پر مذکور ہوا کہ شکایت کرتے ہیں اور بھی جو جو اور عرض کیا وہ یہاں بھی سمجھ لیا جاوے دوسرے یہ ہے کہ مرض کی صرف دوا کرتے ہیں خیر دوا کرنا تو بہتر ہے دوا کی ممانعت نہیں ہے لیکن شکایت تو یہ ہے کہ صرف دوا ہی پر کیوں اکتفا کرتے ہیں اور بھی جو کرنے کا کام ہے وہ کیوں نہیں کرتے ہاں بجائے اس کے شکوہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں مصیبت میں شخص گئے اظہار مرض میں بھی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی نے حال دریافت کیا اس وقت تو جو اپنی حالت ہے وہ بیان کرنا چاہئے پوچھنے پر بھی اپنی کیفیت بیان نہ کرنا یہ بھی ایک قسم کا کبر ہے اس لئے کہ پوچھنے والا شفقت سے حال پوچھتا ہے اور یہ گویا کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے اپنے نزدیک تو انہوں نے بڑا توکل اور استقلال کیا لیکن حقیقت میں ایک مسلمان کی ول آزاری اور اہانت کی اور پوچھنے پر بیان کرنا حضورؐ کی سنت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فرمایا بخار ہے اور ایسا بخار ہے جس قدر دو آدمیوں کو ہوتا ہے اس لئے کہ ثواب بھی مجھ کو دونا ملتا ہے یاد رکھو اپنے چاہئے والے کا اکرام چاہئے اور حال اپنا بیان کرنا بھی اکرام ہے ضرور بیان کر دو لیکن لبجھ میں شکایت نہ ہونا چاہئے یہاں تک تو معقول بلکہ مامور ہے دوسری چیزیں یہ ہے کہ شکایت کے عنوان سے اظہار کریں میاں سخت مصیبت ہے سخت آفت میں شخص گئے جانے کس بات میں پکڑے گئے تو یہ برا ہے اور بعض مرتبہ بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن لبجھ کے اختلاف سے حکم اس کا مختلف ہو جاتا ہے ایک لبجھ تو ہوتا ہے ناراضی اور شکایت کا وہ قلب کو سخت ناگوار ہوتا ہے بعض لوگوں سے تو ان کا حال پوچھ کر پچھتا تا پڑتا ہے کہ ہم سب ہو گئے شکایت کے بس یہی امر قابل شکایت ہے اور ایک لبجھ ہوتا ہے رضامندی کا اور اپنی عاجزی اور بے نی کا اس کا مفہوم ہے۔

### رضاء اور لذت

اس مقام پر ایک شبہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنی تکلیف اور بیماری کس کو خوش لگتی ہے ناگوار ہی ہوتی ہے پھر بیماری اور رضامندی کا اجتماع کیسے ممکن ہے بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں علیحدہ علیحدہ رضا

اور لذت۔ رضا اور شے ہے اور لذت اور چیز ہے رضا کے لے لذت کا ہونا ضروری نہیں جیسے کسی شخص کے دل ہو اور ڈاکٹروں نے یہ تجویز کیا کہ بغیر شگاف کے اچھانہ ہو گا تو وہ مرضیں بخوبی چیرنے کی اجازت دیتا ہے عین شگاف دینے کی حالت میں وہ راضی بھی ہے اور تکلیف بھی اس کو ہوتی ہے اس لئے کہ سمجھتا ہے کہ اس کا انجام میرے لئے بہتر ہے۔

ایسی طرح جس بندہ نے یہ سمجھ لیا کہ مرض اور مصیبت کا آنا میرے لئے رحمت ہے اور اس میں تہذیب نفس ہے وہ دل سے اس پر راضی ہے گواں پر تکلیف ہواں کی زبان سے کبھی شکایت کا کلمہ نہ نکلے گا بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بیماری میں مسرت ہوتی ہے۔

یہاں تھانہ بھون میں ایک خان صاحب تھے بہت بوڑھے تھے اور اکثر بیمار رہتے مگر کیسی ہی سخت تکلیف نہیں ہوتے اور کوئی پوچھتا کہ خان صاحب کی ما مزاج ہے بس نہ دیتے اور کہتے کہ اللہ کی رحمت ہے یہ ہے رضامندی کا لہجہ۔

ایک تیری حالت اور ہے وہ یہ کہ نتنا راضی اور ندضم اندی یا بوجہ مبارح ہے پوری رضا تو ہم لوگوں کو کہاں نصیب ہے مگر ناراضی کے لہجہ کلمات سے تواہراز ضروری ہے الحاصل زیادہ شکایت ان لوگوں کی ہے جو شکایت اور ناراضی کا لہجہ اور کلمات اختیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی زیادہ عجیب باتیں یہ ہے کہ وہ تعجب سے یوں کہتے ہیں کہ خدا جانے ہم کس گناہ میں پکڑے گئے گویا پنے کو تمام گناہوں سے بری سمجھتے ہیں۔

صاحب! ہمارا تو مصیبت میں بتنا ہو جانا تعجب نہیں ہاں نعمت ہم کو کوئی ملے یہ زیادہ عجیب ہے اس لئے کہ ہر وقت گناہ میں رہتے ہیں سوال اور تعجب تو اس پر ہونا چاہئے کہ خدا جانے ہم سے کیا نیکی ہوئی جو ہم کو نعمتیں مل رہی ہیں اور مصیبت پر تو کچھ بھی تعجب نہ ہونا چاہئے۔

غرض یہ دو حالتیں ہوئیں اسکے باراں اور مرض بس ان دونوں کے متعلق میں دستور العمل بتانا چاہتا ہوں اور ان کے علاوہ ایک تیری حالت اور ہے علاوہ اس کے اس لئے کہا کہ یہ دو حالتیں تو من اللہ تھیں اور یہ تیری حالت من العبد ہے کہ کسی قسم کی شدت اور تکلیف اپنے بنی نوع سے پہنچے جس کے بہت سے افراد ہیں فرد اعظم ان کا قتل و قتال ہے پس یہ کل تین حالتیں ہوئی۔ کی بارش مرض قتل و قتال اور ان اقسام کو اگر دائرہ میں انہیں والا ثبات کیا جاوے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مصائب کی دو قسمیں ہیں آفاتی اور نفیسی اور آفاتی کی دو قسمیں ہیں سماودی اور غیر سماودی بہر حال یہ تین حالتیں ہیں اور ان ہی تینوں کے متعلق دستور العمل بتانا منظور ہے۔

## ترجمہ قرآن کی اہمیت

اس دستور العمل کو اللہ تعالیٰ نے ان آتوں میں بیان فرمایا بجان اللہ کیا بلغ کلام ہے کہ بہت سہل اور پھر مختصر عنوان میں بیان فرمادیا اور کیوں نہ ہو جب کہ کلام الملوك ملوک الكلام مسلم ہے تو یہ تو حکم الحاکمین کا کلام ہے یہاں سے ایک بات سمجھنے میں آئی وہ یہ ہے کہ چونکہ حق تعالیٰ تمام بادشاہوں کے بادشاہ اور تمام حاکمین کے حاکم ہیں اس لئے قرآن مجید میں بھی شاہی طرز کا کلام ہے اور اسی سے یہ امر بھی مستبط ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اگر اردو میں ترجمہ ہو تو شاہی کلام کے طرز کا ہونا چاہئے سلاطین کے محاورات کی اس میں رعایت ضروری ہے بازاری اور عام محاورات سے پاک ہونا ضروری ہے اس سے معلوم ہوا کہ بعض بعض ترجیح جو اس زمانہ میں جاہلوں نے بغرض تجارت شائع کئے ہیں اور اس اس طرز کی رعایت نہیں کی گئی انہوں نے قرآن مجید کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھا ان کا نصب العین تجارت اور روپیہ کہانا ہے بس یہ دیکھ لیا کہ تھیسٹھ اردو کے محاورات کو لوگ پسند کرتے ہیں اس لئے محاورہ کے ایسے پیچھے پڑے کہ قرآن شریف کا جو اصلی مذاق ہے اس سے بہت دور ہو گئے حقیقت میں غرض دنیوی بہت بڑی بلا ہے مولانا فرماتے ہیں

چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد      صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد  
 چوں دید قاضی بدل رشوت قرار      کے شناسد ظالم از مظلوم راز  
 جب غرض درمیان میں آگئی تو ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے اور دل آنکھوں تک سو پردے پڑ جاتے ہیں جب قاضی کا دل رشوت لینے کو چاہے گا تو مظلوم سے ظالم کو کیسے پہچانے گا۔  
 یعنی جب حاکم کی نیت پہلے سے رشوت لینے کی ہو جائے گی تو اس کو حق نظرنا آوے گا اگر کوئی کہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک عہدہ دار تھے وہ مدعا علیہ دونوں سے رشوت نہیں کر رہا تھا اور دونوں سے لے لیتے تھے پھر مقدمہ کے اندر بہت غور و خوض کر کے حق ہی کرتے جس کی ذگری ہو گئی اس کا روپیہ رکھ لیتے تھے گوکم ہوا اور دوسرے کا واپس کر دیتے تھے گوزیاہ ہو دیکھو وہ رشوت بھی لیتے تھے اور پھر بھی حق ان کو واضح ہو جاتا تھا۔

جواب یہ ہے کہ اول تو خلاف شریعت کرنے میں ایسی ظلمت ہوئی ہے کہ نور نہیں اس سے جاتا رہتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ فیصلہ کرتے ہیں وہ حق ہی ہو دوسرے اگر غور کیا جاوے تو وہ اس غرض میں بھی ایک گونہ بے غرض تھے چنانچہ قلیل و کثیر کونہ دیکھتے تھے پس اگر ان کو مقدمات میں حق

نظر آ جاتا تھا تو وہ اس بے غرضی کا اثر تھا اور غرض تو حجاب عن الحق ہے پس یہ مترجم صاحب بھی اپنی غرض کے ایسے بیچھے پڑے کہ علاوہ مسائل میں غلطی کرنے کے خود قرآن کے طرز مذکور کو چھوڑ دیا چنانچہ یعنی محققون کا ترجمہ ان حضرت نے کیا ہے تاکہ تو یہ مارا کرتے تھے بتایے یہ کون سا محاورہ ہے بازاری بلکہ زنانہ اور زنانہ بھی کیسا عام جہل اعورتوں کا محاورہ ہے باادشاہ تو در کنار ادنی شائستہ آدمی ایسا محاورہ نہ بولے گا چنانچہ اس ترجمہ کے دیکھنے سے پہلے میں نے بھی یہ لفظ کہیں نہیں نے لیکن لوگ اس ترجمہ پر فدا ہیں خیریہ مضمون تو کلام الملوک ملوک الکلام پر بطور تفریغ کے میں نے بیان کر دیا تھا۔

### صبر کی تین حالتیں

میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ حق تعالیٰ نے مختصر لفظوں میں تینوں حالتوں کے متعلق دستور العمل بیان فرمادیا چنانچہ ارشاد ہے۔

**وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضُّرُّاءِ وَجِئِنَ الْبَأْسِ وَهُوَ مُسْتَقْلٌ رَبِّهِ وَالْأَوْلَى** تہجی میں اور بیماری میں اور قتال میں۔

ان تینوں حالتوں کی فہرست میں کچھ تطویل ہے بھی لیکن دستور العمل صرف ایک حکمت میں ہے وہ کیا وَ الصَّابِرِينَ یعنی ان تینوں میں تعلیم صبر کی فرمائی ہے صبر کی حقیقت تو میں بعد میں بیان کروں گا اول بآسائے۔ ضراء۔ باس۔ ان تینوں لفظوں کی تفسیر میں کلام کرتا ہوں باس۔ کی تفسیر میں کچھ اختلاف نہیں باقی بآسائے وَ الضُّرُّاءِ کے مدلول میں اختلاف ہے کہ ان دونوں سے کیا مراد جو میرے نزدیک راجح ہے وہ بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بآساء کے معنی شدت کے ہیں اب رہی یہ بات کہ کون سی شدت مراد ہے فقر و فاقہ کی یا مرض کی۔ ضراء، کی تفسیر اگر مرض، سے کی جاوے جیسا کہ مشہور ہے تو۔ بآساء سے مراد فقر و فاقہ ہو گا لیکن یہ تفسیر میرے نزدیک مر جو ح ہے میں کہتا ہوں کہ ضراء کے معنی تو فقر و فاقہ کے ہیں اور بآساء، کام مدلول مرض ہے۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عباد متعین کی فضیلت میں دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔

**يُنِفِقُونَ فِي السُّرَّاءِ وَالضُّرُّاءِ:** یعنی وہ لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی اور ناخوشی ہیں۔

اب اس مقام پر دیکھنا چاہئے کہ خوشی اور ناخوشی سے کیا مراد ہے اور وہ کون سی ناخوشی ہے جو خرچ کرنے کی ہمت کو گھٹا دیتی ہے سو ظاہر ہے کہ وہ ناداری اور فقر و فاقہ ہی ہے نہ کہ مرض اس لئے کہ مرض کی حالت میں خرچ کرنے کی ہمت گھٹتی نہیں بلکہ خرچ کرنا بہت آسان ہے۔ دو وجہ

سے اول تو اس وجہ سے کہ آدمی کو خیال ہوتا ہے خرچ کروں گا تو بیماری سے چھوٹ جاؤں گا۔ دوسرے یہ کہ بیماری کی حالت مایوسی کی ہوتی ہے مال سے تعلق کم ہو جاتا ہے اس لئے آدمی سمجھتا ہے کہ جو خرچ کروں گا وہ میرا ہے اور جورہ جائے گا وہ پرایا ہے پس سراء و ضراء سے مراد تندری اور بیماری کی خوشی و ناخوشی مراد نہیں ہے بلکہ سراء۔ سے مراد فراغی اور ضراء سے مراد تنگ دستی و فقر و فاقہ ہے اس لئے کہ تنگ دستی کی حالت میں خرچ کرنا بڑی ہمت کی بات ہے پس جب کہ ضراء سے مراد فقر و فاقہ ہوا تو باساء سے مراد اس کا مغائرہ ہونا چاہئے وہ کیا ہے مرض پس حاصل آیت کا یہ ہوا کہ صبر کرنے والے ہیں مرض اور فقر و فاقہ میں اور قبال کے وقت بھی جہاں پیش آجائے حاصل اور شخص کیا ہوا کہ ناگواری کی حالتوں میں صبر کرنے والے ہیں یہ تو محلاً دستور العمل ہو گیا۔

## صبر کی تعریف

اب اس کے بعد دیکھنا چاہئے کہ صبر کس کو کہتے ہیں شکوہ شکایت کا نہ موم ہوتا تو لفظ صبر ہی سے معلوم ہو گیا ہو گا اس میں تو کوئی شبہ نہیں رہا بعض اور امور میں مشتبہ باقی ہے اس وقت اس کا زائل کرنا ضروری ہے۔ سو ایک شبہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے باساء کا مدلول مرض لیا ہے تو مرض میں صبر کرنے کے معنی شاید کوئی یہ سمجھے کہ دوادار بھی نہ کرے اس کا کرنا بھی صبر کے خلاف ہے تو یاد رکھو کہ مد اُمی صبر کے خلاف نہیں شریعت نے اس کا مکلف نہیں کیا کہ دوانہ کروند بیرنہ کرو یہ شبہ صبر کی حقیقت نہ جانے سے ہوا ہے صبر کے معنی استقلال کے ہیں تو دوا کرنا یا مد بیر کرنا بے استقلالی کافر نہیں ہے۔ حضور نے خود مد بیر اور دوا فرمائی ہے چنانچہ پچھنے لگوائے ہیں زخم پر مہندی رکھی ہے۔ بارش کی کمی میں دعا فرمائی ہے اور زیادتی بارش میں کمی بارش کی دعا فرمائی ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے حضور خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہؐ جاعت الاموال و حمل الاموال قادر اللہ نا۔ آپ نے دعا فرمائی اللهم اسقنا (اے اللہ بارش نازل فرما) (سنن النسائي ۱۵۹: ۳، ۱۶۰: ۳) چنانچہ بادل آئے اور بر سا شروع ہوئے اور ایک ہفتہ تک برستے رہے دوسرے ہفتے میں وہی اعرابی یا کوئی اور کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہؐ گھر گئے اور کام بند ہو گئے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش روک دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔

اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والا ودية وعلى الظراب وعلى العجال

او كما قال : (اے اللہ اے اللہ ہمارے آس پاس برسائیے اور ہمارے اوپر نہیں، اے اللہ ٹیلوں پر اور نیستانوں پر اور پہاڑوں پر اور نالوں پر) (الصحیح المسلم الاستسقاء ۸: ۹، سنن النسائي ۳: ۱۶۰)

چنانچہ اسی وقت بادل پھٹ گیا اور چاروں طرف بادل تھے اور نیجے میں سے صاف تھا۔ پس دعا بھی ایک تدبیر ہے اور احسن التدیر سے لوگ اس کو تدبیر نہیں سمجھتے چنانچہ اپنی مہماں میں لوگ جہان بھر کی تدبیر کرتے ہیں اور افسوس ہے کہ جو اصلی تدبیر ہے یعنی دعا اس سے غافل ہیں حالانکہ دنیا کے قصور میں اس پر نہایت اہتمام سے عمل کرتے ہیں۔

مثلاً ایک شخص انٹرنس پاس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کہیں میرا روزگار ہو جاوے تو ہر عاقل اس کو یہ تدبیر بتاؤے گا کہ صاحب گلکش کے یہاں یا کمشنر کے یہاں درخواست دو تو دیکھئے اس کو وہی تدبیر بتلاتے ہیں جو دعا کا حاصل ہے تجھ بھی ہے کہ صاحب گلکش کے یہاں درخواست کرنے کو تدبیر سمجھیں اور حکم الحاکمین کے یہاں درخواست کرنے کو تدبیر سے خارج کر دیں اور اس کی طرف التفات نہ کریں اور یہ تو بہت موٹی بات ہے عقل کا بھی مقتصا ہے۔ جو شے جس کے قبضہ میں ہوتی ہے وہ اسی سے مانگی جاتی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات قابض غیر مالک تک سے مانگتے ہیں۔

میرٹھ میں شیخ الہی بخش صاحب بڑے رئیس تھے ان کا دسترخوان بڑا سبق ہوتا تھا اور سب کو ساتھ کھلایا کرتے تھے مگر شیخ صاحب کے سامنے جو کھانا ہوتا تھا وہ اچھا ہوتا تھا ایک مشی صاحب نے باور پھی سے کہا کہ میاں ہم کو بھی میاں صاحب کے کھانے میں سے کچھ دینا چنانچہ اس نے ایک طشتہ نکال دیا اور ان کے سامنے طشتہ دسترخوان پر رکھی گئی شیخ صاحب نے دیکھ لیا اور کسی بہانے سے اپنے پاس والوں کو اپنی طرف سے سر کنے کو کہا تو ہر ایک حصہ طعام کے سامنے اس کا جلیس ہو گیا اسی طرح ان مشی صاحب کا حصہ دوسرے کے سامنے ہو گیا تو شیخ صاحب کیا کہتے ہیں کہ مشی جی اس طشتہ کو بھی اپنے سامنے کر لجئے رغبت سے منگائی بس کٹ گئے۔

تو دیکھو بعض سے مانگنا ایسا امر فطری ہے کہ باوجود اسکے غیر مالک ہونے کے اس سے مانگا اور ذلیل بھی ہوئے اور اس حکایت سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ ان مشی صاحب کو جو خیانت سو جھی تو باور پھی سے مانگا اور مالک سے نہ مانگا اگر مالک سے مانگتے تو نہ امت نہ اٹھاتے پس جو شے مانگو مالک حقیقی سے مانگو اور جو مالک نہیں ہے وہ کیا دے گا حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

فُلُّ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے دریافت فرمائیے کہ تم کو آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے۔

آگے ارشاد ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ..... یعنی یہ کہیں گے اللہ دیتا ہے اور اس جواب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے حق تعالیٰ کی ملکیت اور رزاقیت کا عقیدہ ایسا فطری ہے کہ کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے جو شے فطری ہوتی ہے اس کو آدمی کتنا ہی ان کا رکرے لیکن وہ زبان پر آتی ہی ہے۔ ایک ملکہ کہتا ہے کہ میں خدا کا مکنر تھا اور اس انکار پر میں نے بڑے بڑے پکھر دیئے لیکن میرے دل نے زبان کی بھی موافق تھیں کی اس لئے میں نے اس عقیدے سے توبہ کر لی اور خدا کا قاتل ہو گیا۔

پس جب قابض سے مانگنا فطری تدبیر ہے گو کو وہ مالک بھی نہ ہو تو اگر وہ مالک بھی ہو تو اس سے مانگنا تدبیر کیوں نہ ہو گا اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ حقیقی مالک و قابض ہر شے کا ہے تو اس سے مانگنا بھی تدبیر ہے۔

## دعا کی حقیقت و صورت

”دعا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک درخواست ہے اور جملہ معترضہ کے طور پر یہ بھی یہاں بیان کرنا ضرور ہے جب دعا ایک درخواست ہے تو دیکھنا چاہئے کہ جب کسی حاکم سے درخواست کرتے ہیں تو اس وقت کن امور کی رعایت کرتے ہیں حاکم جب سامنے ہو اور کوئی درخواست زبانی یا تحریری تم پیش کرو تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوتی ہے کہ دل اور آنکھ اور زبان سب حاکم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اگر درخواست دینے کے وقت ادھر ادھر دیکھے یا بےاتفاقی کرتے تو وہ گستاخ اور بے ادب شمار کیا جاتا ہے اور حاکم یہ جانتا ہے کہ اس کو یہ شے مطلوب نہیں ہے اس لئے اس کی طرف کوئی التفات نہ کرے گا پس اگر دعائیں درخواست ہونے کی حیثیت کا لحاظ کیا جاتا تو آداب دعا کو ہم نہ چھوڑتے۔

اب تو یہ حالت ہے زبان سے تو کہہ رہے ہیں۔ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةُ الْخ۔ (اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلانی عطا فرمائ کر) اور آنکھ کہیں ہے دل کہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی نظر تو چونکہ دل پر ہے اس لئے دل کا پھرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے درخواست دینے کے وقت حاکم کی طرف سے منہ پھیر لینا اور کیا حالت ہے کہ دعا کرتے ہیں اور دل میں یہ ہے کہ ہماری دعا کیا قبول ہو گی۔

صاحبو! اگر درخواست دینے کے وقت درخواست کے اخیر میں لکھ دو یا کہہ دو کہ ہم کو اس درخواست کے منظور ہونے کی امید نہیں ہے تو وہ درخواست یقیناً واپس ہو جائے گی حیرت ہے کہ حاکم مجازی کی درخواست میں تو یہ ظاہر کرتے ہو کہ ہم کو سرکار کی توجہ سے پوری امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور حاکم حقیقی کے یہاں درخواست کی منظوری میں شک کرتے ہو افسوس صد افسوس دعا کیا اگر درخواست سمجھتے تو بس یہ سمجھنا ہی تمام آداب دعا کی تکمیل کے لئے کافی وافی تھا۔

الحاصل دعا بھی ایک تدبیر ہے اور صبر کے منافی نہیں ہے آپ نے خود دعا فرمائی چنانچہ قحط میں دعا فرماتے کا قصہ میں نے خود بیان کیا ہے۔

ایک مرکہ میں حضور شریف لے گئے اور دوز رہ آپ پہنے ہوئے تھے۔ اور وہ کے پاس تو ایک ایک زرہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوز رہ تھی کوئی تادا قف ہوتا یہ کہے کہ حضور (نعوذ باللہ) بڑے ڈر پوک تھے کہ سب کے پاس تو ایک ایک زرہ تھی یا بالکل نہ تھی اور آپ نے دو زرہ پہنی تھیں حالانکہ یہ اظہار ہے اپنے بجز کا ہاں غلبہ حال کا قصہ جدا ہے غلبہ حال میں تو بعض اوقات دعا بھی چھوٹ جاتی ہے لیکن با وجود غلبہ حال نہ ہونے کے تدبیر نہ کرنے کا گویا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ ہم ایسے مضبوط ہیں کہ ہم کو تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ صبر کے یہ معنی نہیں ہیں۔

### صبر اور تدبیر

صبر کے معنی جزع و فزع نہ کرنا اور مستقل رہنا اور تنگی اور کراہت نہ ہونا اسی استقلال کا فرد نباہ کر اور جم کر دوا کرنا بھی ہے پس جو شے استقلال کا محل ہواں کو استقلال کے خلاف نہ کہا جائے گا۔ الحاصل جب دوا کی اور دو اپنے نظر نہ ہوئی تو یہ صبر توکل کے خلاف نہیں ہے۔

اس تقریر سے یہ شبہ تو جاتا رہا مگر ایک شبہ شاید کوئی کرے کہ گو صبر منافی نہیں لیکن ادنیٰ درجہ کا صبر ہے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ دو اور تدبیر چھوڑ دے میں کہتا ہوں کہ کمال صبر یہ ہے دوا کرے اور پھر خدا پر نظر ہو اور دوا کو چھوڑ کر پھر خدا پر نظر رکھنا کون سا کمال ہے اس وقت تو خواہ مخواہ خدا پر نظر ہو گی۔

ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں اونٹ کو باندھ دوں یا خدا پر بھروسہ کروں حضور نے فرمایا۔ اعقلها ثم توکل۔ یعنی باندھ دے اور پھر پھروسہ کر اس کو مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

گفت پیغمبر بآواز بلند بر توکل زانوئے اشتہ بہ بند

گرتوکل مے کئی درکار کن کسب کن پس تکیہ بر جبار کن  
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا۔ توکل پر اونٹ کا گھٹٹہ باندھ دو اگر توکل کرتا ہے تو کام میں توکل کر یعنی پہلے کوشش کر پھر خدا پر بھروسہ کر۔  
پس کمال یہی ہے کہ کسب تدبیر ہو اور تدبیر پر نظر نہ ہو۔

اس میں شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوا کرے اور دو اپنے نظر نہ ہو بات یہ ہے کہ نظر کی دو قسمیں ہیں ایک نظر مذموم اور ایک نظر غیر مذموم۔ نظر مذموم تو یہ ہے کہ اس پر تو نظر ہو گی

کہ دو اپی ہے اور فلاں حکیم تجویز کیا گیا ہے اور فلاں فلاں اس میں اجزا ہیں اور جب سے میں یہ دوا پیتا ہوں اس وقت سے مرض میں فلاں امر کی کمی ہے اور اس سے پہلے یہ زیادتی تھی مگر باوجود اس کے عقیدہ یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو شفافہ ہوتی۔

اگر کوئی اس پر یہ شبہ کرے کہ یہ تو کوئی فضیلت کی بات نہیں اس میں سب مسلمان برابر ہیں ایسی نظر تو سب کو حاصل ہے۔

جواب یہ ہے کہ نظر نظر میں فرق ہے عقیدہ تو سب کا ہے فرق اتنا ہے کہ عوام کو تو صرف اس کا عقیدہ ہی ہے اور استحضار نہیں اور خواص کو عقیدہ بھی ہے اور اس کا استحضار بھی ہے یعنی ہر وقت ہر کام حرکت میں اس کا استحضار ہے کہ موثر حقیقی ذات وحدۃ لا شریک ہے اور یہی درجہ مطلوب ہے پس یہ ثابت ہو گیا کہ تداوی کمال صبر کے بھی خلاف نہیں بلکہ اس سے اس دعویٰ کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے کہ تداوی ترک تداوی سے افضل ہے اس لئے کہ بڑا معیار ہمارے لئے حضور نے بیان جواز کے لئے تداوی نہیں کی اس لئے اگر ایسا ہوتا تو گا ہے اس کا صدور ہوتا مرض میں علاج کرنا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عادت مسترہ تھی ہاں اس کی گنجائش ہے کہ دوانہ کرتے گا گنہگار نہ ہو گا لیکن افضل دوا کرنا ہے البتہ اگر کوئی حال غالب ہو تو دوسری بات ہے افضیلت کے درجہ کا مقابلہ ہونا اس سے ساقط ہو جائے گا بُنے نظر اس کی خصوصیت حال کے یوں کہہ دیں گے کہ اس شخص کے لئے ترک تداوی، ہی افضل ہے۔

## غلبہ حال اور تدبیر

اس قسم کے اولیاء اللہ بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے غلبہ حال میں دوا اور کوئی تدبیر نہیں کی بلکہ بعض سے مصیبت کی تمنا بھی منقول ہے اور یہ ایک گونہ غلبہ حال تھا مگر اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ایک صحابی یہاں تھے حضور عیادت کے لئے تشریف لے گئے انہوں نے فرمایا اے اللہ! آخرت میں جس قدر عذاب کرنا ہو یہاں ہی کر لے وہاں کے عذاب کا تخل نہیں سو عارض سے انہوں نے تمنا کی حضور نے فرمایا:

سلوا الله العافية ولا تسئلو البلاء او کمال قال (سنن الترمذی: ۳۵۹۳، بغیر هذا السياق).  
(یعنی اللہ سے عافیت مانگو اور مصیبت مت مانگو۔)

حقیقت میں عافیت بڑی چیز ہے آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ جب عافیت جاتی رہے گی تو میری کیا حالت ہو گی۔

ایک قصہ ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم بعد غزوہ بدرا کے تمنا کیا کرتے تھے کہ کوئی غزوہ ہو تو ہم قتل و قتال کریں اور اللہ کی راہ میں جان دیں جب غزوہ احد ہوا تو اس میں ہزیست ہوئی اس کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمْنَعُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْرَا إِيمَانُهُ وَأَنْتُمْ تَنْظَرُونَ  
یعنی۔ موت کے ملنے سے پہلے تم اس کی تمنا کیا کرتے تھے اب تو تم نے اس کو دیکھ لیا اور تم  
صاف دیکھ رہے ہو اب کیوں بھاگتے ہو۔

بہر حال تم نامصیبت سے عدم تمنا کو اور وقوع کے وقت مذبیر کو ترجیح دی گئی ہے اور اس مذبیر کو خلاف صبر نہیں سمجھا گیا خصوص موت کی تم نامصیبت سے بچنے کے لئے تو زری بزدی کی دلیل ہے اس لئے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصائب موجودہ پر اس شخص سے صبر نہیں ہو سکتا جو شخص جان کر کنوں میں گرتا تھا میں پہلے ایسے شخص کو بہادر سمجھتا تھا ایک دوست نے اس غلطی کو رفع کیا اور یہ کہا کہ ایسا شخص بڑا بزدل اور بے صبر ہے اس لئے کہ مصائب پر اس سے صبر نہیں ہو سکا اس لئے جان دیتا ہے

بے صبری کی علامت

بعض لوگ بعض مصائب سے تنگ آ کر حکام وقت کو برا بھلا کہتے ہیں یہ بھی علامت ہے بے صبری کی پسندیدہ تدبیر نہیں ہے اور حدیث شریف میں اس سے ممانعت بھی آتی ہے فرماتے ہیں۔ لا تسوا الملوك۔ یعنی بادشاہوں کو برامت کھوان کے قلوب میرے قبضہ میں ہیں میری اطاعت کرو میں ان کے دلوں کو تم پر زرم کر داں گایا درکھو جو مصیبت آتی ہے سب من جانب اللہ ہوتی ہے فرماتے ہیں۔ ما أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ یعنی کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور جب کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ ادھر رجوع کرے اور پھر جو پیش آوے خیر سمجھے اس لئے کہ

ہرچہ آں خرکند شیریں بود (محبوب جو کچھ بھی کرتے وہ شیریں ہے) اور اس لئے ہرچہ از دوست پر سونیکوست (حقیقی دوست کی طرف سے جو ہو گا وہ بہترین ہے) اور شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

از خداداں خلاف دشمن دوست کے دل ہر دور رصرف اور ست دوست دشمن کے خلاف کو خدا تعالیٰ کی طرف سے شمار کرو کیونکہ دلوں کے دل اسی کے تصرف میں ہیں۔

ہاں اذن شرعی سے تدبیر کرنا جائز ہے اپنی رائے سے تدبیر کرنا بھی خلاف شریعت ہے آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بعض نوجوانوں کے اندر لوگے ہیں۔ بعض واقعات کی تدبیر اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی شورش ہو۔ گز بڑھو خدا نخواست اگر کوئی شورش ہوگی بھی تو سب سے پہلے ہٹنے والے یہی ہوں گے۔ صاحبو عافیت اور امن کو غنیمت سمجھو اور عارف اور امن ہی کو مانگو ہاں اگر کوئی مصیبت خود بخوبی پیش آجائے تو اس میں صبرا استقلال سے کام لو۔ یہی سنت ہے۔

حضورؐ کی عادت شریف یہی تھی کہ خود کسی حادثہ کی تمنا نہ فرماتے تھے حرب کا موقع تھا تو جو اس کے مناسب تدبیر ویں ہیں وہ کرتے تھے چنانچہ غزوہ بدرا میں پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ حضورؐ کے بدن مبارک پر دوزر ہیں تھیں دیکھنے یہ تدبیر ہی تھی اور اس تدبیر سے حضورؐ کی شجاعت اور مستقل ہونا زیادہ معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ جو ذرے گا وہ بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ کرے گا اس لئے چاہے گا کہ اچھا ہے جلدی سے قصہ ختم ہوا اور شجاع تدبیر کرتا ہے اس لئے کہ جانتا ہے کہ جان رہے گی تو اور واقعات میں بھی جان بازی کریں گے۔

حضرت ضرار بن از وروتو کفار میں ننگے گھس جاویں اور حضور مُعمر کے کے دن دوزر ہیں پہنیں اگر کوئی یہ نہ بتلوے کہ دوسرا حضورؐ کا فعل ہے اور یہ سوال کیا جاوے کہ ان دونوں میں کون زیادہ افضل ہے تو ظاہر میں تو یہی جواب دیں گے کہ پہلا شخص بڑا بہادر ہے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ کی لیکن تقریر سابق سے واضح ہو گیا ہو گا کہ ننگا گھس جانا اتنی بہادری کی بات نہیں جس قدر کہ اپنے بچاؤ کی تدبیر کر کے واقعہ میں جانا ہے۔

## رومیٰ و تبریزیٰ

اسی قسم کا سوال شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رومی علیہ الرحمۃ سے کیا تھا اور مولانا رومی نے اسی قسم کا جواب دیا تھا قصہ اس کا یوں ہوا تھا کہ حضرت شمس تبریز مولانا عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں اور دونوں ایک بزرگ کے مرید ہیں دونوں شیخ کی خدمت میں اپنے حالات و واردات بیان کرتے تھے مولانا عراقی بڑے شاعر تھے اپنے واردات لظم میں بیان کرتے تھے اور شمس تبریز شاعر نہ تھے ایک روز شیخ نے کہا کہ شمس تبریز تم ایسی لظم بیان نہیں کرتے شمس تبریز نے مغموم ہو کر فرمایا کہ حضرت مجھ کو ایسی لظم نہیں آتی فرمایا کہ مغموم مت ہو تھا رے اتباع میں ایک ایسا شخص ہو گا کہ علوم اولین و آخرین کے کھول دے گا۔ چنانچہ جب اس بشارت کا وقت آیا تو حضرت شمس تبریز کو الہام ہوا کہ جلال الدین کی (یہ نام ہے مولانا رومی کا جن کی مشنوی شریف

ہے) جا کر تربیت کرو مولانا رومی بڑے عالم تھے علوم اور کتب کی خدمت میں دن رات مشغول رہتے تھے میٹھے کتاب دیکھ رہے تھے کہ شمس تبریز آئے اور بیٹھ گئے مولانا سے پوچھا کہ یہ تمہارے سامنے کیا ہے مولانا نے فرمایا کتا میں ہیں۔ حضرت شمس تبریز نے فرمایا کہ میاں یہ تو علم قال ہی ہے کچھ علم حال بھی حاصل کرو اور یہ کہہ کر تمام کتا میں سامنے حوض تھا اس میں پھینک دیں یہ شور چانے لگے انہوں نے سوکھی کتا میں حوض میں سے نکال کر دے دیں آگ تو اسی وقت لگ گئی پھر شمس تبریز غائب ہو گئے اور ان پر علوم کا دریا کھل گیا پھر ایک روز مولانا گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ شمس تبریز نے آکر باغ پکڑ لی اور پوچھا کہ مولانا ایک شخص تو یہ کہتا ہے۔

سبحانی ما اعظم شانی میں پاک ہوں میری شان کتنی بڑی ہے  
اور ایک یہ کہتا ہے۔

ما عرفناک لحق معرفت کہ ہم نے آپ کو پہچانے کے حق کے مطابق نہیں پہچانا۔  
ان میں کون بڑھا ہوا ہے؟ مولانا نے جواب دیا کہ دوسرے کے معرفت بڑھی ہوئی ہے اس لئے کہ اول کی معرفت تو ختم ہو کر رک گئی اور دوسرے کی معرفت ترقی پذیر ہے بس مولانا رومی کا یہ جواب بھی ایسا ہے۔  
پس زرہ پہننا اور تدبیر کر کے معرکہ میں جانا زیادہ شجاعت کی دلیل ہے اور بے تدبیری سے آنکم شجاعتی کی علامت ہے کہ اس نے سوچ لیا کہ جان دینا ہے چل کر جان دے دیں گے پس اس جملہ تقریر سے معلوم ہوا کہ تدبیر کہ مدد اوی بھی اس کافر وہ فضل ہے اور قوت کی دلیل ہے تدبیر نہ کرنے سے۔

## عوام و خواص کا فرق

لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عوام بھی ان تدبیر نہ کرنے والوں سے افضل ہو جاویں اس لئے کہ خواص تدبیر کرتے ہیں لیکن ان کی نظر اس پر نہیں ہوتی نظر صرف خالق پر ہے بخلاف عوام کے کہ ان کی نظر اول تدبیر پر ہوتی ہے لیکن ظاہر میں دونوں تدبیر میں مشغول ہیں پس ظاہری حالت بیشک دونوں کی یکساں ہے اور یہی وجہ ہے کہ کاملین عوام سے متاز نہیں ہوتے اور عوام ان کو نہیں پہنچاتے اور اسی بنا پر کفار نے انبیاء کی تکذیب کر دی اور یہ کہہ دیا۔

ما انتم الا بشر مثلنا تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو۔

مولانا اسی مضمون کو فرماتے ہیں۔

جملہ عالم زیں سب گمراہ شد کم کے زابدال حق آگاہ شد

گفت ایک ماہر ایشان بشر ماوایشاں بستہ خوابیم و خور  
ساری دنیا اسی وجہ سے گمراہ ہو گئی ہے کہ ایسے لوگوں سے بہت کم آگاہ ہوئے جنہوں نے کہا  
یہ بھی آدمی ہیں، ہم بھی کھاتے، سوتے ہیں، ہم بھی کھاتے اور سوتے ہیں۔

ایں نہایتیستند ایشان از عمع درمیاں فرقے نبودے منعجا  
کار پاکاں را قیاس از خود مگر گرچہ ماند درنوشتن شیر و شیر  
اندھے پن کی وجہ سے یہ نہ جانا کہ ہمارے اور انکے اندر بے انتہا فرقہ ہے پاک لوگوں کو اپنے اوپر  
قیاس کر کے اپنے جیسا نہ سمجھ لیا کرو کیونکہ لکھنے میں شیر (جانور) اور شیر (دودھ) ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔  
بڑے بڑے بزرگوں کی نسبت ہم نے عوام کو کہتے ہوئے سنائے کہ ہاں عالم میں مگر درویشی دوسری  
ہی شے ہے درویشی اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی ہی تسبیح ہوا اور نگے کپڑے ہوں کسی سے بات نہ کرتے  
ہوں صاحبو اگر درویشی یہی ہوتی ہے تو جس کا جی چاہتا درویش بن جاتا ہے تو نام تقویٰ طہارت کا ہے۔  
حضرت شیخ عبدالحق رولوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی عالم تھے حضرت شیخ کو خویں شروع کرائی  
اس میں مثال آئی۔ ضرب زید عمر و آن۔ یعنی مارازید نے عمر کو استاد سے پوچھا کہ زید نے عمر کو کیوں مارا استاد  
نے کہا کہ مارا نہیں۔ محض فرضی مثال ہے فرمایا کہ میں ایسی کتاب نہیں پڑھتا جس میں اول سے ہی تعلیم  
کذب کی ہو بہر حال اگر مارا ہے تو ظلم ہے اور اگر نہیں مارا تو جھوٹ ہے میں ایسی کتاب کو نہیں پڑھتا جس  
میں ظلم یا کذب کی تعلیم ہو۔ ہمارے کا بڑی تو یہ حالت تھی کہ شانہ کذب سے بھی وحشت ہوئی۔

## آج کل کے صوفی

آج کل کے صوفی ایسے ہیں کہ ریا سے بھی ان کو وحشت نہیں ہوتی۔ جو سراسر خلاف تقویٰ  
ہے تسبیح رکھیں گے تو ایسی کہ اگر کس کے ماریں تو اچھی خاصی چوٹ لگے لباس پہنیں گے تو ایسا کہ  
دور ہی سے معلوم ہو جاوے کہ حضرت شاہ صاحب ہیں گویا کہ شاہ صاحب کے لئے بھی وردی کی  
ضرورت ہے بغیر وردی کے درویش نہیں مولانا ایسی ہی جامدہ ریائی کے باب میں فرماتے ہیں۔  
نق德 صوفی نہ ہمہ صافی بیغش باشد اے بسا خرقہ کہ مستوجب آتش باشد  
(صوفی کی موجودہ حالت اگر بالکل درست نہ ہو تو وہ صوفی نہیں ہے خواہ خرقہ پہن لے اے  
شخص بہت سے خرقے آگ میں جلانے کے قابل ہیں)

کیسی وردی کیسا اظہار یہاں تو جلتا اور مرتا اور کھپنا ہے ایک صاحب نے فرمایا۔  
 افروختن و سختن و جامد دریدن پروانہ زمان شمع زن گل زمان آموخت  
 پروانے سے مجھ سے جتنا سیکھائی نے مجھ سے روشن ہونا سیکھا اور بچوں نے مجھ سے کپڑے پھاڑنا سیکھا۔  
 باہد درجوشش گدائے جو ماست چرخ درگردش اسیر ہوش ماست  
 شراب اپنے جوش میں ہمارا گدائے اور آسمان اپنی گردش میں ہمارا اسیر ہے ان میں تو جوش  
 عشق ہونا چاہئے اس کے ساتھ تضع اور بناوٹ کا کیا کام یاد رکھو درویش کی کوئی ظاہری صورت  
 نہیں ہوتی بلکہ کامل و ہی ہے جو کسی پہلو سے عوام سے ممتاز نہ ہوا الہامی مقولہ ہے۔

### اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوای

میرے اولیاء میرے قبائے نیچے ہیں میرے سوانحیں کوئی نہیں جانتا  
 اور اسی واسطے عوام صحابہ رضی اللہ عنہم کو درویش نہیں سمجھتے تھے اس لئے کہ ان کی حالت بالکل  
 عوام کے مشابہ تھی ان کی شان یہ تھی۔

لیوٹ النہار و رہبان اللیل دن کو شیر اور رات کو زاہد شب زندہ دار۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابو بکر گذشت صلاوة صیام  
 سے نہیں بڑھے بلکہ ان کے قلب میں ایک شے ہے جس کی وجہ سے ان کو فضیلت ہے ایک عالمت اربع  
 سے نقل کرتے تھے کہ ان کی بیوی سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر گھر میں کیا کرتے تھے کہا کچھ نہیں اتنی  
 بات تھی کہ شب کو مراقب بیٹھ جاتے تھے اور تھوڑی دیر میں ایک آہ کرتے تھے جس میں سے جلے ہوئے  
 گوشت کی بوآتی تھی غرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی ظاہری وضع یا حالت ممتاز تھی۔

ای طرح کامیں عوام سے کم ممتاز ہوتے ہیں اور دامہی کی طرح دوادار و بھی کرتے ہیں پس تدبیر کرتا اور  
 مرض میں دوادار و کرتا تو کل اور عبر اور درویش کے طرح منافی نہیں اسی واسطے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ  
 نے لکھا ہے کہ مجھ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں پر مجبور ہو کر فرمایا اور میرا بھی نہ چاہتا تھا۔

اول یہ کہ ان مذاہب اربعہ کی تقلید کرنے کو میرا بھی نہ چاہتا تھا مگر مجھ کو حضور نے مذاہب  
 اربعہ سے خارج ہونے کو منع فرمایا۔

دوسرے یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ سے افضل جانے کو بھی چاہتا تھا اس سے  
 روکا اور افضلیت پیغامبر نے پر مجبور کیا۔

تیرے ترک اس باب میری اصلی خواہش تھی مجھ کو حضور نے  
تشبث بالا سباب اس باب کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے پر مجبور فرمایا۔

### اس باب ظاہرہ اور سنت

پس اس باب ظاہرہ کو اختیار کرتا سنت ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ اس میں شہرت سے بھی  
بچانا ہے ترک اس باب ظاہرہ میں شہرت بہت ہوتی ہے اس لئے نفس اس طرف جاتا ہے نفس ایسا  
شریر ہے کہ اگر اپنے لئے کوئی مجاہدہ تجویز بھی کرتا ہے تو ایسا جس میں شہرت ہوتی ہے عام لوگ اس کو  
بزرگ سمجھتے ہیں جو روٹی کھانا چھوڑ دے اگرچہ روٹی سے زیادہ مقوی چیز کھالے اسی واسطے محققین  
نے آج کل ایسے مجاہدوں کو پسند نہیں کیا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خوب کھاؤ پیو اور سوہاں کام کرو۔

اس میں ایک یہ بھی مصلحت ہے کہ جب خوب کھائے پے گا اپنے کو سمجھے گا کہ ہم بڑے نمک  
حرام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور کام اس درجہ کا نہیں کرتے اور ایسے شخص کو اگر کچھ  
ترقی بھی محسوس نہ ہو تو حق تعالیٰ کی شکایت اس کے دل میں نہ آوے گی اس لئے کہ اپنے آپ کو  
مقصر سمجھے گا اور جانے گا کہ ہم کام ہی کیا کرتے ہیں جو ہم کو کچھ ملے اور اگر اس کے حال پر فضل ہو  
گیا تو تھوڑی سی حالت کو بھی بہت بڑی نعمت جانے گا اور اپنا اتحاذ قاچ کچھ نہ جانے گا۔

خلاف اس شخص کے جو مجاہدات شاقدہ اور ریاضات ناقابل برداشت برداشت کرتا ہے کہ  
اگر اس کو کچھ ملے گا تو اس کو اپنے مجاہدہ کا شمرہ سمجھے گا اور نعمت و فضل پر اس کی نظر نہ ہوگی اور اگر کوئی  
امر قلب میں نہ پائے گا تو اس کے جی میں ضرور کسی درجہ میں یہ آوے گا کہ افسوس ہے میں اس قدر  
تو مجاہدے کرتا ہوں پھر بھی محروم ہوں اور بزرگوں نے یہ فرمایا ہے

زنہاراز طاعونے کہ مر اعجب آرہ (ایسی نیکی نہ کرو جس سے عجب پیدا ہو)

غرض حضور کے ہم شکل رہنے میں اتباع سنت میں بڑے بڑے فائدے اور حکمتیں ہیں پس  
تدبیر کا اختیار کرنا صبر کے منافی تو کیا ہوتا اور اس کا مکمل ہے پس تداوی کے جو صبر کے خلاف  
ہونے کا اشتباہ تھا وہ تو زائل ہو گیا۔

### دوا اور دعا

لیکن اس کے مقابلہ میں دوا کے متعلق ایک کوتاہی کا سمجھنا اور ضروری ہے وہ یہ کہ بعضے جو دوا کرتے

وہ اس کو ایسا موثر سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے گویا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا اس سے درخواست بھی شفا کی نہیں کرتے پس دوا کو تو موثر سمجھتے ہیں اور دعا کو کسی درجہ میں موثر نہیں جانتے مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ یہ دوابڑی قسمی ہے اس کے اجزاء بڑے عمدہ ہیں یہ خالی نہ جاوے گی صاحبو جن لوگوں نے ان اجزاء کی یہ خاصیت لکھی وہ خود طب کی کتابوں میں خاصیت لکھنے کے بعد لکھتے ہیں:

بادن خالقہا بادن ربها خدائے غالب کی اجازت سے اللہ کی اجازت سے اور اگر ان کے لکھنے کا تم کو یقین نہیں آتا تو مشاہدہ بھی کر لیجئے کہ جب وقت ناکامی کا آ جاتا ہے تو ساری دوائیں رکھی رہ جاتی ہیں بلکہ اطباء خود متوجہ اور حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی دلیقت ہم نے نہیں چھوڑا اور اُنہیں ہوتا مولا ناعلیٰ الرحمة کنیز ک کقصہ میں فرماتے ہیں:

از سر کنکنیں صفر افزود روغن بادام خشکی مے نمود  
از ہلیلہ قبص شد اطلاق رفت آب آتش رامد و شد ہچونفت  
ہرچہ کروند از علاج و از دوا رنج افزول گشت و حاجت ناروا

فنا جب آ جاتی ہے تو بخشن صفرابڑھاتی ہے اور روغن بادام خشکی کرتا ہے ہلیلہ اسہال کی بجائے قبض کرنے لگتا ہے اور پانی پڑوں کی طرح آگ کا مددگار بن جاتا ہے جتنا بھی ان لوگوں نے دوا اور علاج کیا یہ کاری بڑھتی گئی اور ضرورت پوری نہ ہوئی۔

آخرت ایک طبیب الہی آئے اور انہوں نے کہا۔

گفت ہر دارو کہ ایشان کردہ اند آن عمارت نیست ویران کردہ اند  
رخش از صفر او از سودانہ بود بوئے ہر ہیزم پدید آیدز دور  
بے خبر بود ند از حال دروں استعید الله مما یفترون

اس نے کہا جس قدر دوا ان لوگوں نے کی اس عمارت کو ویران ہی کیا یہ کاری صفر اور سودا سے تھی ہی نہیں لکڑی کا دھواں دور ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے اندر وہی حال سے بے خبر تھے اللہ کی پناہ کس قدر وہ جھوٹ لگتے تھے۔ خیر اس قصہ میں تو تشخیص میں غلطی ہوئی تھی بعض مرتبہ تشخیص بھی صحیح ہوتی ہے لیکن مریض جاں بر نہیں ہوتا کوئی طبیب تھے دستوں کے علاج میں کامل تھے جب وقت آیا تو دستوں ہی میں بتا ہوئے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو طبیب جس مرض کے علاج میں کافی کامل ہوتا ہے اس کی موت اسی مرض میں ہوتی ہے حق تعالیٰ اس عجز اور بے کار ہوتا مدیر کا دھنلا دیتے ہیں القصہ اطباء جمع ہوئے اور

سخن لکھا گیا اس نے دیکھا کہا کہ میں نے یہ دوائیں سب کھائی ہیں بلکہ اس سے زیادہ موثر دوا کھائی  
مگر کچھ نہیں ہوا اور کہا کہ ایک پانی کا طشت لا و چنانچہ منگایا گیا ایک پڑیا نکال کر اس میں ڈالی گئی وہ  
جم گیا کہا میں نے تو یوں یہ دوا کھائی مگر معلوم ہوتا ہے کہ وقت آگیا چنانچہ اسی مرض میں خاتمه ہو گیا۔  
کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مجید شرائط دوا کی تاثیر کے یہ ہے کہ طبیعت قوی ہو اگر طبیعت میں قوت  
نہ ہو گی اور علاج گوشیخ صبح سے فائدہ ہو گا میں کہتا ہوں کہ طبیعت کی تقویت کی بھی آخر کوئی دوا ہے۔  
اسی کی تدبیر کرو کہ طبیعت کی قوت پہنچے یوں کیوں نہیں کہتے کہ جو خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔  
ماشاء اللہ کان وما لم يشأ میکن جو اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا۔  
دوا میں خاصیت بھی ان کی ہی رکھی ہوئی ہے جب حکم ہوتا ہے جب ہی وہ اپنا فعل کرتی ہے  
اور طبیعت میں قوت بھی اسی صرف سے ہے تعجب ہے کہ سب چیز یاد رہتی ہے اسی کو کیوں بھول  
گئے پس دعا پر تو اتنا تکیہ ہوا اور خالق دوا سے اتنی غفلت۔ اے طبیبو اور اے مریضوں یاد رکھو کہ دوا  
ضرور کرو مگر بھروسہ حق تعالیٰ پر رکھو اور ساتھ کے ساتھ دعا بھی کیا کرو۔

میرٹھ میں ایک حکیم سلامت علی صاحب تھے بڑے مقدس آدمی تھے جس وقت بپس دیکھتے  
تھے اول پڑھتے تھے۔

**سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلِمْتَنَا طَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ**

تو پاک ہے ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہم کو بتایا علیم و حکیم تو ہی ہے۔

جیسے ہمارا پور میں ایک سب بحاجت رشوت بالکل نہ لیتے تھے اور نہ مدعا عالیہ سے خلوت  
میں بات کرتے تھے ان کا بھی معمول تھا کہ تجویز لکھنے سے پہلے یہی آیت پڑھ لیتے تھے ان کے  
ساتھ ایک شخص نے عجیب قصہ کیا وہ یہ کہ وہ ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے نماز پڑھ کر وظیفہ  
میں مشغول تھے ایک مقدمہ والے کو کیا سو جھی کہ بعد نماز کے ان کے پاس بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا  
کرنے لگا اے اللہ آپ کو معلوم ہے فلاں شخص نے مجھ پر ظلم ظاہر کیا ہے غرض دعا میں پکار پکار کر  
پورا کچا چٹھا اپنا سب بحاجت کو سنادیا اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کی گویا سب بحاجت سے کی بیچارے  
سب بحاجت صاحب کہنے لگے بھائی اب یہ لوگ میری مسجد کی نماز بھی چھڑا میں گے۔

غرض یہ سب بحاجت اور وہ حکیم صاحب اول سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا پڑھتے اور وہ حکیم صاحب پھر  
مریض سے یوں بھی فرماتے ہیں کہ جب دوابن کرتیار ہو جاوے تو میرے پاس لے آئیو جب دوا آئی تو

اس پر بھی کچھ پڑھ کر دم فرماتے اب تو اگر کوئی طبیب ایسا کرنے لگے تو اس کا مذاق اڑانے کا خوف ہوتا وہ  
چپکے چپکے دعا کر لیا کریں لیکن دعا ضرور کریں اور اس عارف کے سبب دعا کے خفی کرنیکی اصل یہی ہے۔  
وہ یہ کہ قرآن شریف میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ آیا ہے کہ انہوں نے حضرت یحیٰ  
علیہ السلام کے پیدا ہونے کی دعا آہستہ کی تھی چنانچہ ارشاد ہے  
**اَذْنَادِي رَبَّهُ نِدَاءُ خَفِيًّا**

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چپکے دعا لئے کی کہ لوگ نہیں نہیں اس لئے کہ حضرت ذکریا علیہ السلام  
کی عمر ایک سویں سال تھی اور بی بی بانجھ تھیں پس اگر لوگوں کے ہنئے کا خوف ہوتا تو چپکے چپکے دعا کر لیا کرو۔  
ہمارے حضورؐ کی سنت تو یہ ہے کہ اگر لوگ نہیں تو پکار کر دعا کرنا چاہئے اس لئے کہ حدیث  
شریف میں آیا ہے کہ جب حضورؐ نے فارس اور روم کے فتح ہونے کی خبر دی تو کفار ہنے تو اللہ تعالیٰ  
نے پکار کر دعا کرنے کی تعلیم فرمائی۔ فرماتے ہیں

**قُلِ اللَّهُمَّ ملِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ  
تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ طَبِيَّدُكَ الْخَيْرُ طَإِنْكَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ الْأَيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الْأَيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ  
مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ**

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہئے اے اللہ اے مالک ملک آپ سلطنت جس کو چاہیں  
دیں اور جس سے چاہیں چھین لیں اور جس کو چاہیں عزت دیں اور جس کو چاہیں ذلت دیں آپ  
ہی کے قبضہ میں ہے خیر بے شک آپ ہر شے پر قادر ہیں آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں  
جس دن بڑھ جاتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے رات بڑھ جاتی ہے  
پس جب رات کو دن بنادینا اور دن کو رات بنادینا آپ کے قبضہ میں ہے تو ضعیف کو قوی بنادینا  
اور قوی کو ضعیف کر دینا آپ کو کیا مشکل ہے اور زندہ کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان کو  
زندہ سے نکلتے ہیں اور جس کو آپ چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔

یہ ایسی ہی چیز کی دعا ہے جس پر زیادہ نہیں ہوئی ہوگی مگر قیامت تک پکار پکار کر پڑھی جاوے گی۔  
بہر حال ایسے وقت پکار کر دعا کرنا حضورؐ کی سنت ہے اور آہستہ دعا کرنا زکریا علیہ السلام کی سنت ہے جس  
پر چاہو عمل کرو خواہ پکار کر دعا کرو خواہ آہستہ اور زکریا علیہ السلام کی سنت میں وجہ حضورؐ کی سنت ہے اس لئے

کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن شریف میں نقل فرمایا کہ اس پر انکار نہیں فرمایا اور یہ قاعدہ ہے کہ فقص  
اویں اگر بلماں انکار اللہ و رسول نقل فرمادیں تو وہ ہمارے لئے بھی جحت ہیں غرض جس طرح ہو دعا کرو۔

## تعویذ گندے

آج کل یہ جزو باکل متذکر ہی ہو گیا۔ ہاں بجائے اس کے ایک تیسرا جزو لکھا ہے کہ بعض  
لوگ نہ دوا کریں نہ دعا کریں بس جھاڑ پھونک تعویذ گندے پر کفایت کرتے ہیں سر سام ہو۔ دورہ  
بنخار ہو، زکام ہو ہر بات کا تعویذ مانگتے ہیں یا درکھو تعویذ کے درجے میں تو اس پر  
اکتفا کرنا مصلحت نہیں اور اکتفا سے مراد دوانہ کرنا ہے نہ کہ دعائے کرنا اور وہ عوارض ہیں جن کی دوسرے  
تمدید ہو سکے اور اصل میں تعویذ ان ہی میں کیا جاتا ہے اور دوسرے درجے میں دوا ضروری ہے اور  
یوں اگر تمام امراض میں بھی کرو تو خیر ناجائز تو نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں برکت ہے  
لیکن تعویذ کے ساتھ دوا بھی کرو اب تو یہ خبیط ہو گیا ہے کہ ہر بات کیلئے تعویذ کی درخواست کرتے ہیں  
ایک پہلوان کا میرے پاس بمبی سے خط آیا کہ کوئی ایسا تعویذ کر دو کہ میں کشتی میں مغلوب نہ ہوں  
میرا جی تو چاہتا ہے کہ تعویذ نہ لکھوں مگر خیر اس کی خاطر سے میں نے یہ تعویذ لکھ دیا۔

یا ذالبطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامه

اے سخت پکڑ والے خدا تو وہ ہے جس کے انتقام کی کوئی طاقت نہیں رکھتا

ایک عورت آئی کہ میرا لڑکا شرارت بہت کرتا ہے کوئی تعویذ دے دو میں نے کہا کہ اس کا تعویذ تو ڈنڈا  
ہے تھوڑے دنوں میں یہ بھی کہنے لگیں گے کہ کوئی ایسا تعویذ دو جس سے روئی بھی کھانا نہ پڑے آپ سے پیٹ  
بھر جایا کرے میرا دل ان تعویذوں سے بہت گھبرا تا ہے چاروں کا خط لکھنا بجھ کو آسان ہے مگر دو لکیریں تعویذ  
کی کھیچ دینا مشکل ہے اور میں تعویذوں کو حرام نہیں کہتا لیکن ہر جائز سے رغبت ہونا بھی تو ضروری نہیں ہے۔  
بعض لوگ طاعون کا تعویذ اور نقش مانگتے ہیں صاحبو طاعون میں تعویذ توجہ کا رام جب کہ  
طاعون باہر سے آیا ہو طاعون تو تمہارے گھر کے اندر ہے اور اندر ہونے سے یہ شے سمجھو کہ طاعون چوہوں  
سے ہوتا ہے چوہوں بے چاروں سے کیا طاعون آتا ایک اور چوہا ہمارے اندر ہے وہ طاعون کا اصلی سبب  
ہے اس چوہے کا نام نفس ہے جو رات دن ہم سے گناہ کرتا ہے اور گناہوں ہی سے دبا آتی ہے یہ معنی ہیں  
اندر ہونے کے جب یہ ہے تو پھر تعویذوں سے کیا ہوتا ہے جو اصلی سبب ہے یعنی معصیت اس کا اعلان  
کرو اس کی توا یکی مثال ہے کہ چور گھر کے اندر اور باہر سے کندھی اور قفل لگادو۔ مولا نافرمانے ہیں۔

در بہ بست و دشمن اندر خاتے بود جیلہ فرعون زیں افسانہ بود  
دروازہ بند کر دیا حالانکہ دشمن گھر کے اندر موجود تھا فرعون کا جیلہ اس افسانہ کی بتا پر تھا۔

### تدبیر و تقدیر

تو صاحبو۔ ان خارجی تدبیروں سے کیا ہوتا ہے جب کہ طاعون اندر موجود ہے ایک پٹھانوں کی بستی تھی اس میں دو بھائی رہتے تھے ان کی ماں بیمار تھی دونوں نے صلاح کی موت کو اندر نہ آنے دو۔ دونوں بھائی دونوں دروازوں پر بیٹھ گئے صحیح کو ماں کو مر اپایا ہر شخص نے دوسرے پر الزام رکھا کہ تیرے دروازے سے موت آئی غرض تکرار بڑھا اور اڑ کر وہیں ڈھیر ہو گئے یہاں بھی موت اس وقت اندر تھی اور یہ باہر کی تدبیریں کر رہے تھے۔

ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو ایسی کوئی موتی میں بند کر دیں کہ وہ چاروں طرف سے بند ہو تو رزق کہاں سے آؤے ؟ تھا فرمایا جہاں سے موت آؤے گی یعنی اللہ تعالیٰ موت کی طرح رزق کو بھی اندر پیدا کر دیتا ہے سبحان اللہ کیا جواب دیا ہے۔

اس رزق کے آنے کو ایسی حالت میں کوئی بعید نہ سمجھے ایسا واقعہ بھی ہوا ہے حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں تو جب حضرت زکریا علیہ السلام شریف لاتے تو تازہ پھل مریم علیہ السلام کے پاس دیکھتے تو پوچھتے ؟ یہ مریم اُنی لکھاں میریم یہ کہاں سے آئے ؟ قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ طَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ یعنی مریم علیہ السلام فرماتیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے بیشک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں۔

اس آیت کی اسی وقت ایک عجیب تفسیر سمجھی میں آئی ہے کہ مشہور تفسیر تو یہ ہے کہ ان الله يرزق من يشاء۔ حق تعالیٰ کا مقولہ ہے لیکن اگر اس کو قالت کے تحت میں داخل کر کے مریم علیہ السلام کا مقولہ بنایا جاوے تو حضرت مریم کے کمال فہم کی دلیل ہو گی کہ جزئیہ کے بعد کلیہ بھی بیان کر دیا۔

تو صاحبو طاعون ان تدبیروں سے نہیں جاتا طاعون تو ایک مرض ہے جو گناہوں کی وجہ سے مسلط ہوتا ہے گناہ چھوڑ دیجئے طاعون دفعہ ہو جائے گا۔ تعویذوں کو میں علی الاطلاق منع نہیں کرتا۔

### ممنوع تعویذ

البته بعض تعویذ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قابل منع کرنے کے ہیں ایک تعویذ یہ مشہور ہے:

لی خمسہ اطفی بھا جرا الوباء الحاطمه المصطفی والمرتضی وابناهما والفاطمه  
میرے پاس پانچ تن ایسے ہیں جن سے میں وبا کی حرارت کو توڑتا ہوں۔ جناب مصطفیٰ  
صلی اللہ علیہ وسلم جناب مرتضیٰ ان کے دونوں بیٹے اور حضرت فاطمہؓ۔

یہ حضرات پنجین کے نام مبارک ہیں اگر کچھ تاویل نہ کی جائے تو اس کا مضمون شرک ہے اور  
اگر تاویل کی جاوے کہ ان کے توسل سے یہ اللہ تعالیٰ سے سوال اور دعا ہے تو دعا کا ادب یہ ہے کہ  
نشر میں ہو نظم میں کیسی دعا اور پھر یہ کہ توسل ہی ہے تو صحابہؓ اور بھی تو ہیں ان کا نام کیوں نہیں آیا یہ  
کسی شیعی کی تصنیف ہے ان کو اور حضرات سے بعض ہے اس لئے ان کو چھوڑ دیا۔ اور طرفہ یہ ہے  
کہ جن کی دوستی میں اوروں سے بعض ہے بعض فرق شیعہ کو خود ان سے بعض ہے حضرات پنجین  
سے تو اس لئے کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان کا حق کیوں نہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ  
عنه سے اس لئے کہ انہوں نے اپنا حق وصول کیوں نہ کیا۔

چنانچہ کسی جاہل غالی کی حکایت ہے کہ ایک شیعی سنیوں کی مسجد میں نماز کے لئے آیا مسجد میں  
محراب کے اوپر لکھا دیکھا۔

چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و حیدر  
چھری لے کر چڑھ گیا کہ ہم تو تمہارے واسطے جان اپنی کھوتے پھر میں اور تم کو جب دیکھتے  
ہیں ان ہی کے ساتھ بیٹھا دیکھتے ہیں۔

اس مقام پر ایک اور بات بھی قابل سمجھنے کے ہے شیعہ تو عموماً اور سنی بھی بہت سے نادلی کا  
مضمون چاندی کے تعویذ پر نقس کر اکر بچوں کے گلے میں ڈالتے ہیں تو یا درکھونا دلی کا مضمون بھی  
شرک ہے اس کو چھوڑنا چاہئے اس لئے کہ وہ مضمون یہ ہے:

ناد عليا مظہر العجائب تجده عونا لک في النواب  
کل هم وغم سینجلی بنوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی  
علیؑ کو پکارو جو مظہر العجائب ہے وہ ہر مصیبت میں تمہاری مدد کرے گا غم والم اے محمد صلی اللہ  
علیہ وسلم تمہاری نبوت اور اے علیؑ تمہاری ولایت سے ختم ہو جائے گا  
یہ معلوم نہیں کون سی بحر ہے نہ بحر طویل نہ قصیر اس کی ایسی مثال ہے کہ لکھنو میں نواب کی  
حوالی میں کچھ اشعار کندہ تھے ایک شعر میں کچھ زیادتی تھی ایک ظریف نے یہ لکھ دیا۔

ایک مصروعہ کی بڑھ گئی ہے دم  
جناب نواب ذوالفقار الدولہ بہادر  
ایک شخص تھے جب کوئی شعر سننے تو کہا کرتے کہ ایسا شعروں میں بھی کہہ سکتا ہوں کسی نے کہا  
کہ حافظ شیرازی کی غزل ہے جس کا مقطع یہ ہے:

غزل گفتی و درستی بیان خوش بخواں حافظ      کہ برنظم تو افشاں فلک عقد شریارا  
اے حافظ تو نے غزل کی اور موتی پر دئے آؤ اے خوش الحافی سے پڑھوتا کہ تمہارینظم پر  
آسمان شریا کو شارکرے۔ ایسا شعر کہو تو آپ کہتے ہیں۔

ظہیر برنظم تو آفتاب شار شود      اگرچہ حافظ شیرازی در دیوان خود  
گفتہ است کہ برنظم تو افشاں فلک عقد شریارا

ظہیر تیری لظم پر آفتاب قربان ہو اگرچہ حافظ شیرازی نے اپنے دیوان میں کہا ہے کہ تمہاری لظم پر آسمان  
شریا کو شارکرے ایسے ہی شاعر کوئی نادیلی کے بھی مصنف ہیں کہ اول کے مصروع تو چھوٹے چھوٹے اور  
مصروع آخرہ اتنا طویل غرض بعضے سنی بھی بڑے شوق سے گلے میں ڈالتے ہیں ہو یہ جائز نہیں ہے۔

اگر ایسا ہی گلے میں ڈالنے کا شوق ہے تو حدیث صحیح میں جو دعا میں آتی ہیں وہ لکھ کر گلے  
میں ڈالے چنانچہ وہ دعا میں یہ ہیں۔

اعوذ بالكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله ارقیک من كل داء

یوذیک الله یشفیک (الترغیب والترہیب ۲: ۲۵۷، بغیر ہذا السیاق)

مگر چاندی کا تعویذ نہ ہو تعویذ گندوں کے بارے میں اتفاقی فی احکام الرق، ایک ایسا رسالہ  
دیا ہے بقدر ضررت اس میں اس کے احکام ہیں اس کو ضرور دیکھ لو۔

غرض عرض کی کل تین تدبیریں ہیں۔ دوا، دعا، تعویذ: دوا اول تو ضرور کرو اور تیری بھی احیاناً بعض امراض  
میں ہو تو مضر نہیں۔ یہ نہ کرو کہ دوا اور تعویذ پر اکتفا کر لواور دعا کو بالکل چھوڑ دو۔ یہ تو مرض کا دستور لعمل ہوا۔

### فقر و فاقہ

دوسری حالت ضراء یعنی فقر و فاقہ کی ہے اس کے لئے بھی بعض لوگوں نے دستور العمل بنا  
رکھا ہے تعویذ کراتے پھرتے ہیں عملیات پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا نام دنیا کے لئے پڑھنا  
گو جائز ہو مگر ادب کے خلاف ہے بعض لوگ دست غیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دست  
غیب نہیں بلکہ دست عیب ہے اس لئے کہ جن پر ایامال لا کر دیتے ہیں۔ اس لئے حرام ہے بعض

لوگ اس میں ہیں کہ کہیں سے خزانہ مل جاوے بعض کیمیا کی ہوں میں ہیں یاد رکھو۔ صحیح تدبیر اور کچی کیمیا یہ ہے کہ جو اسباب اپنے امکان میں ہیں ان کے لئے محنت و مزدوری کرے اور جو قدرت سے باہر ہے جیسے قحط وغیرہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔

ایک بڑا سبب رزق کی کمی کا نافرمانی ہے حدیث شریف میں ہے

ان العبد ليحرم الرزق بخطية يعملاها (الدر منثور ۶: ۳۳۳)

یعنی بے شک بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے گناہ کے سبب سے اور اسی طرح فرمانبرداری برکت کا سبب ہے یہ مطلب نہیں کہ دس روپے اگر رکھے ہوں تو میں ہو جاویں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے کام چل جاوے گا۔ اور ضائع نہ جاوے گا۔

بعضی لوگ بارش کے لئے بھی تعویذ کرتے ہیں کسی نے اس کے لئے چہل کاف یاد کر کھا ہے اور یہ چہل کاف حضرت سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں عملیات کے اندر اگر وہ حد شرعی میں ہوں کوئی خرابی تو نہیں مگر لوگوں کا عقیدہ عملیات کے ساتھ اچھا نہیں اس لئے بالکل ہی چھوڑ دیں تو اچھا ہے۔ بجائے ان کی مسنون تدبیر میں اختیار کریں بارش روک کے حروف بھی مشہور ہیں اگر ان عملیات کے بعد بارش ہو جاوے یا رُک جاوے تو تعجب نہیں ہے اس لئے کہ بارش کرنے والے اور روکنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہ جب چاہیں روک دیں مگر اس سے اس میں تعویذ کا داخل ثابت نہیں ہوتا البتہ جو امور تدبیر کے متعلق ہیں ان میں باذن خالق، تدبیر کو نافع سمجھنا یا تدبیر کرنا کچھ مضمون نہیں۔

باتی اگر تدبیر پر یہ شبہ ہو کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کو ایک گونہ رائے دینا ہے سو جان لینا چاہئے کہ تدبیر کرنا درخواست کے مرتبہ میں ہے درخواست کرنا اور شے ہے اور رائے دینا دوسرا شے ہے۔ مثلاً سرکار سے ہم درخواست کریں کہ فلاں جگہ پل بناؤ تو جائز ہے اور بلا استفسار تجویز کریں۔ اور رائے دیں تو گستاخ نہیں گے اور یہاں ہی سے یہ بات سمجھیں آگئی ہو گی کہ دعا کرنا کیوں مشروع ہوا حالانکہ اس میں بھی یہی شبہ ہوتا ہے کہ دعا کرنے والا گویا یہ کہتا ہے یوں ہو تو مناسب ہے۔

بات یہ ہے کہ تجویز کرنا ہے برا۔ اور دعا تو اپنی ایک خواہش اور حاجت اور انتقال ظاہر کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوگا تو اس پر راضی ہوں گے اور اسی کو حکمت کے موافق سمجھیں گے اس نکتہ کو ہمچل چھوڑنے کی وجہ سے بعض لوگوں نے دعا چھوڑ دی ہے ہاں جن پر کوئی حال غالب ہے وہ معدود ہیں اور اگر حال غالب نہ ہو تکمیل کی حالت ہے تو سمجھے گا دعا رضا کے خلاف نہیں

ہے اس لئے کہ اگر درخواست کے موافق کام نہ ہو گا تو اسی پر راضی رہوں گا اور اسی دقیقتہ کو کہ تدبیر مقاوم قضا معلوم ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ دعا اور رقیہ کیا قضا کو روک دیتی ہیں، فرمایا ذکر من القدر۔ یعنی یہ چیزیں بھی قضائیں داخل ہیں پس علاج اور تدبیر اور دعاء تقدیر کے ہٹانے والی نہیں ہیں بلکہ یہ عین موافقت ہے تدریکی بات تو ہے مختصری مگر حضور نے بڑے سخت اشکال کا جواب دیا غرض ضراء کی حالت کا یہ دستور العمل ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مرض میں چھوڑنے کی شے شکوہ و شکایت اور بے صبری کی باتیں ہیں کرنے کے کام ہیں یہ کہ جنم کراور استقلال سے دوا اور دعا کرو احیانا جھاڑ پھونک کا اور تعویذ گندے جو حد شریعت کے اندر ہوں کرام مضافات نہیں۔

فقر و فاقہ کی حالت کا دستور العمل یہ ہے کہ اگر فقر و فاقہ آفت سماویہ سے ہے مثلاً قحط ہے اسکا باراں ہے اس کی تدبیر تو دعا ہے اور اگر اس کی سستی سے ہے تو اس کی تدبیر محنت و مزدوری و سعی ہے اور دونوں کی مشترک تدبیر جو تدبیر خاصہ سابقہ کے ساتھ مثلى شرط کے ہے اصلاح اعمال ہے۔

اب تیری حالت ہے بس یعنی قتل و قتال کی سوگو اس وقت اس کے دستور العمل بتانے کے چند اس ضرورت نہیں لیکن اگر کسی وقت واقع ہو تو اس کے اندر چھوڑنے کا کام یہ ہے کہ شورش و غدر سے اجتناب کرے اور کرنے کا کام یہ ہے کہ تدبیر و صبر و استقلال سے کام لے۔

یہ ہے تین حالتوں کے متعلق دستور العمل جو حق تعالیٰ نے مختصر کلمہ والصابرین میں بیان فرمایا ہے آگے ارشاد ہے۔ **أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا طَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ**

یعنی یہ لوگ ہیں جوچے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو متqi ہیں۔ صدق صرف قول کے ساتھ خاص نہیں بلکہ صدق اصل میں قلب کی صفت ہے جس کا اثر قول فعل و حال سب میں ظاہر ہوتا ہے اور تقویٰ بھی گو صفت قلب کی ہے۔ چنانچہ حضور نے ارشاد فرمایا۔

الا ان التَّقْوَى هُنَا وَ اشَارَ إلَى الصَّدَر (الصحيح لمسلم كتاب البر و اصله: ۳۲، سنن الترمذی: ۱۹۲۷، مسنند احمد: ۲۷: ۲)

آگاہ رہو کر تقویٰ یہاں ہے اور اپنے سینے کے طرف اشارہ فرمایا لیکن اس کا زیادہ ظہور افعال جوارج سے ہوتا ہے۔

## ظاہر و باطن

خلاصہ یہ ہے کہ مقبول وہ ہے جس کا باطن بھی اچھا ہو اور ظاہر بھی اور ایسا ہی شخص قابل تعلق پیدا کرنے کے بھی ہے۔ جب کسی سے تعلق پیدا کرو تو ظاہر کو بھی دیکھو کہ ظاہر عنوان باطن کا ہے یعنی اس کے قول و فعل میں صدق بھی اور وہ متفق ہو ایک علامت اسی کے تابع یہ ہے کہ اچھے لوگوں کا اس طرف میلان ہو آج کل لوگوں میں یہ خبط ہے کہ ظاہر پر بالکل ہی نظر نہیں کرتے بلکہ جس قدر ظاہر کی کا خلاف شریعت ہو اس کا زیادہ ولی سمجھتے ہیں حالانکہ باطن کے کمال پر ظاہر ہی سے استدلال کیا جاتا ہے اگر ظاہر بے کار ہے تو گنا کیوں کھاتے ہو گز کھالینا کافی ہے اور جس کے نزدیک ظاہر کوئی شے نہیں تو ماں اور بیوی میں بھی اس کو فرق نہ کرنا چاہئے اس لئے کہ جب ظاہر پر نظر ہی نہیں تو ماہیت انسانیہ میں توسیب برابر ہیں سب حیوان ناطق ہیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

چونکہ بے رنگی اسیر رنگ شد      موسیٰ بنو سینے در جنگ شد  
 چوں بہ بیرنگی و سی کاں واشیٰ موسیٰ و فرعون دارند آشتی  
 جب بے رنگی رنگ میں مقید ہو جاتی ہے۔ موسیٰ، موسیٰ کے ساتھ لڑنے لگ جاتا ہے اور جب بیرنگی آجائے تو موسیٰ و فرعون میں بھی صلح ہو جاتی ہے جب اطلاق تقیدات کے اندر آگیا تو اگر تقیدات انھا دو تو اطلاق رہ گیا جس میں سب برابر ہیں پھر احکام میں فرق کیوں کرتے ہو۔  
 اور عجیب تر سنو۔ بعضے ان احکام میں بھی فرق نہیں کرتے پھر وہ اس کو قضیہ عقل بھی بتلاتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص اپنی ماں سے بدکاری کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ میں جب سارا اس کے اندر سے نکلا ہوں تو اگر میرا ایک جزو اس کے اندر چلا گیا تو کیا حرج ہے۔  
 ایک شخص پا خانہ کھایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جب میرے اندر ہی سے نکلا ہے تو اگر پھر میرے ہی اندر چلا جاوے تو کیا حرج ہے۔ ایسے ہی آج عقل پرست لوگ ہیں۔ ایسی ہی عقل کی نسبت مولانا فرماتے ہیں۔


آز مودم عقل دور اندیش را      بعد از میں دیوانہ سازم خویش را  
 ”میں نے اپنی دور اندیش عقل کو آزمالیا اور اس کے بعد اپنے آپ کو دیوانہ بنالیا۔“

اور ایسے دیوانے کی نسبت فرماتے ہیں  
 مرعس رادیدہ درخانہ نہ شد      اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد

”دیوانہ ہے جو دیوانہ ہے۔ جاسوس کو اندر وہ خانہ دیکھنے کا کیا حق ہے“  
بس ایسی عقل سے خدا بچائے جو حق سے بعید کر دے۔ اصل یہ ہے کہ وہاں تو انقیا دو  
اطاعت کا کام ہے۔ نری عقل جو مطیع و منقاد نہ ہو محض بیکار ہے مولانا اسی کو فرماتے ہیں۔

فہم و خاطر تیز کر دن نیست راہ                  جز شکستہ می نگیر وفضل شاہ  
ہر کجا پستی است آب آبخار و د                  ہر کجا دروے دوا آبخار و د  
”عقل کو تیز کرنا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ شکستہ ہی پفضل فرماتے ہیں جہاں پستی ہو گی پانی وہاں جائے گا۔  
جہاں درد ہو گا دوا وہیں کامیاب ہو گی۔ یعنی راستہ یہی ہے کہ شریعت کے سامنے بالکل شکستہ اور پست ہو جاؤ۔  
حاصل تمام تقریر کا یہ ہوا کہ صدق کے ساتھ متصف ہو جاؤ جس کو بعنوان دیگر یوں سمجھتے کہ  
ظاہر و باطن دونوں کو جمع کرلو۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کی نسبت ارشاد فرمایا ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا طَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ  
یہ حاصل ہے دستور العمل کا۔ ہم کو چاہئے کہ اس دستور العمل پر عمل کریں  
اور اولئک الذین صدقوا میں داخل ہو جاویں۔  
اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماؤیں۔ آمین۔



## حقيقت الصبر

صبر کی حقیقت کے متعلق یہ وعظ ۲۲ محرم ۱۳۴۲ھ بروز جمع  
شیخ رشید احمد صاحب متصل عدالت والی مسجد تھانہ بھون کے مکان  
پر تخت پر بیٹھ کر ان کی اہمیت کی تعزیت کے طور پر بیان فرمایا۔ اڑھائی  
گھنٹے میں ختم ہوا۔ مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی نے قلمبند فرمایا۔ مجمع  
۳۰ آدمیوں کا تھا۔ عورتیں اس کے علاوہ پرده میں تھیں۔

## خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَوْمُنُ بِهِ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ  
وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا  
مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، لَا  
شَرِيكَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ، وَرَسُولَهُ، وَصَلَّى  
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.  
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ  
رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُفْتَدُونَ (البقرہ آیت نمبر ۱۵، ۱۶، ۱۷)

(ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صابرین کو بشارت سنادیجئے کہ ان پر جب کوئی  
مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیئتہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ ہی  
کے پاس جانے والے ہیں ان لوگوں پر خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں بھی ہیں اور عام  
رحمتیں بھی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو حقیقت حال تک رسائی ہو گئی)

تمہید: شاید اس آیت کوں کر کسی کو یہ شبہ ہوا ہوگا کہ اس وقت کسی خاص مصیبت کے متعلق صبر کی  
تعلیم کی جائے گی۔ اور وجہ اس شبہ کی یہ ہے کہ ”انا اللہ“ اکثر ایسے ہی موضع میں پڑھا جاتا ہے جہاں کوئی  
موت کا واقعہ ہو گیا ہو۔ مگر میرا مقصود اس وقت یہ نہیں ہے گو اگر یہ مقصود ہوتا بھی غلط نہیں کیونکہ بعض  
واقعات اس گھر میں ایسے بھی ہوئے ہیں۔ مگر مجھ کو صرف مضمون تعزیت کا بیان مقصود نہیں کیونکہ اس کا

بیان بارہا ہو چکا ہے مصیبت کے وقت صبر کی ضرورت کو سامعین بارہا سن چکے ہیں پھر ماشاء اللہ گھروالے خود سمجھدار ہیں۔ ان کو اس بات کے سمجھانے کی چند اس ضرورت بھی نہیں۔ میں اس وقت ایسا مضمون بیان کرتا چاہتا ہوں جو شاید ابھی تک کافیوں میں شہزاد ہو گا۔ اور آج کل اس کی بہت ضرورت ہے۔

اس مضمون کا تعلق صرف مصیبت موت اقرباء سے مخصوص نہیں۔ بلکہ ہر قسم کی مصیبت سے اس کو تعلق ہے۔ مصائب بعض خاص ہوتی ہیں جن کا اثر ایک شخص یا چند اشخاص تک محدود ہو۔ بعض عام ہوتی ہیں جن کا تعلق عام طور پر سب مسلمانوں سے ہو۔ یہ مضمون دونوں قسموں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور چونکہ اس وقت مسلمانوں پر عام مصائب کا بھی ورود ہے۔ اس لئے اس مضمون کی بہت ضرورت ہے اور میری عادت یہی ہے کہ اکثر ضرورت کے موافق بیان کیا کرتا ہوں۔ اور ایسے ہی مضمون کو بیان کے لئے اختیار کیا جاتا ہے جن کی طرف توجہ کم ہے چنانچہ اس وقت ایسا ہی مضمون مجھ کو بیان کرتا ہے۔ میں اول اجمالاً تعین مقصود کئے دیتا ہوں تاکہ پھر تفصیل کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ نیز سامعین کو تمہید سے اس مضمون کا استیاق بھی پیدا ہو گیا ہو گا۔ تو دیری تک ان کو منتظر رکھنا بھی مناسب نہیں۔

## ظاہر و باطن پر حالات کا اثر

یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ انسان کی حالت یکساں نہیں رہا کرتی۔ بلکہ اس پر مختلف حالات کا ورود ہوتا رہتا ہے۔ کبھی گوارا واقعات پیش آتے ہیں کبھی ناگوار، گوارا واقعات کا اثر تو یہ ہے کہ اس سے دل میں نشاط و انبساط ہوتا ہے فرحت و سرور کا غلبہ ہوتا ہے یہ تو باطنی اثر ہے اور ظاہری اثر یہ ہے کہ اس حالت میں انسان جو کام کرنا چاہتا ہے خوشی خوشی کر لیتا ہے۔ ہر کام میں دل لگتا ہے بلکہ کام کرنے کی امنگ پیدا ہوتی ہے اور جو شخص جس کام کا پابند ہے اس کو پابندی کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ نشاط اور انبساط کی حالت میں دنیا اور دین دونوں کے کام بخوبی چلتے رہتے ہیں۔ گوکوئی شخص سستی و کاہلی یا غفلت والا پروائی کی وجہ سے کچھ نہ کرے مگر اس حالت کا اثر یہی ہے کہ اگر کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے صرف ارادہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد کوئی مانع نہیں ہوتا۔

ناگوار واقعات کی خاصیت یہ ہے کہ ان سے دل میں انقباض اور لستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ رنج و غم کا غلبہ ہوتا ہے۔ طبیعت پڑ مردہ مر جھائی سی رہتی ہے یہ تو باطنی اثر ہے اور ظاہری اثر یہ ہوتا ہے کہ پریشانی بڑھ کر افعال میں اختلال ہو جاتا ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ ہر وقت قلب پر اک فکر سوار ہے جو ہر کام میں ساتھ رہتی ہے جس کی وجہ سے اول تو کچھ کام ہی نہیں ہوتا اور جو ہوتا

ہے تو انتظام کی پابندی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ غرض دین و دنیادنوں کاموں میں گڑ بڑ ہو جاتی ہے۔ رنج و غم فکر و پریشانی حدود ارادہ عمل سے بھی مانع ہوتا ہے اور بقاء ارادہ کو بھی مانع ہوتا ہے۔

اس وقت مجھے اختلال امور دنیا سے تو چند اس بحث نہیں کیونکہ اول تو اس کا ضرر مقابلہ دین کے اشد نہیں۔ دوسرا امور دنیا کے اختلال کا ضرر امر محسوس ہے اس کی طرف چند روز میں خود بخود توجہ ہو جاتی ہے مثلاً کسی کے گھر میں دکان ہے روزانہ دو چار روپے آتے تھے۔ اب پریشانی میں دکان کے بند ہونے سے وہ آمدی بند ہو گئی تو دو چار دن کے بعد اس ضرر کا احساس خود بخود ہو جاتا ہے اعلیٰ ہذا۔ جو شخص دنیا کمانے کا جو طریقہ بھی اختیار کئے ہوئے ہے اس کے بند ہونے کا ضرر اسے جلد ہی محسوس ہو جاتا ہے اس لئے مجھے اس کے بیان کی ضرورت نہیں۔

### دین پر مصیبت کا اثر

میں اس وقت اعمال دین کے اختلال پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ مصیبت کا اثر دین پر یہ پڑتا ہے کہ معمولات میں اختلال ہو جاتا ہے انسان مصیبت سے پہلے جن اوارد کا پابند ہوتا ہے مثلاً ذکر و شغل یا نماز و تلاوت قرآن وغیرہ کا۔ مصیبت کے وقت ان سب میں گڑ بڑ ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض تو فرائض و واجبات کو بھی ناغہ کر دیتے ہیں اور جو دیندار کھلاتے ہیں وہ فرائض و واجبات کو تو ترک نہیں کرتے۔ مگر معمولات زائدہ کو وہ بھی ناغہ کر دیتے ہیں اور ناگوار واقعات کا اثر بہت سخت ہے کیونکہ یہ دین کا ضرر ہے اور مسلمان کے نزدیک دین دنیا سے مقدم ہے اس لئے اس کا ضرر بھی دنیا سے اشد ہے اور اس پر متنبہ کرنے کی ضرورت اس لئے ہے کہ دین کا ضرر امر محسوس نہیں فرض نماز یا تجدید یاذ کر، تلاوت قرآن کے ناغہ کرنے سے کوئی ظاہری آمدی بند نہیں ہوتی۔ تو اس کے ضرر کا احساس بھی جلدی نہیں ہوتا۔ نیز اس ضرر پر کوئی عزیزی یا خیر خواہ بھی متنبہ نہیں کرتا۔

حتیٰ کہ مشائخ و معلمین کی بھی یہ عادت ہے کہ جب ان کے کسی مرید وغیرہ پر مصیبت آتی ہے تو اس کو عرف جزع و فزع نہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اور عام طور پر صبر و شکر کی تعلیم اس معنی میں کی جاتی ہے کہ (جزع و فزع نہ کرو) اس پر نظر نہیں ہوتی کہ اس ناگوار واقعہ سے ان امور میں خلل پڑ گیا ہے جن کا یہ پہلے سے پابند تھا۔ ان طاعات و عبادات میں بھی گڑ بڑی ہو گئی ہے جو پہلے سے مامور ہے ہیں نہ اس ضرر پر اس کو متنبہ کیا جاتا ہے۔ منشاً غلطی کا یہ ہے کہ طاعات معمول بہا کی پابندی کو عموماً حقیقت صبر سے خارج سمجھا جاتا ہے اور

اس کے خلل کو نقصان صبر پر مجموع نہیں کیا جاتا۔ بس جو شخص مصیبت کے وقت جزع و فزع نہ کرے اس کو بڑا صابر اور مستقل مزاج سمجھتے ہیں گواں کے معمولات میں کیسا ہی خلل ہو گیا ہو۔ یہ ایک عام سی غلطی ہے جس پر عوام تو کیا خواص کی بھی نظر نہیں۔ اس لئے میں اس وقت اس پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کی نظر ناگوار واقعات کے صرف پہلے اثر پر ہے جو قلب پر واقع ہوتا ہے۔ دوسرے اثر پر جو اعمال پر واقع ہوتا ہے بالکل نظر نہیں کی جاتی۔۔۔ دوسروں کی تو کیا شکایت خود صاحب واقعہ کو بھی اس پر نظر نہیں ہوتی۔ اگر کسی وقت کسی کی نظر ہوئی بھی تو صرف اس قدر کہ پریشانی میں فراخض و واجبات میں اگر خلل آنے لگا تو دینداروں کو اس وقت کچھ تنبہ ہو جاتا ہے مگر سنن و مستحبات کے اختلال پر ان کو بھی بہت کم تنبہ ہوتا ہے جو اس کی یہ ہے کہ سنن زوائد و مستحبات کے متعلق یہ اعتقاد جما ہوا ہے کہ ان کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ نہیں۔ اس لئے ان کے ناغہ ہونے کو ہل بات سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نصوص میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنن زائدہ اور مستحبات کا یہ حکم قبل شروع کے ہے اور شروع کے بعد ان کا حکم بدل جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حکم تو عین وقت اشتغال کے ساتھ مختص ہے۔ وہ یہ کہ شروع کرنے کے بعد مستحب کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک حکم عام ہے جو وقت اشتغال کے ساتھ مختص نہیں۔ وہ یہ کہ جس مستحب کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک حکم عام ہے جو وقت اشتغال کے ساتھ مختص نہیں۔ وہ یہ کہ جس مستحب کو معمول بنالیا جائے اور کچھ عرصہ تک اس پر مواظبت کر لی جائے۔ اب اس کا ناغہ کرنا اور مواظبت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ اور اس کی دلیل ایک حدیث بخاری کی ہے جو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا۔

یا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه (الصحيح لمسلم كتاب الصيام: ۱۸۵، مشكوة المصابح: ۱۲۲۳) یعنی اے عبد اللہ! تم فلان شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو (نماز کیلئے) اٹھا کر تھا پھر چھوڑ دیا۔

اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی اس حالت پر ناگواری اور کراہت ظاہر فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک مستحب کو معمول بنا کر ترک کر دینا نامومن و مکروہ ہے۔

(فَلَتْ بُوبَ عَلَيْهِ الْبَخَارِيُّ مَا يَكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قَيَامِ اللَّيْلِ  
مِنْ كَانَ يَقُومُهُ قَالَ الْحَافِظُ أَىٰ إِذَا شَعَرَ ذَلِكَ  
بِالْأَعْرَاضِ عَنِ الْعِبَادَةِ قَالَ وَفِيهِ إِسْتِحْبَابُ الدَّوَامِ عَلَىِ  
مَا اعْتَدَهُ الْمُؤْمِنُ الْخَيْرُ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ  
كُراَهَةُ قَطْعِ الْعِبَادَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً (ص ۳۰۷ فتح الباری ۱۲ جامع)

میں کہتا ہوں اس پر بخاری نے یوں باب باندھا ہے ”جو شخص رات کو انٹھا کرتا تھا اسلئے ترک قیام مکروہ ہے حافظ نے فرمایا جبکہ خیال یہ گذرے کہ وہ عبادت سے اعراض کر رہا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اس سے نیکی کی عادت پر مداوت کا مستحب ہونا لکھتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مداومت اگرچہ واجب نہ ہوتی بھی اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔

## پابندی کے اثرات

اسی لئے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل وغیرہ کا اتنا ہی پابند ہو جس کو نباہ سکے ورنہ شروع ہی نہ کرے۔ اس سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے اور انسان کی عادت یہ ہے کہ جب ایک کام کا پابند ہو پھر اس میں فتور ہونے لگے تو اس کا خلل متعدد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس عمل پر تو پھر عمر بھر بھی پابندی نصیب نہیں ہوتی اور اس سے گزر کر دوسرے اعمال میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ آج تو تجدید میں فتور ہے کچھ دنوں میں صبح کی نماز کی پابندی بھی نہ رہے گی۔ پھر وقت کی پابندی بھی نہ رہے گی۔ نماز قضا ہونے لگے گی اور یہ سارا فساد ایک مستحب کی پابندی چھوڑنے سے ہوا۔

اس کے علاوہ ترک پابندی میں ایک اور خرابی اس سے بھی سخت ہے وہ یہ کہ شریف طبائع کا خاصہ ہے اور مسلمان سب شریف ہی ہیں کہ جب وہ کسی سے ایک خاص قسم کا برتاب و شروع کرتے ہیں تو جب تک اس برتاب و کانباہ ہوتا رہے اس وقت تک تو ان کے دل میں تعلق بھی بڑھتا رہتا ہے اور جب وہ برتاب و چھوٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس صاحب برتاب و ہی کے دل میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے پھر جب دوسرے کو بھی اس کی رکاوٹ کا احساس ہو جاتا ہے وہ بھی رکنے لگتا ہے۔

مثلاً ایک دوست کے ساتھ آپ کا ہمیشہ سے یہ برتاب و ہو کہ جب آپ اس سے ملنے جائیں کچھ ہدیہ اور تحفہ ساتھ لے جائیں۔ پھر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ خالی ہاتھ چلے گئے تو ہر شخص اپنے دل میں غور کرے کہ اس وقت اس کی کیا حالت ہو گی۔ یقیناً خالی ہاتھ جاتے ہوئے دل رکے گا۔ اور ایک قسم کی شرمندگی اس پر طاری ہو گی گو دوسرے کو اس کے خالی ہاتھ آنے کی طرف التفات بھی نہ ہوا، ہو مگر اس کے دل میں خود خود یہ وسو سے دوڑیں گئے کہ آج میرے خالی ہاتھ آنے سے دوست کو ضرور کچھ خیال ہو گا وہ اپنے دل میں کہتا ہو گا کہ بس اب وہ تعلق نہیں رہا۔ وہ محبت نہیں رہی چاہے اس کے دل میں کچھ بھی نہ آیا ہو۔ مگر یہ اپنے معمول کے خلاف کرنے سے ان اوہام میں ضرور بیٹلا ہوتا ہے اور یہ طبعی بات ہے۔

بس رکاوٹ کا نجح تو آج ہی سے بویا گیا۔ اس کے بعد یہ ہو گا کہ ایک دفعہ تو خالی ہاتھ بھی چلا

گیا تھا۔ اب مہینے گزر جاتے ہیں کہ جانے کا نام بھی نہیں لیتا۔ دو رہی سے خط کے ذریعے سے بات چیت کر لیتا ہے پھر کچھ عرصہ کے بعد خط و کتابت کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے اور دوسرے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے رکنے لگا۔ اب وہ بھی اس سے رکنے لگتا ہے اور محبت مبدلی عدم محبت ہو جاتی ہے پھر عدم محبت کے بعد کبھی عدالت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

اسی طرح جب کوئی شخص تجدید یا ذکر و شغل شروع کرتا ہے تو جب تک وہ ان کا پابند رہے اس وقت تک اس کے دل میں حق تعالیٰ سے تعلق اور محبت کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور جب پابندی چھوٹی تو پہلے اسی کی طبیعت میں افسر دگی اور پڑ مردگی پیدا ہو جاتی ہے۔

حق تعالیٰ سے اس کو ایک قسم کی ندامت سی آتی ہے اور یہ بخشنے لگتا ہے کہ اب حق تعالیٰ کے یہاں میرا وہ رتبہ نہیں رہا ہو گا جو پابندی اعمال کے وقت تھا یہاں تک کہ بعض دفعہ یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں مردود و مطرود ہو گیا تو پہلے خود اس کے دل میں حق تعالیٰ سے حباب اور رکاوٹ پیدا ہوتی ہے پھر اسی میں بھی بعد حباب ہو جاتا ہے۔

## ترک معمول کے نتائج

پس ترک معمول سے اول اس کے دل میں افسر دگی کا پیدا ہونا یہ پہلا حباب ہے اور محبت کا خاصہ ہے کہ اس کو نشاط و انبساط سے ترقی ہوتی ہے اور افسر دگی سے اس میں کمی آتی ہے۔ جب ایک دفعہ دل میں افسر دگی اور پڑ مردگی پیدا ہو جاتی ہے تو تعلق سابق میں ضرور کمی آتی ہے۔ پھر یہ خیال پیدا ہونا کہ میں مردود و مطرود ہو گیا۔ دوسرا حباب ہے اس وقت اس کے دل میں سے محبت نکل جاتی ہے اور قلب خالی ہو جاتا ہے پہلے درجہ میں تو حق تعالیٰ کی طرف سے حباب نہ ہوا تھا۔ مگر اب ادھر نے بھی حباب ہو گیا۔

پھر جب مردودیت کا خیال تم کراس کے قلب سے محبت حق نکل جاتی ہے تو واجبات و فرائض میں بھی کوتا ہی کرنے لگتا ہے اور معاصی پر اقدام کرنے لگتا ہے اور دل میں سمجھتا ہے کہ میں مردود تو ہو گیا۔ پھر لذات نفس میں کیوں کمی کروں۔ یہ تیسرا حباب ہے۔ اس وقت محبت مبدل بعدادت ہو جاتی ہے۔

اس کے بعد بعض اوقات کفر کی سرحد سے قریب ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ایمان تک سلب ہو جاتا ہے۔

میرٹھ میں ایک کوتوال تھے وہ بہت ظلم کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں جہنم میں تو جاؤں ہی گا۔ پھر رشتہ اور ظلم میں کمی کیوں کروں۔ یہ حالت سخت حباب کی دلیل ہے۔ مگر نہ معلوم کس بزرگ کی توجہ کا اثر ہوا یا کون سائل ان کا قبول ہو گیا کہ ان کا خاتمه اور انجام اچھا ہوا۔

ورنه یقین از دل بے رحم تو تقصیر نبود (دل بے رحم نے کوئی تقصیر ایسی نہ تھی جسے نہ چھوڑا ہو) انہوں نے تو اپنی طرف سے خاتمه برآ ہونے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ حق تعالیٰ ہی نے دشگیری فرمائی اور اس تمام حالت کا منشا اور سرچشمہ وہی افرادگی ہے جو اول اول معمولات سابقہ میں کوتا ہی کرنے سے قلب میں پیدا ہوتی ہے۔

حضرت سلطان نظام الدین اولیاء نے ”فائد الفواد“ میں حجابت کی سات فتمیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ غفلت و اعراض بھی ہے جس کا اثر افرادگی ہے اور بقیہ چھ درجے ہیں۔ حجاب۔ تقاضل۔ سلب مزید۔ سلب قدیم۔ تسلی اور عداوت۔

یعنی اول اعراض ہوتا ہے اگر معدترت و توبہ نہ کی جواب ہو گیا۔ اگر پھر بھی اصرار رہا تقاضل ہو گیا۔ اگراب بھی استغفار نہ کی تو عبادت میں جو ایک زائد کیفیت ذوق و شوق کی تھی وہ سلب ہو گئی۔ یہ سلب مزید ہے اگراب بھی اپنی بے ہودگی نہ چھوڑی تو جوراحت و حلاوت کہ زیادتی کے قبل اصل عبادت میں تھی وہ بھی سلب ہو گئی۔ اس کو سلب قدیم کہتے ہیں۔ اگر اس پر بھی توبہ میں تقصیر کی توجہ دی کو دل سے گوارا کرنے لگا۔ یہ تسلی ہے۔ اگراب بھی وہی غفلت رہی تو محبت مبدل بے عداوت ہو گئی نعوذ باللہ منہما۔ اس لئے مستحبات معمولہ کو ترک کرنا اہل بات نہیں۔ اس کا اثر بہت دور تک پہنچ جاتا ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ آدمی جس قدر مستحبات و نوافل زیادہ کرتا ہے وہ اسی قدر مقرب ہوتا ہے پھر تقرب کے بعد حق تعالیٰ سے بالتفاقی کرنا سخت بات ہے حق تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمارے مذاق کے موافق معاملہ فرماتے ہیں۔

### غائب کا ظاہر پراشر

عالم ظاہر عالم غیب کا نمونہ ہے۔ پس جیسا ہمارا مذاق یہ ہے کہ جس کو اپنے سے تعلق زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کی بے التفاقی زیادہ ناگوار نہیں ہوتی اور تعلق بڑھا کر جو التفاقی و بے اعتمانی کرتا ہے اس پر زیادہ غصہ آتا ہے ایسے ہی حق تعالیٰ کے ساتھ جن کو معمولی تعلق ہے ان کی غفلت و بے اعتمانی پر زیادہ قہر نہیں ہوتا اور جو تعلق بڑھا کر مقرب بن کر غفلت و بے التفاقی کا برداشت کرتے ہیں ان پر زیادہ قہر ہوتا ہے۔

پس جو لوگ مستحبات و نوافل پر مواطنہ کر کے پھر ترک موانطب اختیار کرتے ہیں وہ درباری بن کر دربار سے غیر حاضر ہوتے ہیں اور بادشاہ کا درباری اگر دربار سے باوجودہ، بلا اعذر کے غیر حاضر ہونے لگے تو اس پر بہ نسبت غیر درباری کے زیادہ عتاب ہو گا۔ اور اگر ترک موانطب علی الحسبات سے گزر کرو وہ فرائض و واجبات میں بھی کوتا ہی کرنے لگے۔ معاصی پر بھی اقدام کرنے لگے تو اس کی

ایسی مثال ہے جیسے کوئی مقرب شاہی بن کرنا فرمائی اور گستاخی کرنے لگے اور ظاہر ہے کہ مقرب کی گستاخی پر جس قدر عتاب ہو گا ایک غیر مقرب مثلاً دیہاتی یا گنوار کی گستاخی پر اتنا عتاب نہ ہو گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ناگوار واقعات کا یہ اثر بہت سخت ہے کہ ان سے بعض اوقات اعمال میں تقلیل ہونے لگتی ہے۔ لوگ مصائب کا حق صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پر جزع و فزع نہ کیا جائے اور اسی کو مکمال صبر سمجھتے ہیں۔ اس پر کسی کی نظر نہیں کہ ناگوار واقعات کا یہ بھی ایک حق ہے کہ اس وقت اعمال سابقہ میں کمی نہ کی جائے اس کو تو صبر میں داخل ہی نہیں سمجھتے حالانکہ معمولات ترک کرنے کا ضرر بہت جزع و فزع کے ضرر کے بہت زیادہ ہے کیونکہ جزع و فزع کا اثر محدود غیر ممتد ہے اور اس میں انسان کی کسی قدر معذور بھی شمار ہو سکتا ہے اور تقلیل اعمال کا ضرر ممتد ہے جو بہت دور تک پہنچتا ہے اور اسی لئے مصیبت کے وقت معمولات پر جمار ہنا صبر جزو اعظم ہے۔

### مصالح اور حواس

اسی مضمون پر تنبہ کرنے کے لئے میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے جس میں حق تعالیٰ نے ہم کو مصیبت کے ہلکا کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے جس پر عمل کرنے سے یہ اثر تقلیل فی الاعمال ظاہر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ناگوار واقعات سے اعمال میں تقلیل کا سبب فرط غم اور غلبہ حزن ہے بس اگر کسی تدبیر سے غم اور رنج کو ہلکا کر دیا جائے تو اس کا یہ اثر بھی ظاہر ہو گا۔

قاعدہ ہے کہ ازالہ سبب سے مسبب کا ازالہ ہو جاتا ہے اس آیت سے اوپر بعض مصالح کا ذکر ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

**وَلَيَلُوْنُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثُّمَرَاتِ**

”اور بالبته ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کسی قدر خوف سے یعنی تم کو دشمنوں کی طرف سے اندیشہ اور خوف بھی پہنچ گا اور جو عن سے یعنی کسی وقت تم پر فاقہ بھی آئے گا اور اموال و نفوس اور ثمرات کے نقصان سے یعنی کسی وقت تمہارا مال بھی ضائع ہو گا۔ جانیں بھی ضائع ہوں گی اور ثمرات بھی ضائع ہوں گے۔

ثمرات کی ایک تفسیر تو پیداوار ہے۔ مطلب یہ کہ کسی وقت تمہاری کھیتوں اور باغات کی پیداوار پر آفت آئے گی اور گوا اموال میں یہ بھی آگئے تھے۔ مگر چونکہ زمینداروں کے نزدیک یہ اعزاز اموال ہیں۔ اور مدینہ والے اکثر زمیندار تھے اس لئے ثمرات کو مستقلًا بیان فرمادیا۔ اور ایک

تفسیر شمرات کی اولاد ہے کیونکہ وہ ماں باپ کے جگر کے نکڑے ہیں۔ اسی لئے اولاد کو شمرات الفواد کہا جاتا ہے اور گزوہ نفوس میں داخل ہو سکتے ہیں مگر یہاں بھی تخصیص کی وہی وجہ ہو گی جو شمرات یعنی پیداوار کو اموال کے بعد ذکر کرنے کی وجہ تھی یعنی چونکہ اولاد اعز نفوس ہیں اور ان کے مرنے کا غم زیادہ ہوتا ہے اسلئے ان کو جدا بیان کر دیا کہ کسی وقت تمہاری اولاد بھی ہلاک ہو گی۔

اس میں ایک تو یہ بتلادیا کہ تم پر یہ واقعات وارد ہوں گے۔ دوسرے یہ بھی بتلادیا کہ ان واقعات سے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ یہی ایک لفظ ایسا ہے کہ اگر اور بھی کچھ نہ ہوتا تو اسی سے مصیبت ہلکی ہو گئی۔ کیونکہ امتحان کا لفظ سنتے ہی مخاطب کو فکر ہو جاتی ہے کہ مجھے اس امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرنا چاہئے۔ ایسا نہ ہو کہ قلیل ہو جاؤ۔ اور قاعدہ ہے کہ انسان امتحان کے وقت اپنے حواس و عقل کو مجتمع رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پس یہ سن کر یہ واقعات بطور امتحان کے آئیں گے۔ ہر شخص اس کی کوشش کرے گا کہ ان موقع میں اپنے عقل و حواس کو مجتمع رکھے از خود رفتہ نہ ہو جائے کیونکہ امتحان کے وقت بد حواس ہو جانے سے آدمی قلیل ہو جاتا ہے اور مصیبت کے وقت عقل و حواس کا قائم رکھنا بھی اس کے اثر کو بہت کم کر دیتا ہے۔ پس لنبلونکم میں اس پر تنبیہ کردی گئی ہے کہ مصائب کے وقت بد حواس نہ ہوتا چاہئے۔ بلکہ ان کو امتحان سمجھ کر کامیاب ہونے کی کوشش کرنا چاہئے۔

### راحت کا خاصہ

پھر اس میں صیغہ جمع متکلم اختیار فرمایا جس سے عظمت ابتلاء پر دلالت ہے کیونکہ معلوم ہو گیا کہ یہ امتحان حق تعالیٰ خود ہیں گے اور جیسا ممتحن عظیم الشان ہوتا ہے ویسا ہی امتحان بھی عادة مہتم بالشان ہوتا ہے۔ گو واقع میں حق تعالیٰ کی طرف سے امتحان عظیم نہ ہو آسان اور سہل ہی ہو مگر مخاطب کو بتلادیا کہ وہ ابتلاء عظیم کے لئے تیار ہے اور اس میں بھی حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ پہلے سے ہم کو مطلع فرمادیا کہ تم کو ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے۔ اس صورت میں تکلیف کی کلفت تو ہو گی مگر دفعہ ایذا پہنچنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہ ہو گی۔

اسکی ایسی مثال ہے جیسے کسی کو پہلے سے کہہ دیا جائے کہ تمہارا آپریشن کیا جائے گا۔ اس صورت میں اس کو اپریشن کی تکلیف تو ہو گی مگر دفعہ کلفت پہنچنے کا صدمہ نہ ہو گا کیونکہ چنگی اطلاع سے وہ اس کیلئے تیار ہے گا۔ لوگ آیت لا تقنطوا کو آیت رحمت سمجھتے ہیں مگر کہتا ہوں کہ ہر ہر آیت سے بھی رحمت پہنچتی

ہے چنانچہ اس آیت میں کتنی بڑی رحمت کا مضمون ہے کہ ہم کو مصائب کے لئے پہلے سے تیار کر دیا۔ تاکہ وقت پر بدحواس نہ ہو جائیں۔ بلکہ یوں کہیں۔

**هَذَا مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدِقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ**

کہ یہ تو وہی بات ہے جس کا وعدہ ہم سے خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کر دیا تھا۔ اور یہ بھی خدا تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ انسان کی مرضی کے موافق سارے کام نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات ناگوار اور خلاف طبع بھی اس کو پیش آتے ہیں۔ اگر سب کام اسی کے مرضی کے موافق ہوا کرتے تو یہ توہاگ ہو جاتا۔ کیونکہ اس صورت میں یہ تو اپنے لئے راحت ہی تجویز کرتا۔ اور راحت کا خاصہ ہے بے فکری اور غفلت۔ پس دوام راحت سے یہ غفلت میں پڑ جاتا۔ اور معاصی پر دلیر ہو جاتا۔ اور یہ اس کے لئے سراسر ہلاکت ہے۔ اس کے لئے حق تعالیٰ نے سب کام اپنی مرضی پر رکھے ہیں ہماری مرضی پر نہیں رکھے پس جب کبھی ہم غفلت وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہر سے کسی ناگوار واقعہ کا ایک تازیانہ لگادیا جاتا ہے جس سے کچھ دنوں تک غفلت کا علاج ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف تعجب پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طاعون وغیرہ کے زمانے میں سالہا سال کے بے نمازی بھی نمازی ہو جاتے ہیں اور ہر شخص کو گونہ آخرت کی فکر ہو جاتی ہے گویہ واقعات ہم کو ناگوار ہوتے ہیں مگر ان میں ہمارے واسطے حکمت اور منفعت رکھی ہوئی ہے اگر حق تعالیٰ ہماری مرضی کے موافق ہی سب کام کیا کریں تو ہم کو آخرت کی طرف کبھی توجہ نہ ہو۔ پس ناگوار واقعات کا پیش آنا بھی بڑی رحمت ہے۔

جیسے استاد کی شفقت یہ ہے کہ کبھی کبھی بچہ کے ایک دوچھی مار دیا کرے ورنہ وہ تو بد شوق ہے۔ اگر کبھی اس کو ہاتھ بھی نہ لگاوے گا تو بچہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ نہ پڑھے گانہ لکھے گانہ بے جا حرکتوں سے باز آئے گا۔ بلکہ سر پر چڑھ جائے گا۔ استاد کی شان میں بھی گستاخی کرنے لگا۔ اس حالت میں آپ خود ہی یہ رائے دیتے ہیں کہ استاد کو تنبیہ و تادیب سے کام لینا چاہئے اور اس کے حق میں اسی کو شفقت سمجھتے ہیں پھر اس کو کیا وجہ ہے کہ ناگوار واقعات میں حق تعالیٰ کی رحمت کا اعتقاد نہ ہو۔

### کاملین کی آزمائش

یہاں شاید سامعین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ غالباً کونا گوار واقعات پیش آنے کی تو یہ حکمت ہے مگر کاملین کو ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں وہ تو بد شوق نہیں ہیں۔ جس سے ان کو تنبیہ کی ضرورت ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل اللہ کاملین کو بھی ایسے واقعات بکثرت پیش آتے ہیں۔

اس شبہ کا جواب اسی آیت میں لفظ **لنبونکم** سے لکھتا ہے کیونکہ اس میں اولاً حضرات صحابہؓ کو خطاب ہے جو سب کا ملین ہیں اور ان سے فرمایا گیا ہے کہ تم کو ان واقعات سے آرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ کامیں پر ایسے واقعات بطور تنبیہ اور تاویب کے نہیں آتے۔ بلکہ بطور تنبیہ امتحان کے پیش آتے ہیں حق تعالیٰ ناگوار واقعات سے ان کی محبت و عشق کا امتحان فرماتے ہیں اور حق تعالیٰ کو خود امتحان کی کوئی ضرورت نہیں ان کو ہر شخص کی حالت خوب معلوم ہے۔ بلکہ اس امتحان سے دوسروں کو دکھانا منظور ہے مثلاً ملائکہ وغیرہ کو۔ کہ دیکھے ہمارے بندے مصائب میں بھی کیونکہ ہم کو چاہتے ہیں۔ باوجود یہکہ ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مگر پھر بھی وہ ہماری محبت سے نہیں ہٹتے اور تکلیف کو یعنی راحت سمجھتے ہیں۔ پس اب اس شبہ کا جواب ہو گیا ہے کہ کامیں پر ایسے واقعات کیوں آتے ہیں۔

نیز لفظ **لنبلو نکم** میں اس طرف اشارہ ہے کہ کامیں کو مصائب سے کلفت بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ اس آیت کے مخاطب حضرات صحابہؓ ہیں۔ جو سب کے سب کامل ہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان پر یہ اقعات بطور امتحان کے آتے ہیں۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا۔ اب اس کے ساتھ ایک مقدمہ یہ ملالوکہ بدلوں احساس کلفت کے امتحان نہیں ہو سکتا اور یہ بالکل ظاہر اور بد، یہی بات ہے جس شخص کو ناگوار واقعات سے کچھ بھی کلفت نہ ہو اس کے حق میں ان کو امتحان نہیں کہا جا سکتا۔

امتحان ہمیشہ اسی چیز سے ہوا کرتا ہے جس کا دوسرا پر بار پڑے اور اس کو بار کا احساس بھی ہو۔ جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو ثابت ہو گیا۔ کہ مصائب سے کامیں کو بھی کلفت ہوتی ہے۔ اتنا فرق ہے کہ کامیں کو صرف جسمانی کلفت اور طبعی رنج ہوتا ہے اور عقلی بھی۔ کیونکہ اہل دنیا کو طول اہل کی وجہ سے بہت چیزوں کے ساتھ توقعات و ابستہ ہوتی ہیں۔

مثلاً اموال کے ساتھ توقع و ابستہ ہوتی ہے کہ اس مال سے یہ کام نکالیں گے کھیت کی پیداوار سے توقع و ابستہ ہوتی ہے کہ اس مرتبہ غلہ بیچ کر فلاں کام کریں گے پھر ان کے خلاف ظہور میں آتا ہے تو ان کو سخت کلفت ہوتی ہے اسی طرح اولاد کے ساتھ توقع و ابستہ ہوتی ہے کہ لڑکا پڑھ کر امتحان میں پاس ہو گا تو یوں نوکر ہو گا۔ یوں ہمیں کہا کر دے گا پھر وہ مر گیا تو افسوس ہوتا ہے کہ ہائے! یہ بچہ تو پاس ہونے والا تھا ب دور ہو گیا۔ طبعی رنج تو مفارقت کا ہوتا ہی ہے مگر دنیا داروں کو ان امیدوں کے باطل ہو جانے سے عقلی رنج بھی ہوتا ہے اور گوزبان سے نہ کہیں مگر دل میں یہ وسوسہ اکثر کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ واقعہ بے محل اور قبل از وقت ہوا۔ اور دیندار کو کسی چیز سے توقع و ابستہ نہیں

ہوتی۔ اس کو خدا کے سوا کسی سے کچھ امید نہیں ہوتی۔ اس کو کسی ناگوار واقعہ میں خلاف حکمت ہونے کا وہم بھی نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کو عقلی رنج ایسے موقع پر ہرگز نہیں ہوتا بلکہ یوں کہتا ہے  
ہرچہ آں خسر و کند شیریں بود (محبوب جو بھی کرے وہ شیریں ہے)

ہاں طبعی رنج ان کو بھی ہوتا ہے اور اتنا رنج تو ہونا چاہئے ورنہ پھر امتحان کیسے ہوگا۔ اور  
مصائب میں طبعی رنج موجب نقص نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کامل ہوگا۔ آپ اپنے صاحبزادے کی وفات پر فرماتے ہیں:

نَا بِفِرَاقِكَ يَا أَبْرَاهِيمَ لِمَحْزُونِنَّ (جامع المسانید ۲: ۵۶۷، بلفظ

”بک“ مکان ”بفراک“)

معلوم ہوا کہ صاحبزادے کی وفات سے طبعی رنج آپ گو بھی ہوا اور وہ صرف مفارقت کا رنج تھا۔  
انسان کو ایک جانور کے چند روز پالنے سے اس کی ساتھ انس ہو جاتا ہے اور اس کی مفارقت کا صدمہ ہوتا  
ہے پھر بھلا اولاد کی مفارقت کا صدمہ تو کیونکرنا ہو۔ یہ تو طبعی بات ہے جو طبیعت انسانیہ کا خاصہ ہے چس  
جو کامل بشر ہوگا اسے صدمہ کی بات سے طبعی صدمہ ضرور ہوگا۔ ہاں کامل کو عقلی صدمہ نہ ہوگا۔

## ناقص و کامل کی صورت

شاید کسی کو بعض بزرگوں کے ایسے واقعات سے کہ ان کو اولاد کے مرنے پر رنج نہیں ہوا بلکہ وہ  
ہنستے تھے یہ شبہ ہو کہ یہ حالت زیادہ کمال کی ہے اور ظاہر میں یہ لوگ ان لوگوں سے کامل معلوم ہوتے  
ہوں گے جو ایسے موقع پر رنجیدہ اور غمگین ہوئے ہیں سو یہ شبہ لغو ہے۔ نبیؐ سے زیادہ کامل کوئی نہیں  
ہو سکتا۔ جب آپ گو ایسے واقعات سے رنج ہوا تو رنج ہونا نقصان کی ولیل نہیں۔ بلکہ عاقل یہ کہے  
کہ زیادہ کامل وہی شخص ہے جس کو رنج ہوا اور پھر حدود سے متجاوز نہ ہوا کیونکہ وہ واقعہ ایسا ہی ہے  
جس سے رنج پیدا ہونا چاہئے تو جس نے رنج کا احساس کیا معلوم ہوا کہ اس کے حواس کامل اور  
درست ہونے میں کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حالت وغیرہ کی وجہ سے اس کے حواس بشریہ معطل  
ہیں۔ اسی لئے اس کو ایسی بات سے رنج نہیں ہوا جس سے طبعی طور پر رنج ہونا چاہئے تھا۔

اس فرق کو ایک مثال میں سمجھئے۔ فرض کیجئے کہ ڈاکٹر نے دو شخصوں کا آپریشن کیا۔ ایک کو تو کلور اف ارم  
سنگھایا۔ وہ تو اپریشن کے وقت بے جس و حرکت پڑا رہا۔ نہ چیخانہ چلا یا نہ ہاتھ پیر ہلائے اور دوسرا کو بدلوں  
کلور اف ارم سنگھائے اپریشن کیا۔ اس نے ایک چیخ ماری مگر ہاتھ پیر بالکل نہیں ہلائے۔ ظاہر میں نادان کو پہلا

شخص کامل معلوم ہوگا۔ مگر حقیقت شناس دوسرا کو کامل کہنے گا اور سمجھنے گا کہ پہلے کے تو حواس معطل تھے۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ نرم کی تکلیف کا احساس ہوا اس کا حرکت نہ کرنا کمال نہیں۔ کمال دوسرا شخص کا ہے کہ اس کے حواس درست تھے اس کو زخم نشر کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اور پھر ضبط سے کام لیا۔ ہاتھ پیر نہیں ہلاے صرف ایک جین مار کر دم بخود رہ گیا۔

اسی طرح سمجھنے کے ایسے اولیاء کو حق تعالیٰ نے کلورافارم سنگھا کر مصیبت کا نشتر لگایا ہے اس لئے ان کو مصیبت کے اثر کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اور وہ ہنسنے رہے۔ اور انبیاء کو کلورافارم نہیں سنگھایا کیونکہ ان میں ضبط و تحمل کی طاقت ہے وہ بدلوں بے ہوش کے بھی مستقل مزاج رہتے ہیں۔ گو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ کلفت و رنج طبعی کا اثر ہوتا ہے مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہنسنے پہاڑ کی طرح جنے رہتے ہیں۔ وہ اولیاء ناقص ہیں جن کو صدمہ کی بات سے طبعی صدمہ بھی نہ ہو۔ کامل وہ ہے جس کی حالت انبیاء کے مشابہ ہو۔ اس لئے کامیں کو رنج ہوتا۔

اب سمجھنے کہ یہاں کلورافارم کیا چیز ہے وہ غلبہ حال ہے جس سے بعض دفعہ احساس معطل ہو جاتا ہے انبیاء اور اولیاء کامیں پر ایسا غلبہ حال نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو شاذ و نادر ہوتا ہے۔ اکثر متسلطین سلوک پر غلبہ حال زیادہ ہوتا ہے۔

غرض لنبلونکم میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کامیں پر طبعی رنج و کلفت کا اثر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے تا گوار واقعات میں ان کے لئے امتحان و ابتلاء اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سے اس اشارہ کی تائید ہو گئی۔

اس تقریر سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ اس وقت مجھ کو اصل مقصد تقلیل اعمال کے ضرر پر تنبہ کرنا ہے اور یہ بتلانا منظور ہے کہ بعض دفعہ جو کسی سبب سے ہم لوگ معمولات سابقہ میں کوٹا ہی کرنے لگتے ہیں یہ حالت خطرناک اور قابل اصلاح ہے تیزین مضمون سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مضمون کچھ اس آیت کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ اس کا بیان قریب ہر آیت میں موجود ہے کیونکہ قرآن میں جا بجا استقامت علی الاعمال کی تائید ہے احادیث بھی اس سے بھری ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

استقيموا ولن تحصوا استقامت اختياركم وارجعنى نه كيما كرو

(مسند احمد ۵: ۷۷، ۲۸۲، ۲۷۷، سنن الدارمی ۱: ۱۶۸، مشکوہ المصابیح: ۲۹۲)

اور ارشاد ہے: ان احب الاعمال الى الله ماديم عليه "الله کے نزدیک محبوب اعمال وہ ہیں جن پر مداوت کی جائے۔"

(الصحيح لمسلم صلوة المسافرين: ۲۱۵، سنن النسائي ، القibleة ب: ۱۳۳)

## سعد و نحس

مگر تعین آیت کی وجہ یہ ہوئی کہ آجکل مسلمانوں پر مصائب کا چار طرف سے بحوم ہے نیز یہ مہینہ بھی محرم کا ہے جو مصیبت کا زمانہ مشہور ہے جس کا نشان حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ (ورضا درضی عن من تحبه) کی شہادت کا واقعہ ہا لکہ ہے۔ جو درحقیقت ایک صدمہ جانکا ہے مگر جہالت کے سبب ہم لوگوں نے اس میں حدود سے تجاوز کر لیا ہے۔ جس کا اثر تو یہ ہوا کہ لوگوں نے اس زمانے میں نکاح و شادی کونا گوار اور مکروہ بھی جعلیا۔

چنانچہ ہمارے ایک عزیز کی شادی ذوالحجہ کی ۳۰ تاریخ کو قرار پائی تھی جس میں محرم کی چاند رات کا ہوتا تو متفقین تھا اور یہ بھی احتمال تھا کہ شاید کسی جگہ آج ہی محرم کی پہلی ہو۔ تو لڑکی کے والی کو یہ بات بہت نا گوار ہوئی کہ تاریخ شادی ..... کے لئے بھلا یہی دن رہ گیا تھا۔ مگر انہوں نے اتنا کرم کیا کہ شادی میں گو خود شریک نہیں ہوئے لیکن اجازت نکاح دے دی اور اپنی طرف سے اپنے ما موال صاحب کو بھیج دیا۔ ہم نے کہا کہ اس خیال کو توڑتا چاہئے۔ اسی دن نکاح کیا مگر کتنی سال تک مستورات کو فکر رہا کہ دیکھنے کوئی نا گوار بات نہ پیش آجائے اگر لڑکی کا ذرا بھی کان گرم ہوا تو اس کے والی یہی کہیں گے کہ یہ اس تاریخ میں نکاح ہونے کی خوبست ہے۔ مگر محمد اللہ کوئی نا گوار بات پیش نہیں آئی اور دونوں میاں بیوی خوش و خرم ہیں۔ صاحب اولاد بھی ہیں۔ حق تعالیٰ نے کھلی آنکھوں کو دکھلا دیا کہ عوام کا ان زمانے کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے۔

نصوص میں جا بجا اس کی تصریح ہے کہ خوبست و سعد کا سبب زمانہ وغیرہ نہیں۔ نہ کوئی دن منحوس ہے نہ کوئی مہینہ۔ نہ کسی مکان میں خوبست ہے نہ کسی انسان میں۔ بلکہ اصل خوبست اعمال معصیت میں ہے۔ مگر افسوس! اس خوبست سے اجتناب کا کسی کو اہتمام نہیں بلکہ خود خود دا پنے ساتھ لپیٹتے ہیں۔

## تجدد یہ دعیم و اظہار حزن

دوسرا اثر اس واقعہ سے یہ لیا گیا ہے کہ اس مذکورہ کا اعادہ ہر سال ہوتا ہے۔ چنانچہ محرم میں جا بجا شہادت نامے پڑھے جاتے ہیں۔ مجالس عزا قائم کی جاتی ہیں۔ اور اس واقعہ کو سن کر لوگ بے اختیار روتے ہیں۔ بعضی بری طرح نوحہ کرتے ہیں۔ پھر شہداء کی یادگار میں تعزیزی اور علم نکالے جاتے ہیں۔ نصوص میں غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ حالت بھی خلاف شرع اور قبل اصلاح ہے کیونکہ ان تمام افعال کا خلاصہ تجدید دعیم و اظہار حزن ہے حالانکہ تجدید دعیم و اظہار حزن مرضی خداوندی کے بالکل خلاف ہے۔

مرضی حق یہ ہے کہ رنج طبعی کو اس کی حد سے نہ بڑھایا جائے اور اپنی طرف سے غم بڑھانے کا کوئی سامان نہ کیا جائے۔ بلکہ حق تعالیٰ نے تو رنج طبعی کے کم کرنے کے بھی سامان کئے ہیں۔ چنانچہ وہ بتیں تعلیم فرمائیں ہیں جن کے استحضار سے رنج طبعی بھی کم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

**وَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعونَ**

یعنی حضورؐ کو خطاب ہے کہ ان صابرین کو بشارت دے دیجئے جو مصیبت پہنچنے کے وقت یہ کہتے ہیں کہ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔

اس جملہ میں ایسا مضمون سکھلا یا گیا ہے جو رنج و غم کی بنیادیں اکھاڑنے والا ہے۔ تفصیل اسکی یہ ہے کہ کسی واقعہ سے صدمہ جب ہوا کرتا ہے جب وہ خلاف مرضی واقعہ ہوا ہو اور کوئی واقعہ خلاف مرضی جب ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے اپنے ذہن میں اس کے متعلق کوئی شق تجویز کر لیں کہ یوں ہونا چاہئے جب اس کے خلاف دوسری شق ظاہر ہوتی ہے تو وہ ناگور اور خلاف مرضی ہوتی ہے۔ چنانچہ کسی عزیز کی موت پر ہم کو صدمہ اسی لئے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تجویز کر رکھا تھا کہ ہم سے بھی جدا نہ ہو۔ ہمیشہ پاس ہی رہے۔

حق تعالیٰ نے انا اللہ میں تجویز کا استیصال کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم کو یہ مضمون پیش نظر رکھنا چاہئے کہ ہم خدا کی ملک ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمارے مالک ہیں اور ہم ان کے مملوک ہیں اور مملوک کی ہر چیز مالک کی ہوا کرتی ہے تو ہماری چیز بھی خدا ہی کی ملک ہے اس کے ساتھ ایک مقدمہ عقلیہ یہ ملاؤ کہ تجویز کا حق مالک کو ہوتا ہے غلام کو کسی تجویز کا حق نہیں جب تجویز کا حق مالک کو ہوتا تو ہمارا کسی عزیز کی مفارقت پر اس لئے غم کرنا کہ ہم نے اس کے متعلق یہ تجویز کر رکھا تھا کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے بڑی غلطی ہے آپ تجویز کرنے والے ہوتے کون ہیں؟

اس کی تو ایسی مثال ہوئی کہ گھر کی مالکہ نے الماری میں برخنوں کو ایک خاص ترکیب سے رکھ دیا ہو جو ماما کی ترکیب کے خلاف ہے مثلاً مالکہ نے نیچے کے برخنوں کے اوپر رکھ دیا اور اوپر والوں کو نیچے رکھ دیا۔ اب ماما اس ترکیب کو دیکھ کر تالہ و شیوں کرنے لگے کہ ہائے میری تجویز کے خلاف کیوں ہوا۔ تو بتلا یہ کہ آپ اس کو احمد کہیں گے یا نہیں۔ یقیناً ہر شخص اسے پاگل کہے گا۔ آخر کیوں؟ اسی وجہ سے کہ تجویز کا حق مالک کو ہے ماما کو کسی تجویز کا حق نہیں ہے۔

پھر حیرت ہے کہ آپ کی اونٹی اسی ملک تو ایسی ہو کہ اس کے سامنے دوسروں کا حق باطل ہو

جائے اور خدا تعالیٰ کی حقیقی ملک کے سامنے آپ کی تجویز بالکل باطل نہ ہو۔ یقیناً اگر خدا تعالیٰ کو بالکل حقیقی سمجھا جاتا ہے تو آپ کو اور کسی کو تجویز کا حق نہ ہونا چاہئے۔

پس سمجھ لیجئے کہ حق تعالیٰ نے عالم کے دو درجے بنائے ہیں۔ آسمان اور زمین۔ آسمان اور زمین جیسے الماری کے درجے اور پیچے ہوتے ہیں جس میں انہوں نے بعض ارواح کو اور پر کے درجے میں رکھا ہے یعنی آسمان میں اور بعض کو پیچے کے درجے میں رکھا ہے یعنی زمین میں۔ اور پھر وہ کبھی اس ترتیب کو بدل کر اپر کی روحوں کو پیچے بھیج دیتے ہیں اور پیچے کی روحوں کو اور پر رکھ دیتے ہیں اور وہ مالک ہیں۔ ان کو ہر طرح تصرف کا اختیار ہے اس میں ہم غلاموں کا اس لئے نالہ و شیوں کرنا کہ ہائے ہماری تجویز کے خلاف کیوں کیا گیا حماقت ہے۔

## عالم برزخ

خوب سمجھ لو کہ انقال کی حقیقت بالکل ایسی ہی ہے جیسے الماری کے ایک تختہ کے برتوں کو پیچے سے اوپر کر دیا جائے اور اوپر سے پیچے کر دیا جائے اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آدمی مر کر بالکل معدوم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ دنیا سے جو کہ پیچے کا تختہ ہے آخرت میں پہنچ جاتا ہے جو اوپر کا تختہ ہے۔

اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مردہ کو مٹی میں گاڑ دیا جاتا ہے اور اس سے شاید کسی کو اس پر یہ شبہ ہو کہ آخرت میں پہنچنے کو اوپر کے تختہ پر جانا کیسے کہا گیا تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو نہیں گاڑا جاتا۔ بلکہ ایک بے جان لاشہ اور جماد محض کو گاڑا جاتا ہے وہ آدمی تھوڑا ہی ہے وہ تو صورت آدمی ہے کیونکہ آدمی اصل میں روح کا نام ہے اور روح مٹی میں نہیں گاڑا جاتا۔ بلکہ اسکو اوپر بلا لیا جاتا ہے اور یہ جو روایات میں آتا ہے کہ پھر روح کو جسم میں واپس کیا جاتا ہے تو یہ واپسی عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ اس گڑھے میں نہیں ہوتی۔ قبر حقیقی عالم برزخ ہے۔ جو دنیا و آخرت کے درمیان ہے اور یہ قبر جس میں مردہ کو دفن کیا جاتا ہے۔ اسی عالم برزخ سے ایک قسم کا تعلق رکھتی ہے اس کی حقیقت نہیں۔

پس حق تعالیٰ اپنی مملوک چیزوں میں تصرف مالکانہ کرتے رہتے ہیں کبھی کسی کو پیچے بھیج دیا کبھی کسی کو اوپر بلا لیا۔ مگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب پیچے رہیں بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر حق تعالیٰ اس کے جواب میں یہ تجویز فرمائیں کہ اچھا پھر ہم بھی اوپر کی روحیں پیچے نہیں بھیجتے تو پھر کیا ہوگا۔ بس یہ ہوگا کہ سب کے سب اوت پوت رہ جائیں گے۔ کسی کے بھی اولاد نہ ہوگی۔ مگر آپ کو اس پر بھی چیز نہیں۔ اگر کسی کے اولاد نہ ہو تو وہ اولاد کے لئے ایسی گروچھا نہیں ہے جس کی حد نہیں یوں تھا

کرتا ہے کچھ ہو جائے چاہے چوہے کا بچہ ہی ہو جائے۔

بس! آپ کی تجویز کا حاصل یہ ہے کہ اوپر کی رو جیں تو نیچے آتی رہیں مگر نیچے کی رو جیں اور پر نہ جائیں۔ صاحب خدا کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہماری اس تجویز کو پورا نہیں کیا اور نہ دنیا میں رہنے کو بھی جگہ نہ ملتی۔ سوچ لو کہ جتنے آدمی آدم علیہ السلام کے وقت سے اس وقت تک مر چکے ہیں سب زندہ رہتے تو کہاں ٹھکانہ ملتا۔ اس وقت جو ہر شخص اپنے اپنے گھر میں چین سے گزر رہا ہے اس کا یہی تو سبب ہے کہ بہت سے آدمیوں کو حق تعالیٰ نے اوپر بلایا ہے ورنہ اگر دادے پر دادے سب زندہ ہوتے تو آج گھروں میں تل دھرنے کو جگہ نہ ملتی۔

پھر سمجھو کر کسی چیز کے فوت ہونے کا صدمہ جب ہوا کرتا ہے جب کہ اس کا عوض بھی نہ ملے اور اگر عوض مل جائے اور عوض بھی اصل سے زیادہ مل جائے تو غم کم ہو جاتا ہے۔

مثلاً ایک شخص سے پیسہ لے لیا جائے اور اس کی دیدی جائے تو اس کو پیسہ چھیننے کا غم نہ رہے گا۔ حق تعالیٰ نے انا لله راجعون میں اسی مضمون پر تنہیہ فرمایا کہ مصیبت کے وقت تم یہ سمجھا کرو کہ ہم سب خدا تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں جو رحیم و کریم اور مہربان ہیں جن کی شان یہ ہے۔

**وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ** ”کہ تم سے جو کچھ لیتے ہیں اس کا بدلہ بھی دیدیتے ہیں۔“

چنانچہ جن لوگوں کو دنیا سے بلا لیاں کتو آخرت میں پہنچا دیا جس میں مسلمان کیلئے دنیا سے زیادہ راحت ہے۔

## المصیبت کا ثواب

تم اپنے مردوں کے ساتھ ایسا برآگمان کیوں کرتے ہو کہ خدا نخواہ جہنم میں گئے ہوں گے جب ان کا خاتمه اسلام پر ہوا ہے تو یہی سمجھنا چاہئے کہ ہمارے مردے راحت میں گئے ہوں گے اس خیال سے صدمہ کم ہو جائے گا کیونکہ ہم اگر دنیا کی راحتیں ان سے چھوٹی ہوئی دیکھتے ہیں۔ تو آخرت کی راحتیں اس سے زیادہ پیش نظر ہوں گی۔ یہ بدلہ تو ان کو ملا اور ہم کو یہ بدلہ ملا کہ عزیز کی مفارقت سے جو طبعی رنج ہوا ہے حق تعالیٰ اس پر بہت بڑا ثواب دیں گے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان کا لڑکا مرتا ہے تو حق تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے جگر کا تکڑا چھین لیا وہ کہتے ہیں۔ ہاں خداوند! فرماتے ہیں کہ پھر میرے بندے نے کیا کہا وہ عرض کرتے ہیں خداوند! آپ کی حمد کی اور شکر کیا اور انا لله و انا اللہ راجعون۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بنادو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔

تو آپ نے دیکھا کہ ایک چیز لے کر حق تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی چیز دی آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا اس وقت آپ کو اس کی قدر معلوم ہوگی۔ وہاں نہ یہ اولاد کام دیگی جس کے لئے آپ روتے ہیں۔ نہ یہوی اور ماں کام دیگی وہاں ثواب ہی کام دے گا۔

**يَوْمَ يَقُولُ الْمُرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأَمِهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ أُمْرِيٍّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهُ**  
”جس دن آدمی اپنے بھائی، ماں باپ اور بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ ہر شخص اس دن اپنے عرق میں غرق ہوگا۔“

احادیث میں مصیبت کے ثواب کی بہت تفصیل ہے اس کو دیکھنا چاہئے پس اِنَا لِلَّهِ وَ اِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم سب خدا کے پاس جائیں گے اور وہاں ہم کو مصیبت کا اجر ملے گا اور جو مر گئے وہ بھی خدا تعالیٰ کے پاس گئے ہیں۔ جہاں ان کو دنیا سے زیادہ راحت ہے پھر صد مکی کیا بات ہے۔

اسی مضمون کو ایک بدوسی نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے سامنے..... تعزیت کے طور پر عرض کیا تھا۔ جب ان کے والد حضرت عباسؓ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا چنانچہ کہتا ہے

اصبر نکن بک صابرین فانما صبر الرعیة بعد صبر الرأس

”آپ صبر کیجئے تا کہ ہم بھی دیکھ کر صبر کریں کیونکہ چھوٹوں کا صبر بڑوں کے صبر کے تابع ہے“  
اگر بڑے بھی بے صبری کرنے لگیں تو پھر چھوٹوں کا کیا حال ہوگا۔ سبحان اللہ کیونکہ صبر کی تعلیم

دی ہے پھر کہتا ہے

خیر من العباس اجر ک بعدہ والله خير منك للعباس

یعنی آپ کے لئے وہ اجر کا ثواب حضرت عباسؓ کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے جو ان کے وصال پر صبر کرنے سے آپ کو ملے گا اور حضرت عباسؓ کے لئے اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ بہتر ہیں۔  
پس خدا تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ دی جو ان کے لئے بہتر تھی اور آپ کو وہ چیز دی ہے جو آپ کے لئے بہتر تھی۔ پھر غم کا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بدوسی سے بڑھ کر کسی نے تعزیت نہیں کی۔

غرض انا لله وانا اليه راجعون میں دو جملے ہیں پہلے جملہ میں حق تعالیٰ کی مالکیت کو ظاہر کر کے بندوں کی تجویز کا استیصال کیا گیا ہے پھر جب ہم پہلے سے کسی چیز کے متعلق کوئی تجویز ہی نہ کریں گے تو کوئی واقعہ ہمارے خلاف مرضی نہ ہوگا کیونکہ خلاف مرضی ہونے کا تینی تجویز ہی تھی۔ جب وہ نہ رہی تو اب جو کچھ بھی ہوگا خلاف مرضی نہ ہوگا۔

دوسرے جملہ میں عوض ملنے پر تنبیہ کی گئی ہے اس کے استحضار سے رہا۔ ہم اور بھی ہلکا ہو جائے گا کیونکہ میں بتاچکا ہوں کہ جس کلفت کا عوض اس سے زیادہ مل جائے اس پر رنج نہیں ہوا کرتا۔ حزن عقلی تو ان دونوں مضمونوں کو پیش نظر کر لینے سے کبھی نہیں رہ سکتا۔ البتہ مفارقت کا طبع غم اس کے بعد رہ سکتا ہے۔ سو گو طبعی غم پر موافذہ نہیں اور نہ وہ دفعہ زائل ہو سکتا ہے۔ مگر حق تعالیٰ نے اس کے کم کرنے کا بھی سامان کیا ہے۔ چنانچہ انا لِلَّهُ وَ اَنَا لِلَّهِ رَاجِعُونَ میں اس کا بھی سامان موجود ہے۔

## فرق و وصال

وہ یہ کہ ہم کو جو موت عزیز سے مفارقت کا صدمہ ہوتا ہے تو غور کر لیا جائے کہ یہ صدمہ نفس مفارقت پر نہیں بلکہ اعتقاد مفارقت و ائمہ اس کا سبب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ ہمیشہ کے واسطے ہم سے جدا ہو گیا۔ اگر یہ خیال ذہن میں نہ جتے تو نفس مفارقت سے زیادہ صدمہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ دنیا میں بھی بعض دفعہ اس سے مفارقت ہوتی ہے۔ چنانچہ بھی ہم کو سفر پیش آتا تھا۔ بھی عزیز کو سفر پیش آتا تھا جس میں مہینہ و مہینہ اور بعض سالہا سال کی مفارقت ہوتی ہے مگر یہ اس لئے گوارا تھا کہ پھر ملاقات کی امید رہتی ہے تو ان اللہ الیہ راجعون میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اس مفارقت کو دامی مفارقت نہ سمجھو کیونکہ تم بھی ایک دن وہیں جانے والے ہو جہاں یہ عزیز گیا ہے۔ اور وہاں اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ پس یہ مفارقت ویسی ہی چند روزہ مفارقت ہے جیسی دنیا میں کبھی سفر وغیرہ سے پیش آیا کرتی تھی۔ ایک دن یہ مفارقت ختم ہو کر مبدل بے وصال ہو جائے گی۔ اور قاعدہ ہے کہ جس فراق کے بعد وصال کی یقینی امید ہو وہ زیادہ گران نہیں ہوتا۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے نظام حیدر آباد ایک شخص کو اپنے یہاں کسی اعلیٰ ملازمت پر بلا لیں۔ اور اس کے بھائی کو مفارقت کا صدمہ ہو۔ نظام اس کے صدمہ کی خبر سن کر خط لکھ دیں کہ گھبراو نہیں، ہم تم کو بھی بلا لیں گے تو غور کر لیجئے کہ نظام کے اس خط سے غمگین بھائی کا صدمہ فوراً زائل ہو جائے گا یا نہیں یقیناً پہلا ساغم تو ہرگز نہ رہے گا۔ البتہ اب اس فکر میں پڑ جائے گا کہ دیکھئے وہ دن کب آتا ہے کہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں اور جب تک مفارقت رہے گی اس وقت تک دن گن گن کر گزارے گا۔ اور امید وصال میں یہ فراق کے دن خوشی سے گزار دے گا۔

پس ہم کو بھی کسی عزیز کی وفات پر یہی سمجھنا چاہئے کہ یہ مفارقت چند روزہ ہے ایک دن خدا

تعالیٰ ہم کو بھی بلا لیں گے۔ جیسا اسے بلا یا ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کل الینا راجعون۔ پھر حیرت ہے کہ نظام حیدر آباد کے تو اس کہنے سے کہ ہم تم کو بھی بلا لیں گے مفارقت کا غم جاتا رہے اور خدا تعالیٰ کے فرمانے سے ہلاکا بھی نہ ہو۔

غرض ان نصوص سے معلوم ہوا کہ صاحب شریعت کا مقصد یہ ہے کہ صدمہ کے وقت ہمارے زخم پر مر ہم لگا دیں۔ چنانچہ حزن عقلیٰ کے استیصال کا اور حزن طبعیٰ کی تخفیف کا ہر طرح مکمل سامان کر دیا ہے۔

### رنج و غم

مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ہر وقت زخمی رہے اس لئے ایسے سامان کرتے ہیں جن سے غم تازہ ہو اور صدمہ کی یاد دہانی ہو۔ جیسے بچہ چاہا کرتا ہے کہ زخم پر جو کھرند آگیا ہے اس کو نوچ کر کھلاوے تاکہ مزا آؤے مگر اس کا انجام یہ ہے کہ زخم بڑھ جاتا ہے اور بعض دفعہ ہلاکت تک پہنچتا ہے۔ اسی لئے باپ یہ چاہتا ہے کہ کھرند جمار ہے تاکہ زخم جلدی اچھا ہو جائے شاید یہاں کسی کو یہ سوال پیدا ہو کہ جب حق تعالیٰ کو ہمارے ساتھ ایسی رحمت ہے کہ وہ ہمارا عالمگیر رہنا پسند نہیں بلکہ حزن و غم کو زائل کرنا چاہتے ہیں تو پھر صدمہ بھیجتے ہی کیوں ہیں۔ پوری رحمت تو یہ ہوتی ہے کہ صدمہ اور رنج بھیجتے ہی نہ جو بعد میں اس ازالہ کی فلکر کی جائے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ رنج اور صدمہ بھیجنے میں حکمتیں ہیں۔ اس لئے بھیجتے ہیں۔ مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس حکمت کے لئے رنج و صدمہ بھیجا جاتا ہے اس حکمت کو حاصل کرو۔ رنج ہی کو لے کر نہ بیٹھ جاؤ۔ جیسے استاد بچہ کو طمانچہ یا تھجی اس لئے لگاتا ہے تاکہ سبق یاد کر لے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ وہ طمانچہ اور تھجی ہی کو سبق بنالے۔ اگر وہ سبق جلد ہی یاد کر لے گا۔ تو پھر استاد شفقت سے اس کو پیار کرے گا۔ چوت کی جگہ کو سہلائے گا۔ اور اگر سبق مقصود کو اس نے یاد نہ کیا۔ بلکہ مارہی کو سبق بنالیا تو یقیناً اب استاد کا غصہ بڑھے گا۔

اسی طرح یہاں سمجھو کر یہ ناگوار واقعات ہماری تشنیہ اور اصلاح کے لئے بھیجے جاتے ہیں جن سے مقصود یہ ہے کہ ہم چونکے ہو کر اعمال کی اصلاح کر لیں۔ یہ مقصود نہیں کہ بس رات دن ناگوار واقعات ہی کا سبق رہتے ہیں۔ اور زخم کو نوچتے رہیں اور اس میں پڑ کر اصل مقصود کو بھول جائیں۔ میں بقسم کہتا ہوں اور اس سمجھنے سے زیادہ کوئی ذریعہ تسلی کا نہیں کہ ناگوار واقعات میں حکمتیں ہوتی ہیں۔

اہل اللہ کو مصیبت کے وقت تعین کے ساتھ ہر واقعہ کی حکمت معلوم ہو جاتی ہے گوا جمالاً اعتقاد تو سب کو ہے مگر اہل اللہ کا بال تعین معلوم ہو جاتا ہے کہ اس واقعہ میں ہمارے واسطے یہ حکمت

تھی ان کو بیماری میں، چوری میں اور دشمن کی ایذا میں اور ہر ناگوار معاملہ میں کھلی حکمت نظر آتی ہے۔ واقعہ کے ساتھ ہی ان کے دل میں کوئی کھجلا تا ہے کہ یہ معاملہ اس حکمت کے لئے کیا گیا ہے بس وحی تو نہیں آتی شاوازنائی دیتی ہے باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ رات دن ان کے قلب پر افعال الہیہ کی حکمتیں منکشف ہوتی رہتی ہیں۔ پھر کیا ممکن ہے کہ ان کو ناگوار واقعات سے عقلی ناگواری ہو؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ان کو مصائب میں بھی عشق اور محبت کی ترقی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق برداشت ہے کیونکہ وہ اسکی حکمت اور منفعت کو کھلی آنکھوں دیکھتے رہتے ہیں۔

واللہ! اگر کسی وقت تمام دنیا ان کے خلاف ہو جائے جب بھی ان کی محبت حق تعالیٰ کے ساتھ کم نہ ہوگی بلکہ بڑھتی رہے گی۔ گو خاص احباب اور بعض اقرباً بھی ان کو چھوڑ دیں۔ کیونکہ ان کو اس میں بھی حکمت نظر آتی ہے ایک کھلی حکمت تو یہ ہے کہ اس وقت عارف کی نظر مخلوق سے بالکل بہت جاتی ہے اور اس کا دل دنیا سے سرد ہو کر ہمہ تن خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس کو بجز ذات حق کے کسی سے امید نہیں رہتی اور دنیا کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے وہ حقیقت وہ ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں:

گر گریزی بر امید راحِت هم از بخا پیش آید آفت  
یچ کنج بے دود بے دام نیست جز خلوت گا ہے حق آرام نیست

اگر راحت کی امید پر بھاگتے ہو تو وہاں بھی تمہیں مصیبت پیش آئے گی۔ کوئی گوشہ مصائب اور پھنڈوں سے خالی نہیں اور سوائے خلوت گا ہے حق کے کہیں آرام نہیں۔

## خلوت مع اللہ

مصطفیٰ و آرام اور احباب کی بے مردی سے سالک کو اس حقیقت کا پورا انکشاف ہو جاتا ہے اور وہ ہمہ تن خلوت مع اللہ میں مشغول ہو جاتا ہے۔ خلوت گاہ سے مراد یہ نہیں کہ چلد کشی کرے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ دل کو ذات حق کے سوا کسی سے تعلق اور رابطہ نہ رہے۔ جس کو یہ دولت حاصل ہو جائے وہ ہر دم خلوت میں ہے گو بظاہر مخلوق کے ساتھ ہو اور جس کو ربط قلب باللہ حاصل نہ ہو چاہے وہ چلد کشی بھی کرے۔ خلوت سے محروم ہے۔ ہاں یہ دولت حاصل ہوتی ہے اول خلوت اختیار کرنے ہی سے۔ اس لئے اہل اللہ مبتدی سلوک کو چند روز یا چند ماہ پوری خلوت کرتے ہیں کہ اختلاط مع اخلاق سے بالکل روک دیتے ہیں۔

جیسے طبیب مسہل کے دن مریض کو خلوت کا حکم دیتا ہے تاکہ ہمہ تن دستوں کے تصور میں مشغول رہے۔ اختلاط اور بات چیت میں مشغول ہونے سے دستوں کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کا حاصل ہونا یکسوئی پرمیقوف ہو اس کیلئے خلوت کا حکم ضروری ہے مگر لوگ اطباء پر تو اعتراض نہیں کرتے صوفیا پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے بدعت کہاں سے نکالی۔ میں کہتا ہوں کہ بدعت وہ ہے جو دین سمجھ کر اور ثواب کے اعتقاد سے اختیار کی جائے اور کسی مباح کام کو جو شرعاً منوع نہ ہو علاجًا اختیار کیا جائے تو یہ بدعت نہیں۔ پس صوفیاء پر یہ اعتراض جب صحیح ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ چلہ کشی کو دین سمجھ کر ثواب کے اعتقاد سے اختیار کرتے ہیں۔ بلکہ وہ تو محض علاجًا اس کو اختیار کرتے ہیں۔

یہ جواب تعلیٰ سبیل استرول ہے ورنہ میں کہتا ہوں کہ خلوت اور عزلت گزینی کا ثبوت شریعت میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی سے پہلے جبل حراء میں عزلت اختیار کی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ ہفتہ عشرہ کیلئے کھانے پینے کا سامان لے کر غارِ حرام میں رہا کرتے تھے یہی تو چلہ کشی ہے۔ (اور گویہ واقعہ قبل نبوت کا ہے مگر حضرات صحابہؓ نے بعد نبوت کے اس کو قل فرمایا ہے اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ اور نہ یہ تنبیہ کی کہ یہ صورت اب منوع ہے لہذا تقریر صحابہؓ سے اس کا شرعاً مسخن ہونا ثابت ہو گیا اور اگر غور کیا جائے تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تقریر ہے کیونکہ اس واقعہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے اور غالباً یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے سن کر بیان کیا ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فعل کو بلا انکار کے بیان فرمایا تو اس پر تقریر نبوی بھی پائی گئی۔ نیز یہ تو آپ کو معلوم تھا کہ میرے اس فعل کا سب کو علم ہے۔ اس پر بھی آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ یعنی تقریر ہے۔)

اور بعد میں ایسی خلوت اس لئے اختیار نہیں فرمائی کہ پھر ضرورت نہیں رہی۔ مگر بعد میں خلوت طویلہ کی ضرورت نہ رہی تھی۔ مطلق خلوت کی کاملین کو بھی ضرورت رہتی ہے۔ حق تعالیٰ نے نبوت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص وقت خلوت مع الحق کیلئے مقرر کر رکھ کر حکم فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصُبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

کہ جب آپ (تبليغ احکام وغیرہ سے) فارغ ہو جایا کریں تو (عبادات میں) مخت کیا کریں اور (اس وقت) صرف اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو اکریں۔

یعنی گو آپ ہر وقت عبادت میں ہیں رہتے ہیں اور تبلیغ وغیرہ بھی آپ کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہی رہتی ہے مگر وہ توجہ بواسطہ ہے جس میں کسی قدر مخلوق کی طرف بھی التفات ہوتا ہے۔ (گو وہ درجہ مرآۃ میں ہی ہو۔ مگر توجہ دوسری طرف ہے تو) اس کام سے فارغ ہو کر ایک وقت

عبادت کا ایسا مقرر کیجئے جس میں بجز ذات حق کے کسی طرف مطلق التفات نہ ہو ای رب فارغب۔ میں جاری مجرور کو غل سے مقدم کرنا مفید حصہ ہے اس لئے اس سے یہ مضمون مستفادہ ہوا کہ اس وقت خدا ہی کی طرف راغب ہیں۔ اور کسی طرف التفات نہ ہو۔

ایک مقام پر حق تعالیٰ نے حضور کے لئے وقت خلوت کی تعین بھی فرمادی ہے کہ وہ کون سا وقت ہونا چاہئے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔

بِأَيْهَا الْمُزَمِّلُ قُمِ الْأَلَّ قَلِيلًا نَصْفَةً أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ  
تَرْتَيْلًا إِنَّا سَنُلْقِنُ عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا إِنَّ نَاثِنَةَ الْأَلَّ هِيَ أَشَدُ وَطًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ  
لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا وَإِذْ كُرِّاسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلَّ إِلَيْهِ تَبَّيْلًا

حضور کے لئے ان آیت میں حق تعالیٰ نے رات کا آخرت حصہ خلوت کے لئے مقرر فرمایا ہے خواہ نصف اخیر ہو۔ خواہ ملٹ اخیر یا اس سے بھی کم و بیش اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ آپ کو دن میں بہت کام رہتا ہے اس میں خلوت کاملہ کا موقع..... نہیں مل سکتا۔ اس لئے رات کو اٹھ کر تلاوت قرآن مع الترتیل اور ذکر اللہ میں مشغول ہوا کیجئے اور اس میں تختل کامل یعنی پوری یکسوئی کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ پھر درمیان میں اس وقت کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ رات کے اس حصہ میں عبادت کرنے سے نفس پر جاہدہ کامل ہوتا ہے اور زبان سے جوبات نکلتی ہے وہ تھیک تھیک ادا ہوتی ہے یعنی زبان و قلب دونوں متوافق ہوتے ہیں۔

(میں کہتا ہوں کہ ان آیت سے صوفیاء کی چند عادات کی اصل نکلتی ہے اور وہ عادات یہ ہیں)  
۱: طالبین کیلئے ہر ایک کے مناسب کوئی طریقہ ذکر متعین کر دینا جیسا کہ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نجد کی نماز میں تلاوت قرآن مع الترتیل اور اسکے بعد ذکر اللہ کو متعین فرمایا ہے لان الاصل فی الكلام التاسلیس لیکون ذکر فی قوله واذکر اسم ربک غير تلاوة القرآن۔  
۲: طالبین کے لئے وقت ذکر متعین کر دینا۔

۳: اور اس وقت میں فرصت و فراغ کی رعایت کرنا۔

۴: طالبین کو ذکر میں یکسوئی کی تاکید کرنا۔

در اصل تعین ذکر و تعین وقت فرصت وغیرہ ای یکسوئی حاصل کرنے کے لئے ہیں کیونکہ شیخ اگر کوئی ذکر متعین نہ کرے تو طالب کا ذہن مختلف اذکار کی طرف چلے گا کہ یہ کرو یا وہ کروں۔ ایسے ہی کسی کو دو تین وقت فرصت کے ملے ہوں تو اس کو ان میں بھی یہ تردہ ہو گا ہو گا کہ کون سا وقت زیادہ

بہتر کس کو ذکر کے لئے خاص کروں۔ شیخ کی تعمین کے بعد یہ تردوز اُنل ہو جاتے ہیں اور ذکر میں یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے جو لوگ معمولات صوفیاء پر جلدی سے بدعت کا الزام لگادیتے ہیں ان کو قرآن و حدیث میں کافی غور کرنے کے بعد زبان سے بات نکالنا چاہئے۔ اگر کام غور و خوض سے کام لیا جائے تو محققین صوفیاء کے تمام معمولات و احوال کی اصل قرآن و حدیث سے مل جائے گی۔ جس کی دلیل حضرت حکیم الامت کا رسالہ حقیقتہ الطریقہ اور رسالہ مسائل السلوک ہے اور ایک رسالہ التشریف جدید تصنیف ہوا ہے جس میں احادیث کثیرہ سے محققین طریق کے اصول و فروع کی تائید کی گئی ہے۔ باقی جہلاء صوفیاء کی رسموم کا کوئی ذمہ دار نہیں نہ ان کی تائید ہم کو مطلوب ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاص وقت میں خلوت کی ضرورت تھی تو اور تو کس شمار میں ہیں۔ آپ سے زیادہ کون کو مل ہو سکتا ہے۔ اسی لئے ..... اہل اللہ ہمیشہ ایک خاص وقت میں خلوت کا مقرر فرماتے ہیں جس میں سوائے حضرت حق کے کسی طرف توجہ نہ ہو اور یہ حال ہو وہاً رامے کہ داری دل دروبند دُگر چشم از ہم عالم فرو بند ”تیرے پاس دل آرام (محبوب) ہے تو اس سے دل لگا۔ اور دوسری ساری دنیا سے آنکھیں بند کر لے۔“

اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں

بفراغ دل زمانے، نظرے بماہ روئے  
بازال کہ چتر شاہی ہمہ وزہاؤ ہوئے  
”دل کی فراغت کے ساتھ ایک لحظے کسی محبوب کو دیکھنا اس سے بہتر ہے کہ شاہی چتر سر پر رکھ کر سارا دن آدمی ہاؤ ہو میں بتلار ہے۔  
فراغ دل کے ساتھ تھوڑی دیر متوجہ ہو جانا بھی بڑی دولت ہے۔ اس لئے سالکین منتعہین کو بھی ایک وقت خاص مقرر کرنا چاہئے خواہ وہ پندرہ منٹ ہی ہو جس میں غیر کا خیال بالکل نہ آوے۔ بلکہ اپنا خیال بھی نہ آوے کیونکہ توجہ الہ کے وقت اپنا خیال بھی غیر ہے۔ اسی کو حضرت قلندر فرماتے ہیں،  
غیرت از چشم برم روئے تو دیدن نہ دہم گوش رانیز حدیث تو شنیدن نہ دہم

---

لائقات سے ملتا ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ علاوہ نماز تہجد کے بعد نماز بُر و قت اشراق تک مراقبہ میں مشغول رہتے تھے اور یہی طریقہ حضرت مرشدی سید مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ کا تھا اور حضرت سیدی حکیم الامت علاوہ نماز تہجد کے بعد نماز بُر جنگل کی طرف تھا تعریف لے جاتے تھے جس میں کامل خلوت کے ساتھ مشغول ذکر رہتے تھے۔ ایک بار فرمایا کہ مجھے تو حق تعالیٰ اس وقت میں یعنی یہ صحرائیں بہت کچھ عطا فرمادیتے ہیں۔ ۱۲ جامع۔

”آنکھ سے غیرت کھاتا ہوں اور تمہارا چہرہ اسے دیکھنے نہ دوں گا۔ اور کان کو بھی تمہاری بات سننے نہیں دوں گا۔“

مطلوب یہ ہے کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہونے کے آنکھ اور کان سب کو معطل کر دیتا ہوں۔ جملہ اعضا سے بے خبر ہو کر آپ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں۔ اور اس کے لئے سب سے اچھا وقت تہجد کا ہے۔ اہل اللہ نے ہمیشہ تہجد کا اہتمام کیا ہے۔ یہ حضرات رات کی بہت قدر کرتے ہیں۔

### فضیلت شب قدر

آج کل عام لوگ شب قدر کا تو اہتمام کرتے ہیں اور راتوں کا نہیں کرتے۔ مگر وہ حضرات ہر رات کو شب قدر ہی سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں

اے خواجہ چہ پرسی ز شب قدر نشانی      ہر شب شب قدر راست اگر قدر بدالی

شب قدر کی نشانی کیا پوچھتے ہو۔ اگر قدر جانتے ہو تو ہر رات شب قدر ہے اور بات یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت کا اصل سبب کیا ہے۔ اس کو دیکھنا چاہیے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے طلوع نجرا تک اہل عالم پر توجہ خاص فرماتے ہیں۔ سو وہ توجہ خاص ہر رات میں ہوتی ہے اتنا فرق ہے کہ شب قدر میں تمام رات اور اول درجہ میں ہوتی ہے اور باقیہ راتوں میں نصف و نیکھ اخیر میں اور دوسرے درجہ میں ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کی قلیل توجہ بھی بڑی دولت ہے کما قال تعالیٰ:

وَرَضُوا نَمِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَصَرَحُوا فِيهَا لِكُونِ التَّكْبِيرِ لِلتَّقْلِيلِ

(اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے) گو کثیر توجہ اس سے بھی بڑی ہے لیکن قابل قدر تو دونوں ہیں۔ اس لئے اہل اللہ ہر رات کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ہاں شب قدر کی اور وہ سے زیادہ قدر کرتے ہیں۔ کہ اس میں وہ دولت قابل قدر اور زیادہ ہے مگر اس کا یہ مطلب تو نہ ہونا چاہئے کہ اور راتوں کی بے قدری کی جائے لیکن اگر کسی سے بوجہ کثرت مشاغل کے رات کو اٹھنے کا اہتمام نہ ہو سکے تو وہ دن میں یا اول شب میں کوئی وقت خلوت کا مقرر کرے۔ (خواہ بعد نماز نجرا یا بعد عصر یا بعد مغرب یا بعد عشا اور جس وقت میں جس کو فرصت ہو) یہ مضمون اس شعر کی شرح میں یہاں تک پہنچ گیا

جز بخلوت گاہ حق آرام نیست      کہ اللہ کی خلوت گاہ سے سوا کہیں آرام نہیں

### واقعہ کر بلاء سے سبق

اس سے پہلے یہ مضمون تھا کہ مصائب و آلام میں حکمتیں ہیں جنکو اہل اللہ یعنی کیسا تھے سمجھ جاتے ہیں پس

اب یا شکال رفع ہو گیا کہ جب حق تعالیٰ کواز الہ جزن و تخفیف غم کا اس قدر اہتمام ہے تو اول ہی غم کیوں دیا تھا۔ میں نے بتلا دیا تھا کہ انہوں نے بعض حکمتوں کی وجہ سے ہم کو غم دیا ہے اور مقصود حق یہ ہے کہ ہم ان حکمتوں کو سمجھ کر ان کے مقضا پر عمل کریں نہ یہ کہ اسی غم کا سبق پڑھتے رہیں اور اسی کو لے کر بیٹھ جائیں۔ جیسا کہ رسوم محرم میں اوگوں نے یہی طرز اختیار کیا ہے۔

پس محرم میں جو لوگ شہادت نامے پڑھتے ہیں یہ مقصود حق کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اس میں تجدید غم ہے اور حق تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ واقعہ غم سے سبق حاصل کر کے پھر اس کو کم کیا جائے نہ یہ کہ ہر سال تازہ کیا جائے۔ اور سبق حاصل کرنے کے لئے اس کی اجمانی یاد گو بلا قصد ہو کافی ہے جس میں نہ تفصیل واقعات پڑھنے کی ضرورت ہے نہ ماہ محرم کی تخصیص کی ضرورت ہے نہ کسی پ्रاظہار غم کی ضرورت ہے نہ سامان اظہار کی ضرورت ہے۔

اجمالی قصد سب کو معلوم ہے کہ حضرت امام مع اپنے خاندان کے میدان کر بلایا میں یزید کی جماعت کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے اور جماعت یزید آپ کو بیعت پر مجبور کرتی تھی آپ کے نزدیک یزید کو خلافت سے معزول کرنا واجب تھا۔ اسی کا سامان کرنے آپ کوفہ جاری ہے تھے کہ وہاں جماعت یزید کا مقابلہ ہو گیا اور جن لوگوں نے امداد کا وعدہ کیا تھا وہ سب اپنی بات سے پھر گئے آپ اپنی بات پر مجھے رہے۔ آخر کار آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔

اس سے یہ سبق حاصل ہوا کہ دین کے کام میں اگر ایک شخص اپنے نزدیک حق پر ہوتا سے کسی کی مخالفت کا خوف نہ کرنا چاہئے چاہے سارے مسلمان اسی کا ساتھ چھوڑ دیں اور پچھلوگ جان و آبرو کے بھی درپے ہو جائیں۔ دین کے مقابلہ میں اس کی پرواہ نہ کرنی چاہئے آخزموت ایک دن آئے ہی گی۔ پھر دین پر جنم کر آجائے تو اس سے کیا بہتر ہے۔

## حضرت حسینؑ اور اکثریت

اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق کا مدارکشہ رائے پر نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت شخص واحد ہی کی رائے حق پر ہو۔ چنانچہ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت یزید سے انکار کیا ہے اس وقت تمام صحابہ اور تابعین کی رائے ان کے خلاف تھی۔ سب نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا تھا۔ اور اکثر نے امام حسینؑ کو ارادہ خروج سے منع بھی فرمایا۔ اور خیر خواہانہ نصیحت بھی کی تھی۔ مگر حضرت امام چونکہ اپنی رائے کو اشرح صدر کے ساتھ صحیح سمجھتے ہوئے تھے اس سے نہ ہے اور اسی پر جان دیدی۔ کیا

آج کسی کامنہ ہے جو یوں کہہ سکے کہ امام کی رائے غلط تھی۔ کیونکہ کثرت رائے ان کے خلاف تھی۔ یہ کثرت رائے کی شاخ آج کل بھی نکلی ہے۔ سلف میں بجز صورت اجماع کے جس میں سب کا اتفاق ضروری ہے۔ محض کثرت کا کوئی اعتبار نہ تھا۔ چنانچہ..... مسائل فہمیہ میں بکثرت ایسے مسائل موجود ہیں جن میں ایک امام تمام عالم سے تفریخ کرتا ہے اور کوئی اس کی رائے کو کثرت رائے کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط نہیں کہتا۔ اگر کوئی اس کا رد بھی کرتا ہے تو جواب میں احادیث یا نصوص پیش کرتا ہے۔ محض کثرت رائے کی آڑ کوئی نہیں پکڑتا۔ پھر مخالفین کے جواب میں منفرد بھی احادیث و نصوص پیش کر دیتا ہے اور اس کے مقلد یہ دیکھ کر کہ ہمارے امام کے پاس بھی اپنی رائے کے ثبوت ہیں نصوص شرعیہ موجود ہیں اس کی تہارائے کو قبول کر رہے ہیں اور اس کے موافق عمل کرتے چلے آتے ہیں۔

چنانچہ حنفیہ کے نزدیک قضاۓ قاضی ظاہر اور باطننافذ ہے جو تمام ائمہ مذاہب کیخلاف ہے۔ دارالحرب میں حرbi کافر کے ساتھ معاملہ ربواجائز ہے جس میں جملہ ائمہ کا حنفیہ سے خلاف ہے اگر تفرد دلیل غلط ہے اور کثرت رائے دلیل صواب ہے تو ان مسائل میں آپ نے امام ابوحنیفہؒ کی تقلید کو کیوں نہیں ترک کر دیا۔

(اگر واقعہ امام حسینؑ میں کوئی یہ کہے کہ اس وقت بھی بہت لوگ امام کی رائے سے موافق تھے مگر خوف کی وجہ سے موافقت ظاہرنہ کرتے تھے سو اول تو یہ غلط ہے کیونکہ حضرات صحابہؓ و تابعین کی شان یہ ہے لا یخافون لومة لائم وہ اظہار حق میں کسی سے کیا ڈرتے۔ امام کی شہادت کے بعد زید کے منہ پر ایک صحابی نے ایسی کوری کوری سنائی تھی کہ زید ہونٹ چاٹا رہ گیا تھا۔ کیا ان حضرات پر یہ گمان ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خوف کی وجہ سے امام کا ساتھ نہ دیا نہیں! بلکہ ان کو درحقیقت امام کی رائے ہی سے اختلاف تھا۔

اگر مان لیا جائے کہ خوف کی وجہ سے صحابہؓ و تابعین نے ساتھ نہیں دیا تھا تو..... اس سے ان لوگوں کو پوری سند ملتی ہے جن کو آپ آج کل ڈرپوک کہتے ہیں اور یہ جمہور کے ساتھ خوف کی وجہ سے شریک نہیں ہوتے وہ آپ کے اس الزام کو تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کر کے ان صحابہؓ کے طرز عمل کو دلیل میں پیش کر دیں گے۔

جنہوں نے آپ کے نزدیک خوف کی وجہ سے ایک امر واجب میں امام حسینؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دیا۔ نیز وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم جو ہم کو متفرد سمجھتے ہو یہ غلط ہے بلکہ ہماری رائے کے ساتھ بہت علماء کو موافقت ہے جو خوف عوام اور لعن طعن جہلاء کے خوف سے اپنے موافقت ظاہر نہیں کرتے۔

جیسا کہ صحابہؓ و تابعین نے خوف کی وجہ سے امام کی موافقت ظاہرنہ کی تھی اور جو علماء تمہارے ساتھ ہیں ان میں بھی بعض افراد دل سے ہماری رائے کو صحیح جانتے ہیں مگر خوف یا طمع کی وجہ سے تمہارے ساتھ

ہو گئے ہیں اور یہ محض الزرامی جواب نہیں۔ بلکہ اگر تفتیش والنصاف سے کام لیا جائے تو اس کا صدق واضح ہو جائے گا۔ غرض آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کو متفرد نہیں یا غیر متفرد ان کا مدعا ہر طرح سیدھا ہے۔)

## لذت شہادت

ایک سبق اس واقعہ سے یہ حاصل ہوا کہ مسلمانوں کو بتلا دیا گیا ہے کہ کاملین کا بھی امتحان ہوا کرتا ہے اور ان کو بھی تکلیف پیش آیا کرتی ہے جس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ کون ولی ہو گا جو حضورؐ کے نواسے اور حد درجہ محبوب تھے جن کے بارے میں پیشین گوئی ہے:

**سیداً شباباً أهل الجنَّةِ** حسن اور حسین دونوں نوجوان جنت والوں کے سردار ہیں  
 مگر دیکھ لجھے ان کو بھی کیسا امتحان وابتلا پیش آیا اور کوئی شخص اپنے محبوب کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ مگر درحقیقت اہل اللہ کیلئے ان واقعات میں کلفت جسمانی سے زیادہ روحانی راحت ولذت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے یہ کلفت جسمانی کچھ نہیں معلوم ہوتی۔ اور اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم چاہو تو یہ جسمانی کلفت تم کو نہ دی جائے تو وہ کبھی اس کو گوارانہ کریں گے اور یوں کہیں گے  
**نشود نصیب دُشمن کہ شود ہلاک تیغت** سر دوستاں سلامت کہ خبر آزمائی  
 دشمن کے نصیب یہ بات نہ ہو کہ وہ تیری تکوار سے ہلاک ہو۔ دوستوں کا سرسلامت رہے تاکہ تو خبر آزماتا رہے۔

صاحب محبت تو وہ چیز ہے کہ اس میں بعض لوگ ادنیٰ ادنیٰ محبوبوں کے لئے خوشی کے ساتھ جان فدا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جان دینے کے بعد وہ محبوب ان کو اس جان ثماری کا کچھ حصہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو پھر یہ کیونکر خیال میں آ سکتا ہے کہ عاشقان الہی کو جان دینے میں کچھ بھی روحانی پریشانی ہوتی ہوگی۔ جب کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم رضاۓ محبوب کے لئے جان دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی یقین رہے کہ مرنے کے بعد وہ اس کا حصہ بھی بہت کچھ دیں گے۔

شہادت کا صد اتنا عظیم الشان ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے رہنے والوں میں کوئی ایسا نہیں جو دوبارہ دنیا میں آنا چاہے سوائے شہید کے وہ شہادت کا صدھ و مکھ کر تمنا کرے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور پھر شہید ہوں اور پھر جاؤں اور پھر شہید ہوں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل فرماتے ہیں وددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احی ثم اقتل ثم احی ثم اقتل ثم احی ثم اقتل

(تاریخ بغداد للخطب البغدادی ۲:۳)

صاحب! شہادت میں کچھ تولدت ہے جو حضور یوں بار بار اس کی تمنا فرماتے ہیں آہ! حضور کے دل پر کیا گزرتی ہو گی جو یہ بات آپ کی زبان پر آئی۔ ورنہ آپ تو بڑے ضابط تھے (شہید جب جان دینے کے لئے بڑھتا ہے تو زبان حال سے حق تعالیٰ کی جناب میں یوں کہتا ہوا جاتا ہے بجم عشق توام می کشند و غو غائیست تو نیز برسر بام آکہ خوش تماشا نیست تیرے عشق کے جرم میں مجھے قتل کرتے ہیں، فریاد تو خود ہمی تو چھٹ پڑا کر دیکھ کر تنا اچھا تماشا ہے یعنی وہ محظوظ حقیقی سے عرض کرتا ہے کہ لوگ آپ کے عشق و جرم میں مجھے قتل کر رہے ہیں۔ ذرا آپ بھی ایک نظریہ تماشا دیکھ لجئے۔ پھر چونکہ مسلمان کو یقین ہے کہ حق تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو محظوظ کے سامنے اسکے نام پر جان دینے کی اسے کیا کچھ لذت آتی ہو گی اسکو ہی جان سکتا ہے)

### فضیلت شہادت

شہادت کی فضیلت کے لئے کیا یہ بات تھوڑی ہے کہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو کر خدا کی جناب میں جاتا ہے تو جس کو خدا سے محبت و عشق ہو گا وہ کیونکہ اس کا متنی نہ ہو گا۔ حقیقی شہادت کی تمنا ہر قلب مسلم میں ہے اور جس کے دل میں اس کی آرز و نیس اس کے ایمان میں نقص ہے مگر ہاں کسی موقع پر پیش قدی کرنے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ متوقع شہادت حقیقی کا موقع ہے جس میں شرعاً جان دینا مطلوب ہے۔ اور اگر شرعاً کسی موقع پر شہادت کے شہادت ہونے میں شبہ ہو جاوے وہاں عارف کبھی جان نہ دے گا۔ بلکہ ایسے موقع پر وہ اپنی جان کی حفاظت کرے گا۔ گواں صورت میں لوگ اس کو ملامت بھی کریں۔ بزدل اور ڈر پوک جو چاہیں کہیں۔ اس کی کچھ پرواہ کریں گا۔ کیونکہ وہ حقیقی شہادت کا طالب ہے جس سے سوائے رضاۓ حق و اعلاء کلمۃ اللہ کے کچھ مقصود نہ ہو۔ پھر جہاں رضاۓ حق حاصل ہونے ہی میں شبہ ہو وہاں محض مخلوق کی نظر میں بہادر اور جری بننے کے لئے وہ کبھی اقدام نہ کرے گا۔ کیونکہ اس کا مشرب تو یہ ہے

گرچہ بدنامی ست نزد عاقلاں مانے خواہیم نگ و نام را  
اگرچہ یہ بات عقل مندوں کے نزد یک بدنامی کا باعث ہے مگر ہم نگ و نام چاہتے ہی نہیں۔  
اور وہ یوں کہتا ہے

عاشق بدنام کو پرواۓ نگ و نام کیا اور جو خود ناکام ہوا سکو کسی سے کام کیا  
عاشق کی ناکامی محرومی کی ناکامی نہیں ہوتی۔ بلکہ ترقی کی وجہ سے وہ اپنے کو ناکام و نامراو

سمجھتا رہتا ہے وہ کسی حالت پر قناعت نہیں کرتا۔ بلکہ جتنا وصال سے کامیاب ہوتا ہے اس سے آگے ترقی کا طالب ہوتا ہے۔ اس کی پیاس کبھی نہیں بھجتی اس لئے ناکام کہہ دیا۔ اور اس طریق میں یہ ناکام ہی بڑی کامیابی ہے اور جو شخص اپنے کو کامیاب سمجھ کر کسی خاص حالت پر قناعت کرے اور طلب کی پیاس بجاوے وہ اس طریق میں ناکام ہے۔ خوب سمجھلو۔

یہ تو جملہ مفترضہ تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام کے واقعہ میں جو سبق ہمارے لئے ہے اس کے واسطے گا ہے گا ہے اجمالی یاد کافی ہے۔ تفصیلی واقعات کی کچھ ضرورت نہیں اور اجمالی واقعہ سے کوئی مسلمان نا آشنا نہیں پھر اس کے لئے خاص طور پر ہر سال مجلسیں منعقد کرنا اور ان میں اظہار غم کے طور پر یہ واقعہ دل خراش پڑھنا اور مسلمانوں کے دلوں کو تازہ غم دیکر زخمی کرنا اور شہداء پر نوحہ و ماتم کرنا بالکل خلاف عقل اور خلاف مقصود ہے۔

### شہداء پر اظہار غم

صاحبہ! میں کہہ چکا ہوں کہ صدمہ اس واقعہ میں ہوتا ہے جو بتلا کے خلاف مرضی ہو۔ تو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ ان حضرات کے خلاف مرضی ہوا اور وہ شہادت کے طالب نہ تھے ہرگز نہیں! تو جب وہ شہادت کے طالب تھے تو اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ اس کے لئے نوحہ و ماتم کیا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ان حضرات شہداء کو وہ مراتب و منازل عطا نہ فرماتے جواب حاصل ہوئے۔ کیا آپ کے نزدیک ان حضرات کو اس واقعہ سے اجر نہیں ملا اور بھلا یہ تو بتلا و کہ اگر آپ کے سلف دین کے لئے ایسی جائزی اور جائیں اور جائیں فروٹی نہ کرتے۔ آج آپ کو اس کے لئے ہمت کیونکر ہوتی اور اگر یہ نظریں آپ کے سامنے نہ ہوتیں تو ایسے موقع میں دین کے لئے جان دینے کو تمہارے دل کیسے بڑھتے۔ قاعدہ ہے کہ نظائر سے انسان کی ہمت بلند ہوتی ہے اور ساف کے کارناموں کو یاد کر کے پچھلوں کو ان کے اتباع کا شوق ہوتا ہے اگر اس واقعہ کا ظہور نہ ہوتا تو یہ سبق ہم کو کیسے حاصل ہوتا۔ جب اس واقعہ میں ہمارے لئے بھی حکمت ہے اور ان کو اس پر اجر بھی بہت ا لطیف۔ ایک سرحدی کاملی محرم کے زمانے میں ہندوستان آیا تو اس نے تعزیہ و علم وغیرہ نکلتے ہوئے دیکھے اور اس کے پیچے کچھ لوگوں کو ماتم و نوحہ کرتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا یہ کیا قصہ ہے لوگوں نے کہا تم کو معلوم نہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اس مہینے میں شہید ہوئے ہیں۔ سرحدی نے کہا وہ تو تیرہ سو برس پہلے شہید ہو چکے ہیں۔ کیا..... ہندوستان میں اب خبر آئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ بہت ہی غافل ہیں کہ تیرہ سو برس کے واقعہ پر آج غم کرنے بیٹھے ہیں۔ اہ مثنوی میں ایک ایسی ہی حکایت ایک شاعر کی جو حلوب میں زمانہ محرم میں آیا تھا لکھی ہے۔ واقعی متفضانے عقل تو یہی ہے کہ صرف واقعہ کے وقت غم کیا جائے سالہا سال تک غم کوئے کہ بیٹھنا بقول اس سرحدی کے غفلت ہی کی علامت ہے۔

بڑا ملا ہے۔ تو پھر کیا ہر سال اس قدر اظہار غم جو آج کل کیا جا رہا ہے مشائق کے خلاف نہ ہو گا؟ شاید اس پر کسی کو یہ شبہ ہو کہ پھر کیا اس واقعہ کے وقوع کے وقت بھی غم نہ کرنا چاہئے تھا کیونکہ یہ بات تو اس وقت بھی تھی۔ یہ واقعہ تو اس وقت بھی ان کے لئے باعث اجر تھا اور شہادت ان کو مطلوب تھی اور اس وقت بھی ہمارے لئے اس میں حکمت تھی؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس وقت کا غم کرنا غیر اختیاری ہوتا۔ قاعدہ ہے کہ ظہور حادثہ کے وقت طبعی غم بلا اختیار ہوا کرتا ہے اور امر غیر اختیاری میں انسان معدود ہے لیکن جب طبعی غم کی حد گز رجائے اس کے بعد غم کو لے کر بیٹھا یہ مذموم ہے۔ لیکن اس کی حکمتوں پر نظر کرنا چاہئے۔ اس فرق کو ایک مثال میں سمجھئے مثلاً ایک شخص ڈاکٹر سے خود کہے کہ میرا اپریشن کر دو۔ اس کیلئے وہ ڈاکٹر کو فیس بھی دیتا ہے اسکی خوشامد بھی کرتا ہے۔ مگر اپریشن کے وقت اسکے منہ سے آہ اور چیخ بھی نکلتی ہے کیا۔ آپ اس شخص کو اس آپ پر کچھ ملامت کریں گے ہرگز نہیں۔ آخر یوں؟ شخص اسی وجہ سے کہ یہ غیر اختیاری بات ہے۔

لیں اسی طرح یہاں سمجھئے کہ گو وقت وقوع بھی اس واقعہ کی حکمتیں عقلاء کے پیش نظر ہوتیں مگر اس وقت غیر اختیار غم بھی ساتھ ساتھ ہوتا اور اس میں وہ معدود ہوتے لیکن اب جو ہم رنج و صدمہ ظاہر کرتے ہیں یہ عقلی غم ہے طبعی نہیں اور اس کی ممانعت ہے جیسے مثال مذکور میں اپریشن ختم ہونے اور زخم کے اچھا ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپریشن کا غم کرتا رہے اور ہر سال اس پر ماتم کیا کرے تو اس کو یقیناً سب لوگ بیوقوف کہیں گے اور اس رنج و غم میں اسے کوئی معدود نہ کہے گا۔

### طبعی غم و غصہ کی حد

طبعی رنج کی ایک حد ہوتی ہے جب وہ حد پوری ہو جائے پھر طبعی رنج نہ ہو گا۔ بلکہ عقلی ہو گا۔ فقہاء نے نصوص شرعیہ سے اس حد کو سمجھا ہے واقعی صوفیاء اور فقہاء یہ دونوں فرقے حکماء امت ہیں۔ مگر افسوس سے کہ ان دونوں میں باہم جدال و نزاع ہے جس کی وجہ سے ہماری بدستمی ہے کہ بعض لوگ ان دونوں جماعتوں میں غیر محقق بھی ہوتے ہیں۔ ان ناقصین میں نزاع ہوتا رہتا ہے ورنہ اگر دونوں محقق ہوں تو کبھی نزاع نہ ہو۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ تین روز کے بعد تعزیت کرنا پاس والوں کو منوع ہے۔ ہاں جو لوگ باہر رہتے ہوں ان کو تین دن کے بعد تعزیت کی اجازت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تین دن میں طبعی غم ہلکا ہو جاتا ہے اس کے بعد تعزیت کرنا اس کو بڑھانا ہے۔ اب

اگر وہ آکر تعزیت نہ کرے۔ تو طرفین میں بد مزگی ہو گی صاحب واقعہ اپنے دل میں کہے گا کہ اس ظالم کو میری مصیبت سے غم ہی نہیں ہوا۔ اس نے ایک حرف بھی تسلی کا نہ کہا۔ اس لئے مسافر کو تمیں دن کے بعد بھی جب وہ آئے تعزیت کرنی چاہئے اور اس کی تعزیت سے صاحب واقعہ کا غم نہ بڑھے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص ضرورت کی وجہ سے اتنے دنوں کے بعد تعزیت کر رہا ہے۔ یہ پہلے نہ آ سکتا تھا۔ فقہاء نے تمیں دن کی حد کو غالباً اس حدیث سے استنباط کیا ہو۔

لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام (کنز العمال : ۲۹۳ ۷۲)

”کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ بھراں نہ کرے۔“

یعنی اگر کسی سے دنیوی معاملہ میں رنج و تکرار ہو گیا ہو تو تمیں دن تک تو بات چیت سلام کلام ترک کرنا جائز ہے۔ اس سے زیادہ جائز نہیں کیونکہ شارع علیہ السلام نے عادت انسانیہ سے یہ معلوم کر لیا ہے کہ طبعی غم و غصہ تین دن میں کم ہو جاتا ہے اس کے بعد تکلف بڑھانے سے رنج بڑھے گا۔ اگر اسباب زیادہ اختیار نہ کئے جائیں تو تمیں دن کے بعد رنج کا غالبہ باقی نہیں رہ سکتا۔ توجہ طبعی رنج کا غالبہ تھا اس وقت تک شریعت نے بھی اس کو ترک کلام میں معذور سمجھا جب غلبہ جاتا رہا اب یہ معذور نہیں۔ اب ترک کلام و سلام محض خبث نفس کی وجہ سے ہے اس کی اجازت نہیں۔

یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رحمت فرمائی کہ تمیں دن تک بھراں کی اجازت دیدی۔ اگر کوئی فلسفی ہوتا تو ایک دن کے لئے بھی بھراں کو جائز رکھتا اور یہ کہتا کہ بھراں اتفاق او اتحاد باہمی کے خلاف ہے پس رنج و تکرار کو جلد رفع کرنا اور فوراً صفائی کر لینا چاہئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبات نفس پر بڑی گہری نظر ہے آپ نے تمیں دن تک بھراں کی اسلئے اجازت دی کہ فوراً صفائی کرنا عادة دشوار اور نفس پر بہت گراں ہوتا ہے۔ آپ نے ہمارے اوپر گرانی اور دشواری ڈالنا گوارا نہیں فرمایا۔

دوسرے رنج و تکرار کے وقت چونکہ دنوں طرف نفس میں رنج و غصہ بھرا ہو گا تو فوراً صفائی کرنے سے یہ صفائی بیکار ہو گی۔ گو ظاہر میں دنوں بات چیت کرنے لگیں گے۔ مگر دلوں میں سخت غبار ہو گا۔ اس حالت میں صفائی کرنے سے کینہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اس سے جو غرض تھی یعنی اتحاد و اتفاق وہ مطلق حاصل نہ ہو گی۔ اس لئے آپ نے معاً صفائی کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ تمیں روز تک ترک کلام و بھراں سے دل کا غبار نکالنے کے اجازت دیدی جب تمیں دن میں دل کا غبار نکل گیا اور غلبہ رنج فرو ہو گیا۔ اب ملنے جلنے کا حکم دیا اس وقت صفائی سے نفع بھی ہو گا اور چونکہ غبار نکل چکا ہے اس لئے کینہ بھی پیدا نہ ہو گا واقعی حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جذبات نفس کی جس درجہ رعایت ہے۔ اس کی نظریہ نہیں مل سکتی۔  
 (اور یہ حکم دنیوی رنج و تکرار کا ہے اور اگر کسی سے دینی معاملہ میں رنج ہو گیا ہو تو اس میں یہ  
 حد نہیں۔ بلکہ جب تک دوسرا شخص اس معصیت سے جو سبب بھرنا تھی تو بہ خالص نہ کرے  
 اسوقت تک بھرنا کی اجازت ہے اور بعض موقع میں واجب ہے۔

### اطہار غم پر وعید

اس حدیث سے تین دن کے بعد رنج کو لے کر بیٹھنے کی ممانعت ثابت ہوئی۔ دوسری خرابی شہادت  
 ناموں کے پڑھنے اور مجالس منعقد کرنے میں یہی کہ اس میں اطہار غم ہے اور اطہار غم جائز نہیں۔  
 اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنازہ کے ساتھ جاتے  
 ہوئے بعض صحابہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی چادریں اتار دی ہیں اہل عرب کا لباس ازار و رداء تھا۔  
 اس کو عربی میں خلہ کہتے ہیں۔ مہذب لوگ قمیض بھی پہنتے تھے۔ مگر زیادہ لوگ چادر اور لنگی ہی پہنتے  
 تھے۔ اس وقت القاراء غم کی علامت تھی جیسے آج کل بازو پر سیاہ کپڑا باندھنا لوگوں نے انگریزوں  
 سے سیکھا ہے۔ اور جو لوگ کرتے پہنتے تھے وہ گریبان چاک کرتے تھے۔ ان کے یہاں شق جیب  
 علامت غم تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چادرہ اتارے ہوئے دیکھ کر فرمایا۔

**ان فعل الجahiliyah تاخليون او باهل الجahiliyah تشهيون لقد هممتم ان ادعوا عليكم**

دعوه ترجعون في غير صوركم (سنن ابن ماجه: ۱۲۸۵، کنز العمال: ۳۲۳۷۳)

(فِيَا خَذُوا ارْدِيَّهُمْ وَلَمْ لَعُودُلَهُ بَعْدَ اخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ كَمَا  
 فِي الْمَشْكُوَةِ بِسِندٍ ضَعِيفٍ فِيهِ مَتْرُوكٌ وَلَكِنْ تَائِيدٌ مَعْنَاهُ  
 بِحَدِيثٍ لَيْسَ مِنْ شَقِّ الْجَيْوَبِ وَدُعَا بِدُعَوَى الْجَاهِلِيَّةِ.  
 ”کیا تم جاہلیت کا اختیار طریقہ کرتے ہو یا اہل جاہلیت کے ساتھ مشاہد کرتے ہو۔ میرا  
 قصد ہوا تھا کہ تم پر ایسی بدعما کروں جس سے تمہاری صورتیں بدل جائیں۔

اس وعید کو سن کر صحابہ نے فوراً چادریں اوڑھ لیں۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ  
 اطہار غم ناجائز ہے حالانکہ چادرہ اتارنے میں کوئی زیادہ اطہار نہیں مگر آپ کو اتنا بھی ناگوار ہوا۔  
 پھر یہ روتنا اور ماتم کرنا اور اس کے لئے مجالس منعقد کرنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے جو سراپا اطہار ہے۔  
 رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صاحبزادے کے واقعہ انتقال میں

انا بفارقك يا ابراهيم لمحزونون (المصنف لابن أبي شيبة ۳: ۲۹۳)

(اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر معموم ہیں۔) فرماتا۔ سواتنا اظہارغم وقت ظہور واقعہ کے مضائقہ نہیں جس میں بیان اور شکایت الہی نہ ہو چنانچہ حضورؐ نے اسکے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا۔

الْعَيْنُ تَدْمِعُ وَالْقَلْبُ يَحْزُنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرَضِي رَبُّنَا.

یعنی آنکھ سے آنسو بہرہ ہے ہیں اور دل غمگین ہے مگر زبان سے وہی کہیں گے جس سے خدا راضی ہو۔  
رہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حضورؐ کے وصال پر یہ فرماتا

صبت علی مصائب لو انها صبت علی الايام صرن لياليا

”مجھ پر ایسی مصیبتوں پڑیں کہ اگر وہ زمانے کے دنوں میں پڑتیں تو وہ راتیں بن جاتیں۔“

سو اول تو بقاعدہ محدثین اس کا ثابت ہونا مشکل ہے کہ یہ اشعار حضرت فاطمہؓ کے ہیں (اہل سیر کی روایت ہے جس میں رطب دیا بس سب کے بھرے ہوتے ہیں)۔ دوسرے یہ غلبہ حال تھا۔ تیرے اس میں کوئی شکایت تھوڑا ہی ہے صرف صدمہ کی عظمت بتائی ہے جیسے حضورؐ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے انتقال پر انا بفراقک یا ابراہیم لمحزوں نوں فرمایا تھا۔ رہاں کو ظلم میں فرمانا تو ظلم و شعر اہل عرب کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ ان کو ظلم و نشر دنوں برابر ہیں۔ چوتھے یہ بھی تو خیال کیا جائے کہ وہ واقعہ کیسا تھا۔ حضورؐ کا وصال کیسی مصیبۃ عظمیٰ تھی۔ اس وقت اگر دل پھٹ جاتا تو تعجب نہ تھا۔ یہ بھی حضرات صحابہ و اہل بیت کو غایت تخلی ہے کہ انہوں نے دوچار باتوں پر اکتفا کیا۔ پانچویں حضرات صحابہؓ و اقطاع نزول وی کا صدمہ زیادہ تھا کہ اب بار بار حق تعالیٰ کا کلام نازل نہ ہوگا۔ یہ نعمت ہمیشہ کے لئے بند ہو گئی سو محض وفات پر اظہارغم نہ تھا۔ بلکہ اقطاع برکات کا صدمہ بھی زیادہ تھا جس کو انہوں نے ظاہر کیا ہے۔  
الغرض! قواعد شرعیہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اظہارغم کی ممانعت ہے۔

## نام و نمود کی صورتیں

اس سے ان امور کا منوع ہونا ثابت ہو گیا جو آج کل محرم میں کئے جا رہے ہیں اور جتنے قصے آج کل اس قسم کے ہوتے ہیں ان کا مشایہ ہے کہ اہل مال و اہل دولت کو دراصل روپیہ خرچ کرنے اور نام پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے اس کے لئے یہ بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ جو اہل دولت دنیا دار ہیں وہ تو اپنی اولاد کی بسم اللہ ختنہ اور شادی وغیرہ میں دل کے حوصلے نکالتے ہیں۔ چنانچہ کہیں کی طرف اپنے واقعات بھی سننے میں آئے ہیں۔ ایک جگہ بندر بندریا کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اور جو اہل دولت دنیدار ہیں انہوں نے دین کی صورت میں روپیہ خرچ..... کرنے کا بہانہ

نکال لیا۔ کسی نے مولود شریف اختیار کیا۔ کسی نے محرم میں ماتم برپا کیا۔ کسی نے گیارہویں شریف نکالی۔ کسی نے شب برات کا حلوا ایجاد کیا جو لوگ ربع الاول میں حضورؐ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کوئی ان سے یہ کہے کہ حضورؐ کی وفات بھی تو اسی مہینہ میں ہوئی ہے اس پر غم بھی تو کرو۔ واقعی حق تعالیٰ نے حضورؐ کی ولادت وفات دونوں کو ایک مہینہ میں جمع کر کے اس حکمت کا اظہار فرمایا ہے مسلمانوں کو اس زمانہ میں نہ فرط غم ظاہر کرنے کا موقع ملے بمحبوب زمان وفات ہونے کے نہ فرط سرور کرنے کا موقع ملے بوجہ زمان ولادت ہونے۔ لس جب یہ مہینہ آتا ہے تو خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں جس سے اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو عوام کی حالت تھی۔

اب خواص سنئے۔ انہوں نے بھی اظہار شوکت و شان کے لئے بعض صورتیں نکالی ہیں۔ مولویوں نے تومدارس کے جلسے نکالے ہیں جن میں اکثر نام و نمود کا اظہار ہوتا ہے۔

چنانچہ کانپور میں ایک دوسال دو مدرسوں کا جلسہ تھا ہر ایک چاہتا تھا کہ اپنی کارروائی دوسرے سے زیادہ دکھلائے تو ایک مدرسہ والوں نے دوسرے مدرسہ کے طلبہ کو توڑ کر اپنے یہاں بلا یا کہ تم ہمارے مدرسے سے سند و ستار لینا۔ دوسرے مدرسہ والوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ان طلباء کو برا بھلا کھہا۔ وہ اس ارادہ سے رک گئے تو پہلے مدرسہ والوں نے ایک طالب علم کو کسی بہانے سے بلا کر کوٹھری میں بند کر دیا۔ اور جلسہ کے وقت تک بند رکھاتا کہ بھاگ نہ جائے اور دستار بندی کے وقت نکال کر اسے سند اور دستار دیکھ رکھنے سے مدرسہ کی طرف منسوب کر لیا۔ پھر کہہ دیا کہ اب جاؤ جہاں چاہو۔

بھلا یہ دین ہے۔ واللہ بجز شہرت اور نام کے اس سے کچھ مقصود نہیں۔ پھر جلوں میں رقمیں ایسی صرف ہوتی ہیں جو جلسہ کے لئے مخصوص نہیں ہوتیں۔ لوگوں نے تو نہ معلوم کیا سمجھ کر چندہ دیا تھا اور یہاں وہ رقمیں جلسہ کے انتظامات میں صرف کی جاتی ہیں انہی رقموں سے امراء و رؤسائی دعوت بھی ہوتی ہے اور غرباً کو بھی کھلایا جاتا ہے۔ اور اس کو ہم سب کھاتے ہیں۔ اگر ان جلوں کا مشاگض دین ہوتا۔ تو ان میں حدود کی کچھ پرواہیں یہ تو مولویوں کی حالت ہے۔

ستم یہ ہے کہ صوفیوں نے بھی جن کا مشرف اپنے کو مٹانا اور گمنام کرنا ہے نام و نمود کی بعض صورتیں نکالی ہیں۔ چنانچہ ہر سال جا بجا عرس ہوتے ہیں جن میں چار طرف سے مدعاں تصورت کا ہجوم ہوتا ہے تا کہ لوگ جان لیں کہ عرس میں جتنے حضرات تشریف لائے ہیں یہ سب صوفی ہیں پھر قوالي میں حال اور وجہ سے تو اچھی طرح اپنے تصوف کو ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ ہاں ہمارے اندر بھی کچھ ہے۔

## بے غرضی و بے نفسی کی صورتیں

صاحب! حقیقی صوفی بھی ان صورتوں کو پسند نہیں کر سکتا۔ علماء کے فتوے سے بھی قطع نظر کر لی جائے وہ یہ عرس وغیرہ اسباب شہرت ہونے کی وجہ سے خود طریقے کے بھی خلاف ہیں۔ آہ! اب مولانا رشید احمد صاحب اور مولانا محمد قاسم صاحب جیسے بے نفس کہاں ہیں جو شہرت و نام سے بھاگتے تھے اور اپنے کو مٹانا چاہتے تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ کا لباس ایسا مونا جھونا ہوتا تھا کہ صورت سے کوئی نہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی بڑے عالم یا شیخ ہیں مگر

نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک ہیں باشی اگر اہل ولی کے اندر اللہ کا نور ہوتا ہے۔ اگر تم ٹھیک دیکھنے والے ہو تو دیکھ لو گے وہ کتنا ہی اپنے کو چھپاتے بھلا کیوں چھپ سکتے تھے پیچانے والے پیچان، ہی لیتے تھے تو پھر آپ نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ جب کہیں سفر میں جاتے ساتھیوں کو نام ظاہر کرنے سے منع فرمادیتے کہ میرا نام کسی کو نہ بتلانا۔ اگر کوئی مولانا ہی سے پوچھتا کہ جناب کا نام کیا ہے تو فرماتے حافظ خورشید حسن۔ یہ مولانا کا تاریخی نام تھا اس لئے کذب بھی نہ ہوتا اور سائل کو پتہ بھی نہ چلتا۔ کیونکہ یہ نام مشہور نہ تھا۔ لوگوں میں مشہور نام مولانا محمد قاسم ہی تھا۔ خورشید حسن سن کر سائل یہ سمجھتا کہ یہ کوئی اور شخص ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نہیں ہیں۔ اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کا وطن کہاں ہے فرماتے ہیں ال آباد۔ بعض مخلصین کو شیہہ ہوا کہ اس میں تو کذب ہو گیا تو مولانا سے عرض کیا کہ حضرت آپ کا وطن اللہ آباد کدھر سے ہو گیا۔ فرمایا کہ نا نوٹہ بھی تو خدا تعالیٰ ہی کا آباد کیا ہوا ہے تو لونڈہ وہ بھی ال آباد ہی ہے۔ مولانا تھے بڑے ذہین۔ بات بات سے ذہانت پنکتی تھی۔

نذر کے موقع میں مولانا نے ایک عجیب ذہانت سے بچاؤ کیا۔ بعض لوگوں نے آپ سے شکایت کر دی تھی کہ یہ بھی عذر تھا نہ بھون میں شریک تھے تو تین دن تک آپ روپوش رہے۔ تین دن کے بعد ظاہر ہو گئے لوگوں نے کہا۔ حضرت بھی تک آپ کی تلاش جاری ہے اور وارث موقوف نہیں ہوا۔ بھی کچھ دنوں اور چھپے رہئے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ب مجرمت کے موقع تین ہی دن غار ثور میں روپوش رہے تھے۔

بس! سنت پر عمل کر لیا ہے اس سے زیادہ مدت تک مخفی رہنا زائد علی الست ہے۔

سبحان اللہ! اتباع سنت اسے کہتے ہیں کہ روپوشی میں بھی اس کا لحاظ رہا کہ سنت سے زیادہ نہ ہو۔ جمل لوگ نوافل و تسبیحات ہی میں اتباع سنت کو خصر سمجھتے ہیں کمال اتباع یہ ہے کہ جو مولانا کے فعل سے ظاہر ہو۔ غرض تین دن کے بعد آپ اعلانیہ پھرتے تھے کئی مرتبہ گھر پر دوڑ آئی۔ مگر آپ اپنی ذہانت

سے نجح جاتے تھے۔ ایک دفعہ مولانا چھتے کی مسجد میں تھے کسی نے مجری کر دی اور فوراً دوڑ آگئی۔ مولانا اس وقت جہاں بیٹھے تھے اس جگہ سے ذرا کھک کر بیٹھ گئے۔ پولیس کے افسر نے صورت سے نہ پہچانا کہ یہی مولانا محمد قاسم ہیں۔ کیونکہ لباس مولانا کا عالمانہ ہوتا تھا۔ عامیانہ لباس پہنہتے تھے اس نے سمجھا کہ یہ کوئی عالم نہیں معمولی آدمی ہے۔ تو اس نے مولانا ہی سے پوچھا کہ یہاں مولانا محمد قاسم صاحب آئے تھے؟ تو آپ نے اپنی پہلی جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی تو یہیں تھے دلکھ لو۔ یہ کہہ کر اپنے جو تھے ہاتھ میں لئے پولیس کے درمیان سے نکل گئے۔ بعد میں پولیس افسر کو معلوم ہوا کہ جس سے میں نے باتیں کی تھیں وہی مولانا محمد قاسم صاحب تھے۔ وہ مولانا کی ذہانت پر بڑا حیران ہوا کہ جھوٹ بھی نہیں بولا اور صاف نجح بھی گئے۔

غرض اس ذہانت سے بچتے رہے۔ مگر تین دن کے بعد روپوش نہیں ہوئے۔ خیر یہ تو مولانا کی ذہانت کا ایک لطیفہ تھا۔ مجھے بتلانا یہ تھا کہ یہ حضرات شہرت سے کس درجہ بھاگتے تھے کہ صورت سے کوئی ان کو عالم یا شیخ نہ سمجھتا تھا۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ رات کے وقت دیوبند سے نانوٹہ جا رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر راستہ بھول گئے کیونکہ رات باقی تھی۔ تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی نانوٹہ کا راستہ کدھر ہے اس نے کہا ارے تو کون ہے جو صحیح نانوٹہ کا نام لیتا ہے (مشہور ہے کہ صحیح کو نانوٹہ کا نام لینے سے دن بھر کھانا نہیں ملتا) فرمایا بھائی پھر کیا کہوں۔ کہا پھوٹا شہر کہہ! آپ نے فرمایا اچھا بھائی پھوٹے شہر کا راستہ کسی طرف کو ہے اس نے بتلایا کچھ دور چل کر پھر راستہ بھول گئے تو ایک شخص اور ملا اس سے پوچھا۔ بھائی شہر کا راستہ کدھر کو ہے۔ وہ کوئی نانوٹہ کا راستے والا تھا اس نے کہا ارے تو کون ہے جو ہمارے شہر کو پھوٹا شہر کہتا ہے فرمایا پھر کیا کہوں کہانا نانوٹہ کیوں نہیں کہتا۔ فرمایا اچھا بھائی نانوٹہ کا راستہ بتلادے۔ کہا یہ سامنے نانوٹہ ہی تو ہے۔ اس وقت مولانا نانوٹہ پہنچ گئے تھے۔ مگر انہیں کی وجہ سے معلوم نہ ہوا کہ میں گھر کے قریب آگیا ہوں۔

غرض راستہ میں جو بھی ملتا اور مولانا اس سے راستہ پوچھتے وہ برا بھلا ہی کہتا تھا اور مولانا سب کی سنتے جا رہے تھے کسی کی بات کا برانہ مانانہ کسی سے اپنا نام ظاہر کیا اور نہ اگر نام ظاہر کر دیتے تو ان اطراف کے سب لوگ آپ کو جانتے تھے۔ نام سن کروہ لوگ پیروں میں گر پڑتے مگر ان کو تو اس میں ہی مزا آتا تھا کہ یہ نیس ذلیل ہو۔

حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ کا واقع ہے کہ ایک دفعہ آپ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے کہ بارش آگئی۔ طلباء سب کتابیں لے لے کر اندر چلے گئے پھر سب اپنے جو تے اٹھانے آگئے تو دیکھا کہ مولانا نے ایک چادرہ میں سب کے جو توں کو جمع کر رکھا ہے اور اٹھانا چاہ رہے ہے ہیں یہ حالت دیکھ کر لوگوں کو وجد آنے لگا اور دیر تک قلوب پر اس کا اثر رہا۔ بھلا آج تو کوئی ایسا کر کے دکھاوے کہ اپنے شاگردوں کے جو تے سمینے لگے۔

صاحب احکام یہیں بیان کر دینا اور بات ہے مگر کر کے دکھانا اور بات ہے مولانا کو لوگ خشک کہتے تھے بعضے مشدود کہتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کی تربیت کرتے ہوئے مولانا کو دیکھا ہوگا۔ اس وقت مولانا سیاست و تربیت فرمائے ہوں گے وہ حق سمجھا کہ بس یہ رات دن اسی حالت میں رہتے ہیں۔

جیسے کوئی شخص کسی رحم دل نجح کو خون کا مقدمہ فیصل کرتے ہوئے دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ نجح تو براخونی ہے اسے ظالم نجح تو خونی نہیں برا امہربان ہے مگر اس تو اس کے پاس ایسے وقت گیا۔ جب وہ ایک ڈاکو کے لئے سزا سمoot تجویز کر رہا تھا۔ اگر تو اس کے بغلہ پر جا کر ملتا تو معلوم ہوتا کہ وہ کیسا امہربان ہے ایسے ہی سیاست و تربیت کے وقت کسی بزرگ کوختی کرتے ہوئے دیکھ کر سخت مزانج سمجھ لیا تا بڑی حماقت ہے۔ اصلاح و تربیت میں وضروفت کی وجہ سے یہ حضرات سختی بر تے ہیں باقی فی نفسہ سخت مزانج نہیں ہوتے تمہیں فارغ اوقات میں ان حضرات سے ملنا چاہئے جب حقیقت معلوم ہوگی کہ تم خشک ہو یا وہ خشک ہیں۔

## تعلق مهمان و میزبان

ایک سختی کی عادت تھی کہ جب اس کے یہاں مهمان آتا تو بڑی خاطردارت کرتا تھا۔ مگر خصت کے وقت یہ کہہ دیتا ہے کہ مہربانی کر کے دوبارہ آپ یہاں نہ آئیں لوگ اسے بدنام کرتے تھے یہ بڑا ہی بخیل اور تنگ حوصلہ ہے جو مہمانوں کو یوں کہتا ہے پھر یہاں نہ آتا۔ ایک عاقل نے بھی یہ بات سنی اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص تو بڑا سختی اور عالی حوصلہ ہے۔ آخر یہ بات کیا ہے اس کی تفتیش کرنا چاہئے۔

چنانچہ وہ خود اس سختی کا مهمان بننا۔ اس نے خوب خاطر کی۔ اس کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کے اس نے بھی کچھ تکلف نہ کیا اور اس کی ہر خدمت کو گوارا کرتا رہا۔ کسی بات میں مزاحمت نہ کی کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو میں خود کرلوں گا۔ جب چلنے لگا تو سختی نے کہا میری یہ درخواست ہے کہ آپ پھر بھی یہاں تشریف لائیں اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ میرے ساتھ اس نے یہ معاملہ نہیں کیا جو لوگوں میں مشہور ہے۔ آخر اس سے پوچھا کہ آپ کی نسبت جو یہ مشہور ہے کہ آپ مهمان سے چلتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پھر

شائن اس کی اصل ہے میں اسی کی تحقیق کے لئے آیا تھا۔ مگر میرے ساتھ آپ نے برعکس کیا۔ کہا وہ بات غلط نہیں بالکل صحیح ہے۔ واقعی میں ایسا کہتا ہوں مگر اس کا راز یہ ہے کہ جو کوئی میرے یہاں مہمان بن کر آتا ہے تو میرا بھی چاہتا ہے کہ اس کی خدمت کروں۔ اسے راحت پہنچاؤں۔ مگر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جب میں کچھ خدمت کرتا چاہتا ہوں تو مجھے اس سے روکتے ہیں کہ آپ تکلیف نہ کریں۔ ہم خود یہ کام کر لیں گے۔ مجھے اس تکلف سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ بعضے کام صاحب خانہ جس سہولت اور عمدگی سے کر سکتا ہے اجنبی اس طرح نہیں کر سکتا ہے اور مجھے سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مہمان میری نظر کے سامنے تکلیف اٹھائے اور میں اس کو راحت نہ دے سکوں اس لئے میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ پھر یہاں نہ آئے۔ اور تم نے کسی بات میں تکلف نہیں کیا۔ جس طرح میں دل راحت پہنچانے کو چاہتا تھا تم نے مجھے ویسے ہی کرتے دیا۔ کسی بات سے نہیں روکا۔ اس سے میرا دل خوش ہوا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم پھر آؤ۔

دیکھئے اس غریب کے متعلق شہرت کیا تھی اور حقیقت کیا انکلی تفییش سے معلوم ہوا کہ اس کی وہ بات لوگوں سے کہنا بھی غایت کرم پر منی تھا۔ وہ مہماںوں کو راحت پہنچانا چاہتا تھا۔ اور مہمان اس کی راحت رسانی سے روکتے تھے۔ یہی حال مولانا گنگوہی قدس سرہ کا تھا کہ لوگ بے ڈھنگا پن خود کرتے تھے اس سے مولانا کو تکلیف ہوتی تھی اور نہ اگر کوئی ڈھنگ سے مہمان ہوتا تو مولانا سے زیادہ خوش اخلاق کوئی نظر نہ آتا۔

یہ قاعدہ یاد رکھو کہ مہمان کو میزبان کے کام میں داخل نہ دینا چاہئے مصالح کی رعایت وہی خوب کر سکتا ہے۔ مہمان کو ان مصالح کی اطلاع نہیں ہو سکتی۔

## شر میں خیر

حضرت مولانا کے یہاں ایک ڈپٹی گلکشہر صاحب ایسے وقت آئے کہ مولانا اس وقت درس حدیث میں مشغول تھے مولانا معمولی طور پر مزاج پری کر کے درس میں مشغول ہو گئے اور یہ بھی غایت کرم تھا کہ مولانا نے ان سے دو چار باتیں کر لیں اور نہ حدیث نبوی کی جس قدر عظمت مولانا کے قلب میں تھی اس کا مقتضای تھا کہ اس وقت کسی سے ایک بات بھی نہ کرتے۔

صاحب! اگر کوئی شخص اپنے محبوب کا خط پڑھتا ہو تو کیا اس وقت وہ کسی سے بات کرنا گوارا کر سکتا ہے اسکو عشق اپنے دل میں خود غور کر لیں لیکن مولانا نے تطیب قلب مسلم کے لحاظ سے اس وقت اپنی طبیعت پر جبرا کر کے ان سے کچھ باتیں کیں پھر حدیث میں مشغول ہو گئے۔ اس کی ان

ڈپٹی صاحب نے یہ قدر کی کہ مولانا سے بدنظر ہو گئے کہ یہ تو بہت روکھے ہیں دوچار باتیں کر کے پھر اتفاقات بھی نہ کیا۔ غرض ان کو یہ طرز تاگوار ہوا۔ پھر اس کی انہوں نے اس طرح کسر نکالی کہ مولانا کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خطاب دیا جانا تجویز ہوا تھا ڈپٹی صاحب سے بھی رائے لی گئی۔ انہوں نے اس کو روک دیا اور بڑے فخر سے اپنی کارروائی کو ظاہر کیا کہ مولانا نے ہم سے بے رخی کی تھی تو ہم نے بھی ان کو خطاب سے محروم کر دیا۔

مولانا کو یہ خبر پہنچی تو بہت ہنسے۔ فرمایا کہ میں تو ان کی اس کارروائی سے منون ہوا کہ مجھے ایک بلا سے بچا دیا اگر میں خطاب لے لیتا تو درباروں میں جانا پڑتا۔ اگر نہ لیتا اور واپس کرتا تو اس میں کوئی حکومت کی تو ہیں تھی تو میں تو خطاب کے پہنچنے سے ایک پریشانی میں بنتا ہو جاتا کہ کیا کروں۔ خدا ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے خطاب کو مجھ تک آنے ہی نہ دیا۔ بالا بالا ہی واپس کر دیا۔

ہمارے حضرات اس کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ حکومت کے مقرب بنیں اور درباروں میں شریک ہوتے پھریں اور اس کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ حکومت کی تو ہیں کریں حکام کو برا بھلا کہیں۔ یہ تو آج کل ہی نیا دستور نکلا ہے کہ حکام کو بندرا اور سور کہا جاتا ہے۔ چاہے وقت پر کچھ نہ ہو سکے صرف زبان ہی کی بہادری ہے۔ موقع پر یہ لوگ جو حکومت سے مقابلہ کرتے ہیں خود ہی بندروں کی طرح بھاگتے نظر آتے ہیں پھر نہ معلوم یہ کون ہی تہذیب ہے کہ حکام کو گالیاں دی جائیں۔

قاعدہ یہ ہے کہ بہادر آدمی اپنے مقابل کو گالیاں دیکریا پنی زبان گندی کرتے ہیں۔ ہے یہ طریقہ کمزوروں کا ہے کہ مقابل کو گالیاں دیکریا پنی زبان گندی کرتے ہیں۔

یاد رکھو اسلام نے یہ طریقہ ہم کو نہیں سلھایا۔ اسلام نے ہم کو تہذیب سکھائی ہے اور یہ طریقہ جو آج کل اختیار کیا گیا ہے۔ تہذیب اسلامی کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ حکومت کے خطاب کو واپس کر کے اس کی تو ہیں کی جائے۔ غرض ایسے ایسے مخلص ہوں تو شہرت سے بھاگیں ورنہ ہم تو اکثر شہرت کے طالب ہیں۔

### اخلاص کی علامت

امام شعرانی نے اخلاص کی ایک علامت بیان فرمائی ہے۔ واقعی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے وہ لکھتے ہیں کہ اے عزیز! اخلاص کی علامت یہ ہے کہ جو کام دین کا تو کر رہا ہے اگر تیری بستی میں اس کام کا کرنے والا کوئی دوسرا آجائے تو اس سے خوش ہو اور خدا کا شکر بجا لاس کہ اس نے ایک

آدمی تیرا بوجھ ہلکا کرنے کو بھیج دیا۔ اور اس کے آنے کے بعد تو اپنے شاگردوں اور مریدوں کو کہہ دے کہ اس سے جا کر مستفید ہوں۔ اس سے فیض حاصل کریں پھر تو اپنا کام اس کے حوالے کر کے اطمینان سے خدا کی یاد میں مشغول ہو۔ بشرطیکہ وہ دوسرا شخص صاحب کمال اور قابل اطمینان ہو اگر ناقص وغیرقابل اطمینان ہو تو ایسا نہ کرنا چاہئے۔ مگر اسکے ساتھ عداوت و حسد نہ کرنا چاہئے۔

بتلا یئے ہمارے اندر ایسے کتنے افراد ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جلتے ہیں۔ اگر بستی میں کوئی واعظ ہے تو دوسرے واعظ کے آنے سے جلتا ہے کوئی شیخ ہے تو دوسرے شیخ سے جلتا ہے اگر کسی جگہ مدرسہ ہے اور وہاں دوسرا مدرسہ قائم ہونے لگے تو پہلے مدرسہ والوں کو دوسرے سے حسد و عداوت ہو جاتی ہے پھر اس حالت کے ساتھ اخلاص کہاں؟! بس! ہم لوگ اسی وقت تک مخلص ہیں جب تک بستی میں اکیلے ہیں۔ ہمارے اخلاص کی قلعی اسی وقت کھل جاتی ہے جب کوئی دوسرا کام کرنسیوالا ہمارے جیسا بستی میں آ جاتا ہے۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ مولویوں نے شہرت اور اظہار شان و شوکت کے لئے یہ سالانہ جلسے انکائے ہیں جیسے اہل دولت نے مولد شریف اور محروم و شب برات کی رسمیں نکالی تھیں۔ الغرع! یہ سب حوصلے نکالنے کی باتیں ہیں۔

### امور بدعت کی علامت

دیکھئے! جو امور بدعت ہیں وہ چند روز میں اپنی حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ مولود شریف اول تو محض ذکر رسول گی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ پھر قیام کی قید بڑھی پھر اس میں تعین تاریخ و ماہ کا اضافہ ہوا۔ پھر مٹھائی تقسیم ہونے کی شاخ بڑھی پھر گانے والے خوش الحان تجویز ہوئے جن میں اکثر امداد ہوتے ہیں اور بعض بعض جگہ مرد و عورتیں سب شریک ہوتے ہیں۔ اب وہ مولود کیا ہوا اچھی خاصی بیاہ شادی کی تقریب ہو گئی۔ جس میں اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس اہتمام میں نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ اور جماعت تو بہتوں کی فوت ہو جاتی ہے:-  
امور شرعیہ اصلیہ ہیں۔ ان میں حدود سے کچھ زیادتی نہیں ہوتی۔ دیکھئے! نماز، روزہ، تلاوت قرآن، تہجد اور اشراق یہ دین کے اصلی کام ہیں ان میں کچھ زیادتی نہیں ہوتی۔ جس حالت پر تھاںی حالت پر چلے آرہے ہیں۔  
نیز امور بدعت کی یہ بھی علامت ہے کہ سخت پریشانی کے وقت میں حذف ہو جاتے ہیں اور جو دین کے اصلی کام ہیں وہ حذف نہیں ہوتے چنانچہ طاعون و ہیضہ کے زمانہ میں یتیجہ، دسوائی، چالیسوائی سب حذف ہو جاتا ہے اور نماز، جنائزہ و کفن دفن نہیں ہوتا۔

اگر کسی سال ربع الاول میں طاعون و ہیضہ کا زور ہو جائے تو مجلس مولا دبھی حذف ہو جائیں گے اور جو ہوں گی بھی تو محض ذکر رسول ہوگا۔ مٹھائی اور حلوا اور گانا بجانا تو ضرور حذف ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ سب فرصت کی باتیں ہیں بس! یہی دلیل ہے ان کے زائد اور فضول ہونے کی۔

خیر! یہ تعلیف تھا۔ میں دلائل سے بیان کر چکا ہوں کہ دلائل شرعیہ سے اظہار غم منوع ہے کیونکہ اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اس سے غم کو ترقی ہوتی ہے اور ترقی غم سے اعمال شرعیہ اور معمولات راتبہ میں خلل پڑ جاتا ہے اور اس کا ضرر بہت سخت ہے جس کو میں پہلے بتا چکا ہوں۔

### صابرین کو بشارت

حق تعالیٰ کا مقصود یہ ہے مسلمان غم سے پریشان نہ ہوں چنانچہ اسی لئے پیشگی اطلاع فرمادی کہ ہم کو طرح طرح کی تکالیف سے آزمائیں گے۔ تاکہ دفعۃ الکفت آنے سے پریشانی نہ ہو۔ پہلے سے اس کے لئے آمادہ رہیں پھر چونکہ لدبلوکم سے معلوم ہو گیا ہے کہ مصائب کا آنا بغرض امتحان ہے اور قاعدہ ہے کہ امتحان میں دو درجے ہوتے ہیں ایک فیل ہونے کا ایک پاس ہونے کا۔ تو آگے اس امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ بتلاتے ہیں ارشاد ہے

**وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ** اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری دو۔

اس جملہ سے معلوم ہو گیا کہ اس امتحان میں پاس ہونے والے صابرین ہیں اور پاس ہونے کا طریقہ صبر ہے کیونکہ بشارت انہی لوگوں کو دی جایا کرتی ہے جو امتحان میں پاس ہوں اور اس طریقہ مفہوم یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ بے صبری فیل ہونے کا سبب ہے۔

پھر اس جگہ بشریں بشارت کا اجمالی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضورؐ کو ارشاد ہو رہا ہے کہ بس آپ تو صابرین کو بشارت دے دیجئے تفصیل نہیں کی کہ کس چیز کی بشارت دے دیجئے اس میں اشارہ ہے کہ جو کچھ وہ چاہیں گے وہی ملے گا کیونکہ بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو۔ اب اگر اس کی تفصیل کر دی جائے تو جن چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ انہی میں بشارت کا حصر ہو جائے گا۔ اور جب اجمالاً کہہ دیا گیا کہ صابرین کو خوش ہونے کی خبر دے دیجئے تو اس میں کسی چیز کی تخصیص نہیں بلکہ عموم ہے جس سے تمام خوش ہونے کی باتوں کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جس چیز سے بھی وہ خوش ہوں گے وہی ملے گی اور یہ کام حق تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ کہ ہر شخص کی خواہش کو پورا کر دیں ورنہ انسان کو تو ایک بچہ ہرا سکتا ہے۔

چنانچہ ہمارے اس قصبے میں ایک بچے نے اپنے والدین کو ہر ادیا تھا اس نے رونا شروع کیا

اور ضد کرنے لگا کہ میں تو فلاں چیز لوں گا۔ والدین نے اس کا انتظام کر دیا پھر ضد کرنے لگا کہ میں تو وہ چیز کھاؤں گا وہ بھی لا کر رکھ دی پھر ضد کرنے لگا اور کوئی چیز مانگی وہ بھی لا کر یہی جب ساری ضد میں پوری ہو گئیں تو کہنے لگا ہائے یہ چاند کیوں نکل رہا ہے اس کو چھپاو۔ بس یہاں والدین عاجز ہو گئے اور دو چار طہماں پرے مار کر اسے خاموش کیا۔

اس پر ایک لطیفہ یاد آیا۔ ایک دفعہ اکبر نے بیربل سے کہا کہ یہ جو مشہور ہے کہ تم نہیں بہت سخت ہیں جن کا پورا کرنا مشکل ہے راج ہٹ، تریا ہٹ، بالک ہٹ، تو ان میں بادشاہ اور عورت کی ضد کا دشوار ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ دونوں عاقل ہوتے ہیں ممکن ہے کسی وقت سوچ کر ایسی بات دشوار بات کہیں جو کسی سے پوری نہ ہو سکے مگر بچ کی ہٹ کا پورا کرنا کیا مشکل ہے اس میں اتنی سمجھ کہاں جو سوچ کر دشوار باتیں نکالے اور دوسروں کو عاجز کرو۔

بیربل نے کہاں حضور سب سے زیادہ مشکل بالک ہٹ ہی ہے جس کے پورا کرنے کے لئے بڑی عقل درکار ہے اکبر نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آیا اس کا امتحان ہونا چاہئے بیربل نے کہا حضور پھر میں بچہ بتتا ہوں۔ آپ میری ضد میں پوری تکمیل کرے گے۔ اکبر نے فوراً ایک کاہیا منگادی وہ پھر رونے لگا۔ اکبر نے پوچھا کیوں روتا ہے کہا ہم تو کاہیا لیں گے۔ اکبر نے فیل خانے سے ایک ہاتھی منگادیا۔ وہ پھر رونے لگا۔ کہا اب کیوں روتا ہے۔ کہا اس ہاتھی کو کاہیا میں رکھ دو۔ بس اکبر عاجز ہو گیا ہے کہا اچھا اب ہم بچے بنتے ہیں تم ہماری ضد پوری کرو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اکبر کو اور بچہ تو سبق آتا تھا۔ بیربل ہی کا پڑھایا ہوا سبق دہرا دیا کہ ہم تو کاہیا لیں گے اس نے بازار سے مٹی کا ایک ذرا سا ہاتھی منگادیا پھر کہا اس کو کاہیا میں رکھ دو اس نے اٹھا کر رکھ دیا۔ بس خاموش ہو گئے بیربل نے کہا حضور آپ نے یہ غلطی کی کہ بچہ کی فرمائش پر اتنا بڑا ہاتھی منگایا۔ آپ کو ہاتھی بھی بچے کے مناسب منگانا چاہئے تھا۔

میں کہتا ہوں کہ اکبر نے بیربل ہی کا سبق دہرا دیا تھا اس لئے بیربل نے اسے جلدی ہی پورا کر دیا۔ اگر وہ تھانہ بھون کے اس بچے سے سبق لیتا۔ تو بیربل کے باپ سے بھی یہ خند پوری نہ ہوتی کہ ہائے چاند کیوں نکل رہا ہے اسے چھپاو۔

غرض بشر کا عموم قدرت کے علوم پر دلالت کرتا ہے پھر اس میں بجائے بہتر (صیغہ متکلم کے) بشار مر اختیار کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ بشارت بواسطہ زیادہ موثر ہوتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ ہم سے خود

تکلم فرماتے تو غلبہ جلال و بیت ایسا ہوتا کہ اس غلبہ کے سامنے لذت بشارت حاصل نہ ہوتی اور جنت میں ہمارے قوی بڑھ جائیں گے۔ وہاں ہم کو اس بیت و جلال کا تخلی ہو جائے گا۔ تو تکلم با واسطہ مفید ہو گا۔

## حقیقت حجایات

باقی دنیا میں تکلم بلا حجاب کا آم کو تو کیا تخلی ہوتا۔ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی تخلی نہ ہوا۔ ان سے بھی حجاب کے ساتھ کلام ہوا ہے اور ایک دفعہ بے حجاب ہونے کی تمنا کی تھی تو دیکھنے سے پہلے ہی غلبہ انوار سے بے ہوش ہو گئے بعض لوگ تَجلیِ رَبُّہ سے وقوع رویت سمجھ گئے ہیں یہ غلط ہے اور دھوکا ہے اس سے ہوا کہ اردو میں تخلی کے معنی رویت مشہور گئے ہیں حالانکہ یہ صحیح نہیں تخلی کے معنی ظہور ہیں اور یہ فعل حق تعالیٰ کا ہے رویت مو سے علیہ السلام کے فعل رویت کا وقوع کیونکہ لازم آیا ہے قرآن میں جوان کا فعل مذکور ہے وہ وَخَرَ مُؤْسِى صَعِقًا مُوَلَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ یہ ہوش ہو کر گر پڑے ہے رویت کا کہیں ذکر کرنہیں بلکہ اس سے پہلے لَنْ تَرَنِیْ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے

مذکور ہے جو فی مَوْبِدِ کو مفید ہے اور قابلِ نسخ نہیں (کیونکہ فی مَوْبِدِ میں نسخ نہیں ہوا کرتا کما شبت فی الاصول)۔ لیکن یہ تائید مغض دنیا کے اعتبار سے ہے کیونکہ آخرت میں وقوع رویت ہو گا) بعض لوگوں کو اس سے یہ دھوکا ہوا ہے کہ آیت میں تخلی کا ذکر پہلے اور خرو ر و صعق کا ذکر بعد میں ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ خرو ر کا سبب تخلی تھی۔ تو شبہ ہوتا ہے کہ تخلی مقدم اور خرو ر و صعق تھا تو لازم آیا کہ مو سے علیہ السلام تخلی کے بعد بے ہوش ہوئے تخلی کے ساتھ بے ہوش نہیں ہوئے تو رویت پائی گئی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ تخلی و خرو ر میں تقدم و تاخر ذاتی تھی اور زماناً مقانت تھی تقدم و تاخر ذاتی کے لئے زماناً تقدم و تاخر لازم نہیں جیسا کہ اہل علم اس کو جانتے ہیں پس تخلی کے سبب خرو ر ہونے سے دونوں کی مقانتت فی الزمان کی نہیں ہوتی۔ خوب سمجھو لو۔

بہر حال دنیا میں انبیاء کو بھی بلا حجاب کے کلام الہی کا تخلی نہیں ہوا تو ہم کیا تخلی کر سکتے ہیں۔ مگر حجایات انبیاء و حجایات غیر انبیاء میں فرق ضرور ہے ان کے لئے کم حجاب ہیں کیونکہ ان میں دوسروں سے زیادہ تخلی ہے اور ہمارے لئے زیادہ حجایات ہیں کیونکہ ہمارے اندر تخلی کم ہے اس لئے بشارت بواسطہ اختیار فرمایا کیونکہ ہم لذت بشارت کو اس صورت سے اور اک کر سکتے ہیں۔ پھر حضورؐ کا واسطہ مقرر کر کے بھی صیغہ بشر اختیار فرمایا یہ نہیں کہا

وَقُلْ لَهُمْ إِنَّا نُبَشِّرُهُمْ أَنَّا سَمِعْنَا بِمَا يَقُولُونَ

یعنی واسطہ کے بعد بھی صیغہ تکلم نہیں فرمایا تاکہ لوگ بے فکری سے سن لیں کیونکہ قاعدہ ہے کہ اگر بادشاہ پس پرداز ہو اور تکلم اپنی زبان پر کر رہا ہو جہاں پناہ یوں فرماتے ہیں جب بھی جلال کا غلبہ ہوتا ہے گواں قدر نہ ہو جتنا تکلم بلا حجاب میں ہوتا اور اگر وہ پس پرداز بیٹھ کر وزیر سے یوں کہے کہ تم ان لوگوں سے یہ کہہ دو تو اس صورت میں جلال کم ہوتا ہے گواں وقت بھی وزیر کا کلام بادشاہ کا کلام ہی ہو گا۔ مگر چونکہ وہ اپنی زبان پر تکلم کر رہا ہے۔ بادشاہ کی زبان پر تکلم نہیں کر رہا اس لئے جلال کا اثر کم ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں حق تعالیٰ نے حضور کا واسطہ رکھا ہے اور حضور بھی کون جن کی شان یہ ہے۔

**رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ** (کہ آپ ہمارے ہی میں سے رسول ہیں) کوئی اجنبی اور غیر شخص نہیں اور اپنے ہم جنس و وہم قوم سے انس بھی زیادہ ہوتا ہے فیض بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو بھی ہمارے حال پر زیادہ شفقت ہوتی ہے تو ان وسائل کا اثر ایسا ہے جیسے گرمی کو خس کی ٹیکی کے اندر بھندی ہو کر آیا کرتی ہے تو یہ جبابات خس کی ٹیکی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو وہ حالت ہو جائے جو حدیث میں وارد ہے۔

لا حرقت سبحات وجهه ما انتہی الیه بصر (لِمْ أَجَدِ الْحِيْثَ فِي  
”موسوعة اطراف الحديث“

”تو اس کے چہرے کے جلوے ہر اس چیز کو جلا دیں جہاں تک آنکھ پہنچے“

غرض! جملہ بشر الصابرین میں یہ بھی بتلا دیا کہ اس امتحان میں پاس ہونے والے کون ہیں اور یہ بھی بتلا دیا کہ پاس ہونے کا طریقہ کیا ہے پھر ساتھ ساتھ ان کو انعام ملنے کی بشارت بھی دیدی ہے اور عموم بشارت سے انعام و جزا کی عظمت اور اپنے عموم قدر کو بھی واضح کر دیا پھر صیغہ امر اختیار کر کے بشارت بواسطہ کا زیادہ منفرد و مؤثر ہوتا بھی بتلا دیا۔

(پھر چونکہ عادت یہ ہے کہ کسی علم و فن میں امتحان دینے والی جماعت کو اس شخص کے ہاتھ سے انعام دلواتے ہیں جو اس فن میں کامل و ممتاز ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صابرین کے لئے واسطہ بشارت بناؤ کر یہ بھی ظاہر کر دیا گیا کہ آپ اکمل الصابرین ہیں اور تخلی مصائب میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ کما ورد فی الحدیث:

اوذیت فی اللہ عالم یؤذ احمد (فتح الباری لا بن حجر ۷: ۱۶۶)

کہ مجھے اللہ کی راہ میں اس قدر ایذا دی گئی جتنی کسی اور کو نہیں دی گئی۔

## اَنَّ اللَّهَ كَيْفَ فَضَلَّتْ

قرآن کے ایک ایک لفظ میں اتنی دلائیں اور اس قدر رعائیں اعجاز قرآن کی دلائل ہیں

آگے فرماتے ہیں اللذین اذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ جملہ یا تو صفت مادھے ہے اور مطلب یہ ہے کہ بشارت جن صابرین کے لئے ان کی یہ خاص مدح ہے یا صفت مقیدہ ہے کہ صابرین میں جن کی یہ شان ہے صرف انہی کے لئے بشارت ہے۔ بہر حال اس سے ہر مصیبت کے وقت انا اللہ پڑھنے کی فضیلت ثابت ہوئی۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ گل ہو جانے پر بھی انا اللہ پڑھا کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ روشنی بھی نعمت ہے واقعی رات کو اندر ہیرے مکان میں جب چراغ روشن کیا جاتا ہے تو جان میں جان آتی ہے۔ اندر ہیرے گھر سے وحشت سی معلوم ہوتی ہے اس لئے آپ نے چراغ گل ہوئے انا اللہ پڑھ کر روشنی کا نعمت عظیمی ہونا اور..... اندر ہیرے کا مصیبت ہونا ظاہر کر دیا۔

مگر آج کل انا اللہ بہت بدنام ہو گیا ہے لوگوں نے اس کو مردوں کیلئے خاص کر لیا ہے۔

گنگوہ میں ایک لڑکا ہربات پر انا اللہ پڑھا کرتا تھا تو ایک بڑھیانے کہا بچے خدا سے خیر مانگ۔ تو ہربات پر انا اللہ پڑھ کر کس کو مارے گا شاید بڑھیا کو اپنی ہی فکر ہوئی ہو گی کہ بس سب سے زیادہ میری عمر ہے کہیں انا اللہ سن کر ملک الموت گھر میں نہ آگھیں اور مجھے سب سے زیادہ عمر والی دیکھ کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ اسی طرح لااحول بھی بہت بدنام ہے۔

کانپور کا ایک قصہ ہے کسی نے دوسرے کو دور سے دیکھ کر سمجھا کہ یہ فلاں شخص ہے پاس پہنچا تو اور تھا اس نے اپنی غلطی پر لااحول پڑھ دی وہ دوسرا شخص اس کے سر ہو گیا کہ تم نے مجھ کو شیطان کہا وہ ہر چند سمجھاتا ہے کہ میں نے تم پر لااحول نہیں پڑھی اپنی غلطی پر پڑھی ہے مگر وہ کسی طرح مانتا ہی نہیں بہت مشکل سے چیچھا چھڑ لیا۔

سورہ لیسیں بھی بہت بدنام ہے اس کو بھی لوگوں نے مردوں کے لئے خاص کر لیا ہے حالانکہ حدیث شریف میں اس کی بہت فضیلت آتی ہے اس سورۃ کو دم کرنے سے بڑے مہلک امراض میں شفا حاصل ہوتی ہے مگر میں جب کسی مرض پر یہ سورۃ دم کرتا ہوں تو آہستہ پڑھا ہوں کہیں زور سے پڑھنے میں وہ بیمار یا اس کے گھروالے یہ نہ کہیں کہ مارنے کو آیا تھا۔

وہلی میں ایک دفعہ مومن خان شاعر تراویح میں قرآن سنتے تھے ایک ڈوم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ وہ مومن خان سے چند روز کے بعد کہنے لگا کہ خان صاحب وہ سورۃ آویں جو مردوں پر پڑھی جاتی ہے تو مجھے ایک دن پہلے کہہ دینا تاکہ میں اس دن شاؤں۔ اس کے سنتے

سے آدمی مر جاتا ہے۔ مومن خان نے وعدہ کر لیا چند روز کے بعد اس نے یہ بات پھر یاد دلائی تو مومن خان نے کہہ دیا کہ وہ سورت تو پڑھی بھی گئی مجھ کو کہنا یا وہ نہیں رہا۔ بس ڈوم یہ سن کر سہم ہی تو گیا کہ ہائے وہ سورت پڑھی گئی اور وہم کی وجہ سے اس کی روح تحلیل ہو گئی اور دو تین دن میں مر گیا یہ محض اس کے وہم کا اثر تھا۔ اس سورت کا اثر نہ تھا ورنہ آج کل لوگ کیوں نہیں مر جاتے۔

ایک شخص نے کسی گاؤں میں جا کر حافظ ہونے کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ پورا حافظ نہ تھا کہیں کہیں سے سورت میں یاد تھیں۔ رمضان شریف میں آپ نے قرآن سنایا اور جتنا یاد تھا وہ چند روز میں سنا کر کہہ دیا کہ قرآن ختم ہو گیا، مٹھائی بانٹو مجھے نذر انہ دو۔ گاؤں والے اس کے جھوٹ یا حق کو کیا سمجھتے۔ مگر ایک شخص کو ان میں سورۃ یسین یاد تھی اس نے کہا حافظ جی! آپ نے یہ کیا ختم کیا سورۃ یسین تو پڑھی ہی نہیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ بے وقوف تو زندوں پر یسین پڑھوانا چاہتا ہے۔ اب وہ تو مردوں پر پڑھی جاتی ہے۔ اگر میں تراویح میں اسے پڑھ لیتا تو تم سب مر جاتے۔ گاؤں والے بہکانے میں آگئے اور رالا مضر، ہی کو وہم کانے لگے کہ تو ہمیں مارنا چاہتا ہے جو زندوں پر یسین پڑھواتا ہے۔

ای جہالت کا یہ اثر ہے کہ لوگ سوائے موقع موت کے اور کسی جگہ انا اللہ پڑھنے سے رکتے ہیں حالانکہ (حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان پر کوئی مصیبت آؤے وہ انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھ لے تو حق تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں اور جب کبھی اس مصیبت کو یاد کر کے انا اللہ پڑھے گا تو وہی ثواب ملے گا جو صد مہ اویٰ کے وقت ملا تھا)

میں بتا چکا ہوں کہ انا اللہ کا مضمون ایسا ہے کہ اس کو متحضر رکھنا غم کو بہت ہلکا کر دیتا ہے جس کی تفصیل اور گزر چکی ہے۔

افسوں! لوگوں نے مر ہم کو نشر سمجھ لیا ہے۔ محض جہالت ہے اس خیال کو دل سے نکال کر مصیبت کے موقع میں انا اللہ پڑھنا چاہئے اور اسکے مضمون میں غور کرنا چاہئے۔ انشاء اللہ غم پاس بھی نہ رہے گا اور ہلکا تو ضرور ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ نے یہ دوسرا سامان کیا ہے تخفیف حزن کا کردن تجذبہ کے موقع کیلئے ایسا مرائقہ ہم کو آیا ہے جو غم کو ہلکا کرتا ہے تاکہ صبر آسان ہو جائے اور ہم مصیبت کے وقت صابرین میں داخل ہو کر امتحان میں پاس ہو جائیں اور صابرین کیلئے جس انعام کی بشارت ہے اسکے متحقق ہو جائیں۔

### صبر کی حقیقت

اب صبر کی حقیقت سنئے تاکہ وہ غلطی رفع ہو جائے جس میں عام طور پر لوگ بتلا ہیں کیونکہ

تہمید میں معلوم ہو چکا ہے کہ لوگ صرف جزع فزع نہ کرنے کو صبر سمجھتے ہیں اور مداومت اعمال کو صبر میں داخل نہیں سمجھتے ان کے نزدیک بے صبری فقط جزع و فزع کا نام ہے۔ حالانکہ مصیبت کے وقت اعمال میں کوتا، ہی اور کمی کر دینا بھی بے صبری میں داخل ہے اور اس کا انجام جزع و فزع سے بھی اشد ہے اس کے لئے اول عبر کے معنی سمجھنے چاہئیں۔

تو صبر کہتے ہیں لفظ میں جس کو یعنی رکنے کو اور اصطلاح شرع میں صبر کے معنی جس نفس ہیں یعنی نفس کو روکنا۔ عربی میں صبر کا استعمال ..... مختلف صلات سے ہوتا ہے۔ اور صلات سے لفظ کے اصل معنی کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایک لفظ کا استعمال مختلف صلات سے ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا اصلی صلہ کون سا ہے اور عارضی صلہ کونسا ہے۔ اسلئے حقیقت میں خلط واقع ہو جاتا ہے۔ لفظ صبر کی حقیقت بھی بعض لوگوں پر اسی لئے مخفی ہو گئی کہ اس کا استعمال مختلف صلات سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ کبھی لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک شاعر کا قول ہے۔ اصبر لکل مصیبة و تجلد۔ کہیں صلہ فی سے آتا ہے جیسے وَالصَّابِرُونَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضُّرَّاءِ (اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہیں تجھ دتی میں اور یماری میں) کہیں عن سے آتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ایک منافق کا قول آتا ہے جو غزوہ تبوک میں اس نے کہا تھا انی امرأ لا اصبر عن النساء (میں عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا) کہیں علی سے آتا ہے جیسے وَاصْبِرْ عَلَى مَا آصابَكَ کہیں سے باعساء آتا ہے جیسے وَاصْبِرْ وَمَا صَبُرْكَ إِلَّا بِاللَّهِ (اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم) صبر کجھے اور آپ کا صبر کرتا خاص خدا ہی کی توفیق سے ہوا) کہیں مع سے آتا ہے جیسے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشَيْ (اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کجھے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اُنکی رضا جوئی کیلئے کرتے ہیں) یہ تو وہ حروف ہیں جو بطور صلم کے لفظ صبر کے ساتھ مستعمل ہوتے ہیں۔

بعض حروف ایسے بھی ہیں جو اس کے ساتھ مستعمل ہیں مگر ان کو صلم صبر نہیں کہا جاسکتا جیسے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (اور صبر کجھے جیسے او العزم رسولوں نے صبر کیا) اور واصبر حتیٰ یاتی اللہ با مرہ۔ (اور صبر کجھے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آپ تک پہنچے) کیونکہ کاف اور حتیٰ ہر فعل کے بعد مستعمل ہو سکتے ہیں جن سے مقصود تشبیہ اور بیان غایت ہوتا ہے اور تشبیہ اور غایت ہر فعل اے اس تقریر سے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا تجربہ عربیت میں اور وسعت نظر طرق کلام میں اور مذاق صحیح فہم حقائق الفاظ میں بخوبی واضح ہے میں نے بہت غور کیا کہ صبر کا کوئی صلان صلات مذکورہ کے سوا اور بھی ہے مگر میں ملا۔ ۱۲ جامع۔

کیلئے ہو سکتی ہے۔ اس لئے ان کا استعمال بطور صد کے نہیں۔ بلکہ صلات وہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئے۔ مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلی صد عن وعلی ہیں۔ باقی صلات باعتبار خصوصیات مقام کے ظروف ہیں اور وجہ عن وعلی میں حصر کی یہ ہے کہ صبر کا مدخول یا مامور بہ ہے یا منہ عنہ ہے۔ کیونکہ صبر کے معنی جس کے ہیں۔ پس کبھی کسی بات کے اوپر جس ہوتا ہے کبھی کسی بات سے جس ہوتا ہے جس بات کے اوپر روکا جائے وہ مامور بہ ہے اور جس بات سے روکا جائے وہ منہ عنہ ہے۔ جس کے تھی دوحل اصلی ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی حالت اصلی۔ نہیں بس جہاں صبر کا استعمال بدول عن وعلی کے معلوم ہوتا ہے وہاں یہ اصلی صد مقدر ہو گا۔

**مثلاً الصَّابِرُونَ هُنَّ الْأَسَاءُ وَالضُّرَاءُ** (اور وہ لوگ مستغل رہنے والے ہیں تھے دتی میں اور یہماری میں) کی اصلی تقدیر یہ ہے الصبرین علی احکام اللہ والمحتر زین عن معاصیۃ فی الباساء والضراء اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهِمْ کی اصل یہ ہے واصبر علی حکم اللہ حال کونک جالسا مع اللذین یدعون ربھم۔ الخ۔ اور وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرْكَ إِلَّا بِاللَّهِ کی اصل یوں تھی واصبر علی امر اللہ وما صبرک علیہ قائمًا بشیء الا بالله اسی طرح ہر جگہ غور کر لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ جہاں یہ لفظ عن وعلی کے بغیر استعمال ہوا ہے وہاں اصلی صد مقدر ہے اور جو حرف جرم ذکور ہے وہ صبر کا صد نہیں۔ بلکہ کسی فعل مخدوف کا صد ہے اور زیادت تعمق سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا اصلی صد صرف ایک ہی ہے یعنی عن وعلی بھی اصلی نہیں بلکہ عارضی ہے۔

## اجرو ثواب

وجہ اس کی یہ ہے کہ صبر فی نفسہ مامور بہ ہے اور مامور بہ میں اصل افعال وجود یہ ہیں نہ کہ متروک۔ پس صبر کا مدخول اصلی فعل مامور بہ ہی ہونا چاہئے اور اس کے مناسب صد حروف عن وعلی ہی ہے نہ کہ عن۔ اور جہاں صبر کا صد عن آیا ہے وہاں گو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدخول صبر منہ عنہ ہے۔ مگر تاہل کے بعد معلوم ہوتا کہ وہاں بھی ایک نہ ایک مامور بہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ متروک کی دو قسمیں ہیں ایک ترک عدمی ایک ترک وجودی اور یقیناً ترک عدمیہ متعلق صبر نہیں ہو سکتے کیونکہ اور پر معلوم ہو چکا ہے کہ صبر مامور بہ ہے اور اس میں اجر ثواب کی بشارت دی گئی ہے پس لازم ہے کہ اس کا مدخول ایسی شے ہو جس پر ثواب مل سکے اور ترک عدمیہ پر اجر نہیں ہے ورنہ چاہئے کہ قیامت میں ہر شخص مسلم کے حنات غالب اور سینات مغلوب ہوں کیونکہ ہر وقت میں انسان کرتا ایک کام کو ہے اور ہزاروں گناہوں کو ترک کرتا ہے۔

مثلاً ایک شخص کھانا کھا رہا ہے۔ اس وقت وہ زنا اور غیبت اور چوری ڈاکہ ظلم وغیرہ سے بچا ہوا ہے۔ پانی پیتا ہے تو اس وقت بھی وہ ہزاروں گناہوں کو ترک کئے ہوئے ہے۔ سوتا ہے تو اس وقت بھی وہ دنیا بھر کے فضول اور لغو کاموں سے الگ ہے۔

یا فرض کرو کہ ایک شخص کسی گناہ کا مرتب ہے تو وہ اس وقت ایک گناہ کے سواباتی تمام گناہوں سے بچا ہوا ہے تو چاہئے کہ ہر گناہ کے ساتھ اس کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں بھی لکھی جائیں اور اس صورت میں حسنات کا سدیات پر غالب ہونا لازم ہے تو ایسا کوئی شخص نہ نکلے گا جس کے سدیات غالب ہوں حالانکہ یہ نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ترک عذر میہ پر کوئی اجر نہیں۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ اس صورت میں ترک غیر اختیاری ہے نہ کہ اختیاری اور ثواب امور اختیاریہ پر ملتا ہے نہ کہ غیر اختیاریہ پر (قانون یہی ہے گو حق تعالیٰ کسی کے ساتھ اپنے فضل سے اس کے خلاف بھی معاملہ کر سکتے ہیں۔ مگر اس سے قاعدہ پر شخص وارونیہ ہو سکتا۔)

جب یہ بات سمجھی میں آگئی تو اب میں کہتا ہوں جہاں صبر کا صدر عن ہوتا ہے وہاں متعلق صبر ترک وجودی ہو گانہ کہ ترک عذری اور ترک وجودی بھی مامور بکی ایک فرد ہے۔ پس گو بعض جگہ مدخول صبر منہ عن معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ بھی مامور ہے مثلاً اس منافق کے قول میں جو لا اصبر عن النساء وارو ہے اس کی اصل یہ ہے کہ لا اصبر على کف النظر عن النساء اس جگہ مدخول صبر کف انظر ہے جو ترک وجودی ہے اور یہ حقیقت میں مامور ہے چنانچہ ارشاد ہے قُلْ لِلّٰهِ مُنِيبُونَ يَعْضُوَا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اس میں غرض بصر کا امر ہے اور یہی کف انظر ہے پس کف انظر کا مامور بہ ہوتا ثابت ہو گیا۔ لہذا یہ بات محقق ہو گئی کہ صبر کا اصلی صدر علی ہے عن بھی اصلی صدر نہیں۔ بلکہ یہ بھی خصوصیت مقام کے لحاظ سے بطور ظرف کے آتا ہے جب صبر کا اصلی صدر متین ہو گیا ہے تو معلوم ہوا کہ مافیہ الصبر جسے محل صبر بھی کہتے ہیں اور مانعیہ الصبر اور عن الصبر ایک ہی چیز ہے یعنی عمل۔

اب اس کی حقیقت بھی واضح ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ صبر کے معنی جس افس علی الاعمال ہیں یا جس افس علی احکام اللہ ہیں یعنی نفس کو اعمال، طاعات و احکام الی پر جمانا اور روک کر کتنا اس میں سب اعمال آگئے جن میں ترک وجودیہ بھی آگئے۔ پس حقیقت صبر استقامت علی الاعمال ہے اور اس میں ترک منہیات بھی داخل ہے لہذا ابشر الصابرین کا حاصل یہ ہوا کہ جو لوگ مصائب میں اعمال طاعات پر مجھے رہتے ہیں۔ ان کے لئے بشارت ہے۔

## صبر کے معنی

صبر کے معنی صرف نہیں ہیں کہ مصائب میں جزع فزع کو ترک کر دے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ناگوار واقعات میں بھی اپنے معمولات پر مستقل رہے اور منہیات سے بچا رہے پس یہ کتنی بڑی غلطی تھی کہ لوگوں نے صبر کے مفہوم اصلی کو تو اس کی حقیقت سے خارج کر دیا اور اس کی ایک فرویتی جزع و فزع ن کرنے میں اس کو مختصر کر دیا۔ حالانکہ جس طرح مصیبت کا یہ حق ہے کہ اس وقت جزع و فزع نہ کرے یہ بھی ایک براحت ہے کہ اعمال میں تقلیل اور اختلاط نہ ہونے پائے۔ بدلوں اس کے حقیقت صبر کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص ایسے وقت میں اعمال میں کوتا ہی کرنے لگے وہ صابر کہلانے کا ہرگز مستحق نہیں ہو سکتا۔

اہذا مصائب میں اہتمام اعمال کی سخت ضرورت ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس کی بالکل پرواہ نہیں بس جہاں کوئی ناگوار بات پیش آئے۔ اب ذکر بھی ناجائز ہے اور تہجد بھی رخصت ہے۔ تلاوت قرآن بھی ندارد ہے اور جماعت کا اہتمام بھی فوت ہے۔ اس وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس مصیبت کے بعد معمولات کی پابندی شروع کروں گا۔ مگر یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے بعد دوسرا مصیبت آجائے۔ پھر یہ کہو گے کہ اس کے بعد پابندی کروں گا ممکن ہے اس کے بعد بھی کوئی حادثہ ہو جائے تو تم اسی امر و زور و را میں رہو گے اور عمر بھر پابندی نصیب نہ ہوگی۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں

گر گریزی بر امید راحتے ہم آبخا پیشت آید آفتے

(اگر کسی راحت یا آرام کی جگہ پر بھاگتا ہے تو اس جگہ بھی تجوہ کو کوئی آفت پیش آئے گی) صاحب! اس طرح تو عمر گزر جائے گی اور آپ کو فراغ کا وقت نہ ملے گا، بس اگر پابندی چاہتے ہو تو ہمت کر کے مصیبت ہی میں کام شروع کر دو۔ کام کا خاصہ ہے کہ وہ خود بخود فراغ پیدا کر دیتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

یچ کنجے بید و د و بے دام نیست جز بخلوت گاہ حق آرام

و کوئی گوشہ دام و د و سے خالی نہیں خلوت گاہ حق کے سوا کہیں آرام نہیں ہے

انسان چاہتا ہے کہ ذکر اللہ اور اعمال طاعات سے پہلے فراغ اور راحت قلب حاصل ہو جائے تو پھر ان میں مشغول ہوں مولانا فرماتے ہیں کہ فراغ و راحت اس کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا پس جس چیز کے تم منتظر ہو اس کا ذریعہ وہی ہے جس کو تم چھوڑے ہوئے ہو اور اس کے بغیر تمہارا فراغ اور راحت کو طلب کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں یوں کہے کہ دریا

میں اس حال سے کیونکر جاؤں میں تو ناپاک اور پاک مجھے پاک ہو کر دریا میں جانا چاہئے تو دریا اس سے یہ کہے گا کہ مجھ سے دورہ کر تو پاک ہو، ہی نہیں سکتا۔ پاک ہونے کی تو یہی صورت ہے کہ تو اسی حال سے میرے اندر چلا آ۔ اسی طرح ہمارا یہ خیال خام ہے کہ غم سے خالی ہو کر ذکر و طاعات میں مشغول ہوں گے۔ صاحب غم سے خالی ہونے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ اسی حالت میں کام شروع کر دیں۔ وہ خود سارے غنوں کو دور کر دے گا۔

واللہ مصیبت کے وقت ذکر و طاعات ہی سے غم ہلکا ہوتا ہے اور ان میں کمی کر کے اور زیادہ پریشانی برداشتی ہے آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر مصالحہ کا نزول ہو رہا ہے اور نہ معلوم یہ کب تک زائل ہوں گے۔

### ذائق اصلاح کا طریقہ

آج کل لوگوں کو اس کی وجہ سے تشویش ہے اور زیادہ وقت اسی قسم کی باتوں میں صرف ہوتا ہے۔ معمولات کی پابندی بالکل فوت ہو گئی ہے جو لوگ اس قسم کی باتوں میں مشغول ہیں انہوں نے تو معمولات سابقہ کو بالائے طاق ہی رکھ دیا ہے۔ مگر جو لوگ فضول باتوں سے الگ بھی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی تشویش سے خالی نہیں ہیں ان کے معمولات میں بھی خلل واقع ہو رہا ہے اور جو ہمت کر کے معمولات کی پابندی پر جمے ہوئے بھی ہیں ان کا بھی بعض دفعہ پریشانی کی وجہ سے کام میں دل نہیں لکتا۔ مجھے خود اپنے اندر یہ بات محسوس ہوتی ہے اور میں نے تجربہ کیا ہے کہ جب مجھے کسی بات پر عمل دشوار ہوتا ہے تو میں اسی کے متعلق بیان کر دیتا ہوں۔ اس سے مجھے عمل میں ہولت ہو جاتی ہے۔

اس لئے یہ مضمون میں نے اپنی اصلاح کی غرض سے بھی اختیار کیا ہے اور یہ بھی مقصود ہے کہ اگر کسی اور کو یہ بات پیش آرہی ہو تو وہ بھی اپنی اصلاح کر لے اور سامعین میرے واسطے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مصالحہ میں ایسا استقلال عطا فرمائیں کہ تشویش سے معمولات فوت نہ ہوں اور ہمیشہ کی طرح جمیعی سے پورے ہوتے رہیں اور یہ بھی دعا کریں کہ حق تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر سے ان مصالحہ کو دور فرمائیں اور جس حکمت کے لئے یہ بھیجے گئے ہیں اس کا اثر ہمارے اندر ظاہر ہو۔ کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ناگوار و اقعات میں حکمت ہوتی ہے جس سے مبتلا کو سبق اپننا چاہئے۔ یہ بڑی غلطی ہے کہ حکمت کو چھوڑ کر واقعہ ہی کو سبق بنالیا جائے جیسا کہ ہم لوگوں نے کر رکھا ہے۔ کہ بس رات وان اسی کی تذکرہ میں رہتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ مصیبت ہم پر کیوں

نازد ہوئی ہے اگر ہماری حالت میں کوئی نقص ہو تو اس کی تلافی کر کے حالت کو درست کرنا چاہئے تاکہ پر حق تعالیٰ کا فضل و کرم متوجہ ہو اور یہ تازیانہ عبرت ختم ہو مگر افسوس! ناگوار واقعات سے بحق لینے کی ہم کو عادت نہیں۔ بس یہ بحق سیکھ رکھا ہے کہ مصیبۃ کو مشغله بنایتے ہیں۔ چنانچہ طاعون و ہیضہ کے زمانہ میں بعض لوگوں کو اسی کا شغل ہو جاتا ہے کہ آج اتنے مرے کل اتنے مرے۔

اصلاح اعمال پر بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ یہی طریقہ ہم نے آج کل اختیار کر رکھا ہے کہ سوائے اخباری باتوں کے اور کچھ شغل ہی نہیں رہا۔ جہاں بیشتر ہیں بس یہی باتیں ہیں اور اسی کا تذکرہ۔

میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رفع مصیبۃ کی تدبیر نہ کریں۔ نہیں جس طرح طاعون و ہیضہ کے لئے حفظ مالقدم کا اہتمام جائز ہے اور یہماری دوادار و مسنون ہے اسی طرح ہر مصیبۃ کی تدبیر جائز ہے۔ اگر کچھ تدبیر کرنی ہو شوق سے کرو۔ مگر کیا وہ باتیں جو ہم رات دن کرتے ہیں یہ بھی تدبیر میں داخل ہرگز نہیں بلکہ ان سے بجز مشغله کے اور کچھ مقصود نہیں۔ آج کل جو ہر مجلس میں باتیں ہوتی ہیں وہ تدبیر کی باتیں نہیں محض دل بھلانے کا مشغله ہے لوگوں کو اس میں مزہ آتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کی جائیں چنانچہ آج کل یہ تازہ واقعہ ہندو مسلمان کے فساد کا ظاہر ہوا ہے لوگوں نے اسی کی باتوں کو مجلس آرائی کا ذریعہ بنالیا۔ میں تدبیر کو منع نہیں کرتا۔ تدبیر کریں مگر کون وہ لوگ جو اہل تدبیر ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ عامی نہ خوبی اور نہیں ہو سکتا تدبیر کرنے والے خاص لوگ ہوتے ہیں نہ کہ ہر شخص۔ اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ یہ باتیں تدبیر کے لئے ہوتی ہیں۔

اگر تدبیر کرنی ہو اس کی دو صورتیں ہیں ایک باطنی ایک ظاہری۔ باطنی تدبیر تو یہ ہے کہ اس وقت مصیبۃ کے حقوق شرعی کو ادا کرنا چاہئے۔ شریعت نے مصیبۃ کے وقت صبر کی تعلیم کی ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اعمال طاعات پر استقلال و پابندی ہو اور جزع و فزع و اظہار غم سے احتراز ہو۔ جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے اور میں بتلا چکا ہوں۔ کہ غم زائل ہونے میں ذکر اللہ و اعمال طاعات کو بڑا دخل ہے۔ مگر افسوس! آج کل اس طرف کسی کو بھی توجہ نہیں۔ ان واقعات میں اعمال کا تو خون ہی ہوتا ہے اور جزع فزع و اظہار غم بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔

چنانچہ پہلی تحریکات میں شریعت سے بہت تجاوز کیا گیا۔ کفریات و معاصی میں بہت لوگ بتلا ہوئے۔ اور صاف کہا جاتا تھا کہ یہ وقت مسائل کی بحث کا نہیں کام ہونا چاہئے۔

افسوس اور اسلامی کام ہی کیا ہو! جس میں خدا تعالیٰ کو تاراض کیا گیا۔ اس کے علاوہ سڑکوں اور

گلیوں میں اسلام کا نوحہ اشعار میں پڑھا جاتا تھا یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو محروم میں شہادت نامہ والوں نے اختیار کر رکھا ہے آج کل وعظوں اور تقریروں میں بھی یہی سبق رہ گیا ہے کہ دخراش الفاظ میں اسلام اور مسلمانوں کے ضعف کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مصاحب میں مسلمانوں کو استقلال و شہادت کے ساتھ رہنا چاہئے کسی طریقہ سے اظہار غم کر کے اپنی کمزور و کو طشت از باسم نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس سے غیر اتوام کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور مسلمان ان کی نظر و میں گر جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ نتائج بداس حرکت کے اب ظاہر ہو رہے ہیں۔ مگر افسوس اس مفسدہ پر کسی کی بھی نظر نہیں۔

پس سب سے پہلا کام اس وقت ہمارے ذمہ یہ ہے کہ معمولات سابقہ میں کمی کر کے اور اعمال میں حدود شریعت سے تجاوز کر کے کبھی مصیبت زائل نہیں ہو سکتی چاہے تم کتنی تدبیر کرو۔ اس حالت سے غم کو ترتی اور پریشانی میں زیادتی ہو گی۔

دوسری صورت تدبیر ظاہری کی ہے اس کی آسان اور سہل صورت یہ ہے کہ کسی کو اپنا بڑا بنا لو اور بڑا یہ شخص کو بناؤ جس کی ذہانت اور تقویٰ پر پورا اعتماد ہو کہ یہ کسی مصیبت یا پریشانی میں شریعت سے تجاوز نہ کرے گا۔ نیز اس کی عقل و تدبیر پر بھی اعتماد ہو۔ ایسے شخص کو بڑا بنا کر اس سے پریشانی ظاہر کر دو اور بے فکر ہو جاؤ پھر وہ جو کچھ بتلوے اس کے موافق عمل کرو تم تدبیر میں نہ کر دو وہ خود تدبیر کرے گا۔ تم اپنے دینی اور دنیوی کام میں بے فکری سے لگے رہو اور سارا بوجہ اس کے اوپر ڈال دو اور چونکہ وہ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ نے اسکو عقل و تدبیر بھی کامل دی ہے۔ وہ اس بوجہ سے گھبرائے گا نہیں بلکہ اپنے قبیعین سے یوں کہہ گا

من غم تو می خورم تو غم خور  
بر تو من مشق قرم از صد پدر  
”میں تمہارا غم کھاتا ہوں تم غم مت کھاؤ اور میں تم پر باب سے زیادہ مشق ہوں۔“

اس صورت میں مسلمانوں کا نہ کوئی دینی کام بند ہو گا نہ دنیوی۔ سب کام اپنے قaudde سے چلتے رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بات حکام وقت سے کہنے کی ہو تو اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے حکام کو اطلاع کر دو۔ اب جو کام ان کے کرنے کا ہے وہ خود کریں۔ اگر پھر بھی تم پر کوئی ناگہانی آفت آجائے تو وقت پر صبر کرو اور اگر کوئی ہنگامہ ہو جاوے تو تم کو لازم ہے کہ خود ظلم نہ کرو اور اپنی حفاظت کرو اس صورت میں غالب تو یہ ہے کہ دوسرا بھی ظلم سے باز آجائے گا۔ اور اگر وہ ظلم ہتی کرے تو تم شہید ہو جاؤ گے اس میں بھی مسلمان کا نقش ہے۔

شہادت وہ چیز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لئے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔

اللهم ار زقني شهادة فی سبیلک واجعل موتي ببلد رسولک  
”اَسْكُنَ اللَّهَ مَحْكَمًا پِنْ رَاهِ میں شہادت نصیب فرمایا اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقرر فرم۔“  
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کیا کرتے تھے۔

وددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احی ثم اقتل ثم احی ثم اقتل  
(تاریخ بغداد للخطیب ۲:۷)

(میں اور تفصیل کے ساتھ اس کی فضیلتیں کسی قدر بیان کر چکا ہوں مگر اتنی بات پھر کہے دیتا ہوں کہ جان دینا اسی وقت شہادت ہے جب شریعت کے موافق ہو ورنہ خود کشی ہے۔)

## اسباب تنزل

تو ظاہری تدبیر کی یہ صورت ہے۔ مگر افسوس! آج کل ہر مسلمان متفلکر نظر آتا ہے یہ خود رائی کا نتیجہ ہے ان کے سر پر کوئی بڑا نہیں۔ ہے نہ کسی کو بڑا بنتا ہے اس لئے ہر کس خود تدبیر کرنا چاہتا ہے اور ایرا غیرا، تھو خیرا تدبیر کے اہل نہیں تو پریشانی ہی پریشانی بڑھتی ہے۔ ہمارے اندر اتفاق و اتحاد نہیں۔ اس لئے ہمارا کوئی مرکز نہیں اور بدلوں کسی مرکز کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پہلی تحریکات میں ہم کو شرکت کے لئے کہا جاتا تھا۔ ہم نے کہا شرکت کے لئے کہا جاتا ہے۔ ہم نے کہا شرکت کیلئے کچھ شرائط ہیں جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کوئی بڑا اور سردار ہو اور وہ اس شان کا ہو کہ اگر کوئی اس کے حکم کی مخالفت کرنا چاہے تو قوت سے اس کو دبا سکے اور اس کی ضرورت اس لئے ہے کہ بدلوں اتحاد باہمی کے کوئی کام نہیں چل سکتا۔ اور جس طرح کسی کام کے لئے حدوث اتحاد کی ضرورت ہے بقاء اتحاد کی بھی ضرورت ہے اور بقاء اتحاد بدلوں کسی سردار کے نہیں ہو سکتا۔

ایک شخص ایسا بھی تو ہونا چاہئے جو اپنی قوت و شوکت سے اس اتحاد کو قائم رکھ سکے۔ بس وہ قہری وحدت ہو ورنہ ارادی وحدت کیا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ان تحریکات میں آپ نے جن لوگوں کو بھائی بنایا تھا۔ انہوں نے دشمنی کا برتاب و شروع کر دیا وہ..... ارادی اتحاد تھا۔ جب انہوں نے چاہا اہل کر دیا۔

تو یہ اتحاد جو بدلوں کسی سردار کے ہو، لڑکوں کی یاری سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ لڑکے آپ

---

۱۔ مرا دیجیکات خلافت ہیں۔ اس کے بعد دوسری تحریکات انسداد فتنہ ارادی کی پیدا ہوئیں جو اس دعظ کے وقت ابتدائی حالت میں تھیں۔ (۱۲ چالمع)

میں دوستی کرتے ہیں اور ذرا سی بات پر کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ آج سے یاری کٹ کر دی۔ یہ تو نئے بھائیوں کا حال ہوا اور جو پہلے سے قدیم بھائی تھے یعنی مسلمان، ان کو اصحاب تحریکات نے فاسق اور ڈرپوک بنانے سے بایکاٹ کر کے خود ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بایکاٹ نہیں بلکہ بھائی کاٹ ہے کیونکہ اس کی زیادہ تر مسلمانوں ہی پر مشق کی گئی ہے تو اب ان کے ہاتھ سے دونوں جاتے رہے وہی قصہ ہو گیا کہ جہانگیر نے نور جہاں کو پچین میں شادی سے پہلے ایک موقع پر دو کبوتر دیئے تھے کہ ان کو اپنے ہاتھ میں لئے رہ۔ میں آبھی آتا ہوں۔ اس کے ہاتھ سے ایک کبوتر نکل گیا۔ جہانگیر نے جو واپس آکر ایک ہی کبوتر دیکھا۔ پوچھا وہ سراکھاں گیا۔ نور جہاں نے کھا جہاں پناہ اٹ گیا۔ جہانگیر نے غصہ سے کہا کیسے اٹ گیا۔ نور جہاں نے دوسرا بھی چھوڑ دیا اور کھا جہاں پناہ! ایسے اٹ گیا۔ اس ادالہ پر جہانگیر فریفہت ہو گئے اور زبان حال سے یہ کہنے لگے۔

بھیر تم چہ عجب تیر بے کمال زدہ  
دروں سینہ من زخم بے نشان زدہ

”میرے سینہ کے اندر بے نشان زخم تو نے لگایا۔ میں حیران ہوں کہ بے کمال کا تیر کس نے مارا۔“

اور آخر کار نور جہاں سے نکاح کر لیا۔

واقعی دل کے آنے کا بھی کوئی قاعدہ نہیں بعض دفعہ ذرا سی بات پر دل آ جاتا ہے تو جس طرح ایک کبوتر توافقاً اٹ گیا تھا ایک کو نور جہاں نے خود چھوڑ دیا اسی طرح ہمارے بھائیوں کو ہندوؤں نے توافق کر کے چھوڑا اور انہوں نے اپنے قدیم بھائیوں کو نفاق کر کے انہیں خود چھوڑ دیا۔ اب دونوں ہاتھ خالی رہ گئے (دایاں بھی اور بایاں بھی کیونکہ قدیم بھائی اصل خوب الیمن تھے۔ اور جدید بھائی اصحاب الشمال)

افسر! مسلمان معاشر کے وقت سیاست دوسری قوموں کی دوست نگری کرتے ہیں حالانکہ سیاست میں بھی شریعت کے مکمل احکام ان کے پاس موجود ہیں اور اسلامی سیاست تو وہ چیز ہے جس سے دنیا بھر کے سیاست دان سبق لیتے ہیں۔ مگر مسلمان ہیں کہ دوسروں کے محتاج ہیں بس وہ حال ہے

یک سبد پر ناں ترا بر فرق سر                  تو ہمیں جوئی لب ناں در بدر  
”روٹی کی بھری ہوئی تو کری تو سر پر ہے اور تم روٹی کا نکڑا در بدر ڈھونڈ رہے ہو۔“ اور یہ حال ہے  
تابر انوئے میاں قعر آب                  وز عطش وز جوع گشتنی خراب

”پانی کے اندر گھٹنے گھٹنے تک چل رہے ہو اور پیاس سے اور بھوک سے خراب ہو رہے ہو۔“  
یعنی چیزے ایک شخص کے سر پر روٹیوں سے بھرا ہوا ٹوکر ا رکھا ہو۔ اور وہ بھوک کی حالت میں اس

سے بے خبر ہو کر ہائے بھوک ہائے بھوک کہتا پھرے یا ایک شخص گھنٹوں تک پانی میں کھڑا ہوا اور ہائے پیاس ہائے پیاس گاتا پھرے یہی حال آج کل مسلمانوں کا ہے۔ یا اپنے گھر کے جواہرات سے بے خبر ہیں اور دوسروں کی کوڑیوں کے محتاج ہیں۔ مسلمانوں نے بڑی غلطی کی کہ ان تحریکات میں شریعت کی تعلیم کو بالکل چھوڑ دیا۔ واللہ! میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم شریعت کو اختیار کر لو تو تشویش تمہارے پاس بھی نہ ہوگی۔ گوتشویشاں واقعات کیسے ہی پیش آئیں کیونکہ قبیل شریعت کامداق یہ ہوتا ہے۔

ہمہ شہر پر زخوبانِ منم و خیال مائے چہ کنم کہ حشم بد خونہ کند بکس نگاہ ہے

”یہ شہر خوب رویوں سے بھرا ہوا ہے لیکن میں اپنے چاند کے خیال میں محو ہوں کیا کروں بد خونہ کی دوسرے پر نگاہ ہی نہیں ڈالتی۔“

اسکی نظر ہر واقعہ میں ہر حالت میں حق تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ اسکے سوا کسی پر نظر نہیں ہوتی وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے محظوظ کی طرف سے ہو رہا ہے پھر تشویش کیسی بس اسکو تو فکر ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ راضی رہیں۔ پھر دنیا میں جو چاہے ہوتا رہے۔ چاند سورج بھی ٹکلیں یا نہ ٹکلیں اسے اسکی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کامداق تو یہ ہوتا ہے

مصلحت وید میں آس است کہ یاراں ہمہ کار بگذا رند و خم طرہ یارے گیرند

”میری دیکھنے کی مصلحت تو یہ ہے کہ دوست سب کام چھوڑ کر صرف دوست کی زلفوں کی یاد

میں محو ہو جائیں۔ اور وہ یوں کہتا ہے

بفراغِ دل زمانے نظرے بما روئے بہ ازاں کہ چتر شاہی ہمدرد روز ہائے ہوئے

”دل کی فراغت کے ساتھ ایک لحظہ کسی ماہرو کو دیکھ لینا اس سے اچھا ہے کہ سر پر چتر شاہی

رکھ کر سارا دن ہاؤ ہو کرتا پھرے۔“ خاقانی اسی کو فرماتے ہیں۔

پس ازی سال ایں معنی محقق شد بخارقانی کہ یک دم با خدا بودن به از ملک سلیمانی

تمہارے مال کے بعد خاقانی پر یہ بات واضح ہوئی کہ ایک لحظہ خدا تعالیٰ کی ساتھ مشغول ہونا ملک سلیمان سے بہتر ہے۔“

واللہ جب تھوڑی دیر عارفِ حق تعالیٰ کا حضور بے کیف میسر آ جاتا ہے اس کی وہ لذت

ہوتی ہے جو تمام غنوں کو کافور کر دیتی ہے پھر اس کے پاس پریشانی کہاں۔ اس شخص کو مصیبت کے

وقت یہ فکر تو ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں۔ کہیں ناراضی کی وجہ سے تو یہ سزا

نہیں۔ وہی۔ پھر جب اعمال و حالات قلب میں غور کر کے معلوم ہوتا ہے حق تعالیٰ ناراض نہیں ہیں

تو اب اس کا دل قوی اور مندرج ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی کلفت میں اس کو راحت نظر آتی ہے اور گو و عده تو نہیں مگر وقوع اکثر یہ ہے کہ ایسے لوگ ظاہری واقعات تشویش سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور باوجود دقلت جماعت وقت سامان کے غالب و فائز رہتے ہیں۔ کافی الحدیث۔

لا يزال طائفه من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا دنيا هم (سنن ابن ماجة:

۱۰) ای لا یضر هم فی الدین خلاف من خالفهم ولو اضر دنیا هم احياناً ۱۲ جامع  
(ترجمہ: میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر ظاہر ہو گی اور ان کی مخالفت کرنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ان کے پاس بھٹک سکے گا یعنی ان کا مخالف دین میں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اگرچہ کبھی انہیں دنیوی نقصان پہنچ۔)

## فساد ذات البین

اگر بالفرض کبھی ان کو ناکامی بھی ہو تو اتباع شریعت کی برکت سے معاملہ الثانیں پڑتا کہ قہر کی صورت ہو جائے۔ آج کل تو مشکل یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے لوگ حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ عورتوں اور بچوں پر بھی زیادتی کرنے لگتے ہیں بھلا عورتوں اور بچوں نے کیا قصور کیا پھر اس غلطی کی وجہ سے معاملہ ہم پر ہی الٹ جاتا ہے اور قہر کی سی صورت بن جاتی ہے ان تشویشناک واقعات میں جھوٹ اور مبالغہ اور تجاوز حدود بہت ہی ہوتا ہے جس سے دین بر باد ہو جاتا ہے۔

چنانچہ پہلی تحریکات میں ہمارے ہی بھائیوں نے بعض مسلمانوں کی طرف سے ایسے جھوٹے الزامات عائد کئے ہیں کہ کوئی مسلمان ان کا مصدقہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً مسلمان جس کی حالت کا عرصہ دراز تک تجربہ بھی کر لیا گیا ہو پھر ان باتوں کا انجام فساد ذات البین ہوا کہ دوستوں اور بھائیوں کی عداوت اور بعض پیدا ہو گیا اور فساد ذات البین وہ بلا ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ایا کم و فساد ذات البین فانہما ہی الحالۃ لا اقول تحلق الشعرا

بل تحلق الدین۔ (سنن الترمذی: ۲۵۰۸، کنز العمال: ۵۳۸۱)

یعنی مسلمانوں کو حضور خطاب فرماتے ہیں کہ فساد ذات البین کو اپنے سے دور رکھو کیونکہ یہ مونڈنے والی چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈتی ہے بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔

یاد رکھو مصاحب میں حدود شرع سے تجاوز کرنا اعلیٰ درجہ کی بے صبری ہے صابر وہی ہے جو ایسے موقع میں شریعت پر جمار ہے اور کوئی کام خلاف مرضی حق نہ کرے ایسے ہی صابرین کے لئے بشارت ہے اور انہی لوگوں کی فضیلت احادیث و قرآن میں بیان کی گئی ہے۔

## صابرین کی دنیوی جزا آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے

**أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوةُ مَنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ**۔ یعنی صابرین پر ان کے پروردگار کی طرف سے خاص رحمتیں بھی ہیں اور عام رحمتیں بھی۔ اس میں صابرین کیلئے دوسری بشارت ہے جو بلا واسطہ سنائی گئی ہے۔ بشر الصبرین میں بشارت بوساطہ تھی یہ بلا واسطہ ہے اور یعنی ہے اس قاعدہ پر کہتا کیدے سے تائیں اولیٰ ہے۔ بعض علماء نے اس کو **وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ** ہی کا بیان سمجھا ہے۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ مستقل کلام ہے ماقبل کا بیان نہیں۔ کیونکہ دونوں مستقل آیتیں ہیں۔ پس ظاہر یہی ہے کہ دونوں کا مفہوم بھی مستقل ہو بیان کرنے میں یہ آیت مضمون سابق کی تاکید ہو گی۔ اور مستقل ماننے میں تائیں ہے اس لئے یہی اولیٰ ہے۔

پس میرے ذوق میں بشر الصابرین میں بوساطہ بشارت ہے اور اس حملہ میں بلا واسطہ بشارت ہے۔ بہر حال اس میں بتلا دیا گیا ہے کہ صابرین پر خاص و عام دونوں طرح کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خاص رحمت تو آخرت میں ہو گی اور رحمت عامہ کاظہور دنیا میں ہوتا ہے صابرین کو صبر و استقلال کا شمرہ دنیا میں بھی حق تعالیٰ کھلی آنکھوں و کھلادیتے ہیں بشرطیکہ صبر کی حقیقت صحیح طور پر موجود ہو جس کو میں قبل بیان کر چکا ہوں۔

اس کے بعد ایک تیسری بشارت تو ایسی بیان فرمائی ہے کہ وہ جزا تو ہر صابر مومن کو ضرور ہی حاصل ہے یعنی **وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَتَّدُونَ**۔ کہ یہی لوگ راہ صواب پر چلنے والے ہیں۔ صاحب جو شخص ناگوار واقعات میں شریعت پر کام طور پر جمارہ تا ہے۔ گو ظاہر میں اس کو کیسی ہی کلفت ہو گردنی میں اس کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ خدا کے فضل سے میں حق پر ہوں۔

دیکھئے! میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں مثلاً ایک شخص تو وہ ہے جو اپنے نزدیک صحیح راستہ پر چل رہا ہے۔ مگر راہ میں کچھ کا نٹے اور گڑھے بھی اس کو تنگ کرتے ہیں اور ایک شخص راستہ بھولا ہوا ہے اور اسے جا بجا باغات اور عمدہ عمدہ پھل ملتے ہیں۔

غور کر کے دیکھ لیجئے کہ ان دونوں کی حالت میں فرق ہے یا نہیں۔ بخدا زمین آسمان کا فرق ہو گا جو شخص ثہیک راستہ پر چل رہا ہے اس کے قلب میں سکون و اطمینان ہو گا۔ وہ کانٹوں اور گڑھوں کو بھی اطمینان سے طے کر لیگا۔ کیونکہ جانتا ہے کہ راستہ یہی ہے اور جو شخص راستہ بھولا ہوا ہے اس کو قدم قدم پر پیر کا انٹھانا بھاری ہو جائے گا اور جتنے نئے نئے باغات اور پھل پھلواڑیاں

اسے راستہ میں نظر آئیں گی اتنی زیادہ وحشت ہو گی کہ اے اللہ! میں کدھر نکل آیا۔ یہ باغات تو میرے راستہ میں کبھی نہ آتے تھے۔ آج یہ کیا معاملہ ہے میں... کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔

ای طرح سمجھ لیجئے کہ قبیع شریعت کو اگر کوئی کلفت بھی پیش آتی ہے تو وہ گھبرا تا نہیں کیونکہ وہ راستہ کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ مقصود کاراستہ یہی ہے اگر کسی وقت اس کو جان پر بھی خطرہ آتا ہے جب بھی یہ صرف اس کا دل بڑھاتی رہتی ہے کہ محمد اللہ میں خدا کے راستے میں جان دے رہا ہوں اور جو شخص خدا کا مجرم ہے حدود سے گزر گیا ہے اس کو جان دینے ہوئے یہ خوشی ہرگز نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں غلط راستہ پر ہو۔ میں منزل مقصود یعنی جنت پر نہ پہنچوں گا۔ بلکہ معلوم کہاں جا کر گروں گا۔ اس لئے ہدایت پر ہونا واللہ بڑی بشارت ہے اور یہ جزا اور وہ نعمت ہے جو صابر موسیٰ کو دنیا میں ضرورتی حاصل ہوتی ہے۔

## اطمینان بخش دولت

مجھے ہدایت کا نعمت ہوتا ایک بار سفر میں بخوبی محسوس ہوا۔ عرصہ ہوا کہ میں ایک بار سہار پنور سے براہ لکھنؤ کا پنور کا ارادہ کر کے ریل میز سوار ہوا۔ میرے ایک دوست بابو صاحب بھی اسی گاڑی میں آکر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے جب گاڑی چل پڑی تو آپس میں باتیں ہوئیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے کہاں میرٹھ جاؤں گا۔ میں نے کہا ممکن ہے کہ آپ میرٹھ جاتے ہوں مگر افسوس ہے کہ یہ ریل گاڑی تو میرٹھ نہ جائے گی۔ یہ تو لکھنؤ جائے گی۔

اب یہ کہ جوان کی حالت ہوئی کچھ نہ پوچھئے وہ سخت پریشان ہوئے اور بار بار الہ را ہر دیکھتے تھے۔ میں ان سے باشیں کرنا چاہتا ہو رہا جھلاتے تھے کہ میں تمہیں دل لگی سمجھی ہے یہاں خود ہی پریشانی ہے کہ میں نے یہ بڑی غلطی کی۔ مردی کا موقم تھا ان کو اس لئے اور بھی فکر تھی کیونکہ وہ بالکل بیک بینی و دو گوش تھے جنہیں میردی کا سامان ساتھ لے کر سفر کرنے کو عیب سمجھتے ہیں بلکہ لوٹا بھی ساتھ نہیں لیتے اس بھروسہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پیاس لگے گی اٹیشن پر پانی مل جائے گا۔ پی لیں گے تمہاری کی تو انہیں ضرورت ہی نہیں۔ مگر بعض دفعہ جب اٹیشن پر پانی نہیں ملتا اور پیاس لگی ہے تو ان کا براحال ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بار ایک سفر میں ایک جنہیں صاحب نے ایک اٹیشن کے قریب سمجھ سے لوٹا ماں گا کہ میں اس میں پانی لے سکتا ہوں۔ میں نے لوٹا دے دیا اس میں کچھ پانی موجود تھا۔ مگر جنہیں صاحب نے اسے پھینک دیا کیونکہ..... اٹیشن قریب آنے والا تھا اتفاق سے وباں سے جواترے تو پانی نہ ملا۔ اب

آپ بڑے کھیانے ہوئے اور خود ہی کہنے لگے کہ بڑی حمایت ہوئی میں نے پہلا پانی بھی بھینک دیا۔ واقعی یہ لوگ اپنے کو اصولی سمجھتے ہیں یہ خاک بھی اصولی نہیں۔ ہاں اصول تو ہیں کہ تمیں وصول کن خوب جانتے ہیں۔ بھلایہ بھی کوئی اصول ہے کہ باول دیکھ کر گھرے پھوٹ دیں تو وہ بابو صاحب بھی اسی مذاق کے تھے۔ سردی کا موسم تھا اور ان کے ساتھ کوئی کپڑا نہ تھا کیونکہ یہ بھی آج کل اصول میں داخل ہے۔ خلاصہ یہ کہ انکو کسی طرح بشاش و اطمینان حاصل نہ ہوتا تھا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ مجھے میں ان میں اس وقت کس بات کا فرق ہے۔ معلوم نہ ہوا کہ میں راہ پر تھا اس لئے مطمئن تھا اور وہ بے راہ تھے اس لئے بے چیز تھے اس وقت معلوم ہوا کہ واقعہ راہ پر ہوتا بھی بڑی اطمینان بخش دولت ہے بے راہ گو ظاہر میں کتنا ہی سامان رکھتا ہوا اس کے دل کو اطمینان و سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس **أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ** (پس وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں) حقیقت میں بڑی بشارت ہے۔

### ہدایت کی صورت

راہ پر ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو خود محقق ہو کہ راستہ کو دیکھ رہا ہو یا کسی محقق کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے جیسا کہ ظاہری۔ راستہ پر چلنے کی بھی دو ہی صورتیں ہی یا تو خود سو آنکھا ہو کہ اپنی آنکھوں سے راستہ کو دیکھتا ہو اور جو خود انہا ہو تو کسی سو آنکھے کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ یہی قاعدہ حق طریق کا ہے۔ واقعہ محقق کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے آدھا غم تو فوراً ہی ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ بیماری میں محقق طبیب کی صورت دیکھنے ہی سے آدھا مرض جاتا رہتا ہے اسی طرح محقق عارف کے پاس جانے اور اس کی تسلی بخش باتوں کے سننے سے آدھا مرض تو خود زائل ہو جاتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عارف کی محض صورت دیکھنے ہی سے مرض جاتا رہتا ہے مولانا فرماتے ہیں

اے لقاء تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

”آپ کی ملاقات ہر سوال کا جواب ہے۔ مشکل بغیر گفتگو کے آپ ہی سے حل ہوگی۔“


محقق کی علامت یہ ہے کہ اس کی باتوں سے دل کو تسلی اور اطمینان ہوتا ہے غیر محقق کی باتوں سے اطمینان نصیر نہیں ہوتا۔ جیسے سفر میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا رہنا ہو جس کو واقع میں راستہ نہیں معلوم تو اس کی باتوں سے آپ تاثر لیتے ہیں کہ یہ واقعہ طریق نہیں۔ ناواقف کی باتیں کچھ ایسے اکھڑی اکھڑی ہوتی ہیں جن سے سمجھنے والوں کو اس کا ناواقف ہوتا خود بخوب معلوم ہو جاتا ہے اور واقف کی باتیں دل میں گھر کر لیتی ہیں۔

راز اس کا یہ ہے کہ ناواقف کو اپنی باتوں پر خود ہی اطمینان نہیں تو دوسرے کو اس سے اطمینان کا فیض کیسے پہنچے اور جانتے والا جو کچھ کہتا ہے اطمینان سے کہتا ہے تو دوسرے پر بھی اس کے اطمینان کا اثر پڑتا ہے اسی کو مولا نا..... فرماتے ہیں

وَعْدَهُ هَا بَاشِدْ حَقِيقَى دَلْ پَذِيرَ  
”حَقِيقَى وَعْدَهُ دَلْ پَذِيرَ ہوتے ہیں مجازی وَعْدَهُ کچھ نہیں۔“

پس راہ پر ہونے کی صورت یہ ہے کہ کسی محقق سے تعلق پیدا کرو جبکی آپ کو مصائب میں کمال صبر کی دولت حاصل ہو سکتی ہے اور اسی وقت آپ کو یہ بشارتیں صلوٹ و رحمت وہدایت کی حاصل ہو سکتی ہیں۔ بس اب میں ختم کرتا ہوں اور خلاصہ وعظ پھر بیان کئے دیتا ہوں کہ مصائب میں شریعت نے ہم کو صبر کی تعلیم کی ہے مگر صبر فقط ترک جزع و فزع کا نام نہیں۔ بلکہ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی حال میں کسی مامور بہ میں خلل نہ آوے اور جو دینی معمولات پہلے سے اختیار کر رکھے ہیں ان پر مصیبت میں بھی دوام رکھا جاوے۔ اگر اس طرح صبر کیا جاوے تو یہی ہر مصیبت اور غم کا علاج..... بھی ہے۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دیں اور فہم سلیم عطا فرمائیں۔

آمین! يارب العالمين والحمد لله رب العلمين وصلى الله تعالى  
على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.  
برحتمك يا ارحم الراحمين.



## ماعلیہ الصبر

صبر کی صورت کے متعلق یہ وعظ ۲۶ محرم ۱۳۲۲ھ  
 بروز یکشنبہ بعد نماز صبح خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون در  
 کوٹھی مدرسہ بیان فرمایا جو پونے دو گھنٹے میں ختم ہوا۔  
 مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی نے قلمبند فرمایا۔

## خطبہ ما تورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكّلُ عَلَيْهِ  
وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللّٰهُ فَلَا  
مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنَّ لِلّٰهِ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، لَا  
شَرِيكَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ، وَصَلَّى  
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَتَّلُونَ ۝ (البقرہ آیت ۱۵۷)

(ترجمہ: ان لوگوں پر خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں بھی ہیں اور عام رحمتیں بھی۔ یہی  
وہ لوگ ہیں جن کو حقیقت حال تک رسائی ہوگی)

تمہید

جس جزو کی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے سنتے سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ بیان سابق کا  
تمثہ ہے، کیونکہ پرسوں اسی آیت کے متعلق بیان ہو چکا ہے۔ اس بیان کا نام حقیقتہ الصبر ہے ہر چند کہ یہ  
بیان بظاہر غیر ضروری ہے کیونکہ اسی جمعہ کو اس مضمون پر بیان ہو چکا ہے نیز اس وقت میرا قصد بھی بیان کا  
نہ تھا اور جب بعض مہماں نے فرمائش کی تو میں ورنیک سوچتا رہا کہ کیا بیان کروں مگر پھر خیال آیا کہ پہلے  
بیان میں ایک جزو بیان سے رہ گیا ہے چنانچہ اس وقت بھی ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اگر وقت ملا تو میں  
ایک جزو اس مضمون کے متعلق اور بیان کرتا۔ مگر اس وقت تمہید طویل ہو گئی اور دوسرے مضمومین ضرور یہ

کے بیان میں دیر ہو گئی۔ اس لئے جزو رہ گیا تو چونکہ اس وقت ایک ایسا مضمون بیان کیا جائے گا جو پہلے بیان نہیں ہوا اور اس کے بغیر وہ مضمون ناتمام رہا جاتا ہے اس لئے یہ بیان غیر ضروری نہیں اور سننے کے بعد اس کی ضرورت خود ہی معلوم ہو جائے گی اب میں اول اس جزو کی یقین کئے دیتا ہوں پھر اس کے متعلق ضروری تفصیل بھی عرض کر دوں گا گو وقت تھا ہے کیونکہ جن مہماں نوں نے بیان کی فرمائش کی ہے وہ ان ریل سے جانے والے ہیں۔ اس لئے زیادہ تفصیل کا موقع نہیں اگرچہ میں نے ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ بیان محمد ہو جائے تو وہ گھڑی دیکھ کر وسط بیان میں اٹھ کر چلے جائیں بلکہ اگر بیان ریل کے وقت تک ختم نہ ہو تو میں انشاء اللہ درمیان میں خود ہی اطلاع کر دوں گا کہ ریل پر جانے والے اب چلے جائیں اسی لئے میں نے گھڑی اپنے پاس رکھی ہے تا کہ وقت کو دیکھتا ہوں۔

لیکن جی چاہتا ہے کہ جن صاحبوں نے فرمائش کی ہے وہ اول سے آخر تک بیان میں شریک رہیں تا کہ کامل مضمون ان کے کافیوں میں پڑ جانے کیونکہ پورا مضمون اول سے اخیر تک شریک رہنے ہی سے معلوم ہوا کرتا ہے بعض دفعہ کسی مضمون میں کچھ قیود ہوتی ہیں جو اخیر میں بیان کی جاتی ہیں اس لئے وسط میں اٹھ جانے سے اکثر ناتمام مضمون کافیوں میں پڑتا ہے۔ اور جی یہ چاہتا ہے کہ فرمائش کرنے والوں کے سامنے ہی مضمون ختم ہو جائے اسی لیے میں نماز فجر کے متصل ہی بیان شروع کر دیا ہے مگر پھر بھی وقت زیادہ نہیں اس لئے میں قدر ضرورت پر اکتفا کروں گا اور زیادہ تفصیل نہ کروں گا مگر انشاء اللہ ضروری باقی میں سب بیان کر دی جائیں گی۔

جو لوگ پہلے بیان میں شریک تھے ان کو معلوم ہے کہ اس وقت بعد چند مقامات کے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ حقیقت صبر میں پابند اعمال بھی داخل ہے عام طور پر لوگ اس کو صبر میں داخل نہیں سمجھتے بلکہ صرف ترک جزع و فزع کے ساتھ اس کو منقص سمجھتے ہیں اس خیال کی غلطی اس بیان میں تفصیل کے ساتھ ظاہر کی گئی تھی اس کے بعد یہ تفریغ کی گئی تھی کہ ماعلیہ الصبر اور محل صبر حقیقت میں ایک ہی چیز ہے مگر اس وقت ماعلیہ الصبر کی تعمین نہ کی گئی تھی اس وقت میں اس کی تعمین کرنا چاہتا ہوں یہی وہ جزو ہے جو اس وقت بیان سے رہ گیا تھا اب سمجھتے کہ ماعلیہ الصبر کیا ہے۔

## محل صبر

تعین اجمالی اس کی یہ ہے کہ ماعلیہ الصبر مامور ہے یعنی جس وقت جس کام کا امر ہو اس پر ثابت رہتا صبر ہے اور وہ مامور بہ ماعلیہ الصبر ہے پس اگر کسی وقت معمولات کے ترک کا امر ہو تو اس وقت ترک

معمولات ہی ماعلیٰ الصبر ہو گا اور معمولات مناسب نہ ہوں گے یہ بات اس بیان سے واضح نہ ہوئی تھی بلکہ اس وقت محل خاص ہے کہنا گوار واقعات میں ناگواری کا تحمل کرنا اور جزء فرع نہ کرنا اور ایک محل عام ہے کہ اس وقت تمام معمولات کو ادا کریں اور کسی وقت امرنا گوار کی وجہ سے اعمال میں خلل نہ ڈالیں۔

ورنہ اس گوار کی سی مثال ہو گی جس نے رمضان کا روزہ رکھا تھا اتفاق سے اس کی بھینس مر گئی تو اس نے فوراً روزہ توڑ ڈالا اور خدا تعالیٰ سے خطاب کر کے کہا کہ آپ نے میری بھینس مار دی تو جاؤ ہم نے بھی روزہ توڑ دیا مہندی میں گواں طرح کھلم کھلانے کریں مگر حقیقت یہ ہے کہ در پر دہ دہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں گوا اعتقد اونہ سہی مگر عملاً سب ایسا ہی کرتے ہیں کہ جہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی امرنا گوار پیش آیا اس کی وجہ سے فوراً اعمال میں خلل ڈال دیا حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ ناگوار واقعات میں ہمارا کیا بگرتا ہے، کچھ بھی نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے۔

ہرچہ آں خروکند شیر میں بود (جو کچھ محبوب حقیقی کی طرف سے پیش آئے محبوب ہے) ناگوار واقعات میں جس قدر حکمتیں ہوتی ہیں ان پر نظر کر کے یہ کہنا غلط ہے کہ ان سے ہمارا کچھ بگڑا گیا ہے بلکہ در حقیقت وہ عین رحمت ہیں جیسے میں نے استاد کی مار اور ڈاکٹر کے اپریشن کی مثال سے اس کو بیان گذشتہ میں واضح کر دیا تھا۔

نیز میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ واقعات ہمارے اوپر بطور امتحان کے آتے ہیں جس میں کامیاب ہونے پر ہم کو اجر عظیم کی بشارت ہے تو حق تعالیٰ نے آپ کو انعام دینے کی غرض سے آزمایا تھا آپ سمجھے کہ ہمارا نقصان کر دیا یہ تو ہی مثل ہو گئی کہ گدھے کو دیا تھا نمک وہ سمجھا تھا کہ میری آنکھیں ہی پھوڑ دیں پھر جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے تصرف کیا ہے وہ ان کی ہی چیز تھی آپ کا اس میں تھا کیا کچھ بھی نہیں خدا تعالیٰ اگر ہمارے مال میں تصرف کریں یا متعلقین میں تصرف کریں یا پیداوار اور اولاد میں تصرف کریں تو یہ سب چیزیں انہی کی تو ہیں اپنی چیز میں اگر وہ تصرف کریں تو تمہارا کیا بگزا ہی مقدمہ غلط ہے کہ یہ چیزیں تمہاری ہیں جب تمہاری کوئی چیز نہیں تو ان کے نقصان سے تمہارا کچھ بھی نہیں بگرتا پھر اعمال میں کوتا ہی کس لئے ہے۔

صاحب۔ یق تھا کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اپنی چیز میں تصرف کر کے بندوں کو صبر کا صلدیتے ہیں حالانکہ بندوں کو کسی تصرف پر غم کرنے کا کچھ حق ہے نہ نجخ کرنے کا کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کا بگاڑا ہی کچھ نہیں جوان کو رنج و غم کا حق ہوا اور اگر وہ ناجت رنج کر کے صبر بھی کریں تو یہ کچھ کمال کی بات نہیں۔

بس ان کے رنج کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنا خزانہ ایک خزانچی کے سپرد کر کے کسی وقت میں لے اور خزانچی رو نے چلانے لگ تو کیا کوئی، عاقل اس کے رنج کو بجا کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں اور اگر وہ رنج کر کے صبر و تحمل بھی کر لے تو کیا کوئی اس کو اس صبر و تحمل کی بنابر متحق انعام کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں۔ یہی حالت ہماری ہے کہ حق تعالیٰ نے ہم کو خزانچی بنا رکھا ہے اور اپنی کچھ چیزیں ہمارے سپرد کر دی ہیں اور جب چاہتے ہیں وہ اپنی چیزوں میں تصرف کر لیتے ہیں، تو ہم کونہ اسمیں کچھ رنج و ملال کا حق ہے نہ بے جارنج پر صبر کر کے کچھ انعام کا استحقاق ہے ہے مگر حق تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس بے جارنج پر صبر کرنے سے اجر و ثواب اور انعام و جزا کی بشارت دی ہے پھر حسرت ہے کہ ہم ناگوار و اقطاعات میں خدا تعالیٰ سے خفا ہو کر اعمال میں خلل ڈالنے لگیں جیسا کہ اس گنوار نے کیا تھا کہ بھیں کے مر نے پر روزہ توڑ دیا تھا۔

### عقلی ناگواری

کم و بیش ناگواری سے بہت کم لوگ خالی ہیں طبعی رنج تو غیر اختیاری ہے مگر افسوس یہ کہ ہم لوگ عقلی ناگواری میں بھی بتلا ہو جاتے ہیں اور اگر تھوڑی دیر کے لئے مان لیا جائے کہ وہ چیز جس میں حق تعالیٰ نے تصرف کیا ہے تمہاری ہی چیز تھی اور یہ بھی مان لیا جائے کہ تمہارا کچھ بگڑ بھی گیا تب بھی ناگواری کا حق نہ ہونا چاہئے کیونکہ

آنرا کہ بجائے تست ہر دم کرے                  عذر ش بنہ ار کند بھرے سمعت  
 (جس شخص نے تجھ پر عمر بھرا احسان کیا ہے اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معذور سمجھو)

اے صاحب جس خدا نے سالہا سال ہم کو راحت و آرام میں رکھا ہے اگر کسی وقت وہ تکلیف بھی دے دیں تو کیا یہی انسانیت ہے کہ ہم اس تکلیف کو زبان پر لا سیں اور ناگواری کا اثر لے کر اطاعت میں کوتا ہی کرنے لگیں۔

صاحب۔ سلاطین عالم فوجی ملازموں کو سالہا سال بے مشقت گھر بیٹھے تنواہ دیتے ہیں اور کسی وقت دشمن کے مقابلے میں بھی بھیج دیتے ہیں تو بتلائیے کیا اس وقت فوجی ملازم کو اس حکم پر ناگواری کا کچھ بھی حق ہے ہرگز نہیں بلکہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ نمک حلائی ہی ہے کہ جس بادشاہ نے برسوں گھر بیٹھے تنواہ دی ہے اور بلا کسی مشقت و کلفت کے خبر گیری کی ہے کسی وقت اس کے حکم سے مشقت بھی ضرور برداشت کرتا چاہئے بشرطیکہ وہ حکم خدا تعالیٰ کے خلاف نہ ہو، چنانچہ فوجی

ملازم بھی ایسے وقت میں انکار نہیں کرتا اور خوشی سے دشمن کے مقاومہ میں باوشاہ کو خوش کرنے کیلئے ہر قسم کی مصیبت کو برداشت کرتا ہے اور جان دینے کو اپنی سعادت اور نمک علاوی سمجھتا ہے۔

پھر کس قدر افسوس ہے کہ باوجود دعویٰ شرافت ہمارا خدا تعالیٰ کے ساتھ وہ برتاؤ بھی نہ ہو جو ایک ادنیٰ فوجی ملازم کا جو اکثر چھوٹی قوموں کے لوگ ہوتے ہیں ایک ادنیٰ باوشاہ کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے واقع اگر مصیبت میں ہمارا کچھ بگڑنا بھی ہوتا جب بھی ایسے محسن سے ناگواری کا خیال دل میں لانا یا زبان سے ظاہر کرتا بالکل ہی انسانیت سے دور اور شرافت کے خلاف ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی احکایت ہے کہ وہ ابتداء میں کسی شخص کے غلام تھے ایک دفعہ ان کے آقانے لکڑی منگائی اور اس کی قاشیں کر کے پہلے ایک قاش اپنے ہاتھ سے حضرت لقمان کو دی جس کو انہوں نے خوشی خوشی کھایا وہ اتفاق سے بہت تلخ تھی مگر حضرت لقمان نے ذرا منہ نہ بنایا نہ کوئی اثر ناگواری کا، ظاہر ہوتے دیا آقا سمجھا کہ شیریں ہو گی اس نے بھی ایک قاش کھائی تو فوراً انہوں کوئے لگا اور ان سے سوال کیا کہ کیا تم کو یہ کڑوی نہیں لگی فرمایا تلخی معلوم تو ہوئی تھی پوچھا پھر تم نے خوشی خوشی کیسے کھایا ذرا بھی منہ نہ بنایا فرمایا کہ حضور جس ہاتھ سے میں نے عمر بھرا تھی شیریں یا کھائی ہیں کیا اس کے ہاتھ سے ایک تلخی پر منہ بناتا یہ تو انسانیت کے خلاف تھا اس لیے میں نے ناگواری ظاہر نہیں کی اس کو سعدی فرماتے ہیں۔

آزار کہ بجائے تست ہر دم کرے                      عذر ش پند ارکند بحرے ستم  
(جس شخص نے مجھ پر عمر بھرا احسان کیا ہے اگر اس سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معذور سمجھو)

### ترک اعمال کا نتیجہ

پھر کوئی یہ تو بتائے کہ ناگواری کی، حالت میں اعمال کے اندر خلل ڈالنے سے حق تعالیٰ کا کیا نقصان ہے اگر تم نماز روزہ کی پابندی کرو گے تو حق تعالیٰ کو کیا بخش دو گے اور جو نہیں کرو گے تو ان کا کیا بگاڑ دو گے جو کچھ نقصان ہو گا تمہارا ہی ہو گا پھر اس حالت میں تو کسی مصیبت کی وجہ سے اعمال طاعات میں خلل ڈالنے کی ایسی مثال ہوئی جیسے کسی نے ایک شخص سے روپے قرض لے کر مکان بنایا تھا قرض خواہ نے روپیہ کا تقاضا کیا تو کہہ دیا بھی روپیہ ہمارے پاس نہیں ہے اس نے زیادہ تقاضا کیا تو، آپ نے غصہ میں آکر مزدور لگا کر بنایا مکان ڈھا دیا کہ جاؤ ہم تمہارے روپیہ کا مکان ہی نہیں رکھتے بھلا اس نے مکان ڈھا کر کس کا نقصان کیا قرض خواہ کے روپے تو پھر بھی ذمے رہے ایک نقصان اور سر لے لیا کہ مکان سے بھی ہاتھ دھویا۔

ای طرح ناگوار واقعات میں اعمال و معمولات کے ترک سے مصیبت تو کم ہو نہیں جاتی  
باں ترک اعمال کا نقصان اور بڑھ جاتا ہے ایک نقصان تو غیر اختیاری ہوا تھا یہ دوسرا نقصان ہم  
اپنے ہاتھوں کرتے ہیں جس سے مصیبت کو اور ترقی ملتی ہے جیسے کسی شخص کے ناک پر بار بار مکھی  
بیٹھتی تھی جس سے تنگ آگیا تو اس نے غصہ میں ناک ہی کاٹ ڈالی کہ جاؤ ہم اذاء ہی نہیں رکھتے  
بھلا مکھی کا اس سے نقصان ہوا اس کو تواب چشمہ شیریں مل گیا اور

ہر کجا بود چشمہ شیریں مگس و مرغ و مور گرد آئند  
(جہاں میٹھے پانی کا چشمہ ہو وہاں اس کے گرد مکھی، مرغ اور مور آئیں گے)

پہلے تو مکھی ہی آتی تھی اب چیونٹ اور چیونٹ نے بھی آئیں گے یہی حال ہمارا ہے کہ ایک  
 المصیبت میں اعمال ترک کر کے ہم دوسری آفتوں کو بھی بلا لیتے ہیں اس مضمون کو پہلے بیان میں  
تفصیل کے ساتھ بیان کر کے میں نے یہ کہا تھا کہ مصائب کے وقت اعمال میں خلل نہ ڈالنا چاہئے  
جس سے تباہی ہوا تھا کہ اپنے معمولات پر پابند رہنا چاہئے اور اسی کو ماعلیہ الصبر سمجھا گیا۔

### صابرین کی اشانی

اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اعمال ماعلیہ الصبر کی صورت ہیں اور اس کی حقیقت دوسری شی  
ہے یعنی امثال امر یعنی جس وقت جس بات کا امر ہواں کا بجا لانا صبر ہے اور وہ مامور ہے ماعلیہ  
الصبر ہے اگر کسی وقت پابندی معمولات میں امثال امر ہواں وقت ترک معمولات ماعلیہ الصبر  
ہے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ماعلیہ الصبر فقط صورت اعمال کے ساتھ خاص ہے بلکہ امثال امر کی رعایت  
اس میں ضروری ہے اس کو میں پہلے صراحةً بیان نہ کر سکتا تھا کیونکہ وقت نہ ملا۔

اب اس کو بیان کرتا ہوں اس کے لئے مجھے دوسری آیت تلاش کرنے کی فکر ہوتی مگر الحمد للہ  
کہ اسی آیت میں ایک لفظ اس پر دال ہے وہ لفظ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ  
ہے میں نے پہلے اس کو بطور بشارت کے بیان کیا تھا مگر اب غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے  
کہ یہی ماعلیہ الصبر اور مامور ہے گویا اس میں صابرین کا پتہ بتلایا گیا ہے کہ صابر وہ لوگ ہیں جو  
ناگواری کے وقت ہدایت پر قائم رہتے ہیں یعنی سیدھے راستہ پر جمعے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ  
راستہ پر چلنے سے کسی مقصود پر پہنچنا مطلوب ہوتا ہے پس مفتادون کا حاصل یہ ہوا کہ ناگواری کے  
وقت وہ لوگ سیدھے راستہ پر چلتے ہیں اور مقصود پر نظر رکھتے ہیں۔

پس یہاں ایک تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہاں دوراستے ہیں ایک سیدھا ایک ٹیڑھا۔  
چنانچہ دوسری آیت میں اس کو صراحت بیان فرمایا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ  
(اور اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں اور ان میں ٹیڑھا راستہ بھی ہے)

دوسرے مقام پر ارشاد ہے

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَبْغُوا السُّبْلَ فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ  
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہے کہ لوگوں سے فرمادیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، سیدھا  
اسکا اتباع کرو اور دوسرے راستوں کا اتباع نہ کرو وہ تم کو خدا کے راستے سے متفرق کر دیں گے۔

مقصود تو یہ ہے ٹیڑھا راستہ تم کو خدا تعالیٰ سے جدا کر دے گا مگر

فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (وہ تم کو خدا کے راستے سے متفرق کر دیں گے)

مبالغہ فرمایا گیا ہے کہ ٹیڑھے راستوں پر چل کر تم کو خدا تو کیا ملتا خدا کا راستہ بھی نہ ملے گا۔

**أُولَئِكَ هُمُ الْمُهَتَّدُونَ** (یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں)

میں سیدھے راستے پر چلنے کا ذکر تو صراحت ہے کیونکہ ہدایت اسی کو کہتے ہیں ٹیڑھے راستے پر  
چلنے کو ہدایت نہیں کہتے بلکہ ضلالت کہتے ہیں۔

رہی دوسری بات یعنی سیدھے راستے پر چلنے کے ساتھ مقصود پر نظر رکھنا سو گواں کا ذکر صراحت  
نہیں مگر ادنیٰ تامل سے اس پر بھی اس کی دلالت واضح ہے کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ کسی راستے پر چلنے  
سے کسی مقصود پر پہنچنا ہی مطلوب ہوتا ہے راستہ خود کو مطلوب نہیں ہوتا۔

اس کے ساتھ دوسرامقدمہ یہ ملایا جائے کہ طریقِ درستم کے ہیں ایک حصی دوسرے معنوی۔ طریق  
حصی کا موصل الی المقصود ہونا چلنے والے کے قصد و ارادہ پر موقوف نہیں بلکہ اگر راستہ سیدھا ہو تو آنکھیں  
بند کر کے بھی چلنے سے مقصود تک وصول ہو جاتا ہے مثلاً دنیٰ کو سیدھی سڑک جاتی ہے اس، پر جو کوئی بھی  
چلنے گا دنیٰ پہنچ جائے گا خواہ دنیٰ کا قصد ہو یا نہ ہو اور طریق معنوی کی یہ حالت نہیں اس میں بدون قصد و  
ارادہ کے وصول نہیں ہو سکتا گوراستہ سیدھا بھی ہو مگر ہر وقت مقصود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔

### نبیت کی اہمیت

اب سمجھو کر اس طریقہ کا مقصود کیا ہے سونصوص میں غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہے کہ مقصود  
اس طریق معنوی سے رضاحت ہے اور نصوص ہی سے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ یہ مقصود بدون ارادہ و

نیت کے حاصل نہیں ہو سکتا گوراستہ سیدھا ہی اختیار کیا گیا ہو چنانچہ حدیث میں ہے۔

انما الاعمال بالنيات وانما لکل امری مانوی

فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى

الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيدها

او امراة يتزوجها هجرته الى ما ها جر اليه

(الصحیح البخاری ۱:۲۰۸، ۲:۱۷۵)

(ترجمہ: بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انسان کو وہی چیز حاصل ہو گی جس کی وہ نیت کرے گا جس نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت خدا اور رسول کے لئے ہو گی اور جس کی ہجرت دنیا پانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لئے ہو تو اس کی ہجرت اس طرف ہو گی جس کے لئے اس نے ہجرت کی)

اس حدیث کا پہلا جزو۔ انما الاعمال بالنيات (بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے) بتلا رہا ہے کہ اعمال شرعیہ سے ثواب بدون نیت کے حاصل نہیں ہوتا اعمال کی تفسیر اعمال شرعیہ سے اس لئے کی گئی کہ شارع علیہ السلام کو اعمال غیر شرعیہ سے بحث کی ضرورت ہی نہیں پھر آگے ہجرت کا ذکر فرمانا اس کا قرینہ ہے اور ثواب الاعمال سے تفسیر اس لئے کی گئی کہ وجود اعمال بدون نیت کے ہو سکتا ہے، چنانچہ مشاہدہ ہے لہذا توقف وجود اعمال علی الدینیہ شارع کا مقصود نہیں ہو سکتا کیونکہ اول تو یہ خلاف واقعہ ہے دوسرے وجود اشیا بھی ان امور کی قبل سے ہے جو شارع علیہ السلام کی بحث سے خارج ہیں شارع کا مقصود بیان احکام ہوتا ہے نہ کہ بیان کیفیات وجوداب اس میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہاں صحت اعمال مراد ہے یا ثواب اعمال۔ سواں کا جواب حنفیہ نے کتب فقہ میں دے دیا ہے کہ چونکہ ثواب اعمال کا نیت پر موقوف ہوتا اجمائی ہے اس لئے تقدیر صحت سے تقدیر ثواب اولی ہے، اور ثواب و رضا باہم قریب قریب ہیں جب حق تعالیٰ کسی عمل پر ثواب دیں گے تو اس سے راضی بھی ہوں گے۔ دوسرے ثواب سے بھی رضا ہی مقصود ہے بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ رضا ثواب کی اعلیٰ فرد ہے۔

اس کے بعد حضورؐ نے ہجرت کے متعلق صاف فرمایا کہ اگر اس سے خدا مطلوب نہ ہو تو وہ شرعاً قابل قدر اور لائق اعتبار نہیں اور اس سے خدا تک وصول نہ ہو گا۔ تو دیکھئے ہجرت کتنا بڑا عمل ہے کہ جہاد کے برابر ہے اور اس کا طریقہ ہدایت ہوتا یقینی ہے کیونکہ عمل شرعی ہے مگر بدون نیت و ارادہ کے وہ بھی موصل نہیں۔

علی ہذا نماز کتنا بڑا عمل ہے لیکن خدا کے لئے نہ ہو بلکہ ریا کاری سے ہو تو ہرگز وصول و قرب مرتب نہ ہو گا اسی طرح جملہ اعمال شرعیہ میں غور کر لیا جائے کہ مقصود کی نیت اور قصد سب میں شرط ہے بدون اس کے وہ موجب وصول نہیں ہو سکتی۔ جب نصوص شرعیہ سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ بدون نیت کے کوئی عمل مقبول نہیں تو معلوم ہوا کہ ہدایت صرف اس کا نام نہیں کہ اعمال شرعیہ کی صورت کو اختیار کر لیا جائے بلکہ اس کے ساتھ طلب رضا حق بھی شرط ہے پس یہ ثابت ہو گیا کہ

**أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ** (یہی لوگ ہدایت یافتے ہیں)

میں سید ہے راستے پر چلنے کے ساتھ مقصود پر نظر رکھنا بھی مذکور ہے کیونکہ اسکے بغیر ہدایت کی صورت ہی صورت ہو گی حقیقت نہ ہو گی اور مقصود رضائے حق ہے۔

پس حاصل یہ ہوا کہ صابر وہ ہیں جو ناگواری کے وقت رضا حق پر نظر رکھتے ہیں اور اسکوفوت نہیں کرتے اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ رضائے حق کا مدار امثال امر پر ہے پس صبر کی حقیقت امثال امر ہوئی اور ماعلیہ الصبر مامور بہ ہوا۔ یہی مطلوب تھا۔

## غلو فی الدین

اب ہمارے اندر بعض لوگ تو ایسے ہیں جو پریشانی کے وقت طریق ہی میں خلل ڈالتے ہیں کہ جہاں مصیبت آئی فوراً اعمال سابقہ کی پابندی چھوڑ دی اور ناجائز امور میں بیٹلا ہو گئے اکثر لوگ تو ایسے ہی ہیں۔ ان کی توزیادہ شکایت نہیں یہ تو گفتگو ہی سے خارج ہیں دوسری جماعت وہ ہے جو طریق پر غلو کے ساتھ جنمے رہتے ہیں۔

کسی حال میں بھی ان کی تسبیحیں اور معمولات فوت نہیں ہوتے مگر ان کی نظر مقصود پر نہیں ہوتی اس لئے بعض دفعہ ان سے مقصود فوت ہو جاتا ہے۔

مثلاً بعض لوگ ایسے معمولات کے پابند ہوتے ہیں کہ چاہے اڑکا مر جاوے مگر وظیفہ فوت نہیں ہوتا۔ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ سے پابند اوقات ہیں مگر قواعد شرعیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی پابندی شرعاً محمود نہیں یہ غلو فی الدین میں داخل ہے کیونکہ بعض دفعہ پابندی کا توڑ بھی مامور بہ ہے بلکہ بعض دفعہ نماز شروع کر دینے کے بعد نماز توڑ دینا بھی واجب ہوتا ہے۔

جیسے کوئی اندھا آرہا ہو اور اس کے راستے میں کنوں یا گڑھا ہو جس میں اس کے گرنے کا اندر شہ ہو تو نماز کا توڑنا اور اس کو بچانا واجب ہے اس وقت امثال امر اسی میں ہے کہ عمل کو توڑ

دے اس وقت نماز پڑھنے میں احتشال امر نہیں۔

ایک صحابی کا قصہ ہے کہ ایک دفعہ جنگل میں وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آگیا وہ گھوڑے سے اترے اور خصو کر کے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لے کر نماز میں مشغول ہو گئے وہ گھوڑا کبھی کبھی شوخی کر کے ایک دو قدم چلتا تھا تو آپ بھی ایک دو قدم اس کے ساتھ آگے پیچھے ہٹ جاتے تھے ایک خارجی نے ان کو نماز میں آگے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھ کر اعتراض کیا کہ یہ کیسی نماز ہے ان صحابی نے فرمایا کہ تم کیا جانو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں آپ نے ہم پر لی کی تھی نہیں کی کہ سفر میں بھی اسی طرح خشوع و اطمینان سے نماز پڑھیں جس طرح حضرت میں پڑھا کرتے ہیں، بھلا اگر میں گھوڑے کو چھوڑ کر نماز پڑھتا اور گھوڑا بھاگ جاتا تو کیسی پریشانی ہوتی پھر شاید اس وقت یہ خیال آتا کہ ہائے میں نے نماز ہی کیوں پڑھی تھی جو اتنا نقصان ہوا اور یہ حالت بہت سخت ہے کہ انسان طاعت کر کے اس پر پچھتا ہے۔

اس لئے حضرات صحابہؓ کو تقویٰ کا غلو نہ تھا کہ کچھ ہی ہو جائے مگر معمول نہ چھوٹے کیونکہ بعض دفعہ معمول کی پابندی ظاہر میں تو اچھی ہوتی ہے مگر باطن میں اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ پابندی سے جب دنیا کا ضرر ہوتا ہے تو اس وقت طاعت پر پچھتا تا ہے اسی لئے میں بعض لوگوں سے جو حج کا ارادہ کر کے جاتے ہیں یہ کہہ دیتا ہوں کہ سفر مدینہ میں اگر خطرات سے پورا اطمینان ہو تو جانا ورنہ حج کر کے واپس آ جانا گویہ بات ظاہر میں بہت سخت ہے مگر اس نیت سے کہہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو خطرہ کی حالت میں سفر کر کے بعد میں نفس یہ کہے کہ ہائے میں تا حق ہی آیا اور سفر مدینہ پر پچھتا ہے تو یہ حالت مدینہ نہ جانے سے زیادہ سخت ہو گی کیونکہ اس وقت تو یہی، حسرت ہو گی کہ ہائے میں زیارت نبوی سے محروم رہا اور امید ہے کہ یہ حسرت ہی کام دے جائے اور اب افسوس ہو گا کہ ہائے میں کیوں آیا تھا اور دونوں حالتوں میں جو فرق ہے ظاہر ہے۔

اس خارجی معتبرض کی نگاہ اس دیس سے پر نہ پہنچی تھی اس لئے اس نے صحابیؓ پر اعتراض کیا خارجی لوگ بظاہر اعمال کے بہت پابند ہوتے تھے وہ نماز روزہ میں اہلسنت سے زیادہ پختہ تھے کیونکہ انکے یہاں اعمال جزو ایمان ہیں اور انکے نزدیک گناہ کبیرہ سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے مگر ان میں اعمال کی صورت ہی صورت تھی حقیقت نہ تھی۔

جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ قرآن کو ایسا سنوار کر پڑھیں گے جیسا تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے مگر حالت یہ ہو گی کہ قرآن ان کے گلے سے نیچے نہ اترے گا بس اور ہی اوپر رہے گا وہ اسلام سے ایسے

تکمیل گے جیسے تیر بعض دفعہ نشانہ سے تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے کہ اس میں خون کا نشان تک نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ شریعت میں اعمال ظاہرہ کی ایسی پابندی مطلوب نہیں جس میں محض صورت ہی صورت ہو اور مقصود پر نظر نہ ہو بلکہ ایسی پابندی مطلوب ہے جس میں ہر وقت مقصود یعنی رضاۓ حق پر نظر ہو گواں سے بعض دفعہ صورت میں بھی خلل آجائے۔

## تفقہ فی الدین

چنانچہ ایک بار امام ابو حنفیہ اور امام ابو یوسف سفر میں تھے اونٹ پر چلتے ہوئے نیند آگئی اور بالکل طلوع شمس کے قریب آنکھ کھلی جلدی سے اتر کر وضو کیا نماز شروع کی امام ابو یوسف امام بنائے گئے امام ابو یوسف نے چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھیں اور تمام اركان میں تحفظ کی رکوع اور سجده وغیرہ جلدی جلدی ادا کیا اس وقت کوئی زائد خشک ہوتا تو یوں کہتا کہ نماز ناقص ہوئی مگر امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے بعد فرمایا۔

الحمد لله صار يعقوبنا فقيها

خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یعقوب۔ یعنی امام ابو یوسف فقیہہ ہو گئے۔

اس وقت ان کا نماز میں جلدی کرنا تفقہ کی علامت تھی کیونکہ طلوع شمس قریب تھا اگر وہ جلدی نہ کرتے تو نماز قضا ہو جاتی اور گناہ ہوتا تو سرے ادا نماز کا درجہ قضا سے بہت بڑھا ہوا ہے پس اس وقت جلدی کرنے ہی سے نماز کامل ہوئی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے سے ناقص ہوتی مگر ان باتوں پر فقہیہ کی نظر ہی پہنچ سکتی ہے کہ اس وقت جلدی مناسب ہے یا ظہر شہر کر پڑھنا مناسب ہے جاہل تو ہر حالت ایک سی ہی نماز پڑھنے گا چاہے وہ ادا ہو یا قضا ہو جائے یا رفقاء کو ایذا ہونے لگے۔

چنانچہ ایک بزرگ ہمارے ساتھ سفر میں تھے راستہ میں مغرب، کی نماز پڑھی گئی تو اس بندہ خدا نے فرض و سنت کے بعد صلوٰۃ الا واہین شروع کر دی اب جب تک ان کی صلوٰۃ الا واہین ختم نہ ہو گئی سب رکے رہے تمام رفقاء کو تکلیف ہوئی۔

ای طرح ایک اور بزرگ کے ساتھ لوگ سفر میں چل رہے تھے ظہر کی نماز کا وقت آیا تو وہ حضرت فرسوں کے بعد وظیفہ پڑھنے بیٹھ گئے لوگوں نے کہا سوار ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تو ظہر سے عصر تک بیٹھا کرتا ہوں میں عصر سے پہلے نہیں اٹھ سکتا تمام رفقاء سخت پریشان ہوئے اور آئندہ کو عہد کر لیا کہ ان کے ساتھ کبھی سفر نہ کرنا چاہئے۔

تو یاد رکھو ایسی پابندی میں محض صورت عمل ہوتی ہے حقیقت نہیں ہوتی کیونکہ اس وقت

شریعت کا حکم ہے کہ معمول کو ترک کر کے ضروری پر اکتفا کرو اور رفیقوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حدیث میں جرتح عابد کا قصہ آتا ہے کہ وہ اپنے صومعہ میں شریک عبادت تھے کہ نیچے سے ان کی ماں نے پکارا وہ دل میں کہنے لگے کہ اے اللہ ادھر میری ماں پکار رہی ہے اور ادھر میری نماز ہے میں کیا کروں بالآخر وہ نماز ہی میں کہنے لگے ماں نے چند بار پکارا مگر انہوں نے جواب نہ دیا اس وقت شریعت کا حکم یہ تھا کہ وہ بول پڑتے اور نماز کا بعد میں اعادہ کر لیتے کیونکہ نماز فرض نہ تھی نفل تھی اور ماں کو اطلاع نہ تھی کہ نماز میں مشغول ہیں اس وقت جواب نہ دینے سے اس کو کلفت ہوتی تھی۔ چنانچہ اس نے دو تین بار آواز دینے کے بعد یہ دعا کی جس کا سابقہ حدیثوں میں آتا ہے حضور نے اس واقعہ نفل کر کے فرمایا۔

لو کان فقیها لا جاب امه

یعنی اگر جرتح فقیہ ہو تو توانی ماں کو ضرور جواب دیتے خاموش نہ رہتے۔  
دیکھئے اس وقت حضور نے نماز توڑ دینے کو افضل قرار دیا۔

## حق اللہ و حق العباد

حضرت جرتح کو یہ شبہ ہوا تھا کہ نماز حق اللہ ہے اور ماں کو جواب دینا حق العبد، ہے اور حق اللہ حق العبد سے مقدم ہے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ دوسرا مقدمہ تو صحیح ہے کہ حق اللہ حق العبد سے مقدم ہے مگر پہلا مقدمہ غلط ہے کہ اس وقت ماں کو جواب دینا محض حق العبد ہی تھا ان کو بوجہ عدم تفقہ کے یہ خبر نہ تھی اس وقت نماز کا توڑنا اور ماں کو جواب دینا حق اللہ بھی ہے کیونکہ اس وقت اسی کا امر تھا اور جس وقت جس چیز کا امر ہو وہ حق اللہ بھی ہے محض حق العبد نہیں گونا ہر میں بندہ سے اس فعل کا تعلق ہو۔ اس غلطی میں سب لوگ بتا ہیں کہ جس فعل کا تعلق عبید سے ہے یہ ہے اسکو حق العبد ہی سمجھتے ہیں حالانکہ جب وہ شرعاً مورب ہے تو حق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد سب کے سب مامور بہا ہیں تو وہ حق اللہ سے خالی نہیں پس کسی بندہ کے واسطے نماز توڑ دینا وہ حقیقت حق اللہ کی رعایت ہے کیونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔

ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے کہ میں صبح کی سنتیں پڑھ رہا تھا کہ بڑے گھر سے آدمی دوڑا ہوا یہ خبر لایا کہ گھر میں سے کوئی ٹھے کے اوپر سے گرفتی ہیں میں نے خبر سنتے ہی فوراً نماز توڑ دی یہاں تو سب سمجھدار لوگ ہیں مگر شاید بعض ناواقف اپنے دل میں اس وقت یہ کہتے ہوں کہ ہائے بیوی کے واسطے نماز توڑ دی بیوی سے اتنا تعلق ہے کہ خدا کی عبادت کو اس کے لئے قطع کر دیا۔ بے شک اس وقت اگر کوئی دکاندار پیر ہوتا وہ ہرگز نماز نہ توڑتا کیونکہ اس سے جاہل مریدوں کی نظر میں ہیٹی ہوتی مگر الحمد للہ مجھے اس

کی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا کہے گا اگر کسی کی نظر میں اس فعل سے میری ہٹی ہوئی وہ شوق سے کوئی دوسرا شخ تلاش کر لیں جب خدا کا حکم تھا کہ اس نماز کو توڑ دو تو میں کیا کرتا کیا اس وقت جاہلوں کی نظر میں بڑا بننے کے لئے میں حکم خداوندی کو چھوڑ دیتا اور جریح عابد کی طرح نماز میں مشغول رہتا وہ تو اس حکم سے ناواقف تھے اس لئے معدود رتھے مگر میں بحمد اللہ اس حکم سے ناواقف نہ تھا ظاہر ہے کہ جب یہوی کو ٹھے پر سے گرمی تو اس کی چوت کوشہر ہی بلکا کر سکتا ہے اور وہی دریافت کر سکتا ہے کہ چوت کہاں لگی کہاں نہیں گلی خصوص ایسی حالت میں کہ گھر کے اندر بجز ایک ناسجھ پنجی کے اور ایک معدود بڑھیا کے کوئی امداد کرنے والا بھی نہ تھا اور امداد کرنے والے ہوں بھی تو کوئی تو کو ٹھے سے گرجانا بعض دفعہ ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے فوراً ہی کوئی تدبیر ہو جائے تو زندگی کی آس ہو سکتی ہے اس لئے بھی مجھ کو فوراً جانا ضروری تھا اس لئے میں نے شرعاً نماز کا توڑ دینا اور فوراً جا کر ان کی خبر گیری کرنا ضروری سمجھا۔

حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماء ہے تھے کہ حضرات حسین رضی اللہ عنہ میں سے کوئی ایک صاحبزادے مسجد میں آگئے اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے چلتے ہوئے لڑکھراتے تھے تو حضور نے خطبہ توڑ کر انکو دور ہی سے گود میں اٹھا لیا حالانکہ خطبہ بحکم صلوات ہے جو بدوں کی سخت عذر کے قطع نہیں ہو سکتا۔

تجب حضور نے نواسوں کے لئے خطبہ توڑ دیا تو میں کیا چیز تھا کہ اتنے بڑے حادثے کے وقت سنتوں کی نیت نہ توڑتا اس میں یہوی کی رعایت تھی بلکہ حق تعالیٰ کی رعایت تھی کیونکہ اس وقت خدا کا حکم ہی تھا خدا کے حکم کے سامنے یہوی کیا چیز ہے اگر حق تعالیٰ کسی وقت یہوی کے قتل کا حکم دیں تو سچا مسلمان ایسا بھی کر دے گا اور جہاں وہ اس کی خبر گیری کا حکم دیں وہاں وہ اس کے لئے نماز بھی توڑ دے گا اور وہ نوں صورتوں میں وہ نوں فعلوں کا سبب حق اللہ ہی ہو گا پس جس جگہ شریعت ترک معمولات کا امر کرتی ہو جیسے سفر میں رفقاء کی رعایت سے فراغ و سخن موكدہ پر اکتفا کرنا یا جس جگہ نماز توڑ نے کا امر کرتی ہو جیسے کسی مسلمان کی حفاظت و خیر گیری کے لئے ایسا کرنا وہاں معمولات کی پابندی کرنا غلوتی الدین اور تقویٰ کا ہیضہ ہے۔

### پابندی طریق کی حقیقت

فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شخص ایک داشتگیوں کی تعریف یعنی تشوییر کرتا پھرے کہ یہ واثق کس کا ہے اس پر تعزیر جاری کی جائے آخر کیوں اسی لئے تو کہ یہ ورع نہیں بلکہ ورع کا ہیضہ ہے پس ہمارے اندر بعض لوگ تو وہ ہیں جو پریشانی کے وقت طریق کو بالکل ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں اور بعض وہ

ہیں جو اپنی وضع بنانے کے کے لئے طریق پر غلو کے ساتھ جمع رہتے ہیں لیکن مقصود کو چھوڑ بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کی نیت اس وقت معمولات کی پابندی سے انتہا امر اور طلب رضاۓ حق نہیں بلکہ محض اپنی وضع کو قائم رکھنا ہے اور یہ طریق ایسا نہیں جو بلا قصد کے بھی موصل ہو سکے یہاں تو ہر وقت ارادہ انتہا امر کی ضرورت ہے جس عمل میں انتہا امر کی نیت نہ ہوگی وہ عمل موصل نہ ہو گا۔

پس جہاں شریعت تھوڑی دیر کے لئے ترک معمولات کا امر کرتی ہو وہاں بھی معمولات پر جمارہ نایا پابندی طریق محض صوری ہے جس میں مقصود کا پتہ بھی نہیں۔

پس میں نے جو پہلے بیان میں مصائب کے وقت پابندی اعمال کی ضرورت کو ظاہر کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک شریعت ترک معمولات کا امر نہ کرے اس وقت تک تو معمولات کو ترک نہ کرے اور جس وقت جتنی دیر تک ترک معمول کا امر کرے اس وقت اتنی دیر تک معمول کو ترک کر دے اور اس حالت میں معمول کو ترک کر دینا بھی پابندی طریق میں داخل ہے کیونکہ اس وقت اس میں انتہا امر ہے اور پابندی طریق انتہا امر و نبی کا نام ہے مثلاً سفر میں قصر کا لے امر ہے وہاں تمام کرنا گو ظاہر میں پابندی طریق ہے مگر حقیقت میں پابندی نہیں کیونکہ خلاف امر ہے خلاصہ یہ کہ پابندی طریق کی حقیقت مأمور بہ کو بجالانا ہے اور یہی ماعلیہ الصبر ہے باقی یہ بات کہ کہاں ترک معمول مأمور بہ ہے کہاں نہیں اور جہاں ترک معمول کا امر ہے وہ کتنی دیر کے لئے علم شریعت اور محققین کی صحبت سے معلوم ہو سکتی ہے کیونکہ شریعت ترک معمولات کا امر کسی ضرورت شدیدہ ہی سے کرتی ہے اور قاعدہ ہے کہ **الضروری يقدر بقدر الضرورة**۔ (ضروری بقدر ضرورت ہوتا ہے)

اس لئے ضرورت سے زیادہ معمول کو ترک کرنا صبر کے خلاف ہو گا اور اس وقت یہ ترک ما علیہ الصبر میں داخل نہ ہو گا۔ خوب سمجھو او۔

## اعمال کی فسمیں

لیکن یہاں بعض ناواقفوں کو ایک دھوکا ہوتا ہے میں اس کو بھی رفع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اہل علم کو لے یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ضرورت کے وقت اگر ایک معمول نہ ہو سکے مثلاً سفر میں تجد د اشراق کی پابندی نہ ہو سکے تو ان اعمال کے وقت ذکر اللہ ہو سکتا ہے لہذا اس وقت کو ذکر سے خالی نہ چھوڑے۔ خواہ تلاوت قرآن کر لے یا ذکر لسانی جبرا یا خغا کے ساتھ کرے غرض اس کو یاد خدا سے خالی نہ جانے دے تاکہ دل کو اس وقت خاص میں معمول کا خیال رہے یہ بھی پابندی کا قائم مقام ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ حافظہ گو نماز کے وقت میں وضو کر کے محلے پر بیٹھ کر کچھ دیر بحاجان اللہ و الحمد للہ کی تسبیحیں پڑھ لینا چاہئے تاکہ نماز کی عادت باقی رہے فقہاء نے اس راز کو سمجھا ہے لہذا یہ نظری ہے کہ سفر یا امراض میں اوقات عبادت کو کہل ذکر میں بھی مشغول نہ کیا جائے۔ ۱۲۔ جامع

معلوم ہے کہ اعمال تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو دین میں نافع ہیں ان کا تو کرنا مأمور ہے ہے خواہ درجہ فرضت و وجوب میں ہو یا درجہ سنت و استحباب میں اور بعض وہ ہیں جو دین میں مضر ہیں ان کا ترک مأمور ہے ہے خواہ درجہ حرمت میں ہو یا کراہت میں اور بعض وہ ہیں جن کے فعل یا ترک کا امر نہیں وہ مباحثات ہیں۔

پہلی دو قسموں کا ماعلیہ الصبر میں داخل ہوتا تو ظاہر ہے کیونکہ وہ مأمور ہے ہیں خواہ فعلا ہو یا ترک کا۔ لیکن مباحثات کو اکثر مأمور ہے سے خارج سمجھتے ہیں کیونکہ ظاہر میں وہ مأمور ہے فعل یا ترک کا نہیں ہیں مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیری قسم بھی پہلی ہی دو قسموں میں داخل ہے۔

وہ اس کی یہ ہے کہ اپنے اثر کے لحاظ سے مباحثات دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ دین کے لئے نافع ہیں جیسے بغرض حفظ صحت چلنے پھرنا اور زش کرنا یا نافع نہیں اگر دین میں نافع ہے تو وہ فعل مأمور ہے گو درجہ وجوب میں نہ ہو مگر جب مباح نافع فی الدین کو اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ فعل مستحب ضرور ہو جاتا ہے اور اس میں ثواب بھی ملتا ہے یا وہ دین میں نافع نہیں تو فضول ہے اور فضولیات کا ترک کر دینا مأمور ہے شرعا ہے چنانچہ حدیث میں ہے۔

من حسن اسلام الماء تو کہ مالا یعنیه (الکامل لابن عدی ۳: ۳۰۷، ۲۳۳۱: ۶، ۵۸۸۲)

اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ مالا یعنی کو ترک کر دیا جائے

جب فضولیات کے ترک کو حسن اسلام میں داخل ہے اور حسن اسلام مأمور ہے اور مطلوب ہے تو ان فضولیات کا ترک بھی مأمور ہے ہو گیا گو ان کو حرام نہ کہا جائے مگر فضولیات میں اختیال کراہت سے خالی نہیں پس مباحثات کا مأمور ہے سے خارج ہوتا اس لحاظ سے ہے کہ اس کی ذات من جیث ہی ذات دین کے لئے نافع یا مضر نہیں لیکن اثر کے لحاظ مباح یا نافع ہے یا فضول ہے اور فضول کا حسن اسلام کے لئے مضر ہونا حدیث سے معلوم ہو چکا ہے تو یوں کہنا چاہئے کہ مباح بھی یا نافع ہے یا مضر تو مال کے اعتبار سے وہ بھی مأمور ہے میں داخل ہے جس کے بعض افراد فعلا مأمور ہے ہوتے ہیں اور بعض ترک کا۔ لہذا یہ بھی ماعلیہ الصبر سے خارج نہیں تو ہم کو مصائب میں جس طرح، حرام اور مکروہ سے بچنا ضروری ہے اسی طرح فضولیات سے بچنا بھی ضروری ہے۔

لوگوں کو فضولیات سے بچنے کا بہت ہی کم اہتمام ہے اسی لئے مصائب کے وقت بے کار تذکروں میں وقت گزارتے ہیں اور اس کو صبر کے خلاف نہیں سمجھتے حالانکہ جب صبر کی حقیقت انتہا امر ہے تو فضولیات میں مشغول ہونا خلاف صبر کیوں نہ ہو گا جب جب شارع علیہ السلام ترک

مالاً یعنی کا امر ترغیب کے صیغہ سے فرمائے ہیں اہل اللہ کو اس کا اس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ ایک بزرگ ایک فضول بات زبان سے نکلنے پر تیس برس تک روئے تھے مگر بعض لوگ اس میں بھی غلو کرتے ہیں کہ جب وہ فضولیات سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں تو خشک بن کر بینہ جاتے ہیں کوئی ان کے پاس آئے تو مزاج پری کو بھی فضول سمجھتے ہیں اور جو دوسرا ان کی مزاج پری کرے تو ناک منہ چڑھاتے ہیں اور جب وہ کسی کام کو ہنتے دوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا کامل ہو جو فضول افعال میں بنتا ہے دوڑتا بھی ہے بنتا بھی ہے۔

اس غلطی کا نشایہ ہے کہ ان لوگوں نے بعض مباحثات کو ذات کو فضول قرار دے دیا ہے ان کے نزدیک دوڑنا ہتنا دیر تک کسی سے باتیں کرنا مطلقاً فضول ہے حالانکہ کوئی مباحث اپنی ذات سے فضول نہیں بلکہ مباحث کا نافع یا فضول ہونا اکثر کے تالع ہے جس مباحث پر کوئی نفع دینی مرتب نہ ہوا ورنہ اس میں نفع دینی کا قصد ہو وہ فضول ہے اور جس پر نفع مرتب ہو یا اس میں کسی دینی نفع کا قصد ہو وہ فضول نہیں بلکہ نافع ہے اور مامور بہ کہ فرد ہے پس ناقص کا کامل کے دوڑ نے ہنسنے اور بہت باتیں کرنے پر اعتراض کرنا اس کے فہم کا قصور ہے کامل محض نفس کے لئے یہ کام نہیں کرتا بلکہ وہ ان افعال میں دینی نفع کا قصد کرتا ہے اس لئے اس کے حق میں یہ افعال، فضول نہیں۔

## حسن معاشرت

خبر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گاہے صحابہؓ سے مزاج فرمایا کرتے تھے اور حضور نے حضرت عائشہؓ کے ساتھ دوڑ کی ہے تو کیا تمہارے نزدیک معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کام فضول کئے ہیں معلوم ہوا کہ کوئی مباحث اپنی ذات سے فضول نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ جن کاموں کو تم فضول سمجھتے ہو ان میں ابھی کوئی دینی حکمت ہو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ایک حکمت مناسب نبوت تھی وہ یہ کہ آپ کا جلال خدادا و بہت بڑھا ہوا تھا جو صحابہؓ کو آپ کے سامنے دل کھول کر بات کرنے سے مانع تھا اس لئے آپ نے ان کو اپنے سے بے تکلف کرنے کے لئے مزاج شروع فرمایا کیونکہ افادہ واستفادہ کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ طرفین کے دل کھلے ہوئے ہوں کسی کو انقباض نہ ہو۔ انقباض مانع فیض ہوتا ہے خواہ طالب کی طرف سے ہو یا مربی کی طرف سے ہو اسی طرح ہر کامل کے ہنسی اور مزاج میں اس کے مناسب حال کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے جس پر ناقص کی نظر نہیں پہنچتی اسلئے وہ اعتراض کرتا ہے۔

حضورؐ نے جو حضرت عائشہؓ کے ساتھ دوڑ کی ہے اس میں یہ حکمت تھی کہ آپ نے امت کو تعلیم دی ہے کہ اگر زیادہ عمر والا کسن لڑکی سے شادی کرے تو اس کو یہ نہ چاہئے کہ اپنی طرح اس پچی کو بھی دانا بنایا کر کے بلکہ اس کے جذبات کی بھی رعایت کرے پھر اس کی طبیعت کھیل کو چاہا کرتی ہے تو اس کو اس کا موقع دینا چاہئے اور اگر وہ شوہر کے لحاظ و ادب سے کھیل کو دشمن کرتی ہو تو اس کو صرف قول، ہی نہیں بلکہ عملاً اجازت دینی چاہئے اسی لئے آپؐ خود حضرت عائشہؓ کے ساتھ دوڑے اور بعض دفعہ آپؐ نے ان پر جبکہ بچوں کا کھیل بھی دکھلایا جو مسجد کے فناء میں نیزوں سے کھیل رہے تھے ان کو گڑیوں سے کھینے کی بھی اجازت دی اور کبھی ایسا ہوتا کہ محلہ کی لڑکیاں حضورؐ گھر میں تشریف لاتے دیکھ کر گڑیوں کے کھیل سے متفرق ہو جاتیں تو آپؐ ان کو جمع کر کے لاتے کہ میں کچھ نہیں کہتا تم، اطمینان سے کھیلو۔

ان سے امور میں امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ یوزھار و کسن لڑکی سے شادی کر کے اس کے ساتھ کیونکر معاشرت کرے پس چونکہ حضورؐ کے ان افعال کو حسن معاشرت میں دخل ہے جو شرعاً مطلوب ہے نیز امت کو بھی حسن معاشرت کی تعلیم ہے اس لئے یہ فضل نہیں ہیں، مگر ناقصین کی نظر چونکہ صورت ہی پر پہنچتی ہے حکمت تک نہیں پہنچتی اس لئے وہ کامل پر اعتراض کر دیتے ہیں اسی لئے کفار کہتے تھے۔

مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَا مُكْلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ

یہ کیسے رسول ہیں جو ہماری طرح کھاتے پیتے ہی اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔

انبیاء نے ایسے اعتراضوں کا جواب دیا۔

إِنَّنَا هُنَّ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلِكُنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ

بے شک ہم تم جیسے ہی بشر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں احسان فرمادیتے ہیں۔

بس ہم میں اور تم میں اتنا فرق ہے کہ ہم پر خدا تعالیٰ کا خاص احسان ہے اور تم پر وہ احسان نہیں غرض صورت میں کامل اور غیر کامل یکساں معلوم ہوتا ہے کامل کو من الہی سے انتیاز ہوتا ہے اور من خداوندی کی اطلاع کسی نہیں ہو سکتی بجز اس کے جس کی آنکھیں ہوں اس لئے کامل کا پیچانہ نابراہ مشکل ہے مولانا فرماتے ہیں:

دِرِینا بدِ حالِ پختہ بیچِ خام پسِ خن کوتاہ پایید والسلام

(جب خام پختہ کے حال کو نہیں سمجھ سکتا تو طویل کلام سے کیا فائدہ، سلامتی اسی میں ہے کہ

ان مضاہین سے سکوت کیا جائے)

یہ بڑی غلطی ہے کہ ناقص کامل کو اپنے اوپر قیاس کرنے لگے اور ان کو زیادہ باتیں کرتے

ہوئے دیکھ کر یہ سمجھنے لگئے کہ وہ بھی اسی طرح لا یعنی میں مشغول ہیں کیونکہ کاملین کو حق تعالیٰ ایک ایسا ذوق عطا فرمادیتے ہیں جس سے باقیں کرتے کرتے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب خاموشی کی حد آگئی ہے اس وقت وہ فوراً خاموش ہو جاتے ہیں اور ناقص کو یہ ذوق حاصل نہیں وہ اگر زیادہ باقیں بنائے گا تو ضرور لا یعنی میں بتتا ہو گا اس لئے اس کو زیادہ باقیں کرنا مضر ہے اور کامل کو مضر نہیں۔

## ناقص و کامل کا فرق

کاملین کی باقیں بھی ذکر ہی ہوتی ہیں۔ اور جس کی کھلی دلیل یہ ہے کہ ان کی باتوں سے خواہ وہ دین کے متعلق ہوں یاد تیار کے اہل مجلس پر ذکر اللہ کا اثر غالب ہوتا ہے اور جتنی دیر تک بھی کوئی ان کے پاس بیٹھا باقیں سنتا رہے حق تعالیٰ ہی کے طرف متوجہ رہے گا اور ناقص کی باتوں میں یہ اثر نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ مولا ناظمؒؒ محمد صاحبؒؒ کو حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں زیادہ دیر لگ گئی اور اٹھتے وقت بطور معدربت کے حضرت سے عرض کیا کہ آج حضرت کا بہت حرج ہوا کیونکہ یہ وقت عبادت کا تھا فرمایا کہ میاں کیا تسبیح چلانا ہی عبادت ہے دوستوں سے باقیں کرنا بھی تو عبادت ہے کیونکہ اس میں تطییب قلب مسلم ہے۔

ایک بار میر انعام نے کفر فرمایا کہ میاں اشرف علی جب ہم مجلس میں باقیں کرتے ہوں اسوقت بھی تم ہمارے باطن کی طرف متوجہ رہا کرو یہ مت سمجھنا کہ اس وقت تو باتوں میں مشغول ہیں اس لئے باطن سے قیف نہ ہو گا بھائی ہمارا باطن اس وقت بھی ذکر ہی میں مشغول ہوتا ہے۔

تو بات کیا ہے اس کا راز بھی ہے کہ کامل باقیں بھی عبادت ہی کی نیت سے کرتا ہے اس کا باطن اس وقت بھی مشغول بحق ہوتا ہے اسی لئے اسکو معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اب خاموشی کا وقت ہے اور اس وقت یوں نے کی ضرورت ہے، اس وقت مزاج کی ضرورت ہے، تو اس کا کوئی قول یا فعل عبادت و ذکر سے خالی نہیں ہوتا اس لئے کامل کو پہنچی مزاج اور زیادہ باتوں میں مشغول دیکھ کر اپنے اپر قیاس کر کے اس پر اعتراض نہ کرنا چاہئے جن باتوں کو تم فضول سمجھتے ہو وہ کسی حکمت یا ضرورت کی وجہ سے ان میں مشغول ہوتا ہے۔

صوفیاء نے اس کو خوب سمجھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ خلوت طویل سے طبیعت گھبرا جائے تو چند روز کے لئے خلوت کو چھوڑ کر لوگوں سے ملنامانا دوستوں سے باقیں کرنا اور پہنچی مزاج کرنا چاہئے یا کچھ دنوں کے لئے سفر کر کے کسی شہر میں سیر و تفریح کے لئے چلا جانا چاہئے بلکہ امام غزالیؒؒ نے تو اس حالت میں ان امور کے اختیار کرنے کو واجب لکھا ہے جس کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا گیا کہ

انہوں نے مباحثات بلکہ بظاہر فضولیات کو واجب کہہ دیا مگر امام کی رائے صحیح ہے کیونکہ قاعدہ فقیہہ ہے  
**مقدمة الواجب واجب** کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے  
 اور جب طبیعت اعمال طاعات سے گھبرا نے لگئے تو اس کو طاعات کی طرف مانل کرنا واجب  
 ہے ورنہ یہ حالت بڑھتے بڑھتے تعطل کی طرف مفہومی ہو جائے گی اور جب کثرت اعمال سے  
 طبیعت اکتا جائے تو اس صورت میں ان شراح و انبساط کے لئے اختلاط و سیر و تفریح و مزاح بھی  
 مفید ہوتا ہے اس راز کو محقق ہی سمجھ سکتا ہے غیر محقق تو ایسے موقع میں یہ بتائے گا کہ۔ یا باسط کا  
 وظیفہ پڑھو یا فتح کا ورد کرو مگر محقق اس کی رائے پر ہستا ہے اور کہتا ہے  
 بے خبر بونداز حال دروں استعیذ اللہ مما یفترون

اندر کے حال سے بے خبر تھے میں ان کے افتراء سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔

اس جگہ مولا نا نے طبیب الہی کا قول نقل فرمایا ہے کہ اس نے دوسرے اطباء کی رائے سن کر یہ کہا ہے  
 گفت ہر دارو کہ ایشان کر دے اند آن عمارت نیست ویراں کر دے اندر  
 انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے جو دو ابھی کی ہے یہ تعمیر نہیں بلکہ تجزیب ہے۔

سوغیر محقق تو اس موقع پر ایک وظیفہ اور بڑھادیتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ وظیفوں ہی سے تو یہ  
 حالت پیدا ہوئی مگر وہ الٹا اور وظیفہ ہی بڑھاتا چلا جاتا ہے تو اس سے مرض کم ہو گایا بڑھے گا ظاہر  
 ہے کہ جب سبب مرض میں اضافہ ہو گا تو مرض کو بھی ترقی ہو گی محقق اس وقت علاج بالضد کرے گا  
 وظیفوں سے قبض ہوا ہو تو وہ ترک و ظائف کی تعلیم کرتا ہے خلوت سے انقباض ہو تو وہ ترک خلوت کا  
 امر کرتا ہے اور اس سے بہت جلد حالت میں افاقہ ہوتا ہے۔

میرے ایک دوست تھے مولوی صادق الحسین صاحب مرحوم وہ بیعت تو حضرت حاجی صاحب  
 سے تھے اور اجازت یافتہ حضرت مولانا گنگوہی کے تھے مجھ سے بھی ان کو محبت و عقیدت کا تعلق تھا ایک  
 دفعہ ان پر قبض شدید طاری ہوا تو مجھے اطلاع کی کیونکہ میں اس وقت ان کے وطن سے قریب کا نپور میں  
 تھا میں نے لکھا کہ آپ کچھ دنوں کو ذکر و شغل اور خلوت بالکل ترک کر دیجئے اور لکھنؤ جا کر چوک وغیرہ  
 میں سیر و تفریح کیجئے اول تو ان کو اس جواب سے بڑی وحشت ہوئی مگر انہوں نے اس پر عمل کیا اس  
 طریق میں انقیاد و اتباع کی بہت ضرورت ہے خود رائی اس طریق میں سدرہ ہے چنانچہ انہوں نے  
 انقیاد سے کام لے کر فوراً عمل کیا۔ وہی تین دن میں سارا قبض جاتا رہا اور شدت سے سلط طاری ہوا۔

اب ایسا شخص اگر بُنگی مزاج میں مشغول ہو گا تو ظاہر ہے وہ علا جا ایسا کر رہا ہے اور ضرورت کی وجہ سے ان کو اختیار کر رہا ہے مگر ظاہرین کو کیا خبر وہ تو صرف دلیل کر کہ یہ شخص زائد و عابد ہو کر اور شیخ و صوفی ہو کر بُنگی مذاق کر رہا ہے اس کو یہ کیا معلوم ہے کہ اس وقت اس کا ہنسنا اور مزاج کرنا ہی عبادت ہے کیونکہ مقدمہ واجب ہے۔

### مباحثات اور فضولیات

غرض جن امور مباحثہ کو فضول کہا جاتا ہے وہ اسی وقت تک فضول ہیں جب ان سے دین میں کوئی نفع نہ ہو اور اگر کوئی مباحث دین میں نافع ہو تو وہ فضول نہیں اس لئے بے ضرورت مباحثات میں مشغول ہونا بھی برا اور ضرورت کے وقت مشغول نہ ہوتا بھی برا پس ثابت ہو گیا کہ مباحثات بھی اپنے اثر کے اعتبار سے مامور بہ میں داخل ہیں بحمد اللہ اس تقریر سے ماعلیہ الصبر کی تعیین بخوبی ہو گئی اور صبر کی حقیقت بھی اچھی طرح واضح ہو گئی شبہات کا ازالہ بھی ہو گیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ناگوار واقعات کے وقت دو چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں ایک یہ کہ جو طریق حق تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لئے اختیار کیا گیا ہے اس میں تو خلل نہیں آیا خواہ وہ واجبات ہوں یا مستحبات کیونکہ مستحبات کی پابندی بھی خواص کے لئے ایک درجہ میں ضروری ہے حدیث میں ہے:

احب الاعمال الى الله ادومها (الصحیح لمسلم: المسالفین : ۲۱۸)

کہ حق تعالیٰ کی طرف سے سب اعمال میں زیادہ محبوب وہ ہیں جن پر دوام کامل ہو۔

اس میں لفظ احباب عاشق کی نظر میں دوام کی ضرورت کو بتلارہا ہے کیونکہ جب ایک چیز حق تعالیٰ کو محبوب ہے تو عاشق کو ان کے سامنے محبوب ہی چیزیں پیش کرنا لفظ احباب سے دوام کی عدم ضرورت پر ہی استدال کرے گا جس میں محبت و عشق نہ ہو درست عاشق تو یہ سن کر کہ محبوب فلاں چیز سے خوش ہوتا ہے اس پر جان شمار کر دے گا اور جب تک محبوب ہی منع نہ کرے اس وقت تک اس کو اپنے ذمہ لازم کر لے گا۔

میں پوچھتا ہوں کہ آخر عبادات اور عمل سے مقصود کیا ہے ظاہر ہے رضاۓ حق مطلوب ہے تو عامل کو ضروری ہے کہ عمل اس طرح کرے اور اس میں وہ طریق اختیار کر لے جس سے محبوب خوش ہوتا ہے اور حدیث سے معلوم ہو چکا کہ حق تعالیٰ دوام سے خوش ہوتے ہیں تو دوام کا اہتمام ضروری ہے اور دوسری حدیث میں تو اس کی تصریح ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔

یا عبد الله لا تکن مثل فلاں کان یقوم من اللیل ثم ترك (الصحیح للبغاری ۶۸:۲)  
ایے عبد اللہ بن عمر، تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جاتا جو رات کو اٹھا کرتا تھا پھر قیام لیل ترک کرو یا۔

اس میں حضور نے ایک معمول مستحب کے ترک پر صراحةً کراہت کا اظہار فرمایا ہے پس ثابت ہوا کہ مستحب کو معمول بنا کر بلا عذر ترک کر دینا ایک گونہ مکرہ ہے تو وہ ام ضروری ہے۔

ایسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ عمل تھوڑا سا اختیار کرو جس پر بناء ہو سکے اور اگر کسی وقت زیادہ کاشوق ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت زیادہ کرلو مگر اپنے ذمے زائد کو لازم نہ سمجھو۔ بھی نشاط و سرور ہو تو زیادہ سمجھی کرلو مگر اس کی پابندی کو لازم نہ سمجھو اس کی صورت میں اگر بھی زیادہ نہ ہو سکا تو قلیل کو ادا کر کے تسلی ہو جائے گی کہ ہاں معمول پورا ہو گیا کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ بغیر معمول پورا کیے تسلی نہیں ہوتی اور یہی حکمت ہے صوفیاء کے اس فعل کی کروہ طالبین کے لئے ذکر کی کوئی مقدار معین کر دیتے ہیں حالانکہ ذکر ایسی چیز ہے کہ اس کے لئے کوئی مقدار معین نہ ہو ناچاہئے جتنا بھی زیادہ ہوا چھاہے مگر بغیر تعلیم مقدار کے ذا کر کی تسلی نہیں ہو سکی وہ ہر دن اسی فکر میں رہے گا کہ نہ معلوم جتنا ذکر میں کر رہا ہوں یہ مصول الی المطلوب کے لئے کافی بھی ہے یا نہیں اور جب شیخ نے ایک مقدار معین کر دی اب اس کو پورا کر کے تسلی ہو جاتی ہے۔

اس طریق میں تسلی قلب و جمیعت خاطر کی رعایت بہت ضروری ہے اس لئے اپنے ذمہ عمل اتنا لازم سمجھو جسکو زیادہ کو معمول نہ بناؤ تا کہ روزانہ قلب کو تسلی حاصل ہوئی رہے کہ کام پورا ہو گیا۔

## جماعیت قلب

اہل اللہ کو جمیعت قلب کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے کیونکہ اس طریق کا مدار اسی پر ہے چنانچہ ایک بزرگ نے اسی لئے حق تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ میر اعمربھر کا رزق ایک دم سے مجھے دے دیا جائے ارشاد ہوا کیا ہمارے اوپر اعتماد نہیں، عرض کیا اعتماد تو ہے مگر شیطان مجھے روز آ کر پریشان کرتا ہے کہ کل کو کہاں سے کھاوے گا میں جواب دیتا ہوں کہ اللہ وے گا وہ کہتا ہے کہ اللہ تو وے گا مگر یہ تو وعدہ نہیں کب دے چاہیں ممکن ہے تین چار روز بھوکار کھ کر دیں پس یہاں آ کر خاموش ہو جاتا ہوں اگر آپ مجھے عمر بھر کا رزق ایک دم سے دے دیں تو میں اس کو اپنے گھر میں بھر کر قفل لگادوں گا اور جب شیطان کہے کہ کل کو کہاں سے کھاوے گا تو میں کہہ دوں گا کہ دیکھ اس کو خڑی میں سے کھاؤں گا۔

ان بزرگ نے جمع طبع کے ذریعہ سے (مُرْطِعٌ مِنَ اللّٰهِ) جمیعت قلب کو حاصل کرنا چاہا اور بعضے قناعت و توکل کے ذریعے سے اس کو طلب کرتے ہیں بہر حال کامل کا مطلوب رضا و جمیعت قلب من اللہ ہے خواہ طبع سے حاصل ہو یا توکل سے جس میں خدا تعالیٰ نے طبع ہی کا مادہ رکھا ہے وہ توکل اور قناعت کو کیونکر اختیار کرے وہ تو طبع ہی ظاہر کر کے جمیعت کا طالب ہو گا۔ اسی کو فرماتے ہیں۔

چوں طمع خواہد زمّن سلطان ویں      خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

(جب دین کا باوشاہ م جھ سے طمع کا اظہار کرے تو پھر اسی قناعت پر خاک)

لیکن وہ مخلوق سے طمع ظاہرنہ کرے گا بلکہ محبوب سے ظاہر کرے گا اسی طرح جس کو خدا تعالیٰ نے راحت کا عادی بنایا ہے وہ راحت ہی کے ذریعہ سے جمعیت طلب کرے گا اچھے کپڑے پہنے گا اچھا کھانا کھائے گا اور جب تک حق تعالیٰ ہی مشقت نہ بھیجیں اس وقت تک وہ اپنے اختیار سے طریق مشقت کو کبھی اختیار نہ کرے گا اور جب حق تعالیٰ اس کو مشقت میں ڈالتے ہیں تو اس میں دوسروں سے زیادہ رضا و تحمل ظاہر ہوتا ہے اور یوں کہتا ہے

ناخوش تو خوش بود بر جان من      دل فدائے یار دل رنجان من

تیری ناخوشی میرے دل کی خوشی ہے اور میرا دل، دل تو تکلیف دینے والے دوست پر  
قربان ہے اور یوں کہتا ہے

نشود و نصیب دشمن کو شود ہلاک تیغت      سر دوشاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

اس مذاق کا تفویض کلی ہوتا ہے حق تعالیٰ جس حال میں رکھتے ہیں اسی میں خوش رہتا ہے بعض لوگ یہاں آئے اور کہتے لگے کہ یہاں تو فقیری معلوم نہیں ہوتی اچھے کپڑے پہنے ہیں اچھا کھانا کھاتے ہیں میں نے کہا جاؤ کسی لنگوٹ بند کے یہاں بلکہ کسی ننگ دھرنگ کے یہاں جسے لنگوٹ بھی اتار پھینکا ہو۔

## آج کل کا مذاق

آج کل بہت لوگ اسی مذاق کے ہیں کہ ننگ دھرنگ آدمی کے جلدی معتقد ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں گالیاں بھی دے تو راضی رہتے ہیں بلکہ اگر کفریات بھی بکے جب بھی معتقد رہتے ہیں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ کہیں چلے جاتے تھے راستہ میں ایک مجمع دیکھا معلوم ہوا کہ ریچ میں ایک ننگ دھرنگ آدمی بیٹھا ہوا کم بخت کفریات بکر رہا ہے۔ نالائق اپنے عضو کو ہلاک کر کہتا ہے کہ تو بے توبہ یہ تو اللہ کا الف ہے۔ نقل کفر کفر نہ باشد) اور بہت سے لوگ اس کے معتقد ہو رہے ہیں شاہ صاحب نے اپنے ایک ہمراہی شاگرد سے فرمایا کہ اس شخص کی کمر میں ایک لات مارا اور یہ کہو کہ نامعقول بے پیرا معلوم ہوتا ہے بھلا کہیں الف کے نیچے دونقطے بھی ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب جامع فنون تھے۔ ننگوں کا جواب انہی کے مذاق میں دیا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور سارے معتقدین فخر و اہو گئے۔ اس طرح فتنہ فروہوا۔

یہ مذاق کچھ آج سے نہیں پرانا مذاق ہے لوگ ہمیشہ سے ایسے شخص کے کم معتقد ہوتے ہیں جو آدمیوں کی شکل میں ہو عقل و تہذیب سے آراستہ ہو چنانچہ کفار کو انہیاء پر بھی اعتراض تھا کہ یہ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ نبی کو آدمی نہ ہونا چاہئے تھی مذاق آج کل ہے کہ آدمیت کو کمال کا منافی سمجھتے ہیں چنانچہ جتنا کوئی آدمیت سے گزر اہواں کے جلدی معتقد ہو جاتے ہیں۔

غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ مصیبت کے وقت معمولات میں کمی نہ کرو اور طریق وصول کی طرف متوجہ رہو۔ ورنہ یاد رکھو اگر تم طلب میں کمی کر دو گے تو ادھر سے بھی عطا میں کمی ہو جائے گی۔ حق تعالیٰ اس وقت تک اپنا برتاو بندے کے ساتھ نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے برتاو کو خود نہ بدالے : إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ جب ادھر سے برتاو بدلتا ہے تو ادھر سے بھی معاملہ بدل جاتا ہے۔

## مراقب اور معمولات

صوفیا کا ارشاد ہے کہ مَنْ لَا وَارِدَةَ لَا وَرْدَةٌ : جس کا کچھ وردہ ہواں پروار بھی نہیں ہوتا۔ اور اس طریق میں وارد بڑی نعمت ہے جس سے جزئیات میں ہر دم الہام ہوتا رہے کہ اب یہ کہنا چاہئے۔ اس وقت بولنا چاہئے۔ اس وقت خاموش ہونا چاہئے اس طریق کے علوم کتابی نہیں ہیں جو کتاب سے جزئیات کا حکام معلوم ہوتے رہیں یہاں تو ہر جزئی کے لئے الہام کی ضرورت ہے چنانچہ کامل کو ہر وقت الہام پر الہام ہوتا رہتا ہے اور یہ حالت ورد کی پابندی سے ہی حاصل ہوتا ہے بدوں ورد کے وارثیں ہو سکتا۔

دوسرے یہ تو نادانی کی بھی بات ہے کہ ایک نقصان تو غیر اختیاری ہوا تھا یعنی مصیبت تکویدیہ دوسرا ضرر اپنے اختیار سے مول لیا جائے یعنی ترک معمولات دنیا دار بھی ایسا نہیں کرتے۔ ان کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ ایک مد میں نقصان ہوتا ہے تو وہ دوسری مد میں ترقی کی فکر کرتے ہیں۔

حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زمانہ جاہلیت کے ایک حلیم کی حکایت بیان فرمائی تھی کہ اس کے بھتیجے نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا لوگ قاتل کو پکڑ کر اس کے پاس لے گئے۔ تو غایت حلیم یہ تھا کہ اس نے اپنی نشت بھی نہیں بدی جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح بیٹھا رہا اور یہ کہا۔ احمدی یہی قطعہ الآخری میرے ایک ہاتھ نے دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا ہے اب یہ جماقت ہے کہ میں دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دوں۔

ثُمَّ قَالَ وَلَكُنْ أَدْوَا إِلَى امْرَاتِي دِيَةً أَبْنَاهَا مِنْ أَبْلَى فَإِنَّهَا لَا تَرْضَى بِدُونَهَا

پھر کہا لیکن میری بیوی کو میرے اونٹوں میں سے اس کے بیٹے کی دیت دے دو کیونکہ وہ بغیر دیت کے راضی نہ ہوگی۔

دیکھئے یہ ایک کافر تھا جس نے غیر اختیاری ضرر سے پریشان ہو کر اختیاری ضرر کو گوارانہ کیا تو ہم کو مسلمان ہو کر ایسا نہ ہونا چاہئے پس یہ بڑی حماقت ہے کہ ہم مصائب غیر اختیاری یہ کی وجہ سے اپنے معمولات کو تباہ کر کے اختیاری ضرر میں بنتا ہوں اس وقت اعمال پر جمارہ رہنا یہی صبر ہے۔۔۔۔۔ ایک بات تو یہ قابل لحاظ ہے۔

دوسری بات یہ قابل لحاظ ہے کہ پابندی طریق میں رضائے حق کا قصد کرو چکن عادت کے طور پر پابندی نہ کرو۔ پس اگر کہیں ضرورت شدیدہ سے ترک معمول میں رضائے حق معلوم ہو تو وہاں ضرورت کے وقت تک معمول کو ترک کرو (لیکن ذکر خدا سے اس وقت کو بھی خالی نہ جانے دو چاہے چلتے پھرتے ہی ہو یا آہستہ ہی ہو) اور اس ضرورت کے ختم پر پھر پابندی شروع کر دو۔ (ترک معمول سے جو بے برکتی ہوتی وہ جب ہی ہے جب کہ ترک میں رضائے حق نہ ہو ورنہ رضائے حق کے ساتھ ہر حالت میں برکت ہی برکت ہے) جب رضائے حق کا اہتمام ہو گا تو ہر حال میں وہی کام ہو گا جو امر کے موافق ہے کسی حال میں مامور بہتر کر نہ ہو گا اس سے قلب میں ایک حلاوت پیدا ہو گی اور زبان و دل و گوش سب پابند ہو جائیں گے جمیعت و سکون حاصل رہے گا پریشانی کا نام بھی نہ رہے گا اور جب احتشال امر میں خلل ہوتا ہے یا بلا وجہ معمولات ناجائز ہوتے ہیں تو خیالات میں تفرق ہو جاتا ہے اور خیالات کے تفرق سے روح بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

جاء ہمه دم زیں لک کوب خیال  
        مے شود مجروح و خته پائما  
        نے صفا میما ندش نے لطف و فر  
        نے بوئے آسمان راہ سفر  
        جان خیال کی دھما چوکڑی سے زخمی اور پاممال ہے نہ اس میں صفائی رہی نہ لطف اور نہ  
        آسمان کی طرف اب سفر ہوتا ہے۔

### شیطانی و نفسانی خطرات

صاحب۔ حق تعالیٰ نے ہر شخص کو آسمان کی طرف سفر کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے مگر تشنیت اعمال سے ہم اس قوت کو خود ہی کمزور کر رہے ہیں ذکر و طاعات و احتشال امر کی پابندی اور التزام کر کے دیکھو۔ انشاء اللہ خدا کے ساتھ دل لگا رہے گا اور چاروں طرف سے اطمینان نصیب ہو گا۔

آلَّا بِدِكُرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ (خبرداروں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے عارف کو مصائب میں بھی یہ اطمینان نصیب ہوتا ہے لہر اس کا قلب چاروں طرف سے مطمئن ہوتا ہے۔ یہ تو نبی پریشانی کا حال تھا اس کی وجہ سے اعمال و معمولات و امثال امر میں لوگ خلل ڈال دیتے ہیں۔ اب میں ایک باطنی پریشانی کا حال بتانا چاہتا ہوں جو بعض دفعہ پابندی اعمال کے ساتھ پیش آتی ہے۔ وہ یہ کہ بعض لوگ اعمال و معمولات پر پابندی کرنا چاہتے ہیں مگر جب کام کرنے بیٹھتے ہیں فوراً شیطانی وساوس اور نفسانی خطرات آ کر گھیر لیتے ہیں اور بعض دفعہ ایسے واهیات کفریہ وسوں سے آتے ہیں جن سے سالک پریشان ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں طریق سے ہٹ گیا اور خدا تعالیٰ کے یہاں سے مردود ہو گیا ہوں اس حالت میں بہت سے لوگ کام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ وسوں سے کام، ہی کے وقت آتے ہیں مگر یہ بڑی غلطی ہے اس طرح تو تم نے شیطان کی مراد پوری کر دی وہ بھی تو چاہتا تھا۔

چنانچہ ایک صاحب نے اس حالت کی وجہ سے تلاوت قرآن مجید بالکل چھوڑ دی تھی کیونکہ جب وہ قرآن پاک پڑھنے بیٹھتے ساتھ ہی ساتھ دل میں خدا اور رسولؐ کی شان میں گایلوں کے خطرات آتے تھے۔ ایک تفسیر تو جلالین کی تھی ایک تفسیر و بالین کی خود بخود ان کے ذہن میں آتی تھی۔ آخر وہ گھبرا گئے۔ اور تلاوت چھوڑ بیٹھے مجھ سے یہ حال بیان کیا میں نے کہا کہ اس کا یہ علاج نہیں اس کا علاج یہ ہے کہ خوب تلاوت کرو اور گالیاں ذہن میں آویں تو آنے دو یہ تو ویسا حال ہو گیا

بَحْرُ تَلْمِعْ وَ بَحْرُ شِيرِيسِ هَمْ عَنَانِ  
در میان بر زخ لا یبغیان

کُرُّ وَاوَرْ شِيرِيسِ سَمَدْ رَاكِشْتَے ہیں در میان میں ایک بزرگ ہے

کام کے ساتھ ان وساوس و خطرات سے کچھ بھی تنزل یا بعد نہیں ہوتا ہاں جب کام چھوڑ دو گے تو بعد کا اندیشہ ہے کہ گو وساوس بھی نہ ہوں اسلئے سالک کو طریق پر قائم ہو کر بے فکر ہنا چاہئے عارف فرماتے ہیں در طریقت ہر چہ پیش سالک آید خیر اوست  
بر صراط مستقیم اے دل کے گمراہ نیست

طریقت پہ جو کچھ پیش آتا ہے وہی خیر ہے صراط مستقیم پر جو چل رہا ہے وہ گمراہ نہیں۔

یعنی جب تک مستقیم پر جمار ہے یعنی اعمال اختیاریہ میں خلل نہ ڈالے تو بے فکر ہے اب اس کے بعد چاہے بلا اختیار کچھ ہی ہوتا رہے کفر کے وسوں آویں یا معصیت کے سب بے ضرر ہیں بلکہ بخدا صراط مستقیم پر رہ کر تمام ظلمتیں انوار میں جیسے نور عین کے وہ منع انوار ہے مگر خود سیاہ ہے اور صوفیاء نے فرمایا ہے کہ لطیف اخفی کالوں بھی سیاہ ہے اور جگی ذاتی اصطلاحی سیاہ رنگ میں بھی ظاہر ہوتی ہے پس اگر اعمال

اختیار یہ میں خلل نہیں تو قلب میں کیسی ہی خلمات ہوں وہ سب خیر و نور ہی ہیں چاہے وساوس کفر یہ ہی کیوں نہ ہوں لہذا ان سے گھبرا کر کام میں ہرگز خلل نہ ڈالنا چاہئے اس طرح تو یہ قیامت تک بھی پیچھانہ چھوڑ دیں گے اس کا علاج یہی ہے کہ کام میں لگا رہے اور ان پر التفات بھی نہ کرے جب شیطان دیکھے گا کہ یہ تو خطرات سے گھبرا تاہی نہیں نہ کام میں کمی کرتا ہے تو وہ جھک مار کر خود پیچھا چھوڑ دیگا۔

ایک دفعہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کے بعد شبہ ہو گیا کہ شاید خسین پر مسح نہیں کیا حضرت نے دوبارہ پھر مسح کر لیا بس دوبارہ مسح کرنا غصب ہو گیا فرماتے تھے کہ پھر تو یہ حالت ہوئی کہ ہر دفعہ وضو کر کے جب نماز شروع کروں تھی وہ سہ آوے کے مسح نہیں کیا ہمینہ پھر تک پریشان رہا ایک مہینے کے بعد جو مولانا مصلیٰ پر نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے پھر وہی وہ سہ آیا۔ مولانا نے دوبارہ اعادہ مسح نہیں کیا اور نماز کی نیت باندھ لی شیطان نے کہا کہ بے وضو نماز ہو گی مولانا نے فرمایا کہ ہونے والے تیری بلا سے اس سے کہا بے وضو نماز پڑھ کر کافر ہو جاؤ گے کیونکہ تم عمدًا ایسا کر رہے ہو مولانا نے فرمایا کہ تیری بلا سے تو بڑا آدمیوں کو کافر ہونے سے بچانے والا اٹکا ہے اتنی دنیا کو تو کافر بنا رکھا ہے تجھے ان کی فکر نہ ہوئی سب سے زیادہ میرے ہی کفر کی فکر ہوئی جا چاہے نماز ہو یا نہ ہو وضو سے ہو یا بے وضو ہو میں تو اب مسح کرتا نہیں فرماتے تھے کہ بس اس دن کے بعد شیطان نے پھر وہ سہ نہیں ڈالا یہ بڑا ہوشیار ہے بعض دفعہ خیر خواہ بن کر دھوکا دیتا ہے چنانچہ ایک بار حضرت معاویہؓ تو تجد کی نماز کے لئے شیطان نے جگایا۔ پوچھا کون ہے کہا میں ابلیس فرمایا کیوں جگایا کہا تجد کا وقت ہے نماز پڑھ لیجئے فرمایا کہ تجھے اس سے کیا مطلب تو ایسا خیر خواہ کب سے بن گیا۔ کہا آخر کبھی تو میں بھی کام کرنے والا تھا ہی وہ جوش آگیا۔ تو فرمایا کم بخت اس وقت تیرے جگانے میں بھی کوئی راز ہے جب تک تو راز نہ بتلانے گا اس وقت تک محض تیرے کہنے سے پیچھا نہ چھوڑوں گا۔ کہاں صاحب بات یہ ہے کہ میں نے کل آپ کا تجد ناغہ کرا دیا تھا اور میں خوش ہوا تھا کہ آج ان کا نقصان کر دیا مگر تم نے جو صحیح اٹھ کر تجد کے فوت ہونے پر رنج و غم اور آہ و افسوس کہا اس سے تمہارے درجے اتنے بلند ہو گئے کہ تجد سے بھی نہ ہوتے تو میں نے کہا کہ اس سے ان کا تجد پڑھتا ہی اچھا ہے یہ تو ناغہ کر کے آرام سے نیند بھی لیتے ہیں اور درجہ بھی لیتے ہیں تجد میں کم از کم نیند تو خراب ہو گی گو آخرت کا نقصان نہ ہو گا حضرت معاویہؓ اٹھ بیٹھے اور تجد کی نماز پڑھ لی۔ اس وقت اگر کوئی خالی صوفی ہوتا تو شاید تجد پڑھتا ہی نہ اور یہ کہتا کہ اس وقت تجد پڑھنے میں

شیطان کی اطاعت ہے حالانکہ اس کی تو مخالفت کرنا چاہئے مگر اس کو بھی محقق ہی سمجھتا ہے کہ شیطان کی مخالفت کہاں کرنا چاہئے اگر ہر بات میں مخالفت کی جائے اور شیطان دیکھ لے کہ اس کو میری مخالفت میں غلو ہے تو پھر وہ ہمیشہ نیک کاموں ہی کا امر کرے گا تاکہ یہ شخص مخالفت کر کے طاعات سے محروم رہے اس لئے محقق مخالفت میں بھی غلوبیں کرتا اگر، اس وقت حضرت معاویہ تہجد نہ پڑھتے تو ظاہر ہے کہ یہ عمداناغہ ہوتا اور اس پر وہ رنج و فسوس بھی نہ ہوتا جو غلبہ نیند پر ناغہ ہونے پر ہوا کرتا ہے تو رنج و غم سے جو ترقی ہوتی وہ اب نہ ہوتی اور تہجد کا وقت پا کر اسے بھی فوت کر دیتے تو نقصان ہی نقصان تھا لفظ کچھ نہ ہوتا اس لئے انہوں نے تہجد پڑھ لیا، یہی توباتیں ہیں جن کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے۔

**فقیہ و احمد اشد علی الشیطان من الف عابد (سنن الترمذی):**

(۲۶۸۱، سنن ابن ماجہ: ۲۲۲)

کہ ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔

مراوفقیہ نفس ہے جو احکام کے ساتھ نفس و شیطان کے مکائد سے بھی عارف ہو اور سلف کی اصطلاح میں فقط شخص علم ظاہر کے ساتھ شخص نہ تھا بلکہ علم باطن بھی اس میں داخل تھا۔

چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی تعریف

### معرفة النفس مالها و ما عليها

منقول ہے جس میں علم اخلاق و سلوک بھی داخل ہے کیونکہ معرفة النفس مالها و ما عليها اس کو بھی شامل ہے پس حدیث میں فقه کے وہی معنی یہ جو سلف میں متعارف تھے نہ وہ معنی جو متاخرین کی اصطلاح ہے فہمیہ ظاہر تو ہجوم و ساویں سے ذکر اور تلاوت قرآن کو چھوڑ بیٹھتا ہے جس سے شیطان اپنے مقصود میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر فقیہہ باطن کہتا ہے کہ اس حالت کام کو ہرگز نہ چھوڑے بلکہ کام میں لگا رہے چاہے کتنے ہی وسو سے آئیں گے کچھ پروانہ کرے اور وساویں سے ہرگز پریشان نہ ہوان کو دفع کرنے کی کوشش کرے اور نہ از خود ادھر متوجہ ہو بلکہ اپنی توجہ کو ہمت کے ساتھ ذکر وغیرہ میں مشغول کرے اور وساویں سے بے تو جہی اور بے التفاتی برترے ان شاء اللہ چند روز میں خود ہی سب وسو سے جاتے رہیں گے اور شیطان اپنی مرادمیں ناکام ہو کر خود ہی پیچھا چھوڑ دے گا۔

### وشنام محبت

بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی وقت غیب سے بھی کوئی خطاب پریشانی کا قلب پر وار ہو اس

سے بھی پریشان ہو کر کام کونہ چھوڑے کیونکہ کبھی غیب سے بطور امتحان کے کوئی بات کہہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ شخص درجات کے لئے عمل کر رہا ہے یا محض ہماری محبت میں کام کر رہا ہے اس وقت کا میابی کا طریقہ یہی ہے کہ عمل کو ہاتھ سے نہ دے اور بدستور اپنے کام میں لگارہے۔

چنانچہ ایک بزرگ کو ذکر کے وقت غیب سے یہ آواز آتی تھی کہ تو کافر ہو کر مرے گا چاہے کچھ ہی کروہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے چونکہ عارف تھے اس لئے یہ بھی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ آواز شیطان کی نہیں ہے بلکہ غیب ہی کی آواز ہے اس لئے پریشانی زیادہ تھی قسمت سے ان کے شخ اس وقت زندہ تھے گھبرائے ہوئے شخ کے پاس گئے۔ شخ بڑی نعمت ہے سالک چاہے کتنا ہی کامل ہو جائے مگر پھر بھی شخ کی احتیاج فی الجملہ باقی رہتی ہے کام کو بھی بعض دفعہ ایسی حالت پیش آتی ہے جس کو وہ خود حل نہیں کر سکتا اس وقت شخ ہی امداد کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شخ سے اس حالت کو بیان فرمایا فرمایا کام میں لگرہو اور اس آواز سے پریشان نہ ہو یہ وشنام محبت ہے معاشوؤں کا قاعدہ ہے کہ عاشقوں کو بعض دفعہ تازوانداز سے یوں ہی پریشان اور تسلیک کیا کرتے ہیں سبحان اللہ واقع شخ محقق تھا کہ قیمتی بات کہی کہ یہ وشنام محبت ہے غور کیجئے کہ طالب کی اس جواب کو سن کر کیا حالت ہوئی ہوگی بس اب تو وہ تو محبوب حقیقی سے یوں لگتا ہوگا۔

بدم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نکلو گفتی      جواب تلخ می نیبدلب لعل شکر خارا  
تو نے مجھے برا کہا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے بہت اچھا کہ شکر کھانے والے سرخ ہونٹوں کو جواب تلخ ہی زیبا ہے اور شخ کو اس طرح دعا میں دیتا ہوگا۔

جزاک اللہ کہ چشم بآذکر دی      مرابا جان جاں ہمراز کر دی  
اللہ تجھے جزا دے تو نے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے محبوب کے ساتھ تو نے ہمراز بنا دیا اور شخ کے پاس سے یہ کہتا ہوا لوٹا ہوگا

از در دو سچے گویم بچہ عنوال رفتتم      ہمہ غم آمدہ بودم ہمہ شاداں رفتتم  
میں کیا بتاؤں کہ دوست کے پاس سے کیسے واپس ہوا ہمہ تن غم بن کے آیا تھا ہمہ تن خوش ہو کے جا رہا ہوں۔ اور یوں کہتا ہوں۔

دوش وقت سحر از غصہ نجا تم داوند      وندر آں ظلمت شب آب حیاتم داوند  
کل کے وقت غصہ سے مجھے نجات ملی اور اسی تاریکی میں انہوں نے مجھے آب حیات پلا یا۔

باقی یہ کہ وشنان محبت کذب تو نہ ہو اور خوش خاتمہ کو بد خاتمہ کہتا تو کذب ہے جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں مومن کو کافر بالطاغوت کہا گیا ہے ممکن ہے کہ معنے اس وارد کے یہ ہوں گے کہ تو مومن ہو کر مرے گا خواہ تجھ سے کوئی معصیت صادر ہو جائے جیسے حدیث میں ہے

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

تو دیکھئے غیر محقق تو شیطانی خطرات سے بھی پریشان ہو جاتا ہے اور محقق عالم بالا کے دل شکن خطابات سے بھی پریشان نہیں ہوتا وہ ان کو بھی وشام محبت سمجھ کر اپنے کام میں لگا رہتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ وشام محبت بھی نہ ہو بلکہ ظاہر ہی پر محول ہوتب بھی عمل کو ترک نہ کرنا چاہئے کیونکہ اگر یہ عمل کی حالت میں کافر ہو گا تو بدون عمل کے تو اکفر ہو گا۔ پھر ترک عمل سے فائدہ کیا صاحب اگر وحی قطعی سے بھی کفر پر خاتمہ ہونے کا علم ہو جائے جب بھی عشق کا مقضایہ ہے کہ محبوب سے تعلق محبت کو ترک نہ کرے بلکہ محبت میں ثابت قدم رہے۔

شرط عشق است در طلب مردن ورنه شاید بد دست راه بدن

اگر دوست تک را نہ یا سکے تو طلب میں مر جانا عشق کی شرط ہے

عاشقانِ مجازی میں بھی جو سچے عاشق ہیں انہوں نے ایسا کر کے دکھلا دیا ہے مجنوں کو لیلیٰ سے محبت تھی مگر لیلیٰ کے باپ نے اس کی شادی دوسرے شخص سے کر دی جب مجنوں کو یہ خبر پہنچی تو کہنے لگا

وَمَا أَكْثَرُ الْأَخْبَارِ إِنْ قَدْ تَزَوَّجْتِ فَهُلْ يَا تَيْنِي بِالْطَّلاقِ بِشِيرٍ

یہیں کے نکاح کی خبریں بہت آچکی ہیں کیا کوئی خوش خبری دینیوالا اسکی طلاق کی خبر بھی لائے گا۔

اور مرتبے دم تک باوجود وصال سے نا امیدی کے محبت و عشق پر ثابت رہا۔ بلوستان میں

ایک بزرگ کی حکات لکھی ہے کہ ایک رات وہ تہجد کے لئے اٹھے تو غیب سے آواز آئی کہ یہاں کچھ قبول نہیں جائے کتنا ہی کر اور یہ آواز اتنے زور سے آئی کہ ایک مرید نے بھی سن لی مگر وہ

بزرگ اللہ کے بندے وضو کر کے تہجد میں مشغول ہو گئے اگلا دن ہوا تو پھر حسب معمول تہجد کواٹھے

مرید نے کہا کہ حضرت ایسی بھی کہائے غیرتی سے کہ وہ تودھکے دیں اور آپ پھر بھی لیٹتے ہیں جب

وہاں کچھ قبول ہی نہیں تو آپ خواہ مخواہ اپنی راحت میں کیوں خلمل ڈالتے ہیں یہ سن کر بزرگ

رو نے لگے اور فرمایا بیٹھا تو بتلاؤ کہ اس دروازہ کو چھوڑ کر میں جاؤں کہاں کوئی درجہ تو نہیں جہاں

ان کو چھوڑ کر جلا جاؤں بس میرے تو یہی امک درے میں تو اسی مرحان دے دوں گا جائے۔ وہ قبول

کریں یا روکریں انہیں اختیار ہے:

تو اپنی ازاں دل پہ داخل تن

(اس سے دل خالی کر سکتے ہو جسکے متعلق معلوم ہو کہ اسکے بغیر گزارہ کر سکتے ہو)

اس سے دل اٹھایا تو آسان ہے جس کے بغیر کام چل سکے

بس اس پر دریائے رحمت کو جوش آگیا اور پھر آواز آئی

قبول است گرچہ سرب نیست

کہ جز ماپنا ہے وگر نیست

اگر چہ کچھ ہنرنہیں لیکن پھر بھی قبول ہے کیونکہ تمہارا میرے بغیر کوئی ٹھکانا نہیں کہ جاؤ قبول کر لیا مگر

اسکے ساتھ ایک چہ کہ بھی لگادیا کہ گوہن تو کچھ نہیں مگر ہم کو حرم آتا ہے اسلئے قبول کر لیا کیونکہ تیرا ہمارے سوا

کوئی ٹھکانا نہیں تو صاحبو آل اللہ تو اس حالت میں بھی کہ صاف صاف غیب سے مردود کر دیا جائے عمل کو

نہیں چھوڑتے پھر حیرت ہے کہ ہم ذرا ذرا مصیبت یا ہجوم و ساؤں سے عمل کو ترک کر دیں۔

بس اب میں ختم کرتا ہوں خلاصہ سارے بیان کا یہ ہوا کہ تا گوار واقعات میں جس صبر کی ہم کو تعلیم

کی گئی ہے اس کی حقیقت انتہا امر ہے اور ما موربہ ماعلیہ الصر ہے۔ پس ایسی حالت میں ہم کو احکام پر

مستقیم رہنا چاہئے اور عمل میں خلل نہ النا چاہئے اور عمل میں مقصود پر نظر رکھنی چاہئے جو کہ رضاہ حق ہے۔

اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں کیونکہ بدون انکی امداد کے نزے علوم و مجاہدات

سے کچھ نہیں ہو سکتا جو کچھ ہوتا ہے ان کی عنایت ہی سے ہوتا ہے۔

ایں ہم گفتیم ولیک اندر چیج

بے عنایات خدا ہیچم و چیج،

بے عنایات حق و خاصان حق

گر ملک باشد یہ ہستش ورق

(یہ تمام کچھ جو ہم نے بیان کیا ہے لیکن بغیر عنایت خداوندی کے ہم چیج ہیں بغیر حکم خداوندی

اور خاصان خدا کی عنایت کے اگر فرشتہ بھی ہو تو اس کا ورق سیاہ ہے)

حق تعالیٰ ہم کو فہم سلیم عطا فرمائیں اور عمل کی ہر حال میں توفیق دیں۔ آمین

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآلہ واصحابہ

اجمعین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين.

## الصبر والصلوة

یہ وعظ ۲۱ جمادی الثاني ۱۳۲۰ھ بوقت شب مظفر نگر میں  
حافظ سخاوت علی صاحب کے مکان پر کری پر بیٹھ کر بیان فرمایا  
جو سائز ہے تین گھنٹے میں ختم ہوا۔ مولانا ظفر احمد صاحب  
نے قلمبند فرمایا حاضرین کی تعداد ۶۰ سے اوپر تھی

## خطبہ ما ثورہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكّلُ عَلَيْهِ  
وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا  
مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، لَا  
شَرِيكَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدَ عَبْدَهُ، وَرَسُولَهُ، وَصَلَى  
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ。بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.  
وَاسْتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ طَوَّانَهَا الْكَبِيرَةَ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ الَّذِينَ يَظْنُونَ  
أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلٰهٌ رَاجِعُوْنَ . وَقَالَ تَعَالٰى يَا يٰهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
اسْتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ طَوَّانَ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ۝

(ترجمہ اسایمان والہبر لورماز سے ہلا حاصل کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی ساتھ (رہتے ہیں)

تمہید

اس وقت میں نے دو آیتیں مختلف موقع سے تلاوت کی ہیں جس کا میری یاد میں کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ آج ایک مصلحت سے ایسا کیا ہے۔ یہ دونوں آیتیں ایک امر میں تو مشترک ہیں۔ (یعنی طلب استعانت بالصبر والصلوة) اس وجہ سے شاید دونوں کی تلاوت کو زائد سمجھا گیا ہو مگر ایک فائدہ کے اظہار کے لئے دونوں کو اختیار کیا گیا ہے اور وہ ابھی معلوم ہو جائے گا اور اگر وہ فائدہ نہ بھی ہو تو جب بھی دونوں کی تلاوت زائد نہیں تھی۔ کیونکہ جزو مشترک کا مہتمم بالشان ہونا اس سے ظاہر ہو جاتا کہ دو جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ مگر ان آیتوں میں ایک جزو مشترک بھی ہے اس سے فائدہ جدیدہ معلوم ہو گا۔ ایک آیت میں ایک

فائدہ ہے۔ دوسری آیت میں دوسرا فائدہ محرک ہوا تعدد تلاوت کا۔

اب سمجھنا چاہئے کہ وہ جزو مشترک وغیر مشترک کیا ہے۔ سوت رجہ میں غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ استعانت بالصبر والصلوٰۃ تو امر مشترک ہے۔ پھر پہلی آیت میں نماز میں گران مان کر یہ بتایا گیا ہے کہ خاشعین پر گران نہیں ہے جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں اور اسی کے پاس جانے والے ہیں اور دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں اس میں صبر کی فضیلت بیان ہوئی ہے اس سے معیت حق حاصل ہوتی ہے۔ اس میں غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ اصل مقصود کچھ اور ہے جس میں نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنے کا امر کیا گیا ہے اور وہ اصل مقصود دونوں میں مشترک ہے اور جو امور مابہ الفتاویٰ ہیں وہ اصل کے متعلق ہیں اور چونکہ صلوٰۃ و صبر کو اس کا معین قرار دیا گیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اصل مقصود زیادہ مہتمم باشان و مطمئن ہو گا۔ غرض! مجموعہ آیتیں کامیں امر ہیں۔

ایک مقصود مشترک۔ دوسرے ذریعہ مقصود کا اور وہ بھی مشترک ہے۔

تیسرا مابہ الفتاویٰ وہ فائدہ خاصہ جس کی وجہ سے دونوں آیتوں میں استقلال و انفراد کی شان پیدا ہوئی جس میں دونوں مشترک نہیں ہیں۔

چوتھا امر درجہ مہتمم میں ہے وہ یہ کہ خاص عمل کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ ایک میں ایک عمل کی۔ دوسرے میں دوسرے عمل کی۔ یہ مہتمم ہے خواہ اس کو ملول رابع قرار دیا جائے یا مستقل عدد نہ قرار دیا جائے۔ بلکہ مہتمم کہا جائے۔

سب سے اول پہلے اصل مقصود کی تعین ضروری ہے اسلئے اولاً میں اسی کو عرض کرتا ہوں۔ پھر امر ثانی و امر ثالث و امر رابع کو عرض کروں گا۔ گو وہ مقصود یہاں صراحةً نہ کوئی نہیں۔ مگر دوسری آیت سے نیز قواعد شرعیہ سے اسکی تعین ہو جاتی ہے۔

## مقصود زندگی

اب سنئے کہ ان دونوں آیتوں میں استَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ارشاد ہوا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ صبر اور نماز سے سہارا ڈھونڈو۔ اس ترجمہ ہی سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ مقصود کچھ اور ہے کیونکہ صبر اور نماز سے تو مدد حاصل کرنے کا امر کیا گیا ہے۔ جیسے محاورہ میں کہتے ہیں کہ قلم سے مدد لو۔ یعنی کتابت میں اس سے مدد لو۔ تو جو شخص یہ جانتا ہے کہ قلم کس کام کا آلہ ہے۔ وہ تو بدلو ذکر کتابت کے

بھی اسی کو سمجھئے گا۔ اور جو کتابت کو نہیں جانتا وہ بھی زبان فہمی کی وجہ سے اتنا ضرور سمجھئے گا کہ مقصود کوئی اور چیز ہے جس میں قلم سے مدلی جاتی ہے۔ اس اجمالی علم کے بعد وہ تعین مقصود کی کوشش کرے گا۔ بہر حال اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ میں حرف باء کا آنا بتلارہا ہے کہ یہ مقصود کا ذریعہ ہے۔ جیسے کتبت بالقلم میں مفہوم ہوتا ہے کہ قلم کتابت کا ذریعہ ہے اور مقصود کتابت ہے۔ اسی طرح یہاں مفہوم ہوا ہے کہ صبر و صلوٰۃ ذریعہ ہے اور مقصود دوسرا ہے۔

اب اس کو سمجھئے کہ وہ مقصود کیا ہے جس کے لئے ان دونوں کو آلہ بنایا گیا ہے اگر آیات قرآنیہ میں غور کیا جائے تو اس کی تعین ہو جائیگی۔ آیات بہت ہیں مگر سب سے زیادہ صریح آیت وَمَا خَلَقْتُ  
الْجِنَّ وَالْأَنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نفی و استثناء کو استعمال فرمایا ہے اور محاورہ میں نفی استثناء حصر کے لئے ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا۔ مگر اس لئے وہ میری عبادات کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل مقصود عبادات ہے۔ اب دوسری آیات کی تلاش ضروری نہ رہی کیونکہ اسکی صراحةً مقصود کی تعین ہو گئی ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کا مدلول ہر شخص آسانی سے سمجھ لے گا کہ یہ معنی ہیں کہ مدد حاصل کرو صبر و صلوٰۃ کے ذریعہ سے عبادات میں جو اصل مقصود ہے۔ اس تفصیل سے آپ کو قرآن کی خوبی تعلیم کا علم بھی ہو گیا ہو گا۔ کیسی پاکیزہ تعلیم ہے خوبیاں تو بہت ہیں سب کو ہم کہاں تک بیان کر سکتے ہیں۔ مگر ایک خوبی یہ ہے کہ اس طرز تعلیم سے حق تعالیٰ کی شفقت و رحمت معلوم ہوتی ہے کہ مقصود کی طرف کس طرح متوجہ کیا گیا ہے کہ اسکی تسهیل کا طریقہ بھی بتلادیا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقصود میں کچھ کسی قدر دشواری بھی ہے جبکہ تو اس کے حاصل کرنے میں صبر و صلوٰۃ سے مدد لینے کی ضرورت ہوتی۔

## وَيَنْ کی آسانی

رہا یہ کہ مقصود کے مشکل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

**يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ**

”اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں دشواری کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔“

یہ تو قرآن کی نص موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے ساتھ.....آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں نہ کہ دشواری کا۔ اس کا مقتضاء یہ ہے کہ تمام مقاصد آسان ہوں۔ دشوار نہ ہو۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ کہ دین میں کچھ نیکی نہیں۔ اس

میں نکرہ تحت اتنی ہے جو بقاعدہ عربیت عموم منفی کو مفید ہے۔  
اس کا جواب یہ ہے کہ دین فی نفسہ آسان ہی ہے مگر کبھی کسی عارض کی وجہ سے اس میں تنگی پیش آ جاتی ہے۔ پس

**بُرِيْدَ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ** (اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں)۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (تمہارے اوپر دین میں کچھ تنگی نہیں)

کامطلب یہ ہے دین فی نفسہ اس میں تنگی نہیں ہے اور جن آجتوں کی تلاوت کی گئی ہے ان سے جو دین کے اندر کسی قدر دشواری کا ہونا مفہوم ہر رہا ہے۔ یہ عارضی دشواری ہے۔ اور اس عارض کو آئندہ وضاحت کے ساتھ متعین کیا جائے گا۔

مگر پہلے میں ان لوگوں کا شبہ رفع کر دوں جو دین کی فی نفسہ دشوار بحثتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو دین میں ایسی تنگی کا مشاہدہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے دین پر چلنابڑا دشوار ہو رہا ہے۔

چنانچہ شریعت میں سودی لین دین حرام ہے حالانکہ تجارت میں سود لینا دینا پڑتا ہے کبھی بیع معدوم بھی کرنا پڑتی ہے اور وہ بھی ناجائز ہے مختصر تجارت تو ممکن ہے کوئی ہمت کر کے اس سے بیع جائے۔ مگر بڑی تجارت میں بچنا دشوار ہے۔

اسی طرح ملازمت میں بڑی ملازمتیں محروم سے بہت کم خالی ہوتی ہیں اسی طرح زمینداری میں کہیں عرف کی وجہ سے۔ کہیں قانون کی وجہ سے شرعی تنگی لاحق ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی تارک تعلقات ہو تو اس کو بچنا ممکن ہے مگر پھر اس کو معاش کی تنگی لاحق ہو گی جو ہر شخص کے تحمل میں نہیں۔ چنانچہ بعض محققین نے بھی ناداری کی تنگی کو بعض کے لئے گوارا نہیں کیا۔ کیونکہ بعض دفعہ اس سے نوبت بکفر آ جاتی ہے کہ کبھی خدا کی شکایت ہے کبھی تبدیل مذہب کی صورت ہے۔

### طرز معاشرت کی تنگی

اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ تنگی شریعت میں نہیں۔ بلکہ آپ نے طرز معاشرت میں تنگی ہے کہ آپ کا سابقہ ایسی قوم سے پڑا ہے جو دین سے آزاد ہے اور دین پر چلنائیں چاہتی اور جہاں غلبہ ایسے لوگوں کا ہو۔ وہاں دین پر چلنے والے کو تنگی ضرور لاحق ہو گی۔ گو دین کے احکام کیسے ہی سہل ہوں۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک عاقل احمقوں میں بھنس جائے تو اس کو مقتضاۓ عقل پر عمل کرنا دشوار ہو گا۔ خواہ وہ کیسا ہی سہل ہو کیونکہ احمد لوگ اس سے مراحت کریں گے۔ مثلاً شادوی

میں فضول رسمیں نہ کرنا مقتضاۓ عقل ہے اور یہ سہل بھی ہے۔ مگر چونکہ سابقہ جہلاء اور حمقاء سے ہے اس لئے عاقل کو تنگی پیش آتی ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں چلتی۔

نیز اس کی ایسی مثال ہے جیسے طبیب مریض کو بکری کا گوشت یا موگ کی دال کھانے کو بتائے مگر مریض ایسے کو روہ کار ہے والا ہے جہاں کچھ دستیاب نہیں ہوتا تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ طبیب کے مطلب میں تنگی ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس شخص کا گاؤں تنگ ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم دین میں ایسی آسانی کے مدعا نہیں کہ اس کے لیے ہمت کی بھی ضرورت نہ ہو۔ بلکہ ایسی آسانی کے مدعا ہیں کہ ہمت و قدرت سے زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں۔ باقی کسی قدر مشقت ضرور ہے جس کی وجہ سے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے حق تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمْنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

”کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ان کو یونہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش ایمان نہ ہوگی۔“

اور یہ مشقت بھی چند روزہ ہوتی ہے پھر آسانی سے مبدل ہو جاتی ہے چنانچہ جو لوگ دین پر چلنے والے ہیں وہ اس کو محسوں کرتے ہیں۔ اور صاحبو! دنیوی مقاصد میں بھی تو کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی ہے آخر بی۔ اے پاس کرنا کچھ آسان تو نہیں مگر ہمت کے بعد سب آسان ہے اسی طرح احکام آخریوں میں کسی قدر مشقت اور مجاہدہ کی ضرورت ہے۔ مگر زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں جس کا تحمل نہ ہو سکے ورنہ پھر ضعف کا مقتضاۓ ظاہر ہو گا کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ محقق کبھی ایسی مشقت نہیں ڈالتا جس کا تحمل نہ ہو سکے

حضرت مولانا گنگوہی سے ایک دیہاتی بیعت ہوا اور بیعت کے بعد کہنہ لگا کہ حضرت آپ نے مجھے افیون کھانے سے تو نہیں کرائی۔ فرمایا کہ مجھے کیا خبر کہ تو افیون بھی کھاتا ہے اچھا ب بتا کر تو کتنی کھاتا ہے اس نے گولی بنائی کہ مولانا کے ہاتھ پر کھدی۔ آپ نے اس کے دو حصے کر دیئے اور فرمایا کہ اتنی مقدار میں کھالیا کرو وہ کہنے لگا کہ جب چھوڑتا ہی ہے تو کیا آدھی اور کیا ساری۔ بس! میں نے آج سے بالکل ہی چھوڑ دی۔ یا اس کی ہمت تھی۔ مگر مولانا نے اپنی طرف سے اس پر ایسی مشقت نہیں ڈالی جو حل سے باہر ہو۔

ای طرح ایک بزرگ کے ہاتھ پر ایک چور نے چوری سے توبہ کی۔ اور خانقاہ میں رہنے لگا۔ صحیح کو خانقاہ والوں کے جوتے گڑ بڑ ہو جاتے۔ کسی کا ایک کہیں پڑا ہے دوسرا کہیں پڑا ہے۔ لوگوں کو دس پندرہ منت سک جو توں کی تلاش میں پریشانی ہوتی اور اتنی دیر تک اچھی خاصی رونق ہو جاتی سب کو فکر ہوئی کہ یہ کس کی

حرکت ہے پھر اس نووار پر شہر ہوا۔ مگر چونکہ اہل اللہ تھے۔ اس لئے بدگمانی نہیں بلکہ تفتیش شروع کی۔ آخر ایک رات پکڑے گئے اور صبح کو شیخ کے سامنے حاضر کئے گئے۔ کہ حضرت یہ نووار خانقاہ والوں کے جو تے گڑ بڑ کر دیتا ہے نہ معلوم اس کو اس میں کیا مزا آتا ہے اور ہم کو بے فائدہ پریشانی ہوتی ہے۔

شیخ نے پوچھا۔ نووار نے کہا کہ حضرت میں آپ سے پالیسی نہیں کرتا بلکہ صاف صاف اپنا فرض بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں پہلے چوری کا عادی تھا۔ جس سے اب توبہ کر لی ہے۔ مگر جب رات کو دو بجتے ہیں تو نفس تقاضا کرتا ہے میں اس کو دبایا ہوں کہ بزرگوں سے بیعت ہو کر ان کی مخالفت کرنا چھوڑ دو وہ پھر تقاضا کرتا ہے۔ میں پھر روکتا ہوں۔ گھنٹہ بھر تک میری اس کی جنگ ہوتی ہے۔ آخر کار مصالحت پر فیصلہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ صلح میں کچھ دینا پڑتا ہے کچھ دوسرے کو دبایا جاتا ہے۔ تو میں نفس سے کہتا ہوں کہ چوری میں دوباری ہوتی ہیں ایک چیز کا اٹھانا دوسرے اسے لے جانا۔ تو ان دونوں میں ایک کام کر لے ایک کام چھوڑ دے۔ اسلئے خانقاہ والوں کے جو تے گڑ بڑ کر دیتا ہوں کہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتا ہوں۔ اب اگر یہ بھی منوع ہے تو میں اس سے بھی توبہ کراؤں گا۔ مگر اندیشہ ہے کہ جب نفس کا تقاضا زیادہ ہو گا تو چوری میں بنتا ہو جاؤں گا۔

شیخ نے کہا کہ تم جو تے گڑ بڑ کر دیا کرو۔ تم کو جائز ہے۔ بلکہ تم پر واجب ہے کیونکہ چوری سے وقاریہ ہے اور خانقاہ والوں سے کہا تم اس تکلیف کو گوارا کر لو تم کو ثواب ملے گا۔

صاحب! اس کی ہنسی نہ سمجھو بلکہ اس حکایت میں ایک گر کی بات ہے وہ یہ کہ جس سے اعلیٰ درجہ کا تقویٰ نہ ہو سکے وہ ادنیٰ ہی پر نفس صلح کر لے مگر ادنیٰ کو خود تجویز نہ کرو۔ بلکہ کسی محقق سے تجویز کرو۔ یہ میں نے اس لئے کہہ دیا کہ شاید ابھی سے لوگوں نے تجویز میں شروع کر دی ہوں گی تو ایسا ملت کرو۔ بلکہ کسی محقق سے مشورہ کرو کیونکہ طبیب نہیں میں ایسا تصرف کرتا ہے جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ پس شیخ کامل سے رجوع کیا جائے تمہاری حالت کو دیکھ کر جو درجہ تقویٰ کا تجویز کرے اس کو اختیار کرو۔ جیسا کہ ان بزرگ نے چور کو ہیرا پھیری کی اجازت دی تھی۔

## فتاویٰ اور معالجہ

ہاں ایک بات اور کہتا ہوں۔ وہ یہ کہ شیخ کے اس تصرف کو فتویٰ نہ سمجھا جائے بلکہ عارضی معالجہ سمجھا جائے کیونکہ بعض دفعہ کوئی عارض ایسا قوی ہوتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اصل مرض کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی۔ اس وقت طبیب اس کی کوشش کرتا ہے کہ عارض کو اول رفع کرے۔

اس کے بعد اصل مرض کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اطباء روحانی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔

چنانچہ بعض دفعوں سالک کو عشق مجازی میں بمتلاکر تے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا دل علاق مختلفہ میں پھنسا ہوا ہے تو عشق مجازی میں بمتلاکر کے وہ ان سب تعلقات کو قطع کرنا چاہتے ہیں۔ پھر صرف ایک تعلق کا قطع کرنا باقی رہ جاتا ہے اس کا قطع کرنا سہل ہے پس یہ جو مشہور ہے کہ متاب از عشق روگر چہ مجازی ست (عشق مجازی کے ازالہ کی حاجت نہیں)

اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عشق مجازی کی اجازت دیتے ہیں بلکہ اس سے ایک کام لیتے ہیں۔ یعنی عارض قوی کا ازالہ اور علاق مختلفہ کا استیصال کرنا چاہتے ہیں اور عشق مجازی بھی وہ ایسا تجویز کرتے ہیں جو حرام نہ ہو یعنی امر دیا عورت لحیبیہ کا عشق تجویز نہیں کرتے بلکہ حلال محبت تجویز کرتے ہیں۔

چنانچہ ایک بزرگ نے اپنے ایک مرید سے پوچھا کہ تجھے کسی چیز سے محبت بھی ہے کہا۔ ہاں۔ میرے ایک بھینس ہے مجھے اس سے بہت محبت ہے فرمایا۔ اچھا تم بھینس کا مراقبہ کیا کرو۔ چالیس دن تک ایک خاص وقت میں اسکا مراقبہ کیا کرو۔ اب اس کی یہ حالت ہوئی کہ فنا فی الجاموس ہو گیا چالیس دن کے بعد شیخ نے اس کو مجرہ سے باہر آنے کا حکم دیا۔ تو وہ کہتا ہے۔ کیے آؤ۔ سینگ دروازہ سے اٹکتے ہیں۔ اب اس کا یہ حال تھا کہ ہر چہ پیدا میشود از دور پندرام توئی ”جو کچھ بھی سامنے پڑتا ہے سمجھتا تھا کہ تو ہی ہے۔

اور یہ حال تھا کہ

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تاکہ گنوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری مجھ میں اور تجھ میں اتنا اتصال ہو گیا کہ دونوں کو الگ الگ کہنا بے جا ہے گویا کہ میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا۔ میں بدن ہو گیا اور تو جان بن گیا اب اس کے بعد کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ میں اور تو جدا جدیں۔ شیخ اس حالت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا اور کہا اب نہیں اٹکتے تو باہر آتی امر اقبہ کا میاب ہو گیا۔ سب علاقوں قطع ہو گئے اب صرف بھینس کا تعلق قطع کرنا باقی رہا۔ تو یہ کچھ مشکل نہیں۔ بتلائیے! اس عشق مجازی میں کیا خرابی تھی اور اس کا نفع کس قدر ہوا کہ جو شخص پہلے یکسوئی کا عادی نہ تھا۔ اب پوری طرح یکسو ہو گیا۔ جس کا دل ہزار چیزوں میں معلق تھا۔ اب صرف ایک چیز سے وابستہ ہو گیا۔ اس قصہ کو دل لگی نہ سمجھتے۔ بلکہ حقیقت میں یہ بڑا فلسفہ تھا۔

میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمام اطباء و حکماء ان حضرات کے سامنے ہیوقوف ہیں کیونکہ وہ

تو محسوس کے خواص دریافت کرتے ہیں اور یہ کچھ کمال نہیں۔ حضرات اہل اللہ غیر محسوس خواص معلوم کرتے اور معانی کی تحلیل کرتے ہیں۔ یہ بڑا کمال ہے پھر دونوں کے مقصود میں کتنا بڑا تفاوت ہے کہ وہاں تو مال مقصود ہے یا جاہ! اور یہاں قرب حق میں ترقی مقصود ہے۔

ان کے معالجات اور مقاصد کے سامنے اطباء کی تشخیص اور مقصود کی مثال ایسی ہے جیسے بچے گھروندہ یا پیر منا بناتے ہیں اور اس میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ مغرب تک اسی کی اصلاح و درستی میں لگے رہتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں کہ رات ہو گئی اب یہ کھیل موقوف کر دو۔ مگر وہ اپنے گھر کی تغیریں مشغول ہیں۔ جب بچہ رات کو بھی وہاں سے نہیں ہٹتا تو باپ ایک لات مار کر اسے گرا دیتا ہے۔ اب بچہ روتا ہے کہ ہائے! میرا گھر گرا دیا۔ تو جو نسبت بچوں کے اس گھر کو ایک شاہی محل سرانے سے ہے وہی نسبت اطباء ظاہری کے علوم و مقاصد کو اہل اللہ کے علوم و مقاصد سے ہے۔

میں یہ کہہ رہا تھا کہ خود اپنی رائے سے کوئی درجہ تقویٰ کا اپنے واسطے اختیارت کرو کیونکہ تم علیل ہو۔ رائے العلیل علیل۔ بلکہ شیخ سے تجویز کراؤ۔ مریض کو خود حلوانہ کھانا چاہئے۔ بلکہ طبیب سے پوچھ کر کھانا چاہئے۔ ممکن ہے وہ بھی حلوا کھلا دے۔ مگر قود کے ساتھ کھلانے گا۔ مثلاً مقدار کم بتلانے گایا بہت ہی کھلا دے۔ مگر نہیں میں اس کی رعایت کر لے گا۔ اور یہ قاعدہ کچھ دین، ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دنیا کے کاموں میں بھی جانے والے کا اتباع کرنا چاہئے اسی میں سلامتی ہے۔ پس سالک کو جائز نہیں کہ خود تجویز کرے کہ اس گناہ کے ذریعہ میں کفر سے فتح جاؤں گا۔ لا و کرلوں بلکہ شیخ سے دریافت کرے کہیں وہ بھی خود ایسا کرتے ہیں کہ مرید کو معصیت میں بتلا دیکھتے ہیں اور نہیں روکتے بلکہ موقع کے منتظر رہتے ہیں۔

مثلاً ایک شخص حرام نوکری پر ملازم ہے مگر پریشان ہے اس ملازمت سے کڑھتا ہے۔ بار بار چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے۔ مگر تو کل کی قوت نہیں نہ اس میں نہ بال بچوں میں۔ اس وقت شیخ سوچتا ہے کہ ملازمت چھڑانے میں اس کے دین پر اندریشہ ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے زیادہ مفسدہ میں بتلا ہو جائے مثلاً چوری کرنے لگے۔ قرض کر کے مارنے لگے یا عیسائی ہو جائے یا کوئی اور نہ ہب اختیار کر لے۔

غرض نوکری چھڑانے میں ہزاروں مصائب کا سامنا ہے۔ اس وقت شیخ بھی یہی تجویز کریگا جو تم تجویز کرتے ہو کہ ملازمت نہ چھوڑو۔ مگر اتنا فرق ہے کہ جب شیخ سے استفتاء کرو گے تو اس کے فتویٰ میں کچھ قیود ہوں گی اور تمہارے فتویٰ میں آزادی ہو گی۔

ملا شیخ ایک یہ قید لگائے گا کہ اس نوکری کو حرام سمجھتے رہو۔ دوسرے سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہو۔ تیسرا یہ کہ اپنے احباب سے کہہ دو کہ میرے واسطے حلال ملازمت کی تلاش رکھنا اسی طرح انشاء اللہ بہت جلد حلال ملازمت مل جائے گی۔ مگر حلال نوکری ملنے کے بعد بھی شیخ فوراً پہلی ملازمت کے چھوڑنے کا مشورہ نہیں دیتا۔ بلکہ وہ رائے دیتا ہے کہ رخصت لے لو۔ دوسری نوکری کی حالت دیکھ کر پہلے سے استغفی نہ دینا۔ اس لئے ضرورت ہے تجویز شیخ کی۔ کیونکہ تمام پہلوؤں کی رعایت تم خود نہیں کر سکتے۔

اس تقریر سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ محقق بھی ایسی مشقت نہیں ڈالتا جو حمل سے باہر ہوا اور اس کی یہ وجہ نہیں کہ شیخ اپنی طرف سے یہ مسئلے ایجاد کرتا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت مقدسہ نے خود احکام ایسے مقرر کئے ہیں جو حمل سے باہر نہیں اور جن گناہوں کا دفعہ چھوڑنا یا کسی طاعت کا بجالانا جو حمل سے باہر معلوم ہوتا ہے اس کی یہ وجہ نہیں کہ فی نفس دشوار ہے بلکہ اس کی تنگی کا نشانہ یہ ہے کہ تقاضا یہ نفس حکم کی مزاحمت کرتا ہے اور اس مزاحمت کی مقاومت فی نفس حمل سے باہر نہیں۔ کیونکہ عمل کے وقت کوئی مزاحمت کرنے والا ظاہر نہیں ہوتا۔ صرف اتنی بات ہے کہ اندر سے طبیعت متوجہ نہیں ہوتی۔

## نفس کی مزاحمت

تو دنیا کے بہت سے کام ایسے ہیں جس کو تمہاری طبیعت نہیں چاہتی۔ مگر دل پر جبر کر کے تم وہ کام کر لئے ہو۔ مثلا رات کے بارہ بجے تم سور ہے ہو۔ کوئی دوست یا مہمان آگیا طبیعت اٹھنے کو نہیں چاہتی۔ مگر مہمان کی خاطر سے اٹھتے ہو۔ اسی طرح خاندان میں کوئی تقریب ہو اور تمہارے ہاتھ میں گنجائش نہیں۔ مگر عزیزوں کی خاطر سے جاتے ہیں اور دل پر جبر کر کے شادی میں روپے دیتے ہو۔ نیز حکام کی خاطرداری کو رشتہ بھی دیتے ہو۔ دعویں بھی کرتے ہو۔ گواندر سے دل نہیں چاہتا۔ اور صدھا کام ہیں جو تم رات دن اپنی طبیعت کے خلاف کرتے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ تقاضائے نفس کی مخالفت دشوار نہیں اور حمل سے باہر تو ہرگز نہیں اور دین کے کاموں میں جو کچھ تنگی ہے وہ اتنی ہی ہے کہ بعض دفعہ طبیعت متوجہ نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ کچھ تنگی نہیں۔ پس حق تعالیٰ کو یہ بھی حق تھا کہ اس تنگی کی پرواہ فرماتے۔ کیونکہ دنیا کے کاموں میں تم خود اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ مگر اللہ تعالیٰ بندہ پر اس سے زیادہ مہربان ہیں۔ اس لئے تنگی کے رفع کرنے کی بھی مدد بر تلاتے ہیں۔ جس سے کڑوی دہاشت بر ہو جائے۔

یہاں سے آپ کو حق تعالیٰ کی رحمت و شفقت کا اندازہ ہو گا کہ اول تو ایسی تنگی کو رفع کرنا چاہتے ہیں جس کو تم خود بھی دنیا کے کاموں میں رفع نہیں کرتے۔ پھر تدبیر ایسی بتاتے ہیں جو ہلِّ الحصوں ہے۔ ایسی تدبیر نہیں بتائی جو دشوار ہو۔

جیسے بعض طبیب ایسی دوائیں بتاتے ہیں جو ہر جگہ مل جائیں مثلاً بخار کے لئے کوئی بخلافی جو ہر جگہ سے مل سکتی ہے۔ پھر بعض طبیب تو کوئی تلخی دو نہیں کرتے اور مریض اگر تلخی کی شکایت کرے تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ دوا بھی ہے کرنا ہو تو کرو ورنہ جاؤ۔ مگر شفیق ڈاکٹر اس پر مٹھائی لپیٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسکو منہ میں ڈال کر نگل جاؤ۔ چنانچہ بلاتشبیہ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فرمایا ہے کہ تدبیر ہلِ الحصوں بتائی۔ اس میں جو کچھ گرانی تھی۔ اس کے رفع کرنے کی تدبیر بتائی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے عبادت اچھی طرح ہونے لگے اور اس میں نفس کی مزاحمت کی وجہ سے جو کچھ تنگی تھی اس کو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ایک تدبیر بتلا کر رفع فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔

دو چیزوں سے مدد لینے کو اس لئے فرمایا کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن میں بعضے کام کرنے پڑتے ہیں۔ بعض وہ جن میں کچھ کام چھوڑنے پڑتے ہیں۔ مثلاً تقویٰ کرنا، محبت الہی حاصل کرنا، اخلاص دل میں پیدا کرنا، یہ تو کرنے کے کام ہیں اور غیبت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ چھوڑنے کے کام ہیں۔ اور دونوں میں ایک قسم کی تنگی ہوتی ہے۔

مثلاً نماز کا وقت آگیا تو سستی اور کسل کی وجہ سے نہیں اٹھ سکتے۔ اسکی اصل وجہ یہ ہے کہ طاعات وجود یہ میں قیود ہوتی ہیں جس سے نفس گھبرا تا ہے کیونکہ نفس آزادی چاہتا ہے اور یہ کچھ طاعات کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ ہر عمل وجود میں کچھ قیود ہوتے ہیں مثلاً مٹھائی کھانا عمل وجودی ہے اس میں بھی یہ قید ہے کہ ہاتھ چلاو مٹھائی تک ہاتھ لے جاؤ۔ پھر منہ میں ڈالو اور چباو پھر نگلو۔ مگر یہ قیود کچھ دشوار نہیں ہیں۔ ایسے ہی نماز کی قیود ہیں البتہ اگر کسی کو کھانا اور نگنا بھی دشوار ہو تو اس کا کچھ علاج نہیں۔

جیسے واحد علی شاہ کے زمانہ میں واحدی تھے۔ ایک کے سینہ پر جویر کھا تھا اس سے اتنا نہ ہو سکا کہ سینہ پر سے اٹھا کر منہ میں ڈال لے۔ بلکہ اس کا منتظر رہا کہ کوئی دوسرا میرے منہ میں ڈال دے۔ چنانچہ ایک سوار سامنے سے گزر ا تو اس کی خوشامدگی کہ ذرا یہاں آتا۔ وہ بیچارہ رحم کھا کر گھوڑے سے اتر کر اس کے پاس آیا اور پوچھا لیا کام ہے۔ کہ میرے سینہ پر جویں رکھا ہے اس کو اٹھا کر میرے منہ میں ڈال دے۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ نامعقول نے اتنے کام کے واسطے مجھے ساری سے اتارا اور رو

چاکر سید کے پھر اس کے رفیق سے کہانا معمول، تو نے ہی اتنا کام کر دیا ہوتا۔ وہ کہنے لگا کہ بس بس خاموش رہیے۔ میں اس کے منہ میں بیرڈاں گل۔ کل میرے منہ میں کتابوں گیا ہے۔ اس کم جنت نے کتے کو توہشایا نہیں۔ سوار نے دونوں پر لعنت بھیجی اور سوار ہو کر چلا گیا۔

تو بعضے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑے پڑے بھی کھانے سے کسل کرتے ہیں اور یوں چاہتے ہیں کہ دوسرا کوئی ہمیں کھلاوے۔ ایسے لوگ اگر نماز کی قیود سے گھبرا نہیں تو ان سے خطاب نہیں۔

### کسل کی وجہ

کسل کی اصل وجہ یہ ہے کہ نفس قیود سے گھبرا تا ہے یہ تو اعمال وجود یہ کی تنگی کا سبب ہے اور جو کام نہ کرنے کے ہیں اس میں کچھ کرنا تو نہیں پڑتا۔ بلکہ صرف چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے مگر وہ اعمال وجود یہ سے بھی زیادہ شاق ہیں ان میں مشقت کا سبب یہ تو نہیں کہ ان میں قیود ہیں کیونکہ وہاں کوئی بھی قید نہیں۔ اگر بولنے کا حکم ہو تو اس میں تو کچھ بھی قید نہیں۔ سواں میں مشقت کی وجہ یہ ہے کہ نماز تو پانچ منٹ میں ختم ہو جاتی ہے اور ترک غیبت میں ہر دم دل پر آرہ چلتا ہے کہ خبردار! جوزبان چلائی۔ بار بار بولنے کا تقاضا ہوتا ہے۔ مگر بولنا منوع ہے اس لئے خاموش ہے اور بولنے کا تقاضا ہوتا ہے۔ مگر بولنا منوع ہے اس لئے خاموش ہے اور بولنے کا تقاضا اس لئے ہوتا ہے کہ غیبت کرنے میں دوسرا کی وقعت ہے اور اس میں حظ نفس ہے کیونکہ نفس میں تکبر ہے وہ سب سے بڑا بنتا چاہتا ہے۔ اسلئے غیبت سے اس کو مرا آتا ہے مگر یہ نہیں سمجھتا کہ جس طریق سے تم دوسروں کو جاہ کم کرتے ہو۔ وہی تمہاری ذلت کا بھی سبب ہو گا۔ کیونکہ تمہارے کلام سے تو مخاطب کے دل سے اس شخص کی وقعت نکلے گی جس کی تم نے غیبت کی تھی۔ پھر وہ اس کے ساتھ ایک مقدمہ ملائے گا کہ جب ایسا شخص برا ہو گیا جو سالہا سال سے اچھا تھا تو یہ راوی ہی کو نامعلوم ہے۔ بس یہ بھی قابل اعتماد نہیں۔ نیز جب تم دوسروں کی غیبت کرو گے تو مخاطب کو دوسروں کے برا سمجھنے کی عادت ہو جائے گی آج اس نے غیر کو برا سمجھا۔ کل کو تمہیں بھی برا سمجھنا اسے دشوار نہ ہو گا۔

### جاہ کی قیمت

جاہ میں مال سے زیادہ حظ ہے۔ اسی لئے نفس کو غیبت میں حظ آتا ہے۔ مگر یہ حماقت ہے کیونکہ چار پیسے ہاتھ میں ہوں تو دس کام چلیں گے اور چند لوگوں کی تعریف سے کیا ہو جائیگا۔

دیوبند میں ایک رئیس نے اپنے لڑکے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی تو مولانا قاسم صاحب نوراللہ مرقدہ نے نہایت لطافت کے ساتھ فصیحت فرمائی کہ جتنی رقم آپ نے دھوم دھام میں لگائی ہے اگر اسکی جائیداد خرید کر بیٹے کو دے دیتے تو اس کے کام آتی۔ اور اب جو چیز آپ نے خریدی ہے۔ یعنی نام وہ ایک کوڑی کو بھی نہیں بک سکتا۔

واقعی جاہ کی کچھ بھی قیمت نہیں محض خیالی چیز ہے پھر جاہ سے سب کے دلوں میں تو عظمت پیدا نہیں ہوتی۔ خواہ کتنی ہی کوشش کرو۔ بلکہ حالت یہ ہے کہ ایک شخص کو ایک تو قطب اور بازیزید سمجھتا ہے اور دوسرا شروع یزید سمجھتا ہے اس لئے چند معتقدوں کی تعریف سے مغروہ ہونا بڑی حماقت ہے۔ مگر باوجود اس کے اکثر عقلااء بلکہ بعضے علماء و مشائخ بھی اس مرض میں بتلا ہیں کہ جہاں کسی نے ان کے ہاتھ چوہے اور وہ سمجھے کہ ہم چوں مکن دیگرے نیست

یہ سراسر حماقت ہے اور بے وقوفی ہے جو اس سے دھوکا میں آتا ہے جیسے ایک میاں جی سے لڑکوں نے چھٹی لینا چاہی تو سب نے اتفاق کر لیا کہ آج میاں جی کو بیمار بناؤ جب وہ مکتب میں آئیں ہر شخص یکے بعد دیگرے ان کی مزاج پرسی کرے کہ آج کیسی طبیعت ہے کچھ چہرا اترا ہوا ہے۔ منہ پر زردی چھڑا رہی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ میاں جی نے ایک دو کو تو دھر کا دیا۔ مگر جب سب نے یہی کہنا شروع کیا تو ان کو بھی وہم ہو گیا اور وہ اچھے خاصے بیمار بن کر گھر چلے گئے اور مکتب بند کر کے لڑکوں کو چھٹی دے دی۔

حکایت تو ہنسی کی ہے مگر یہ بات صحی ہے کہ جہاں چند آدمیوں نے کچھ کہنا شروع کیا۔ اس سے مخاطب کو وہم ہو جاتا ہے کہ ہاں میں ایسا ہی ہوں چنانچہ جہاں چار آدمیوں نے ہاتھ پیر چومنا۔ حضور حضرت کہنا شروع کیا اب آپ سمجھے کہ ہاں میں بھی کچھ ہوں۔ جبھی تو یہ سب مجھے حضرت حضرت کہتے ہیں۔ مجھے یہ حضرت کا لفظ اپنے لئے بہت ہی گراں معلوم ہوتا ہے۔

ایک مرتبہ میں نے اپنے احباب کو اس سے منع کیا اور کہہ دیا کہ ایسا ہی تعظیم کو دل چاہتا ہے تو مولوی مولانا کہہ دیا کرو۔ یہ حضرت کیا نکالا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر حقیقت کی رعایت ضروری نہیں تب بھی اس لفظ کا ایک وقت ہے اسے آنے دو۔ یعنی بال سفید ہونے دو۔ پھر حضرت کہہ لیما۔

ہمارے یہاں ایک بڑھیا تھی۔ اس نے ایک بزرگ کی شان میں لوگوں کی زبان سے حضرت حضرت کہتے سن تو ہمارے گھر آ کر کہنے لگی کہ اے بوالوگ فلاں شاہ جی کو حضرت حضرت کہتے ہیں۔ بھلا کہیں حضرت پا خانہ بھی کرتے ہیں اور وہ تو پا خانہ پیشتاب کرتے ہیں تو اس کے نزدیک

حضرت کہلانے کا مستحق وہ ہے جو بالکل فرشتہ ہو کہ نہ کھائے نہ پئے تہ پاخانہ کرے نہ پیشاب۔ خیر یہ افعال تو واقع میں حضرتیت کے خلاف نہیں۔ مگر جو بتائیں اس کے خلاف ہیں وہ توان حضرت کو خود معلوم ہیں پھر وہ دوسروں کے کہنے سے اپنے کو حضرت کیوں سمجھنے لگے۔ مگر حالت یہ ہے کہ دوسروں کی تعریف سے ہم خود بھی اپنے معتقد ہو جاتے ہیں اور یہ ہم کرنے لگتے ہیں کہ ہم کسی قابل نہ ہوتے تو لوگ ایسا کیوں سمجھتے؟

ان کی وہی مثال ہے جیسے ایک شخص نے دلال کو گھوڑا دیا کہ اس کو فروخت کر دو۔ میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا۔ دلال نے اس کو بازار میں کھڑا کر کے اپنے قاعدہ کے موافق جھوٹ موت شاعرانہ طریق سے اس کی تعریف شروع کی کہ یہ گھوڑا ایسا ہے اور ویسا ہے۔ یہ تعریفیں سن کر مالک کہنے لگا کہ اگر ایسا ہے تو ہم نہیں بیچتے اس کو، ہم ہی رکھیں گے۔

تو جیسے اس شخص کا ساری عمر کا تجربہ ایک دلال کی تعریف سے بدلتا اور جھوٹی مدعی سے اپنے گھوڑے کا معتقد بن گیا۔ اسی طرح ہم لوگ دوسروں کی جھوٹی تعریفوں سے خود بھی اپنے معتقد ہو جاتے ہیں۔ اور معتقدوں کی تعریف کا یہ حال ہے کہ بعض دفعہ پیر کی جھوٹی کرامیں گھڑی جاتی ہیں۔ خود میری نسبت ایک دفعہ مشہور کیا گیا کہا کہ ایک ہی دن میں تھانہ بھون<sup>۱</sup> میں بھی تھا اور چرچ تھاول میں بھی تھا۔ حالانکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ایک وقت میں دو جگہ ہرگز نہ تھا اور کیونکہ ہوتا جب کہ یہ حال ہے۔

از بروں طعنہ زنی بر بایزید وز درونت نگ می وارد یزید

”باہر سے بایزید سے بڑھ کر نظر آتے ہوا اور اندر ونی طور سے یزید سے برے ہو۔“

میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعمال عدمیہ کا اہتمام یعنی غیبت وغیرہ کا ترک اس لئے دشوار ہے کہ اس میں حلقہ ہے اس سے بزم خود جاہ وغیرہ حاصل ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی دشواری کا علاج فرمایا اور دونوں قسم کے کاموں کو آسان کر دیا۔ علاج کا حاصل یہ ہے کہ صبر و صلوٰۃ کی پابندی کرو۔

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بزرگ دو جگہ نظر آتے ہیں۔ اس میں بعض دفعہ تو بزرگ کا تصرف ہوتا ہے کہ دوسری جگہ اپنی صورت مثالیہ کو بھیج دیتے ہیں اور بعض دفعہ بزرگ کا تصرف نہیں ہوتا ان کو اطلاع ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ شیخ کی صورت میں کسی لطیف یعنی کوئی بھیج دیتے ہیں تاکہ سماں کے دمرید کی امد اور سلی کی جائے۔ بہر حال اس صورت میں یہ سمجھنا کہ شیخ ایک وقت میں دو جگہ تھا صحیح نہیں۔ بلکہ یہ اختال بھی ہونا چاہئے کہ شاید شیخ کو اس کی اطلاع بھی نہ ہو کہ میری صورت دوسری جگہ ظاہر ہوتی ہے۔ ۱۲۔

مگر اس واقع متن میں یہ بھی نہ تھا۔ بلکہ میں نے اس واقع کی خود تحقیق کی معلوم ہوا کہ راوی اول نے ایک موقع پر ایک بزرگ کو پشت کی طرف سے دیکھا تھا اس کو دھوکہ ہو گیا پھر اور وہ سے کہہ دیا۔ شہرت ہو گئی۔ ۱۲۔ اشرف علی۔

## صبر کے معنی

صبر کے معنی ہیں کہ نفس کو ناگوار باتوں کا عادی بنایا جائے یعنی خواہش نفس کی مخالفت کی جائے چونکہ ترک میں دشواری اسی لئے ہے کہ حظ نفس فوت ہوتا ہے اس لئے جو شخص مخالفت نفس کا عادی ہو جائے گا اس کو تمام ترک آسان ہو جائیں گے کیونکہ ترک غیبت نفس کو اسی لئے شاق ہے کہ اس میں حظ ہے۔ نظر بد کا ترک اسی لئے شاق ہے کہ نظر بد میں لذت ہے۔ اور تمام محramات کا ترک اسی لئے دشوار ہے کہ حرام میں لذت ہے۔ ان سب کی دشواری رفع کرنے کے لئے صبر کی تعلیم کی گئی کہ نفس کو ناگوار امور کا عادی بناؤ نفس کی مخالفت کرو۔ اس کی خواہش کو پورانہ کرو۔ اعمال وجود یہ نمازو زکوٰۃ و حج وغیرہ اس لئے شاق ہیں کہ ان میں قیود ہیں ان کی مشقت کا علاج یہ بتلایا گیا ہے کہ نماز کے عادی بنتا کہ اس کی عادت سے قیود کی پابندی کی عادت ہو یہ خلاصہ ہے دونوں آیتوں ..... کی تعلیم کا۔

## اعمال میں اولیت

اب یہاں یہ سوال ہو گا کہ صبر اور صلوٰۃ بھی تو خود شاق ہیں۔ پس لازم یہ تھا کہ ان سے بھی آسان ترمذیر بتائی جاتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں اور اعمال کے اعتبار سے آسان ہیں۔ یہ زیادہ دشوار نہیں۔ اس کی وہی مثال ہے جیسے ان بزرگ نے مرید کو بھینس کا مراقبہ تعلیم کیا تھا۔ تو یہ مراقبہ بھی آسان نہ تھا۔ مگر دوسری تدابیر کے مقابلہ میں آسان تھا۔ پھر جیسے مراقبہ جاموس سے مراقبہ مقصود میں کام لیا گیا ہے کہ اس کا عادی بننا کرتا تمام احکام کا عادی بنانا بہل ہو گیا۔

یہ وجہ ہے کہ اسلام میں تعلیم عقائد کے بعد اعمال میں سب سے پہلے نمازو اور صبر کی تعلیم کی گئی۔

چنانچہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے مسلمان زیادہ تر انہی دو باتوں کے مکلف تھے یعنی نماز کے اور کفار کے ایذا اور پر صبر و تحمل کے (محرمات میں سے زنا و سرقہ و قطع رحم و کذب و اخلاق و عده نجوا کے چھوڑنے کا امر کیا گیا تھا۔ باقیہ احکام محramات کے متعلق بعد میں حکم نازل ہوا۔ اور جن محramات کے ترک کا مکہ میں حکم ہوا یہ وہ امور تھے جن کی قباحت عام طور سے تمام لوگوں کے ذہن میں مرکوز تھی اس لئے ان کا ترک دشوار نہ تھا۔) غرض اس ترتیب سے معلوم ہوا کہ نمازو اور صبر کی پابندی کو تمام اعمال کی سہولت میں بڑا دخل ہے۔

## مراقبہ ذات و صفات

ایک بات پہلے بیان کرنے سے رہ گئی تھی اب بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ شاید کسی کو اس حکایت پر کہ بزرگ نے اپنے مرید کو بھینس کا مراقبہ تعلیم کیا تھا۔ کہ انہوں نے یہ طریقہ اچھا اختیار نہیں کیا کہ غریب کو مدحت تک بھینس کے مراقبہ میں مشغول رکھا۔ اگر اسکی بجائے ذات و صفات کے مراقبہ میں مشغول رکھتے تو کیا اچھا ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مراقبہ ذات و صفات لطیف غذا ہے اور لطیف غذا ہر مدد کے مناسب نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض کو اول مسہل اور منسج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ لطیف دوامشلا خمیرہ گاؤزبان اور لطیف غذا پلاو وغیرہ کے قابل ہوتا ہے۔ تو جیسے طبیب جسمانی بعض دفعہ کڑوی اور بد مزہ دواوں سے علاج کرتا ہے اور بعد میں لطیف دواو غذا بتلاتا ہے اسی طرح طبیب روحانی کبھی ادنیٰ چیز کو تجویز کرتا ہے کیونکہ مریض کے موافق وہی ہے۔ ابھی وہ اعلیٰ شے کے قابل نہیں ہے۔ پھر تدریجیاً ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی دیتا ہے۔

چنانچہ ان بزرگ محقق نے دیکھا کہ اس شخص کا دل علاق مختلفہ میں پھنسا ہوا ہے اور اس حالت میں دفعہ وہ تعلق مع اللہ کا اہل نہیں۔ کیونکہ تعلق مع اللہ کے لئے فراغ قلب کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ ہر ہر تعلق کا الگ الگ قلب سے نکالنا طول طویل قصہ ہے۔ ساری عمر اسی میں ختم ہو جائے گی۔ تعلق مع اللہ کبھی نصیب نہ ہوگا۔ وہی قصہ ہوگا

تا تو بمن مے رسی من بخدا میرسم

جب تک تم مجھ تک پہنچتے ہو۔ میں خدا تک پہنچ جاؤں گا۔

جیسے گھر میں سے کوئی شخص کوڑے کو اس طرح صاف کرنا چاہے کہ ایک ایک تنکا اور پھر الگ الگ اٹھائے تو اس میں بہت زمانہ صرف ہوگا۔ آسان تدبیر یہ ہے کہ جھاڑو ہاتھ میں لے کر سب کو ایک طرف سے سمینا شروع کرو۔ اسی طرح ان بزرگ نے تجویز کیا کہ اس شخص کے دل کو جھاڑو سے صاف کرنا چاہئے چنانچہ بھینس کے مراقبہ کو انہوں نے جھاڑو بنایا اور اس کو اس لئے تجویز کیا کہ مرید کو بوجہ محبت جاموس کے یہ مراقبہ آسان تھا۔ اس جھاڑو نے تمام تعلقات کو ایک دم سے سمیٹ کر دل سے نکال دیا۔ اب صرف جھاڑو کا الگ کرنا باقی رہ گیا۔ اس کوشش نے ایک توجہ سے نکال باہر کیا۔ اب دل بالکل صاف ہو گیا تو اس میں مراقبہ حق اور تعلق مع اللہ کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اس مراقبہ حق اور ذکر اللہ تعلیم کر کے بہت جلد و اصل بنادیا۔

## شیخ محقق کا قاعدہ

دوسرے یہ کہ شیخ محقق کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ صفاتِ نفسیہ کے ازالہ کی کوشش نہیں کرتا۔ بلکہ ان کے امالہ کی تدبیر کرتا ہے کیونکہ صفاتِ نفسیہ سب محدود ہیں۔ ان میں برائی اس سے آتی ہے کہ بے موقع استعمال کیا جاتا ہے ورنہ حب و غض و کبر و بخل و غصب فی نفس سب محدود ہیں اگر ان کا صرف صحیح ہو۔

جب یہ بات سمجھ گئے تو اب سمجھو کا جس شخص کے دل میں غیر اللہ کی محبت ہے تو محبت فی نفس نہ موم نہیں بلکہ بہت کام کی چیز ہے۔ نہ موم صرف یہ ہے کہ محبت کا تعلق محلِ صحیح کے ساتھ نہیں تو محقق اس صورت میں محبت کو فنا کرنے کی سعی نہ کرے گا۔ بلکہ اس کو باقی رکھ کر اس کا رخ تبدیل کر دے گا۔

جیسے گاڑی انہجن کے ساتھ لگی ہوئی جا رہی ہو مگر انہجن کی رفتار غلط ہو کہ الٹا جا رہا ہو تو نادافعت اس صورت میں انہجن کی سیم کو بجاانا چاہے گا۔ محقق ایسا نہ کریگا کیونکہ سیم توبہ کے کام کی چیز ہے۔ وہ یہ کرے گا کہ انہجن کے رخ کو بدل دے گا۔ یعنی کل موز کر مشرق سے مغرب کی طرف پھیردے گا۔

تو ان بزرگ نے ایسا ہی کیا جب اس مرید کے دل میں بھیں کی محبت معلوم ہوئی تو انہوں نے محبت کو زائل نہیں کیا۔ بلکہ اس کو اور بڑھایا۔ کیونکہ محبت فی نفس طریق میں بڑے کام کی چیز ہے کہ اس سے تمام تعلقات جلد قطع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ محبت اچھی طرح بڑھ گئی اور اسیم گرم ہو گیا۔ اب شیخ نے انہجن کی کل موز دی۔ اب وہ محبت کی اسیم تعلق مع اللہ میں کام کرنے لگی۔

اس لئے ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے محقق رذائل کا ازالہ نہیں کرتا۔ بلکہ امالہ کیا کرتا ہے یہ تو جملہ معتبر ہے تھا۔ اب میں اصل بیان کی طرف عود کرتا ہوں۔

## نماز کی جامعیت

میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو کاموں کی تعلیم دی ہے کہ انکو کرتے رہو تو سب احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی صبر و نماز کی پابندی کرو۔ یہ ایسا ہے جیسے کتابت میں اول الف ب بت کا لکھنا سکھاتے ہیں۔ اگر استاد جاہل ہو گا وہ اول ہی سے گلستان کی عبارت لکھوانا شروع کریگا۔ مگر محقق ایسا نہ کریگا۔ گوئی مقصود یہ ہے کہ طویل عبارت لکھنا آجائے۔ مگر اس کا سہل طریق یہ ہے کہ حروف مفردہ سے ابتداء کی جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تعلیم میں سہل طریق اختیار فرمایا ہے۔ گوئی مقصود یہ ہے کہ تمام احکام پر عمل کیا جائے۔

اب سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو عبادتیں اس لئے تجویز فرمائی ہیں، کہ ان میں جامعیت کی شان بیسے اور ان میں جامعیت نہ ہو تو وجہ ترجیح پھرستہ ہوگی۔ کیونکہ تمام ہمارے مت میں اسی عمل سے سہولت ہو سکتی ہے جو سچے کا جامن ہو۔ لیکن ہم کو وجہ جامعیت کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ طبیب کامل کی تشخیص کے بعد کوئی بھی نسخہ کے اجزاء کے تعلق یہ سوال نہیں کرتا اور یہ دو ایکوں کمھی اور اس کا درج اتنا یوں لکھنا مگر آرچ فلر بن لئے مارہ میں فضول سوالات کا نہ گوں کو بہت مرض ہو گیا ہے تو بحثنا چاہئے کہ دوائیں یہ فہمیں جس بعض بالخاصہ نہیں ہیں جو خوبی سے اُنیں ارض میں حاصل طور پر نافع ثابت ہوئی ہیں۔ جسیں فی عدالت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، جانتا اور بعض موثر بالکلیفیت یعنی اپنے میراج، حرارت یا برودست کی وجہ سے نافع ہوتی ہیں۔ مگر حقیقت میں جزو دو یہ موثر بالکلیفیت ہیں وہ بھی موثر بالخاصیت ہیں۔ کیونکہ ایکسا مر یعنی کے لئے جو سچے تجویز کیا جاتا ہے اگر مخزن دیکھ کر نہیں ادویہ کے مزان کے موافق دوسرا ڈاکٹر اختریار کی جا گیں تو نفع نہیں ہو سکتا۔ مثلاً زکام میں بنسنے اور گاؤز زبان دیا جاتا ہے اگر آپ اُنکے مزان کے موافق دوسرا دوسری ادویہ استعمال کریں تو ہرگز نفع نہ ہو گا۔ تو اب یوں ہی سمجھو لو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر بیان فرمائی ہے وہ بالخاصہ تمام اعمال میں سہولت پیدا کرتی ہے تم کو وجہ اور سبب تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

مگر حالات یہ ہے کہ لوگوں کو طبیب کے نسخے سے تو تسلی ہو جاتی ہے وہاں کوئی نہیں کہتا کہ دوائیں کیوں لکھی گئیں دوسری کیوں نہ لکھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ طبیب ماہر فن ہے پھر حیرت ہے کہ حق تعالیٰ کی تجویز کے بعد سوال کیا جاتا ہے کیا خدا تعالیٰ پر اعتماد نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ صبر اور نماز میں خاصیت ہی یہ ہے کہ ان سے تمام طاعات آسان ہو جاتی ہیں۔ وجہ بیان کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں اور اگر ایسا ہی شوق ہے تو ہم تم رعا اس کو بھی بتلاتے ہیں۔

سنئے! نماز میں جامعیت کی شان ہے یعنی جتنی طاعات شعائر دین ہیں وہ اکثر نماز میں موجود ہیں اس میں روزہ بھی ہے اور زکوٰۃ بھی، حج بھی اور اعتکاف وغیرہ بھی۔ چنانچہ نماز میں اللہ اکبر کے بعد نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ بولنا ہے۔ یہ روزہ کی شان ہے۔ بلکہ روزہ سے بھی بڑھ کر کیونکہ روزہ میں بولنا منوع نہیں۔ تو اگرچہ نماز میں تھوڑی ہی دیر کار روزہ ہے مگر سخت روزہ ہے اور حج کی روح توجہ الی البتت ہے اور یہاں نماز میں بھی توجہ الی البتت موجود ہے چنانچہ حکم ہے۔

فَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

”اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب موڑ لیجئے۔“

سب جانتے ہیں کہ استقبال بیت نماز میں فرض ہے اور زکوٰۃ کی روح اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ نماز میں یہ بات بھی موجود ہے کیونکہ نماز میں ستر عورت فرض ہے اس کے لئے کپڑا بنانا بھی انفاق سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں بھی ایک حصہ مسجد میں مقید ہوتا ہے۔ نماز میں بھی یہ بات موجود ہے۔ کہ مقام صلوٰۃ میں مقید ہونا ضروری ہے کہ چلنا پھرنا منوع ہے۔ بلکہ یہ جس اعتکاف کے جس سے اشد ہے کیونکہ اعتکاف میں تو مسجد کے اندر جس ہوتا ہے جو وسیع مکان ہے اس میں چلنا پھرنا بھی جائز ہے اور نماز میں ایک ہی مکان میں قید ہے کہ چلنا پھرنا بھی جائز نہیں۔ پھر نماز کے اندر تلاوت قرآن بھی اذکار بھی مختلف قسم کے ہیں۔ دعا بھی ہے۔ درود شریف بھی ہے عرض! نماز ایک جامع عبادت ہے اس کی پابندی اور عادت سے تمام اعمال وجود پر شرعیہ میں اس سے مدد ملتی ہے۔

### نماز کی خاصیت

بلکہ ایک آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کام چھوڑنے کے ہیں ان میں بھی نماز میں مدد ملتی ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

**إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهِيُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ**

کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔

اس پر شاید سوال کسی کے دل میں آیا ہوگا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بعض نمازی بھی برے کام کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کا فحشاء و منکر سے منع کرنا ایسا ہے جیسا یوں کہتے ہیں کہ قانون چوری اور زنا و غصب و ظلم سے روکتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہیں کہ قانون ہاتھ پکڑ کر روک دیتا ہے۔ بلکہ معنی یہ ہوتے ہیں کہ قانون کا مقتضاء یہ ہے غصب نہ کرو۔ رشوت نہ لو۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ باپ کی عظمت بے ادبی سے روکتی ہے۔ یعنی باپ کی عظمت کا مقتضاء یہ ہے کہ اس کی بے ادبی نہ کی جائے۔

یہی مطلب اس آیت کا ہے کہ نماز کا مقتضاء ہے فحشاء سے روکنا کیونکہ وہ درباری ہو گیا ہے اور درباری بننے کے بعد اس سے ایسے افعال کا صادر ہونا۔ جو درباریوں کے شایان شان نہیں بعید ہے کہ آج تو عبادات و خشوع ظاہر کر رہا ہے اور کل کو اس کے خلاف کر رہا ہے (اور تجربہ ہے کہ نمازی آدمی کو برے کاموں سے حیاء آتی ہے اور یقیناً بے نمازیوں کے مقابلہ میں نماز آدمی جرائم پر بہت کم اقدام کرتے ہیں) تو نماز کی یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ وہ محرمات سے روکتی ہے اور نفع

پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ عبادات وجود یہ کو آسان کر دیتی ہے۔

مگر افسوس! کہ آج کل نماز کی بالکل پرواہ نہیں حالانکہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرات صحابہؓ فرماتے ہیں۔

ما کنانی توک شیء کفرا سوی الصلوٰۃ اونحوہ

"کہ ہم کسی کام کے چھوڑنے کو فرنہیں سمجھتے تھے جب نماز کے کہ اس کا چھوڑنا اس وقت کفر سمجھا جاتا تھا۔"

کیونکہ نماز ایسی ہی چیز ہے کہ مسلمانوں کا قومی امتیاز ہے اس لئے اس زمانہ میں اس امتیاز کی ہر مسلمان حفاظت کرتا تھا۔ اور جو شخص نمازنہ پڑھتا اسکے اوپر کفر کا شਬہ ہوتا تھا۔

آج کل نئی روشنی والوں کو قومی امتیاز کا بڑا اہتمام ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ نماز کو قومی امتیاز ہی سمجھ کر اختیار کر لیں اس سے بڑھ کر قومی امتیاز کیا ہو گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لیکر قیامت تک کیلئے مسلمانوں کا خاص امتیاز ہے کہ امیر و غریب، شریف دنی سب مشترک ہے جس سے کفار کو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب لوگ ایک قوم کے ہیں ایک مذہب کے ہیں پس میں اخیر درجہ مجبور ہو کر کہتا ہوں کہ اگر نماز کو دین اور عبادات سمجھ کر نہیں پڑھتے تو امتیاز قومی سمجھ کر پڑھ لیا کرو۔

افسوس! ہم نے زمانہ ہی ایسا پایا ہے جس میں یہ بات زبان پر آگئی حالانکہ نماز کے متعلق مسلمانوں سے ایسی بات کہتے ہوئے اس قدر شرم آتی ہے کہ زمین میں گڑ جانا اس سے بہل معلوم ہوتا ہے۔

حضرات صحابہؓ نے جو فرمایا ہے کہ ہم تارک صلوٰۃ کفر سمجھتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تارک صلوٰۃ کافر ہو جاتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ میں کوئی مسلمان تارک صلوٰۃ نہ تھا۔ اگر کوئی تارک صلوٰۃ نظر آتا تو اس پر کافر ہونے کا شਬہ ہوتا تھا۔ کیونکہ اسلامی علامت کے فوت ہونے سے صورت تو کفر کی ہو گئی۔

صورت کے فوت ہونے کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے گھر سے مدرسہ میں مہمان کے لئے کھانا آیا تو منتظم نے مجھ سے پوچھا کہ وہ مہمان کہاں ہیں حالانکہ وہ میرے پاس ہی بیٹھے تھے اور منتظم نے پہلے ان کو دیکھ بھی لیا تھا۔ میں نے کہا تجھ کو نظر نہیں آتے یہ میرے پاس بیٹھے ہیں کہنے لگا یہ تو پہلے چادر اوڑھے تھے اور اس وقت چادر ان کے بدن پر نہیں۔ میں نے مہمان سے نہس کر کہا۔ آج سے یہ بھی یاد کر لیجئے کرنی گلے جس حالت اور لباس میں پہنچو۔ شروع سے اخیر تک اسی حالت میں رہو رہنے بھوکے مرد گے۔

خبر یہ حکایت تو ہنسی کی ہے مگر اس سے سبق حاصل کرنا چاہئے کہ انسان کی امتیازی شان بدلنے سے وہ خود بدل جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کی نظر میں دوسرا شخص دکھائی دیتا ہے۔

صاحب! تمہاری اصلی چادر نماز ہے اگر تم اس کو تارک کر دو گے تو ہم کیسے سمجھیں کہ تم خدا کے مہمان ہو۔

## نماز کی تاکید

نماز کی تاکید کے متعلق ایک حدیث میں وارد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ارادہ کر رہا ہوں کہ ایک شخص کو مسجد میں امام بناؤں اور خود ان لوگوں کی تلاش کروں جو عشاء کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے (اور ان کو کوئی عذر بھی نہیں) پھر اپنے غلاموں کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کر کے ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگادیں۔ عشاء کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ منافقین اس وقت کی جماعت میں نہیں آتے تھے۔

اللہ اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواں کی شفقت و رحمت ہے کہ باوجود کہ کفار کو بھی آگ سے جلانا آپ کو گوارانہ تھا۔ جیسا حدیث میں وارد ہے مگر تارک جماعت کیلئے آپ نے اس کا ارادہ فرمایا۔ اس سے سمجھ لجھئے کہ جماعت کا شریعت میں کس قدر اہتمام ہے پس نماز کی پابندی کے لئے جماعت کی پابندی کرتا چاہئے۔ اگر کوئی عذر مانع ہو تو خیر۔ مگر عذر بھی آپ کا تراشناہ وانہ ہو۔ بلکہ شریعت کا مانا ہوا عذر ہو۔ یہ تو آپ کے لئے حکم ہے یعنی ہر مکلف کیلئے کہ ترک۔ جماعت پر عذر شرعی سے اقدام کرے بدول اس کے نہ کرے۔

ناصح کے لئے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان جماعت سے نماز پڑھتا ہو اس پر بلا وجہ بدگمانی نہ کرے۔ بلکہ حتی الامکان مسلمان کی حالت کو محل حسن پر محبوں کرے کہ شاید اس کو کوئی عذر شرعی ہو گا جو مجھے معلوم نہیں کیونکہ بعض اعذار مخفی بھی ہوتے ہیں جن کا علم ہر شخص کو نہیں ہو سکتا۔ (مثلاً کسی کے مخفی جگہ زخم ہے جو ہر وقت بہتا ہے مگر تھوڑی دریکوبند بھی ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس شخص کو خون کے بند ہونے کا انتظار لازم ہے جماعت کی پابندی لازم نہیں یا اس کی یہ حالت ہے کہ اس کا نفس تقویٰ کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس نے ادنیٰ درجہ ہی پر نفس سے صلح کر لی ہے۔ اگر وہ نفس کو پابندی جماعت پر مجبور کرے تو اندیشہ ہے کہ نماز ہی سے رہ جائے گا۔ اس چورنے اپنے نفس سے ہیرا پھیری پر صلح کر لی تھی۔ اگر یہ بھی نہ کرتا تو سرقة میں مبتلا ہو جاتا اور یہ ایسا عذر ہے جس کی اطلاع دوسروں کو نہیں ہو سکتی۔ اسلئے ناصح کو امر بالمعروف میں بہت احتیاط اور ہوشیاری کی ضرورت ہے جو شخص امر بالمعروف میں سیاست سے کام نہ لے اس کو امر بالمعروف جائز نہیں۔)

بعض دفعہ طبیب روحانی ایسے اعذار کو ترک جماعت کے لئے عذر مان لیتا ہے جن کو اہل ظاہر عذر نہیں مان سکتے۔ اسلئے حق یہ ہے کہ امر بالمعروف صرف اہل اللہ کا منصب ہے اہل ظاہر کا منصب نہیں۔ بعض دفعہ اہل ظاہر امر بالمعروف میں ایسی غلطی کرتے ہیں کہ بجائے اصلاح کے فساد پڑھ جاتا ہے۔

چنانچہ کانپور میں ایک رئیس نماز پڑھتے تھے مگر کبھی موخر کروایتے تھے اتفاق سے ایک واعظ ان کے بیہاں مہمان ہوئے انہوں نے رئیس کو اس کے متعلق تاکید کی اور سختی سے تاکید کی۔

رئیس نے کہا حضرت ہم دنیا دار لوگ ہیں زیادہ ہمت نہیں سختی نہ کیا سمجھئے۔ مگر واعظ صاحب نے ان کا ایسا پیچھا کیا کہ صبح کی نماز کے لئے بہت سوریے سے ان کو جگاؤیتے اور سخت الفاظ سے انکو ملامت کرتے کہ جانوروں کی طرح پڑے سور ہے ہیں جگانے سے بھی نہیں اٹھتے۔ ایک دو روز تو رئیس نے صبر کیا۔ مگر جب وہ سختی سے بازنہ آئے تو ایک دن رئیس کو غصہ آگیا اور اس نے جواب دیا کہ نماز تمہاری نہیں نہ تمہارے باوا کی۔ جاؤ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔

بعد میں یہ رئیس کہتے تھے کہ اس کلمہ کی ایسی خجوست ہوئی کہ مجھے میں برس تک نماز ہی کی توفیق نہ ہوئی۔ اور گواں میں میری بھی خطا تھی۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وبال ان واعظ صاحب پر زیادہ پڑے گا۔ کیونکہ ان کی سختی نے ہی مجھے اس کلمہ پر مجبور کیا۔

تو ناصح کو ایسی سختی نہ چاہئے کیونکہ شریعت کا حق ہر مسلمان پر ہے تھا ہمارے ہی ذمہ نہیں۔ پس ہم کو ایک دو دفعہ زمی سے نصیحت کر دینا چاہئے۔ اب اگر مخاطب عمل نہ کرے تو پیچھے پڑنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے۔

### نماز اور جماعت

مگر ایسی مذہبت بھی نہ کرے کہ رئیسوں کو شترنج کی اجازت دے دے کہ امام شافعیؓ کے نہ ہب لئیں جائز ہے کھلیوا عجیبا بعض واعظ ایسا بھی کرتے ہیں۔ بس! معیار یہ ہے کہ جو شخص اپنی مصلحت کے لئے امر بالمعروف میں مذہبت کرے وہ تو راہزن ہے اور جو دوسرے کی مصلحت سے کرے وہ عین محقق ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم محقق کی مذہبت کو سن کر اپنے جی میں خوش ہو جاؤ کہ ہمارے واسطے محققین نے گنجائش نکال دی ہے۔ بلکہ تم کو محقق سے اپنا حال عرض کرنا چاہئے اس کے بعد اگر وہ تمہاری ترک جماعت کو علا جا گوارا کرے اور ترک جماعت کی وعید بھی سنادے تو تارک جماعت رہا اور اپنے کو گنہگار بھی سمجھا اور اس گناہ سے توبہ بھی کرتے رہا اور خود تارک جماعت بنو گے۔ تو اپنے کو خواہ مخواہ معدود رہے گناہ سمجھ کر گناہ کرو گے۔ اور یہ حالت اشد ہے اور اگر تم کو کوئی واقعی عذر ہو گا تو محقق اس کے ازالہ کا ایسا طریقہ بھی بتا دے گا جو خود تمہاری سمجھی میں نہ آسکتا تھا۔

امام شافعیؓ کے نزدیک بھی کراہت سے خالی نہیں۔ كما يظهر من الجواهر النقى (ص ۲۵۲ ج ۲) اور اگر غفلت عن الصلوٰة کی طرف مفہمی ہو تو با اتفاق حرام ہے۔ ۱۲

بہر حال جماعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام فرمایا ہے اور اس کے ترک پر سخت وعید وار دھوئی ہے۔ مسلمانوں کو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہئے۔ افسوس یہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھر سے ملی ہوئی مسجد ہے پھر بھی ان کو جماعت کی توفیق نہیں ہوتی۔

مکہ معظمه میں سوق حراج میں ایک بڑھابدوی گاؤں کی چیزیں لا کر بیچتا تھا ساری عمر اسی بازار میں آتے جاتے گزر گئی تھی۔ مگر حج کی توفیق نہ ہوئی۔ ایک دفعہ وہ تعجب سے پوچھنے لگا کہ بعض موسموں میں لاکھوں آدمی یہاں کیوں جمع ہو جاتے ہیں اس کو اتنی بھی خبر نہ تھی کہ لوگ حج کے واسطے مکہ آتے ہیں ایک رئیس کو بڑھ کی بات پر بہت تعجب ہوا کہ مکہ میں ساری عمر گزر گئی اور آج تک اسکون حج کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک مولوی صاحب نے کہا حضور تعجب کی کیا بات ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کے گھر کے پاس مسجد ہے اور آپ آج تک مسجد میں نہیں آئے (یہ رئیس تارک جماعت تھے) یہ جواب من کر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔

غرض! جیسے ترک صلوٰۃ نذموم ہے اسی طرح ترک جماعت بھی نذموم ہے البتہ عورتوں کی جماعت یہی ہے کہ وہ اپنی نماز کو سنہجال کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں ان کے واسطے یہی جماعت ہے کیونکہ مرد کو جو شواب جماعت میں ملتا ہے وہ عورتوں کو تھا پڑھنے سے مل جاتا ہے۔

### تعجیل فی الصلوٰۃ

اسی طرح نماز کو سنہجال سنہجال کر پڑھنا چاہئے۔ بعض ائمہ کے نزدیک تعجیل فی الصلوٰۃ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے یہاں تعدل اركان و اطمینان فرض ہے۔ مگر امام ابوحنفیہ کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوتی۔ بلکہ صحیح ہو جاتی ہے۔ مگر ایسی صحیح ہوتی ہے جیسے لنگڑا آدمی بھی آدمی کہلاتا ہے۔ پس جلدی کی نماز نماز تو ہے مگر لنگڑی بھی نماز ہے تو کیا خدا کے سامنے ایسی نماز پیش کر کے آپ کا جی خوش ہو سکتا ہے؟ البتہ بچوں اور کمزوروں پر آسان کرنا چاہئے وہ اگر جلدی جلدی نماز پڑھیں تو ان پر سختی نہ کرو۔ مولانا فرماتے ہیں

چار پار اقدر طاقت بار نہ پر خیفان قدر ہمت کارن  
جانوروں پر انکی طاقت کے لحاظ سے بوجھ لادا اور کمزوروں پر انکی برداشت کے مطابق کام ڈالو۔

### فساد عقیدہ

مگر یہ ضرور کہوں گا کہ ضعفاء خود اپنے واسطے کچھ تجویز نہ کریں کسی محقق سے تجویز کرو ایں۔

اور یہ ہر امر میں ضروری ہے اور میں کس طرح اس کی ضرورت آپ کے دل میں ڈال دوں۔ واللہ! مجھے اس کے لئے الفاظ بھی نہیں ملتے۔ مگر لفظ کے سوا میرے پاس کیا ہے بس پھر یہی کہتا ہوں کہ دوسرے کے حوالے اپنے کو کر دو۔ اس کی بہت ضرورت ہے اور اس میں سہولت بھی ہے کہ سارا بوجھ دوسرے کے اوپر رہے تم آزاد رہو۔ جہاں کوئی اشکال پیش آیا اس سے کہہ دیا جو اس نے بتایا اس پر عمل کر لیا۔ مگر شرط یہ ہے کہ وہ شخص محقق اور شفیق ہو جو زبان حال سے یوں کہتا ہو۔

من غم تو مبتورم تو غم مخور بر تو من مشق ترم از صد پدر

”تو غم نہ کر مجھے تیرابے حد خیال ہے۔ میں تجھ پر سو باپوں سے بھی زیادہ شفیق ہوں۔“

جسکو ایسا رہبر مل جائے اس کی سعادت و راحت کا کیا پوچھنا۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے حتیٰ کہ اگر وہ کسی سوال کے جواب میں یوں کہہ دے کہ خود سوچ کر جو مناسب سمجھو کر لو تو اس صورت میں اس کی بات مانو اور خود سوچ کر کام کرو۔ یہ نہیں کہ ہر بات کے جواب پر اس کو مجبور کرو۔ چنانچہ بعض اوگ شیخ کو تجھ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور میں نے وعظ میں ساتھا کہ ہر کام شیخ سے پوچھ کر کرو۔ اس لئے میں پوچھتا ہوں کہ بیٹی کا رشتہ کہاں کروں۔

چنانچہ ایک صاحب نے مجھے سے پوچھا کہ میں بانوں کی تجارت کروں یا دواؤں کی۔ میں نے لکھ دیا کہ نہ نیرا باپ کھٹ بنا تھا نہ عطار۔ میں کیا جانوں کہ کس کی تجارت اچھی ہے کسی کی بری۔ تو ہر کام کے پوچھنے کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی تجارت وزراعت وغیرہ میں ان سے مشورہ لیا کرو۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ ان سے مسائل شرعیہ پوچھو کہ یہ تجارت جائز ہے یا نہیں یا دعا کی درخواست کرو تو اس کا بھی مضائقہ نہیں۔ غرض! ہماری حالت حدود کے اندر نہیں۔ یا تو افراط ہے یا تفریط ہے۔ اگر علماء سے استغنا ہے تو ایسا کہ مسائل احکام میں بھی ان سے مراجعت کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ خود جو سمجھ میں آیا کر لیا۔ اور اگر احتیاج ہے تو ایسی کہ شادی کی تاریخ بھی انہی سے دریافت کر کے مقرر کرتے ہیں جیسے ہندو برہمنوں سے پوچھ کر تاریخ معین کرتے ہیں۔

چنانچہ بعض اوگ بجھ سے بھی ایسے سوال کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ اپنی زبان سے ایک وقت تو بتلا دو۔ میں ان کو اپنی زبان سے کچھ نہیں بتاتا کیونکہ اس میں فساد عقیدہ ہے۔

یہ لوگ علماء یا اہل اللہ سے ایسی باتیں اس لئے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کو کارخانہ خداوندی میں دخیل سمجھتے ہیں۔ خیر! عورتوں کا فساد عقیدہ تو عجیب نہیں۔ وہ تو ناقصات اعقل ہیں، ہی مگر آنچ

کل تو کھے پڑھے خوش عقیدہ۔ لوگوں بھی بزرگوں کے بارہ میں فساد عقیدہ میں بنتا ہے۔

چنانچہ اللہ آماد کے ایک رئیس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ نیرے پاس اس اور زندہ کرانے آئے تھے۔ میں نے ان کو بہت کچھ سمجھایا مگر ان کا فساد عقیدہ اس حد تک پڑھا ہوا تھا کہ اپنے بھائی سے کہ یہ زندہ تو کر سکتے ہی۔ مگر کسی مصلحت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔

اے صاحبو! اہل اللہ زندہ تو کیا کر سکتے وہ تو واللہ! آپ کے معاملات میں دعا کرتے ہوئے بھی ذرتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے یہ درخواست کی کہ میں وکالت کا متحان دینا چاہتا ہوں۔ پاس ہوئے کی دعا بیجھے تو ان کو اس کے لئے دعا کرتے ہوئے اندیشہ ہوتا کہ نہ معلوم یہ وکالت سے کون کن حرام کاموں میں بنتا ہو گا۔ پھر وہ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہ! اگر اس کے واسطے وکالت بہتر ہو تو پاس کرو بیجھے۔

بہر حال اہل اللہ سے دعا کی درخواست کا تو مضمون نہیں اور اگر کسی کام کے متعلق وہ یہ کہہ دیں کہ خود سوچ تو پھر تو سوچنا چاہئے۔ اس میں یہ بھی آسانی ہے کہ تم آزاد اور بے فکر رہو گے۔ اور اگر وہ ہر کام میں ایک شق... متعین کر دیا تو بعض دفعہ تم کو سنگی پیش آئے گی۔ کیونکہ ممکن ہے تم کو دوسری شق میں مصالح نظر آئے ہوں اور اہل اللہ کے لئے صاحب کشف ہونا ضروری نہیں کہ ہر معاملہ میں اسی شق کو ترجیح دیں جو خیر ہو۔ اور صاحب کشف ہوں بھی تو ہر وقت کشف ہونا لازم نہیں۔

یہ گفتگو اس پر چلی تھی کہ تم اپنی رائے سے اپنے کو ترک جماعت وغیرہ میں معدود قرار نہ دو۔ بلکہ اپنے کو کسی محقق کے حوالے کرو اور اس کی رائے پر عمل کرو۔

## امام کے فرائض

بہر حال نماز اور جماعت کا بہت اہتمام کرنا چاہئے اور اس میں کچھ دشواری نہیں کیونکہ شریعت نے نماز اور جماعت میں آسانی کی بہت تدبیریں کی ہیں جو محقق کامل سے دریافت کرنے پر معلوم ہو سکتی ہیں۔ مثلاً امام کو امر ہے کہ قرأت میں تخفیف کرے مقتدیوں پر بوجہ نہ ڈالے۔ بعض ائمہ اس کی رعایت نہیں کرتے۔

کانپور میں ایک بزرگ آئے۔ گرمی کا دن تھا۔ نماز جمعہ کا وقت تھا۔ آدمی بہت تھے۔ بعض شامیانہ سے بھی باہر تھے دھوپ سخت تھی امام مسجد نے نماز پڑھانے کے لئے ان بزرگ کو بڑھا دیا۔ انہوں نے اول تو خطبہ بہت لمبا پڑھا۔ حالانکہ تطول خطبہ خلاف سنت ہے۔ خطبہ میں اختصار سنت ہے۔ مگر شیخ بن بانا آسان ہے اتنا سنت دشوار ہے پھر ان حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ وہ خطبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر پڑھا تھا۔ سبحان اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا تو ایسا تھا کہ آپ سارا بھی پڑھتے تو مثل سورۃ فاتحہ کے معلوم ہوتا۔ کیونکہ آپ کی قرأت میں لطف ہی عجیب تھا جس کی وجہ سے سامعین پڑھ را گرانی نہ ہوتی تھی (پھر باوجود واس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے خطبہ میں تطویل منقول نہیں)۔ ہاں جمعہ کے علاوہ بھی بعض اوقات میں آپ کسی ضرورت سے خطبہ فرماتے تھے۔ اس میں تطویل نمکن ہے تو شاید یہ خطبہ بھی ایسا ہی ہو گا جسکو ان بزرگ نے نماز جمعہ میں پڑھ دیا، پھر نماز میں اتنی تطویل کی کہ بعض لوگ بے ہوش ہو گئے۔ بعض کو استغراق ہو گیا امام کو ایسی تطویل جائز نہیں۔ مگر آج کل ائمہ کو اس کی مطلق پرواہ نہیں۔ بلکہ غصب یہ ہے کہ تطویل کو مستحسن سمجھتے ہیں۔

چنانچہ رُز کی میں ایک امام نے لمبی نماز پڑھائی جب لوگوں نے دھوپ کی شکایت کی تو جواب میں کہا کہ ارے کم خوا! تم دوزخ میں کیسے رہو گے جو زرای دھوپ سے گھبرا گئے۔ لوگوں نے کہا۔ کم جنت! جہنم میں تو ہی رہے گا ہم کیوں جہنم میں رہتے جو تو ہمیں جہنم میں رہنے کا اس طرح عادی بناتا ہے۔

یہ ساری خرابی اس کی ہے کہ لوگ دین میں اپنے رائے پر عمل کرتے ہیں کسی محقق کے حوالے اپنے کو نہیں کرتے۔ بس ان لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ لمبا خطبہ بھی پڑھا ہے اور یہ دیکھ لیا کہ آپ نے بعض دفعہ سورۃ قمر اور سورۃ القمر کی قرأت فرمائی ہے۔ اب لگے لمبا خطبہ اور لمبی قرأت کرنے۔ اگر کسی محقق سے پوچھتے تو وہ ان سب کا محل بتلاتا۔

آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ یا تو شریعت کی مطلق پرواہ نہیں کہ نماز ہے نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے نہ حج۔ اور اگر پرواہ اور اہتمام ہے تو اس میں ایسا غلو ہے کہ مقتدیوں کی حالت کی ذرا امراءات نہیں۔

اگر غفلت سے باز آیا جفا کی  
سلامی کی بھی ظالم نے تو کیا کی  
مولانا روی اسی کو فرماتے ہیں۔

چوں گرسنہ می شوی سگ میشوی

چونکہ خوردی تنہو بد رگ می شوی  
”جب تم بھوکے ہوتے ہو تو کتے کی طرح جاتے ہو اور جب کھالیتے ہو وخت و بد اصل بن جاتے ہو۔

### تفسیر بالرائے

صاحب! اگر تم اپنی رائے سے دین پر چل سکتے ہو تو پھر اہل اللہ کسی مرض کی دو ایس اور اگر تم کو کتاب میں دیکھ کر اطباء روحانی سے استغنا ہو سکتا ہے تو اطباء جسمانی سے استغنا کیوں نہیں ہوا کیونکہ یہاں بھی تو کتاب میں موجود ہیں۔ بس کتاب دیکھ کر علاج کر لیا کرو۔

یاد رکھو! کتابوں سے کام نہیں چل سکتا۔ کیونکہ طبیب کتابی نسخوں میں اجتہاد کرتا ہے۔ کتر بیونت کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کے لئے کون سی دوا اور کون سانسخہ موافق ہے اور وزن کتنا ہونا چاہئے۔ اسی طرح دین کے راستہ میں بھی طبیب کامل امور اختیار یہ میں کتر بیونت کرتا ہے۔ اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کتر بیونت اصول و مقاصد میں نہیں ہوتی بلکہ طریق و مذہب میں ہوتی ہے۔ یہ میں نے اس لئے کہہ دیا کہ آج کل بعض لوگ علماء سے اصول و مقاصد میں کتر بیونت کی درخواست کرتے ہیں کہ ذرا سا سود جائز کرو۔ ذرا سی رشوت جائز کرو۔ یہ سوال تماقث کا سوال ہے کیونکہ اصول و مقاصد میں کسی کی رائے کو دخل نہیں ہو سکتا۔ اور بعضے علماء سے بھی درخواست نہیں کرتے بلکہ خود ہی کتر بیونت شروع کر دیتے ہیں۔

چنانچہ ایک شخص نے یہ غضب کیا کہ سود کی حلت پر ایک رسالہ لکھا اور اس میں لکھا کہ سود حرام نہیں اور حرم الربوں میں لفظ ربوا بالکسر نہیں بلکہ زیبایضم ہے جو بودن سے ماخذ ہے۔ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غصب کو حرام کیا ہے کسی کامال جبران چھینو۔ اس سے کوئی پوچھھے کو جو بار بودن سے ماخوذ ہو گا، وہ عربی لفظ ہو گایا فارسی۔ خالم نے قرآن کو فارسی کا قرآن بنادیا۔ مگر غیمت ہے کہ اس نے ایسی تحریف کی جس کی غلطی پر مسلمان مطلع ہو سکتا ہے (اور بعضے ایسا دھوکا دیتے ہیں جس سے عوام گمراہ ہو جاتے ہیں)۔

ایک طالب علم نے یہ غصب کیا کہ زمانہ امتحان میں دن کی نماز میں قصر کیا اور وجہ پر بیان کی کہ مجھے فیل ہونے کا خوف تھا۔ اور خوف کی حالت میں قصر جائز ہے کیونکہ قرآن میں ہے کہ

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِذْ خَفَّتْ

”ایسی حالت میں تم پر نماز قصر کرنے پر کوئی گناہ نہیں (آگے ان حفتم دوسری آیت کا مکمل) ہے معنی یہ ہیں کہ) اگر تم کوڈر ہو کہ۔

دوسرے طالب علم نے جواب دیا کہ اول تو یہاں مطلق خوف مراد نہیں چنانچہ ظاہر ہے دوسرے یہ حکم مشروط بشرطین ہے ایک شرط تو یہ ہے جو بعد میں مذکور ہے اور ایک شرط فلا جناح سے پہلے مذکور ہے و اذا ضربتم في الارض۔ اور جو حکم مشروط بشرطین ہو اس کا ثبوت ایک شرط کے تحقق سے نہیں ہو سکتا کہا، واقعی مجھ سے غلطی ہوتی۔ میں ان نمازوں کا قضا کروں گا۔

یہ تو بہت غیمت تھے مگر ایک صاحب ان سے بھی بڑھ کر تھے ہمیشہ قصر کرتے تھے اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے تھے۔

کن فی الدنیا کانک غریب (جس کا ترجمہ یہ ہے) دنیا میں مسافروں کی طرح رہو۔ کوئی اس سے پوچھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا کہ مسافروں کی طرح رہو۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ بالکل مسافر ہو جاؤ کہ قصر بھی کرنے لگو۔ دوسرے تم نے اس حدیث پر صرف قصر صلوٰۃ کے ہی بارہ میں عمل کیا اور باتوں میں بھی مسافروں کی طرح کیوں نہ بنے کہ نہ روپیہ زیادہ جمع کرتے نہ جائیداد نہ مکان بناتے نہ گھر میں زیادہ سامان رکھتے۔ پہلے اپنی حالت پوری طرح مسافروں کی طرح سی بنائی ہوتی۔ اس کے بعد ہی نماز پر ہاتھ صاف کیا ہوتا۔ مگر سب سے پہلے لوگ دین پر ہاتھ صاف کرتے ہیں دنیا میں کمی نہیں کرتے۔ یہ کیسا حدیث پر عمل ہے۔

آج کل سارے مفسرا یے ہیں کہ قرآن سے دنیا کے مطالب نکالتے ہیں کوئی قرآن سے سوراخ ثابت کرتا ہے، کوئی پریڈ شوت دیتا ہے کوئی قومی جلسوں کی ولیل نکالتا ہے۔۔۔۔۔ واہیات؟ صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ تفسیر کے لئے چودہ علوم میں مہارت کی ضرورت ہے جو شخص ان علوم میں ماہر نہ ہو اس کو مفسر بننا جائز نہیں کیونکہ وہ تفسیر بالرائے میں بتلا ہو گا۔

آج کل تو غصب یہ ہے کہ کفار تک قرآن کی تفسیر کا دعویٰ کرتے ہیں چنانچہ رامپور میں ایک انگریز کہہ رہا تھا کہ کران (قرآن) میں ہے کہ طاعون لگتا ہے کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ جہاں طاعون ہو وہاں مت جاؤ اور جو پہلے سے طاعون کی جگہ ہو وہاں سے باہر نہ جاؤ۔ یہ حکم اسی لئے تو ہے کہ باہر سے طاعون کی جگہ آؤ گے تو تم کو طاعون لگ جائے گا اور تم کو طاعون کی جگہ باہر جاؤ گے تو وہ مروں کو طاعون لگ جائے گا۔

سبحان اللہ! اول تو یہ مضمون قرآن میں نہیں بلکہ حدیث میں ہے۔ پھر حدیث کا مضمون بھی جس قدر ہے اس میں یہ کہاں ہے کہ اس حکم کی علت طاعون لگنا ہے ممکن ہے کوئی دوسری علت ہو جیے حفظ اعتقاد وغیرہ جو علماء نے بیان کی ہے۔ مگر آج کل آزادی کا یہ عالم ہے کہ کفار بھی احکام شرعیہ کی علتمیں خود گھڑتے ہیں حالانکہ وہ قرآن کو خود پڑھنے پر قادر نہیں مطلب سمجھنا تو بہت دور ہے۔

چنانچہ میرے بھائی ریل میں سفر کر رہے تھے۔ ان کے درجہ میں ایک انگریز بھی تھا بھائی کے ہاتھ میں ٹائپ کا چھپا ہوا قرآن تھا۔ وہ انگریز کہنے لگا کہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں بھائی نے کہا، ہاں رومال میں لے کر دیکھ سکتے ہیں اس نے رومال میں لے کر قرآن کو دیکھا تو سرور ق پر آڑا کھا تھا۔ صاحب بہادر فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے آلو۔ بھائی نے حمال اس کے ہاتھ سے لے لی اور کہا۔ آپ اس کو پڑھنیں سکتے۔ اس لیاقت پر ان لوگوں کو یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے

قرآن و حدیث کے احکام کی علتیں بیان کرتے ہیں۔

خیریہ تو ایک انگریزی کی حکایت ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ بعض انگریزی خواں طالب علم باوجود مسلمان ہونے کے قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ قرآن کے بچے کرنے سے بھی عاجز ہیں یہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ مجھے تو ایسے لوگوں کے نکاح میں بھی شک رہتا ہے کیونکہ انگریزی خواں طلباء کے عقائد میں بھی بہت گزبر ہے اعمال کا تو پوچھنا ہی کیا۔ صاحبو! خدا کیلئے نکاح کے وقت اتنا تو کم از کم دیکھ لیا کرو کہ اڑکا مسلمان بھی ہے یا نہیں۔

### حقیقی تعزیت

یہاں تک تو نماز کے متعلق بیان تھا۔ اب میں صبر کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سو یہ تو اور پر معلوم ہو چکا ہے کہ صبر کے معنی ضبط نفس کے ہیں یعنی نفس کی خواہش کو دبانا اور اس کو ثابت قدم رکھنا۔ یہ وصف بھی ہمارے اندر آج کل بہت کم ہے اور اس تعریف سے آپ کو معلوم ہو گا کہ صبر کے معنی صرف یہی نہیں کہ کسی کے مر نے پر صبر کر لیا جائے چونکہ یہ موقع سخت ہے اس لئے عرف میں اسی موقع پر ضبط نفس کا نام صبر ہو گیا۔ اور اس میں کچھ شدت تو واقعی ہے دوسرے وہ اس لئے بھی اشد ہو گیا کہ لوگ اس موقع پر خود بھی غم کو بڑھاتے ہیں کہ بار بار اس کا تذکرہ کرتے اور سوچتے ہیں اور تعزیت کرنے والے بھی بار بار اسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج کل تعزیت تعزیت نہیں بلکہ تعذیب ہے کہ تکلیف کو بڑھاتے ہیں۔ تعزیت کے معنی تسلی کرنے کے ہیں۔ مگر آج کل تسلی نہیں دی جاتی۔ بلکہ غم کو بڑھایا جاتا ہے۔

تعزیت تو یہ ہے جو ایک اعرابی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا تھی۔ آج کل اگر کوئی ایسا مضمون بیان کرے تو لوگ کہیں گے۔ مجھے تسلی دینے آئے تھے ذہیلا سامار گئے۔ آج کل تو تعزیت اس کو کہتے ہیں کہ بیٹھتے ہی رو نے لگو۔ یارو نے کی صورت بنالا اور یوں کہو کہ یہ خبر سن کر بہت ہی غم اور صدمہ ہوا۔ تمہارے دل پر کیا گزری ہو گی۔ ہائے! یہ کیسا گھر بر باد ہو گیا جس سے غم زدہ کا دل اور پاش پاش ہو جاتا ہے خصوصاً عورتوں کے کلمات تو ایسے زہر آلوہ ہوتے ہیں کہاں کے متعلق تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ غم کے وقت ان کے کلمات سننا جائز نہیں۔ مجھے تو ایک مرتبہ عورتوں کے کلمات تعزیت سن کر اختلاج قلب ہو گیا تھا جس کی مضرات دوستک ہنچنگی تھی۔ ان کا سننا صحیح جسم اور صحیت دین دنوں کے لئے مضر ہے اب اس اعرابی کا مضمون سنئے۔ کہتا ہے۔

اصبر نکن بک صابرین فانما صبر الرعية بعد صبر الراس

اے عبد اللہ بن عباس! صبر کیجئے تاکہ آپ کو دیکھ کر ہم بھی صبر کا سبق یکھیں..... کیونکہ آپ مقتداء ہیں اور مقتداء کے صبر سے ہی رعیت کو صبر کا سبق حاصل ہوتا ہے اگر مقتداء بے صبر بن جائے تو رعیت کیوں کر صابر ہوگی۔“

سبحان اللہ! کیسی عجیب تعلیم ہے جس کو سن کر مقتداء پوری طرح صبر کے لئے آمادہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اول تو اپنے علم کی وجہ سے صبر کرنا چاہئے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم از کم ہمارے ہی خیال سے صبر کیجئے۔ آگے کہتا ہے۔

**خیر من العباس اجرک بعده**    وَاللَّهُ خَيْرٌ مِنْكُمْ لِلْعَبَاسِ  
حضرت عباسؓ کے انتقال سے جو آپؐ کو غم کو ہوا اور اس پر اجر ملا وہ اجر آپؐ کے حق میں حضرت عباس سے بد رجہا بہتر ہے عباس کو لے کر کیا کرو گے۔ وہ تو دنیا ہی میں کام آتے اور ثواب توجہت تک آپؐ کو پہنچا دیگا۔ اور حضرت عباسؓ کے لئے خدا تعالیٰ آپؐ سے بہتر ہیں۔ وہ آپؐ سے جدا ہو کر خدا کے پاس پہنچ گئے۔ پھر کا ہے کام کہ نہ آپؐ کا نقصان ہوان ان کا بلکہ دونوں کا نفع ہی ہو گیا۔

یہ ایسا مضمون ہے جو آج کل کے عرف میں تعزیت کا مضمون شمار نہیں ہوتا مگر حقیقت میں تعزیت یہی ہے چنانچہ عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کی تعزیت سے اتنا نفع نہیں ہوا جتنا اس اعرابی کی تعزیت سے ہو۔

### غم کی حکمت و حقیقت

بعض جگہ جہاں بے تکلفی ہوتی ہے میں بھی یہی بات کہہ دیتا ہوں کہ میاں کس غم میں پڑے انسان کو خدا تعالیٰ نے عقل اور دین اسی موقع کے واسطے عطا فرمایا ہے۔ عقل سے کام لو اور دین کی باتوں میں غور کرو تو یہ بات کچھ زیادہ غم کی نہیں کیونکہ مرنے کی حقیقت یہ ہے جیسے پر دلیں سے وطن پہنچ جائے تو مر نے والا تواصیلی وطن میں پہنچ گیا اس پر کیا رنج۔ ہاں! ہم پر دلیں میں رہ گئے۔ ہم کو اس کی فکر چاہئے کہ خیرت سے ہم بھی اپنے وطن میں پہنچ جائیں۔ بس! اب صرف مفارقت کا صدمہ رہ گیا۔ سودہ بھی چند روزہ ہے ایک دن، ہم بھی وہیں جانے والے ہیں جہاں وہ گیا۔

ایک بات میں لاکھوں کی بتلاتا ہوں وہ یہ کہ طبعی غم اور ہے کسی غم اور ہے طبعی غم کی مدت بہت کم ہے۔ وہ تو خود بخود بہت جلد زائل ہو جاتا ہے ہاں کسی غم جو خود سوچ سوچ کر پیدا کیا جاتا ہے۔ اور تذکرہ کر کر کے بڑھایا جاتا ہے وہ البتہ اشد ہے مگر اس کا حدوث و بقایا نقیار کے سے۔ سو یہاں

موقوف کرو تذکرہ نہ کرو تو کبی غم پاس بھی نہ آئے گا۔

رہا طبعی غم وہ البتہ غیر اختیاری ہے مگر وہ نہ تحمل سے باہر ہے نہ اس کی مدت زیادہ ہے پھر اس کی حکمت میں غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ حق تعالیٰ نے یہم بھی محض رحمت کی وجہ سے دیا ہے کہ وہ ایک دولت ہم کو عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ جب وہ حکمت حاصل ہو جاتی ہے تو خود ہی اس کو دوڑ بھی کر دیتے ہیں۔

درد از یارست و درماں نیز ہم دل فدائے اوشد و جاں نیز ہم

” درود وست کا دیا ہوا ہے اور دوڑ بھی۔ دل اور جاں دونوں اس پر فدا ہیں۔ ”

اللہ تعالیٰ تم کو غم دینا چاہتے ہیں بلکہ ایک دولت دینا چاہتے ہیں جس کا آکہ غم کو بنایا گیا ہے پھر چونکہ غم مقصود نہیں اس لئے اس کو جلدی، ہی زائل کر دیتے ہیں۔ بشرطیکہ تم خود اسکونہ پا لو اور بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ غم کی حکمت یہ ہے کہ انسان متمدن ہے اور تمدن موقوف ہے ہمدردی پر اور ہمدردی موقوف ہے رفت قلب پر۔ پس رفت کوتازہ کرنے کے لئے بعض دفعہ اسباب رفت یعنی غم وغیرہ نازل ہوتے ہیں۔ اگر اس کی تجدید نہ کی جائے تو یہ قوت بالکل معطل ہو جاتی ہے چنانچہ اطباء نے تصریح کی ہے کہ جس قوت سے کام نہ لیا جائے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔

ذبح حیوانات میں بھی سیرے نزدیک یہی حکمت ہے جس کو میں سمجھا ہوں کہ یہ بھی رفت بڑھانے کے واسطے ہے لوگ کہتے ہیں کہ ذبح سے قساوت بڑھتی ہے مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسلمان کامل سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہو سکتا اور قصائی جوخت دل ہوتے ہیں۔ وہ اس لئے کہ وہ اپنے پیشہ کی غرض کے لئے ذبح کرتے ہیں اگر ان کی غرض پیشہ کی درمیان میں نہ ہو تو ان سے زیادہ رحم دل..... کوئی نہیں ہوتا۔

بہر حال غم کی حکمت یہ ہے کہ اس سے قلب کی رفت اور صفت رحمت تازہ ہوتی ہے اور یہ بڑی دولت ہے جو دین میں بھی کار آمد ہے اور دنیا میں بھی۔

### تعزیت کی مدت

چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جس شخص پر اسباب غم وارونہ ہونے ہوں اس کو درسروروں کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا نہ اسکو درسروروں کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے۔ یہ راز ہے طبعی غم میں تین دن مقرر فرمائی ہے۔ اسی لئے تین دن کے بعد اہل بلد کو تعزیت جائز نہیں کیونکہ غم توہا کا ہو گیا اب تعزیت کرنا نشتر مار کر مر ہم پیٹ کرنا ہے۔

جیسے ایک سرحدی چوروں کے ہاتھ سے زخمی ہو گیا تھا کسی ہندوستانی نے اس کی بڑی خدمت کی یہاں تک کہ اچھا ہو گیا تو سرحدی نے کہا اگر تم نے کبھی ہمارے طعن آؤ تو ہم تمہارے احسان کا بدل دیں گے۔

اتفاق سے یہ مرحد کی طرف گیا اور اس کا مہمان ہوا اور منتظر رہا کہ دیکھئے میرے انسان کا کیا بدلا دیتا ہے۔ اس کی بیوی کو معلوم ہوا کہ یہ مہمان وہ ہندوستانی ہے جس نے شوہر کی خدمت کی تھی۔ تو اس نے اس سے کہا کہ اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ کیونکہ میرا خاوند تمہارا مذکورہ کیا کرتا تھا کہ ایک ہندوستانی نے ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا ہے کہ ہم زخمی تھے ہم کو اچھا کیا اگر وہ یہاں آجائے تو ہم بھی اس کو زخمی کر کے خدمت اور مرہم پٹی سے اچھا کریں گے وہ یہ سن کر بھاگ گا اور احسان کےبدلے سے باز آیا۔

تو جو لوگ تین دن کے بعد تعزیت کرتے ہیں وہ بھی تند رست دل کو زخمی کر کے مرہم پٹی کرتے ہیں۔ البتہ باہر سے آنے والوں کو تین دن کے بعد بھی تعزیت جائز ہے کیونکہ صاحب واقعہ اس کی تعزیت کو ضرورت پر محول کرے گا۔ اس لئے اس کے دل پر اس سے شرعاً نہیں لگے گا۔ بلکہ اگر یہ غریب تعزیت نہ کرے بلکہ خاموش بیٹھا رہے تو صاحب واقعہ کو اس کی شکایت پیدا ہو گی کہ میرے غم کے متعلق ایک لفظ بھی ہمدردی کا نہ کہا پھر اس کے آنے سے کیا فائدہ ہوا۔ نیز آنے والے کا دل بھی سکوت سے منتفض ہوتا ہے اس کا دل تقاضا کرتا ہے کہ دور چار کلمے تسلی کے ضروری کہے۔

شریعت مقدسہ کی پاکیزگی ملاحظہ کیجئے کہ باہر سے آنے والوں کو تین دن کے بعد بھی تعزیت کی اجازت دے دی تاکہ طرفین کے جذبات کی رعایت ہو جائے مگر اہل بلد کے لئے میعاد مقرر ہے۔

مجھے ایک جنلیسین کی حکایت بہت پسند آئی جو عقل و انتظام میں مشہور تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے اس کے لئے بھی ایک مسل مقرر کر کے جو شخص زبانی یا تحریری تعزیت کرتا اس کا قول اور اپنا جواب مسل میں درج کر دیتے اور اس کے لئے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ جب وہ میعادگزرنگی مسل داخل دفتر کر دی گئی۔ اس کے بعد جو شخص آتا اور کچھ کہنا چاہتا آپ اس سے پہلے ہی پوچھ لیتے کہ کیا آپ میرے والد ماجد صاحب کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ کہتا جی ہاں! تو کہہ دیتے کہ تعزیت کی مسل داخل دفتر ہو چکی ہے کیونکہ میعادگزرنگی۔ اس لئے اب اس کے متعلق میں سننا نہیں چاہتا وہ سری بات کیجئے۔

میرا اس حکایت سے یہ مقصود نہیں کہ آپ بھی مسل مقرر کیا کریں یہ تو ان کا غلو فی الانتظام تھا۔ بلکہ مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ تعزیت میعاد کے قابل ضرور ہے۔ عقل بھی اس کے لئے تعین میعاد کی مقتضی ہے چنانچہ شریعت نے اس کے لئے تین دن مقرر کئے ہیں۔ تین کے عدد میں ایک خاص خاصیت ہے اس لئے سُجھنے اور سفر و ہجران مسلم وغیرہ کے لئے تین دن کی حد مقرر ہے اور تجربہ بھی ہے کہ تین دن کے بعد غم بلکا ہو جاتا ہے۔

بعض لوگ شاید اس پر یہ کہیں کہ جس کے دل کو لگتی ہے۔ اس کو تو پھر بھی خیال آتا ہے۔ میں اس کو مانتا ہوں۔ مگر یہ ضرور کہوں گا کہ تین دن کے بعد وہ حال نہ ہو گا جوابتداء میں تھا۔

### غم غلط کرنے کا طریقہ

دوسرے یہ کہ قاعدہ عقلیہ ہے۔ انفس لا توجہ الی شکن فی ان واحد ایک آن میں نفس دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ پس تم اپنے ذہن کو دوسرے کاموں کی طرف متوجہ کرو اپنا کاروبار شروع کر دو۔ پھر غم کا غلبہ نہ ہو گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے ایسا بھی کیا مگر پھر بھی خیال آتا ہے تو میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا۔ مگر جواب یہ ہے کہ جیسا غلبہ ابتداء میں تھا وہ ضرور کم ہو جائے گا۔

دوسرے اگر تم کو کبھی بخار آجائے تو کیا کرتے ہو؟ دوا ہی پیتے ہو۔ اگر دوبارہ پھر آجائے تو کیا کرو گے پھر بھی دوا پیو گے۔ تو ایسی ہی یہاں بھی برابر دوا کرتے رہو۔ یعنی نفس کو دوسری طرف متوجہ کرنے کی کوشش..... کرتے رہو۔

اب یہ سوال ہو گا کہ ہم کس خیال میں مشغول ہوں تو شریعت نے اس کو بھی حل کیا ہے اور یہ بھی دلیل ہے شریعت مقدسہ کے کامل ہونے کی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

**الَّذِينَ إِذَا أَصَابُتْهُمْ مُّصِيْتَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُوْنَ**

صبر کرنے والوں کو خوش خبری دیجئے ان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

یعنی مصیبت اور غم کے وقت زبان کو انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ کے ورد میں مشغول کیا جائے اور دل کو اس کے معنی کے تصور میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں اور مالک کو ہر قسم کے تصرت کا اپنے مملوک میں اختیار ہے۔ غلام کو چاہئے کہ مالک کے تصرف پر راضی رہے اس لئے ہم کو بھی اس موقع پر تصرف حق پر راضی رہنا چاہئے۔ مگر بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ ان کے قلب کو عقلی جواب سےطمینان نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم کہ ہم حق تعالیٰ کی ملک ہیں اور ان کو ہر تصرف کا اختیار ہے۔ مگر ہم کو میت سے خاص تعلق ہو گیا تھا۔ اور اب مفارقت ہو گئی ہے۔ اس مفارقت کا تحمل نہیں ہوتا۔ ان کیلئے دوسرا جواب ہے وانا الیہ راجعون۔ کہ گھبراو نہیں تم بھی وہی جانے والے ہو جہاں وہ گیا ہے مفارقت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ مفارقت چند روز ہے جیسا دنیا میں بھی بعض دفعہ سفر وغیرہ کی وجہ سے مفارقت ہو جاتی ہے۔

## تاولوں کے مفاسد

بہر حال تسلی کا طریقہ یہ ہے کہ غم زدہ کو نصیحت کرو کہ واقعہ کو از خود نہ سوچے بلکہ اپنے کام میں لگے انا لله وَ انا عَلَيْهِ رَجُوعٌ کے مضمون کو سوچے۔ جب اس سے طبیعت پھر جائے تو کتابیں دیکھنے لگے۔ مگر شرط یہ ہے کہ مخرب اخلاق تاول نہ دیکھے جائیں کیونکہ ان سے قلب کا ناس ہو جاتا ہے۔ یہ گل بکاؤلی اور قصہ چہار درویش وغیرہ کتابیں بھی اگرچہ خوبیت ہیں مگر اخبت نہیں کیونکہ ان میں شہوت رانی کی تدایر نہیں بتائی گئیں اور جو بتائی گئی ہیں وہ کسی کے باپ کے قبضہ میں نہیں۔

مثلاً یہ لکھا ہے کہ ایک دیوالی اور اس کو بکاؤلی کے باغ میں لے گیا اب بتائیے کوئی یہ تدبیر کتنا چاہے تو دیو وغیرہ کہاں سے لائے گا۔ اور تاولوں میں ایسی تدایر بتائی گئی ہیں جن کو ہر شخص حاصل کر سکتا ہے اسی لئے قصہ گل بکاؤلی وغیرہ سے مفاسد کا ظہور نہیں ہوا اور ان تاولوں سے برے برے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ حیا تو بالکل جاتی رہتی ہے اور بعضے مشہور گھرانوں میں ان تاولوں کی وجہ سے بڑے بڑے واقعات ہو گئے ہیں اور اس میں سارا قصور والدین کا ہے کہ وہ ایسی کتابیں مگر میں کیوں گھنے دیتے ہیں۔ شفیق باپ وہ چیز خود نہیں کھاتا جو بچوں کو مضر ہے۔ پس مردوں کا لازم ہے کہ تاولوں کو دیکھنا خود چھوڑ دیں تاکہ ان کے یوں بچے اس کے ذہر سے بچے رہیں۔ بلکہ بجائے ان کتابوں کے حضرات انبیاء علیہم السلام کے قصہ دیکھو بزرگوں کے حالات دیکھو۔

میں بقیسم کہتا ہوں کہ ان حکایات میں بعض دفعہ ایک ہی حکایت رہبر ہو جاتی ہے۔ اس پر تعجب نہ کیجئے۔ میں اس سے ترقی کر کے کہتا ہوں کہ بعض دفعہ ایک مختصر بات ہی رہبر ہو جاتی ہے۔ کانپور میں ایک بار میں پاخانہ میں بیٹھا تھا جو سڑک کے کنارے پر تھا کہ دو شخصوں کے باتمن کرنے کی آواز آئی۔ ایک شخص کسی کی شکایت کر رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ ایسی بھلانی کی۔ اس طرح احسان کیا اور اس نے ہمیشہ میرے ساتھ برائی کی اب میں اس کو مزاچکھانا چاہتا ہوں تو دوسرے نے کہا تم بھلانی سے کیوں باز آتے ہو جب وہ برائی سے باز نہیں آتا۔

واقعی یہ بات آب زر سے لکھنے کے قابل ہے میرے دل پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ آج تک نہیں بھولا (مطلوب یہ ہے کہ وہ تو برائی پر جما ہوا ہے اور تم سے بھلانی پر بھی نہیں جما جاتا۔ حالانکہ بھلانی ایسی چیز ہے کہ اس پر ہمیشہ جمار ہنا چاہئے۔

پس تم بزرگوں کی حکایت اور انبیاء علیہم السلام کے قصے دیکھو! ان سے تمہارے دل کو بھی سکون ہو گا اور دین و دنیا بھی درست ہو گی۔ ایسی ہی کتابوں کے متعلق حضرت حافظہ کا یہ ارشاد ہے دریں دنیا رفیقہ کر خالی از خلل است صراحی سے ناب و سفینہ غزل است

”ان دنوں وہ دوست جو برائی سے خالی ہو صرف خالص شراب کی صراحی اور غزل کا سفینہ ہیں۔“

مگر شرط یہ ہے کہ ان کتابوں کو بھی کسی عالم محقق سے تجویز کرو۔ اپنی رائے سے کسی کتاب کا مطالعہ نہ کرو۔ جائیے! میں نے آپ کو اصلاح اخلاق کا استансہ دیدیا کہ دین کی کتابوں اور بزرگوں کی حکایت کا مطالعہ کرو۔ ان شاء اللہ اس سے بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر اب بھی اصلاح نہ کرو تو یوں کہا جائے گا۔

اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر تجویز سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا ممکن ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوں جو اپنے دل میں یوں کہتے ہوں کہ بزرگوں کی حکایات کے مطالعہ سے اصلاح ہو جاتی ہے تو ہم ان کو دیکھیں ہیں گے نہیں۔ جیسے ایک ذوم سے ساتھا کہ رمضان شریف کا چاند دیکھنے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے تو اس نے کہا کہ میں دیکھوں گا ہی نہیں۔ چانچہ چاند سے چھپ گرایک کوٹھری میں جا چھپا۔ وہاں ہی پا جانہ پیش اب شروع کیا تاکہ آسمان کی طرف نگاہ ہی نہ اٹھے۔ مگر کئی روز کے بعد یوں نے تھگ آکر گھر سے نکال دیا۔ ایک دن جنگل میں صبح کوتالا ب کے کنارے آب دست کر رہا تھا کہ پانی میں چاند کا عکس نظر آگیا تو کہنے لگا بڑا جا آنکھوں میں بڑا۔ (گھس جا) کر دے روزہ فرض۔

تو اللہ کے ہندو! تم خدا کے رستے سے کیوں ڈرتے ہو۔ بخدا یہ تو بہت آسان رستہ ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی بھی کریم نہیں۔ سلاطین دنیا میں تو قاعدہ یہ ہے کہ باغیوں کے لئے وارثت گرفتاری جاری ہوتے ہیں اور اگر کبھی بااغی خود حاضر ہو جائے تو فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے یہاں کس قدر رحمت ہے کہ بااغی خود آجائے اور عاجزی سے معافی چاہنے لگئے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔

وگر خشم گیرد بکردار زشت جو باز آمدی ماجر اور درنوشت

”اگر برے کاموں سے غصے ہو جائے تو جب تم ان سے بازا آجاتے ہو تو معافی دیدیتے ہیں۔“

اور وہ یوں فرماتے ہیں

باز آباز آہر آنچہ، ہستی باز آ	گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
ایں در گہہ مادر گہہ نو میدی نیست	صد بار اگر تو بہ شکستی باز آ

”واپس آ، واپس آ و جو کچھ بھی ہو واپس آ۔ تم کافر، آتش پرست یا بت پرست ہو تب بھی واپس آ۔ یہ ہماری درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں۔ سو بار بھی اگر تو بے توڑ چکے ہو تو واپس آ جاؤ۔“

## صبر اور طاعات

میں یہ کہہ رہا تھا کہ صبر فقط واقعات موت ہی کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ صبر ہر ناگوار امر عام ہے یعنی ہر ناگوار بات پر نفس کو پابند کیا جائے اور اس کوشہوات میں آزادی نہ دی جائے۔ بلکہ ضبط سے کام لے کر دبادیا جائے۔

اب ظاہر ہے کہ جس شخص میں یہ ملکہ راستہ ہو جائے گا اس کو تمام محترمات سے نفس کو روکنا آسان ہو جائے گا۔ بلکہ جس طرح نماز کو محترمات سے بچانے میں بھی داخل ہو گو معظوم نفع طاعات کو آسان کرنا چاہئے اسی طرح صبر کو طاعات کے آسان کرنے میں بھی داخل ہے گو معظوم نفع صبر کا ترک محترمات میں آسانی پیدا کرنا ہے اور طاعات کو آسان کرنے میں صبر کا داخل اس لئے ہے کہ طاعات میں بھی نفس کو ناگواری ہوتی ہے جب اس کو مکروہات پر مجبوس کیا جائے گا اور اس کی عادت ہو جائے گی تو طاعات کی پابندی بھی آسان ہو جائے گی اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر سے مدد لو۔

## نماز کی گرانی کا علاج

اب ایک اشکال رہ گیا کہ نماز و صبر خود بھی تو مشکل ہے۔ پس ایسی چیز سے مدد لینے کی تعلیم دی جو خود بھی آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسکا ایک جواب تو یہ ہے کہ اعمالِ جن میں مدد لی جاتی ہے بہت سے ہیں اور یہ صرف دو ہی چیزیں ہیں۔ سو ہمت اور محنت سے دو باتوں کا حاصل کرنا کچھ دشوار نہیں۔

دوسرा جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کی بھی مدد پیر بتائی ہے چنانچہ ارشاد ہے:

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْحَسَنِينَ

”ہاں بے شک نماز بہت گراں ہے مگر خاص ہیں پر“

اس کے جزو اول پر تعارض کا شہر ہو کہ ابھی تو نماز کو آسان کہہ رہے تھے ابھی اسکو بھاری مان لیا۔ بات یہ ہے کہ نماز فی نفسہ آسان ہے اور عارضِ مراجحت نفس سے گراں ہو جاتی ہے۔ وہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں بطور از حاء عنان کے اس کو گراں مان لیا گیا ہے۔ تاکہ مخاطب اپنے اہمادی سے وحشت نہ ہو بلکہ مصلح کو اپنی موافقت کرتا ہو دیکھ کر اس کی بابت کوئن لے۔ کیونکہ قاعدہ یہ

ہے۔ مصلح اگر مریض کی بات کو مان کر اصلاح کرے تو مریض کا دل بڑھتا ہے۔

مثلاً طبیب نے موگ کی کچھ بڑی بتائی۔ مریض نے کہا کہ وہ بد مزہ ہوتی ہے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کی بات کو روکیا جائے۔ اس سے توبیخ کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اور مریض ہرگز اس کی بات نہ مانے گا۔ بلکہ اپنی بات پر اڑ جائے گا۔ ایک صورت ہے کہ طبیب یوں کہے کہ ہاں واقعی ہوتی تو ہے بد مزہ ہی مگر اس واسطے مریض کے لئے تجویز کی جاتی ہے جو تھوڑی مقدار میں بقدر ضرورت کھائی جائے۔ کیونکہ اس کا معدہ قوی غذا کا اور زیادہ غذا کا متحمل نہیں ہوتا۔ اچھا تم اس کے ساتھ تھوڑا سا شور بہ یا چینی پودینہ کی یا وہی ملائیں کچھ تھوڑا بہت مزہ آجائے گا۔ اس طرز گفتگو سے مریض کو وحشت نہ ہوگی۔ بلکہ وہ خوشی سے طبیب کی بات مان لے گا۔

ای طرح یہاں کہتے ہیں کہ نماز واقع میں تو گراں نہیں۔ آخر بتاؤ اس میں کون سے پھر ڈھونے پڑتے ہیں۔ دو چار منٹ کی بات ہے۔ دو چار متعدد ارکان ہیں۔ اس میں گرانی کیا ہے۔ مگر جو لوگ بالکل آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ جانوروں کی طرف ان کو نماز کی بعض پابندیاں گراں گزرتی ہیں اور یہ گرانی نماز میں نہیں بلکہ انکی طبیعت اور مزاج کی خرابی سے۔ جیسے سانپ کے کائے کوئی ممکن کی تکمیل..... معلوم نہیں ہوتی ایسے ہی ان لوگوں کو اس کے عکس نماز کی شیریں محسوس نہیں ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ ان سے بحث نہیں کرتے۔ بلکہ ان کی بات کو مان کر نماز کی گرانی کو ان کے دل پر سے رفع کرنا چاہتے ہیں۔

فرماتے ہیں! واقعی نماز بہت گراں ہے بس جان اللہ! کیسا شفقت کا عنوان اختیار فرمایا کہ گرانی کو تسلیم کر لیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ گرخا شعنیں پر نماز گراں نہیں ہے۔ پس تم خشوع حاصل کرو۔ تم پر بھی نماز گراں نہ ہے گی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ نماز کی گرانی کے اسباب میں غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس میں کچھ قیود جسمانی اور نفسانی ہیں اس لئے نماز گراں ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمارا نفس میدان خیالات میں گشت کا عادی ہے۔ اسی لئے ارکان کے ساتھ بھی خیالات گشت کرتے رہتے ہیں۔ اس حالت میں ہماری نماز کو کبھری گھڑی کی مثال ہے کہ کوک بھرنے کے بعد خود بخود چلتی رہتی ہے کہ ہم کو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہورہا ہے اور یہ نماز کا نقش ایک حرکت ہے جس کا علاج سکون قلب کا نام ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ سکون جسم بھی حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ سکون جسم کو سکون قلب میں داخل ہے پس خشوع قلب سے جسم بھی مقید و ساکن ہو جائے گا تو خشوع سے نماز آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو بھی مشکل ہو تو حق تعالیٰ اس کو بھی آسان فرماتے ہیں۔

**الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**

”وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ رب کی ملاقات کرنیوالے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کہ تم لقاء رب ورجوع الی اللہ کا استحضار کرو۔ اور یہ کچھ مشکل نہیں کیونکہ خیالات کا ہے۔ اس روکنا تو مشکل ہے۔ مگر ایک خیال کا استحضار تو مشکل نہیں اگر وہ دل سے ہٹ جائے تو پھر ۔ آؤ۔ اس طریقہ سے خشوع قلب جلد حاصل ہو جائے گا۔

### خشوع کی حقیقت

کمر لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ عدم حضور وساوس کو خشوع سمجھتے ہیں حالانکہ خشوع کی حقیقت عدم حضار وساوس ہے کہ قصد اخیال نہ لایا جائے اور جو بلا قصد آؤے وہ مضر نہیں نہ خشوع کے منافی ہے بلکہ اس کو دفع کرو اس کی طرف التفات ہی نہ کرو۔

صوفیا نے لکھا ہے کہ وساوس کی مثال ہوا کی طرح ہے کہ جو شخص برتن میں سے تنہا ہوانکالا ناچا ہے ۔ عاجز ہو جائے گا کیونکہ لا محال ہے ہاں! برتن میں پانی بھر دو۔ جب بھر جائے گا پھر ہوا کا نام بھی نہ رہے گا۔ پس تم اپنے قلب میں لقاء رب ورجوع الی اللہ کا خیال اچھی طرح بھرلو پھر وساوس کا نام بھی نہ رہے گا۔

### آئینہ جمال حق

اگر اس پر بھی وساوس آؤ تو بے فکر ہو کیونکہ تم نے اپنا کام کر لیا۔ اسی کے تم مکلف تھے۔ اب تم شاہراہ عام پر پھر اکھڑا کرنے والے کون ہو۔ بلکہ اب دوسرے مراقبہ سے کام لو۔ جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی حالت میں تجویز فرمایا ہے جس سے یہ وساوس بھی آئینہ جمال حق بن جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ یوں سوچ کے اللہ اکبر! خدا نے مجے دل کو بھی کیسا دریا بنا دیا ہے جس میں وساوس کی بے شمار موجیں اٹھ رہی ہیں جن کی کوئی انہماء نہیں ہے غرض! تم وساوس کو مطالعہ قدرت حق کا وسیلہ بنالو۔

تو دیکھئے قرآن کی کیسی پاکیزہ نعم ہے کہ اول تو تمام طاعات کے آسان کرنے کا طریقہ نماز تجویز کی۔ پھر نماز کی تسہیل کے لفشوں کی تعلیم فرمائی پھر خشوع کی تسہیل کے لے مراقبہ لقاء تجویز فرمایا۔ اور یہ مراقبہ جس میں ظن ہونے کی تعلیم فرمائی ہے ایسا عجیب مراقبہ ہے کہ تم اس خدا کے قلب کو یکسو کرنے والا ہے۔ اسکے لئے تسہیل کی کوئی ضرورت نہیں یہ تو خود ہی سہل ہے کیونکہ محبوب کے تصور کا مراد ہے اور تصور محبوب اپنی ذات سے لذیذ ہے وہ کس طریقہ

تیسیر کا تھا ج نہیں۔

اُمر کوئی یہ کہے کہ نعمۃ اللہ ہم کو تو خدا تعالیٰ سے محبت نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ تم غلط کہتے ہو۔ کیونکہ ہر مسلمان خدا تعالیٰ سے محبت ہے بلکہ کفار کو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اسی لئے تو کفار کو اللہ تعالیٰ نے یہ دھمکی دی ہے۔

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَنِدِ لَمْخُجُوبُونَ

”کہ کفار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ (کے دیدار) سے محبوب رہیں گے۔“

الرمان کو محبت نہ ہوتی تو یہ دھمکی نہ دی جاتی۔ کیونکہ یہ دھمکی محبت ہی کے دل پر اثر کر سکتی ہے۔ غیر محبت پر اس سے اثر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جس کو غیر حق سے بھی بہت ہے اس کو بھی خدا ہی سے محبت کیونکہ تمام مخلوق مظہر بجمال الہی ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کو گنبد کے کلس پر آفتاب کی شعاع پڑنے سے گندہ بھلام معلوم ہوا اور بار بار اس کی چمک کو دیکھنے لگے۔ تو حقیقت میں اس گنبد سے محبت نہیں بلکہ آفتاب سے محبت ہے۔ گوبلظا ہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گنبد پر عاشق ہے۔ اسی طرح یہاں سمجھو کر کسی کو کسی مخلوق کے ساتھ کسی کمال یا جمال کی وجہ سے محبت ہے حقیقت میں اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کیونکہ مخلوق میں جو کچھ جمال و کمال ہے وہ جمال حق کا آئینہ ہے اسی کو فرماتے ہیں:

حسن خویش از روئے خوبیاں آشکارا کروہ پس پچشم عاشقاں خودرا تماشا کردا  
”اپنے حسن کو تو نے خوب رو لوگوں کے پیہر سے طاہر کیا۔ اور پھر عاشقوں کی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔“

## وحدت الوجود

وحدت الوجود یہی ہے کہ اس کی حقیقت صرف یہی ہے کہ تمام مخلوقات آئینہ جمال ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ ہر مخلوق عین حق ہے۔ یہ تو کفر ہے اور کثرت ہے وحدت نہیں۔ بھلا کثرت میں بھی کہیں وحدت ہوتی ہے۔ افسوس اجہلاء صوفیاء نے وحدت الوجود میں غلوکر کے کفار بھی مسلمانوں پر ہنسنے کا موقع دیدیا۔ چنانچہ ایک عیسائی کا قول ہے کہ مسلمان ہم کو تمن خدا نئے کی وجہ سے کافر کہتے ہیں۔ مگر صوفی کو کافرنہیں کہتے جو ہر چیز کو خدا کہتا ہے۔ واقعی صحیح اعیاض ہے اگر وحدت الوجود کا یہی معنی ہیں کہ ہر شے عین خدا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم نبہا السلام کا خدا ہونا بھی لازم آئے گا۔ پھر ان کی الوہیت کے قائل کو کافر کس لئے کہا گیا ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبْنَى عَزِيزٍ

”ان لوگوں نے کفر کیا۔ جنہوں نے کہا تھا بن مریم خدا ہے۔“

پس وحدت الوجود کا مطلب عرف یہی ہے کہ ہر چیز مظہر جمال حق ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مخلوق کے ناقص خالق کی طرف راجع ہوں یا مخلوق عین خالق ہو جائے۔

دیکھو آفتاب دیوار پر بھی طلوع کرتا ہے اور گھوڑے پر بھی اور اس وقت سب مظہر نور آفتاب ہوتے ہیں۔ مگر اس سے دیوار کا آفتاب ہونا لازم نہیں آتا نہ گھوڑے کے ناپا کی آفتاب تک پہنچتی ہے۔ پس جس شخص کو غیر حق سے محبت ہے اس کو یہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی سے محبت ہے مگر اس کو خبر نہیں اس کو چاہئے کہ اس وقت یہ سوچے:

چہ باشد آس نگار خود کو بند و ایس نگارہ

”وَهُوَ خالقٌ كِيْسَا كِيْمَه بِالْجَمَالِ وَبِالْكَامَلِ ہو گا جس نے ایسی ایسی صورتیں بنائی ہیں۔“

اس تصور سے حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہو گی پھر یہ سوچے کہ

عاشقی با مرد گاں پائندہ نیست زانکہ مردہ سوئے پا آئندہ نیست

عشق با مردہ نباشد پائیدار عشق رابا تمی و با قیوم دار

یعنی خدا کے سواب فنا ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے بقاء ہے پس باقی کے ہوئے ہوئے فانی سے محبت کرنا حماقت ہے۔ اب غیر کی محبت بالکل جاتی رہے گی۔ اور محبت حق غالب ہو گی۔

جب محبت حق غالب ہو گی۔ تو اب اس کے لقاء کا تصور کرو کہ ایک دن تم کو اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ یہ خیال تمام خیالات کو قطع کر دے گا۔ جب خیالات قطع ہو گئے یکسوئی اور خشوع حاصل ہو گیا۔ یکسوئی سے نماز آسان ہو گئی۔ جب نماز آسان ہو گئی تو اس کے ذریعہ سے تمام طاعات ہل ہو جائیں گی۔

سبحان اللہ! کیسا عجیب علاج اور کیسی غریب ترتیب ہے۔ اب اگر کوئی اشکال فلسفی باقی ہو تو بسم اللہ پیش کیا جاوے میں سننے کو تیار ہوں۔ مگر مجھے امید ہے کہ کوئی اشکال باقی نہ رہا ہو گا۔ اور اگر کسی کے دل میں کوئی شبہ ہو تو وہ یہ شدید سمجھے کہ علماء کے پاس اس کا جواب نہیں۔ میں بقیہ کہتا ہوں کہ ایک طالب علم جس نے درسیات سمجھ کر پڑھی ہوں تمام دنیا کے حکماء کو جواب دے سکتا ہے یہ تو پہلی آیت کے متعلق بیان تھا۔

## معیت الہی

دوسری آیت میں اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حملہ ارشاد فرمایا ہے جو پہلی آیت میں نہیں یعنی ان اللہ مع الصبرین زیادہ کیا گیا۔ اس حملہ کی مناسبت پہلی آیت کے مضمون سے یہ ہے کہ جیسے وہاں استَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے بعد نماز کی سہولت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح چونکہ صبر تھی

کسی قدر دشوار ہے کیونکہ نفس کو مکروہات پر مقید و محبوس کرنا آسان نہیں اس لئے ارشاد فرماتے ہیں:  
**إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ** "کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں"

اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ معیت سے اعانت و مدد کی معیت مراد ہو  
 یعنی تم صبر کر کے دیکھو دشوار نہ رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہو گی اور ان کی امداد کے بعد  
 ولی دشوار نہیں دوسرے یہ کہ معیت سے حالیہ مراد ہو پس مطلب یہ ہو گا کہ صبر کی دشواری کو اس مراقبہ  
 سے آسان کرو کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں۔ اس مراقبہ کے بعد صبر میں دشواری شد رہے گی۔ کیونکہ  
 جب عاشق کو یہ معلوم ہو کہ محبوب میرے ساتھ ہے میری تکلیف دیکھ رہا ہے تو اس کو کلفت کا احساس نہیں  
 ہوتا اس صورت میں یہ مراقبہ ایسا ہے جیسا دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے۔

### وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بَاَغَيْتَنَا

"کہ اپنے رب کے حکم پر جھے رہئے کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔"

یہ عجیب مراقبہ ہے اور اس میں بہت لذت ہے۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب ہم انکو نہیں دیکھتے تو  
 کیا لذت ہو گی۔ تو یہ خیال غلط ہے کیونکہ جو لوگ کبھی عاشق ہوئے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اگر  
 عاشق کو محبوب دیکھ رہا ہو اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں اس کی طرف دیکھوں گا تو وہ مجھے نہ دیکھے  
 گا۔ تو اس صورت میں عاشق کو زیادہ لذت آتی ہے۔ اسلئے یہ مراقبہ نہایت لذیر ہے پھر اسکے بعد کسی  
 کلفت سے اسکو تکلیف نہ ہو گی۔ بلکہ اس میں لذت ہی آئے گی۔ اور زبان حال و قال سے یوں کہہ گا  
 بجم عشق تو ام می کشنہ و غوغائیست تو نیز برس رام آ کہ خوش تماشا نیست

"تیرے عشق کے جرم میں مجھے قتل کر دے ہیں تو بھی سر رام آ کے تماشا دیکھ کر کتنا اچھا تماشا ہے"  
 اس تقریر سے آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو مراقبات کی تعلیم فرماتے ہیں اور یہ تعلیم صوفیاء کی  
 من گھڑت نہیں۔ تمام قرآن و حدیث تصوف سے بھرا ہوا ہے۔ اور وہ تصوف کیا جو قرآن و حدیث میں نہ ہو۔  
 بس! اب میں ختم کرتا ہوں بحمد اللہ بقدر ضرورت دونوں آئتوں کا بیان ہو چکا ہے۔ اب  
 دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جل و علا، ہم کو فہم سلیم اور توفیق عطا فرمائیں۔

وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ  
 وَعَلَى أَلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ.

وَاحْرَدْ عَوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

## السبر بالصبر

یہ وعظ ۲ محرم الحرام ۱۳۷۸ھ بروز سے شنبہ تھانہ بھون میں  
بر مکان غشی خلیل الرحمن صاحب کری پر بیٹھ کر بیان  
فرمایا جو دو گھنٹے میں ختم ہوا۔ مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی  
نے قلمبند فرمایا حاضرین کی تعداد پچاس کے قریب تھی۔

## خطبہ ما ثورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكّلُ عَلَيْهِ  
وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا  
مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيٌ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، لَا  
شَرِيكَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدَ عَبْدَهُ، وَرَسُولَهُ، وَصَلَّى  
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَغَلَى إِلٰهُ وَأَضْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.  
وَلِيَسْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْصَّسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ طَوَّالِهُ عَلَيْهِمْ

**بدایت الصُّدُورِ ۵** (آل عمران آیت نمبر ۱۵۲)

(ترجمہ: اور جو کچھ ہوا اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کرے اور  
تاکہ تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں)

### نعمت و مصیبۃ

یہ ایک بھی آیت کا مکمل ہے۔ اس میں حق تعالیٰ نے مصائب کی حکمتیں بیان فرمائی  
ہیں کیونکہ حالات و قسم کے ہیں نعمت اور مصیبۃ اور ہر ایک میں ایک حکمت ہے مگر نعمتوں کی  
حکمتوں کی تو طبیعت کو تلاش نہیں ہوتی۔ بلکہ بلا علم حکمت بھی ان کی مصالح ہو جاتی ہیں کیونکہ نعمت  
سے مسرت ہوتی ہے اور مسرت کی وجہ سے منعم کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ بخلاف مصیبۃ کے کہ  
اس میں نا گواری ہوتی ہے۔ وہاں علم حکمت کی ضرورت ہے۔

غارفین کو اسی واسطے مصیبت کا احساس تو ہوتا ہے بلکہ بوجہ اور اک لطیف ہونے کے دوسروں سے زیادہ احساس ہوتا ہے۔ مگر ایک چیزان میں ایسی ہے جس سے نہ ان کی خوشی حد سے بڑھتی ہے نہ غم و رنج۔ اور دونوں کا حد سے بڑھنا مذموم ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

**إِنَّ الْأَنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا** "انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے" **إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا**

جب اسکو تکلیف پہنچتی ہے تو جزع فزع کرنے لگتا ہے اور جب اسکو فارغ البالی ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنین نہ حالت شر میں حد سے بڑھتے ہیں نہ حالت خیر میں یعنی مومنین کا ملین۔

کیونکہ ناصح حد سے نکل جاتا ہے دوسرا جگہ ارشاد ہے **لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِجِينَ** یہاں بھی اسی فرح سے ممانعت ہے جو حد سے نکل جائے ورنہ مطلق فرح تو مطلوب ہے چنانچہ ارشاد ہے

**فُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيَفْرَحُوا**

"کہہ دو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہی خوش ہوں۔"

معلوم ہوا کہ فضل خداوندی سے خوش ہونا مطلوب ہے مگر اہل دنیا کی نظر چونکہ نعمت ہی پر ہوتی ہے منعم پر پوری طرح نظر نہیں ہوتی (گوا اعتقد انظر ہے مگر استھانہیں) اس لئے وہ خوشی میں حد سے نکل جاتے ہیں اور عارف کی نظر منعم پر اولاً ہوتی ہے اس لئے لرزائی رسالہ رہتا ہے کہ شاید سلب ہو جائے اسی لئے اس کی خوشی حد سے نہیں بڑھتی اور رنج و غم بھی حد سے نہیں بڑھتا کیونکہ میں اس میں بھی اس کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہے اور ان حکمتوں پر بھی جو خدا نے مصادب میں رکھی ہیں۔ مگر اس کو مصیبت اور تکلیف کا احساس پورا ہوتا ہے کیونکہ تعلق مع اللہ کی وجہ سے اس کا اور اک لطیف ہوتا ہے۔

اسی لئے حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہر چیز کامل ہوتی ہے۔ قوی ظاہرہ بھی اور قوی باطنہ بھی۔

گوکی عارض کی وجہ سے ضعف ہو جائے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے غم میں رونے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہ کمزور ہو گئی تھی اور یہ بھی ممکن ہے کہ بڑھاپے میں ضعف تقاضت ہو جائے۔ اور اسی لئے عارف کی خوشی بھی پچی خوشی ہوتی ہے جیسے بچوں کی خوشی ہوتی ہے بخلاف اہل دنیا کے کہ ان کی خوشی بچی نہیں ہوتی۔ کیونکہ ان کے دل کو علاقہ دنیا کی وجہ سے پورا چین حاصل نہیں اسی لئے خوشی کا بھی پورا احساس نہیں ہوتا اور جب مصیبت آتی ہے تو اہل دنیا کا دل بیٹھ جاتا ہے۔

**وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَنُوْنُ فَنُوْطٌ** "اگر ان کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو نامیدہ ہو جاتے ہیں۔"

اور عارفین کا دل نہیں بیٹھتا۔ وہ کسی مصیبت میں مایوس نہیں ہوتے کیونکہ ان کی نظر مصائب کی حکتوں پر ہے۔ پس مصائب کی حکمت بیان کرنے میں یہ حکمت ہے کہ غم ہلکا ہو جاتا ہے جیسے کو کیس لگانے سے آپریشن کی تکلیف کم ہوتی ہے اور بعض کوکلور افارم سنگھادیتے ہیں ان کو تکلیف کا کچھ بھی احساس نہیں ہوتا یہ متوسطین کی مثال ہے اور کوئیں لگانے کی مثال کالمین کی ہے۔ اور بعض دفعہ نہ کوئیں لگائی جاتی ہے نہ کلور افارم سنگھایا جاتا ہے۔ بلکہ ڈاکٹر مریض کے دل پر ایسے خیالات جمادیت ہے۔ جن سے تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے۔

اسی طرح حق تعالیٰ کے معاملات اپنے بندوں کے ساتھ ہیں کہ وہ بھی مصائب کا آثر مختلف طریق سے خفیف کر دیتے ہیں۔ مصائب میں حکمتیں متعدد ہیں اس لئے حق تعالیٰ نے کوئی حکمت کی جگہ بیان فرمائی ہے اور کوئی حکمت دوسرا جگہ۔

بس! آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں مصائب کی حکتوں کا بیان ہو گا۔ اور آج کے بیان کو پہلے بیان کا تتمہ سمجھنا چاہئے کیونکہ اس میں بھی مصائب کی تخفیف کا ایک علاج مذکور ہوا ہے آج دوسرا علاج مذکور ہو گا۔

### علم انبیاء

اس بیان کے دائیٰ قوی تھے جیسا اس کے مطالعہ سے معلوم ہو گا۔ یعنی واقعات موت اس کے محرك تھے اس لئے وہاں علاج بھی قوی تھا۔ اور یہاں واقعات اس سے ہلکے ہیں اس لئے آج علاج بھی ہلکا بتلایا جاوے گا۔ نیز تتمہ اور ذی تتمہ میں یہ بھی مناسبت ہے کہ پہلے بیان میں جو آیت تلاوت کی گئی تھی وہ غزوہ بدر کے متعلق تھی۔

(وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِينِكُمْ مِنَ الْأَمْرَى (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو آپؐ کے ہاتھ میں قیدی ہیں فرمادیجئے) ) الآیہ و کانت اعظم الغزوات وارفعها ”اور یہ غزوہ بدر بہت عظیم المرتب تھا“

اور آج کی آیت غزوہ احمد کے متعلق ہے۔ جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احمد میں مسلمانوں کی صفت بندی کی گئی تو ایک گھانی کا جو مسلمانوں کی پشت پڑھی اور وہاں سے دشمن کے حملہ کا خطرہ تھا۔ یہ انتظام فرمایا کہ ایک دستہ مختصر جماعت کا اس کی حفاظت کے لئے مقرر فرمادیا کہ تم یہاں سے بدلوں میری اجازت کے نہ ہتنا۔ گوہمارے اور کچھ ہی گزر جائے انبیاء علیہم

السلام ہر قوت میں کامل ہوتے ہیں۔ انتظام میں بھی کامل ہوتے ہیں۔ انبیاء بھو لانہیں ہوتے۔ ان میں ضروری انتظام سب کامل ہوتا ہے ضروری کی قیدا سے لئے بڑھائی گئی تاکہ واقعہ تایبر نخل سے کسی کو شبہ نہ ہوتا یہ کے زکھجور کے پھول مادہ کے اوپر اچھا لے جاتے ہیں کہ وہ اس کے پتوں سے مس کرتے ہوئے نیچے گر جاتے ہیں۔ اس تدیر کی خاصیت یہ ہے کہ مادہ کو پھل بہت آتا ہے (کھجور میں بھی نزو مادہ ہوتا ہے۔ نر کی پیچان یہ ہے کہ اس کو پھل نہیں آتا صرف پھول آتا ہے)

ایک عرب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے عربی میں ایک خطبہ بھی سنایا جو تایبر کے وقت اہل عرب پڑھا کرتے ہیں جیسے ہمارے یہاں گڑیوں کے بیاہ میں ایک مختصر خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہیں وہاں بھی بطور لہو و لعب کے تایبر کے وقت ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ کو تایبر کا علم ہوا تو آپ کوشہ ہوا کہ یہ کوئی ثُنکانہ ہو۔ مگر یقین بھی نہ تھا۔ اس لئے آپ نے نرمی کے ساتھ اس پر انکار فرمایا:

لَتَكُمْ لَوْلَمْ تَفْعِلُو كَانَ خَيْرًا (رواه مسلم) (المعجم الكبير للطبراني: ۳۳۳:۳)  
کہ اگر تم یہ کام نہ کرو تو غالباً مناسب ہو۔

صحابہ تو جان شمار تھے آج کل کی طرح معارضہ کرنے والے نہ تھے۔ ان کی جان غاری کی یہ حالت تھی کہ ایک صحابی نے قبہ دار مکان بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے مکان پر گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا کس کا مکان ہے؟ معلوم ہوا کہ فلاں صحابی کا ہے۔ آپ کو ان کا یہ فعل ناپسند ہوا کیونکہ بلا ضرورت بلندی عمارات قوم عاد و ثمود کا خاصہ ہے۔

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجَبَالِ بُيُوتًا أَهِمَّنِينَ

اس کے بعد وہی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے کچھ بے رنجی ظاہر فرمائی۔ وہ بے تاب ہو گئے اور صحابہ سے اس کا سبب پوچھا۔ سب نے اس سے علمی ظاہر کی اور یہ کہا کہ اتنی بات تو ہوئی کہ حضور تمہارے قبہ دار مکان کو ناپسند فرمایا۔ اتنا سنتے ہی وہ اپنے مکان پر آئے اور قبہ کو گرا دیا۔ پھر کمال یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا گزرو بارہ وہاں کو ہوا اور آپ نے قبہ نہ دیکھا تو دریافت فرمایا کہ یہاں ایک قبہ تھا وہ کیا ہوا۔ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا۔ یہ خبر سن کر مالک قبہ نے اس کو گردادیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا جس کا حاصل یہ تھا

”کہ دنیا میں اسکی پختگی کی کیا ضرورت ہے بس گزر کے لئے تھوڑی سی عمارت کافی ہے۔“  
تو صحابہ ایسے جان شار تھے۔ انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ترک تا بیر کی طرف دیکھا۔ اسی وقت سب نے تا بیر کو چھوڑ دیا۔ جس کا یہ اثر ہوا کہ اس سال پھل کم آیا۔ تب حضورؐ کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی ثوڑا نہیں۔ بلکہ اس فعل میں طبعی خاصیت ہے اور یہ طبعی تدبیر ہے۔ اس لئے آئندہ کے لئے آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا۔ انتم اعلم با مور دنیا کم

”کہ اپنے دنیوی کاموں کو تم ہی زیادہ جانتے ہو۔“ (الصحیح لمسلم: الفضائل: ۱۳۱)  
اسی سے تو تعلیم یافت جماعت نے یہ مضمون نکالا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دنیوی امور میں بالکل دخل نہیں دیا۔ بلکہ ان کو ہماری رائے پر چھوڑ دیا ہے کہ جو طریقہ مناسب سمجھیں اختیار کریں۔ یہ مولویوں کی..... زیادتی ہے کہ دنیوی معاملات میں بھی دخل دیتے ہیں کہ فلاں تجارت حرام ہے فلاں جائز ہے اور اس طرح بیع کرنا جائز نہیں۔ اس طرح اجارہ کرتا فاسد ہے وغیرہ وغیرہ۔

میں کہتا ہوں کہ اگر تم علم با مور دنیا کم کا یہ مطلب ہے تو کیا قرآن کی ان آیتوں کو جن میں رب اوسو اکل الاموال بالباطل اور رشوت وغیرہ کو حرام کیا گیا ہے۔ قرآن سے نکال دو گے؟ اور وہ ہزار ہادیث میں بھی جن میں بیوں واجارات و نکاح و طلاق وہبہ و میراث کے احکام مذکور ہیں حدیث کی کتابوں سے نکال باہر کرو گے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یہ دعویٰ کیونکہ صحیح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیوی معاملات میں دخل نہیں دیا۔

معلوم ہوا کہ تم نے اس حدیث کا مطلب غلط سمجھا۔ بلکہ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ امور دنیا جو تجربہ کے متعلق ہیں ان کو تم زیادہ جانتے ہو۔ باقی ان امور کے متعلق جو احکام میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔

مگر چونکہ واقعہ تا بیر سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ نبی کیسے ہیں جن کو حقائق اشیاء کا صحیح علم حاصل نہیں۔ اس شبہ کو رفع کرنے کے لئے حضورؐ نے یہ فرمادیا انتم اعلم با مور دنیا کم جس کا حاصل یہ ہے کہ تجربیات کا جاننا نبی کے لئے ضروری نہیں بلکہ ضروری حقائق کا علم ضروری ہے۔ تو جن انبیاء کو سلطنت عطا ہوئی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام وداو و علیہ السلام اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو انتظام سلطنت و تدبیر حرب و صلح بھی کامل عطا ہوئی ہے۔ ہمارے حضور سلطان بھی تھے۔ جیسے پہلے بھی بعض انبیاء سلطان ہوئے ہیں۔ البتہ عسکری علیہ السلام ظاہری سلطان نہ تھے۔ مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہو کروہ بھی سلطان ہوں گے۔

## کثرت رائے کی حقیقت

غرض! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقشہ جنگ کا اس طرح انتظام فرمایا کہ اس گھاٹی پر ایک دستے فوج مقرر فرمادیا کہ اس طرف سے کفار نہ آسکیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو کفار پر حملہ کا حکم دیا تو تھوڑی ہی دیر میں کفار کو شکست ہوئی (اور ان کا جہنڈا از میں پر گر پڑا۔ سات دفعہ اس کو اٹھایا گیا۔ مگر ہر دفعہ سرگنوں ہوا اور کفار بری طرح بھاگے) اب اس دستے فوج میں جو گھاٹی پر متعین تھا، اختلاف ہوا۔ اکثر کی رائے یہ ہوئی کہ اب ہم کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بھائیوں کو پورا غلبہ حاصل ہو چکا ہے اور وہ کفار کے تعاقب میں جا رہے ہیں۔ ہم کو بھی اب جہاد و غیمت میں حصہ لینا چاہئے۔ ان کے افسر نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہاں سے بدوس اجازت کے بہنے سے منع فرمادیا ہے تم کو یہاں سے نہ ہٹنا چاہئے۔ مگر بجز دس پانچ آدمیوں کے کسی نے افسر کی رائے نہ مانی۔ اور زیادہ تعداد وہاں سے ہٹ کر قتال و غیمت میں مشغول ہو گئی۔ یہاں سے آپ کو کثرت رائے کی حقیقت واضح ہو گئی کہ کثرت رائے کا ہمیشہ حق پر ہونا ضروری نہیں۔

## حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی قابلیت

یہاں اتنی بات سمجھ لینا چاہئے کہ ان صحابہؓ کا یہ خیال تونہ تھا کہ اگر ہم غیمت جمع نہ کریں گے تو غیمت سے ہم کو حصہ نہ ملے گا کیونکہ شرکت غیمت کے لئے شرکت جنگ لازم نہیں۔ غیمت میں محافظان فوج بھی شریک کئے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے۔ بلکہ ان حضرات کو یہ خیال ہوا کہ بدوس شرکت جنگ کے شاید ہم کو جہاد کا ثواب نہ ملے یا کم ملے۔ اس خیال سے وہ گھاٹی چھوڑ کر تعاقب میں اور مال غیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔

اس وقت تک حضرت خالد بن ولیدؓ مسلمان نہ ہوئے تھے بلکہ کفار کے ساتھ تھے اور جنگ آزمودہ ہمیشہ سے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی ان کے جاسوس بہت چھٹے ہوئے تھے (اور یہ ان کی جنگی قابلیت کی دلیل ہے کہ عین معمر کہ کے وقت بھی جاسوسی ملکہ کو اپنے فرائض انجام دینے پر مامور کر رکھا تھا) عین اس وقت جب کہ کفار بھاگے جا رہے تھے اور مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ حضرت خالدؓ جاسوس نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کے عقب کی گھاٹی خالی ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہیں حضرت خالدؓ نے اپنے کافی تعداد سواروں کو ساتھ لے کر گھاٹی کا رخ کیا اور دس پانچ

صحابی جو وہاں جئے ہوئے تھے ان کو تھیغ کر کے مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حالت دیکھ کر کفار کا باقی ماندہ لشکر بھی بھاگتے رک گیا اور اس نے مذکور مسلمانوں پر حملہ کیا۔

اجتہادی غلطی

اب سلمان دو طرف سے گھر گئے اور سخت مصیبت کا سامنا ہوا۔ اس حالت میں شیطان لعین نے پکار دیا الا ان محمدًا قد قتل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اس آواز کا صحابہؓ کے کانوں میں پڑتا تھا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے۔ کیونکہ قدم کا جمنا تو دل کے تالع ہے جب دل ہاتھ سے نکل گیا تو قدم کیونکر جمیں۔

پس صحابہ کے قدم اکھڑنے پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر ان کے قدم نہ اکھڑتے تو بعض لے کوئی شے ہو سکتا تھا کہ ان کے دل میں محبت نہ تھی رہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں عتاب فرمایا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھاگنے اور قدم اکھڑنے پر عتاب نہیں فرمایا۔ بلکہ معصیت رسول پر عتاب فرمایا ہے جو کہ فعل اختیاری تھا۔ اور قدم کا اکھڑ جانا مغلوب الحال لوگوں کے لئے غیر اختیاری تھا اور کو اس معصیت میں بھی اجتہادی غلطی تھی (کہ گھانی والے صحابہ نے ٹوپ کا مدار مبادرت عمل کو سمجھا حالانکہ اس کا مدار محض اطاعت پر ہے خواہ بصورت عمل ہو یا بصورت ترک عمل ۱۲) مگر اجتہادی غلطی ریبھی عتاب لطیف ہو سکتا ہے مگر عقاب نہیں ہوتا۔

اجتہادی غلطی پر عتاب کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ تم نے پوری طرح سمجھ سے کیوں کام نہیں لیا۔ جب گھٹائی پر سے ہٹنے کا یہ نتیجہ سامنے آیا تو صحابہ خود شرمند ہوئے کہ ہم سے بہت بے جا حرکت ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے رنج پہنچا تو زیادہ شرمندگی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے عتاب سے اور بھی..... شرمندگی بڑھ گئی۔

حکمت ری

تو اے اللہ تعالیٰ کو سہ بھی گوارا نہ ہوا کہ ان کی شرمندگی حد سے بڑھے۔ اس لئے غم

١ بعض کی قید اس لئے لگائی کہ بعض کو یہ شہر اس لئے نہ ہوتا کہ محبوب کے قتل کی خبر سن کر یہ ضرور نہیں کہ محبت عاشق بھاگ ہی جائے تو محبت کا مشہوت ہو۔ بلکہ اگر وہ دشمن سے انتقام محبوب کے لئے پہلے سے زیادہ غیظ و غضب کے ساتھ مقابلہ کرے اور قاتلین کو فنا کر دے یا خود فنا ہو جائے تو زیادہ دلیل محبت ہے کما فعله الدین ثبتوا ولم يفروا وهم الثان عشر رجلاً ۱۲ اظہر۔ ۲ يرد عليه قوله تعالى وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. وفيه الانكار على الفرار بسماع خبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما ظاهر ۱۲ اظہر. والجواب عنوان المراد بالانقلاب على الاعداب هو ترك الاحكام۔ ۱۲

کو ہلکا کرنے کے لئے اس واقعہ کی بعض حکمتیں بیان فرماتے ہیں کہ تمہارا اس میں بھلا ہو گیا۔ اسلئے غم نہ کرو۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ارشاد ہے کہ آپ بھی انکی خطا معاف فرمائیں اور ہم سے بھی ان کے لئے معافی کی..... درخواست کریں۔

**وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ أَوْ رَأَنَ سَاصَ خَاصَّ بَاتَوْنَ مِنْ مَشْوَرَهُ كَرْتَهُ رَهَا كَبِحَهُ۔**

اور معالات میں ان سے مشورہ بھی کر لیا کریں تاکہ ان کو بھی اطمینان ہو جائے کہ آپ ان کی طرف سے دل صاف کر لیا۔ اس میں محض حضورؐ کی عنایات کو صحابہ کے حال پر بڑھانا مقصود ہے۔ یہ مقصود نہیں کہ آپ ان پر شخصی حکومت نہ کریں بلکہ جمہوری حکومت کریں۔ جیسا بعض عقل مندوں نے سمجھا ہے اگر ایسا ہوتا تو اس کے بعد فَإِذَا عَزَّمْتَ فَوَكُلْ عَلَى اللَّهِ (پ ۲) پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو خدا تعالیٰ پر اعتماد کیجئے،

میں عزم کو تہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جاتا بلکہ فاذا عزمتم يا اذا عزم اکثرهم، ارشاد ہوتا اذا عزمت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ عزم میں صحابہ کے تابع نہ تھے۔

بہر حال حق تعالیٰ نے صحابہ کے غم کو جس طرح ہلکا کیا ہے۔ اس کی وہ حالت ہے جیسے بلا تشبیہ مال بآپ بچہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ بچے کو حد سے زیادہ رنج دنیا نہیں چاہتے۔ کبھی سزادے کر جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو زیادہ تکلیف یا بہت رنج ہوا تو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی شان یہ ہے کہ

دروازِ یارست درماں نیز ہم دل فدائے اوشد و جان نیز ہم

”در دبھی دوست کا دیا ہوا ہے اور دوا بھی۔ دل بھی اس پر فدا ہے اور جان بھی،“

چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔

**وَلَيَسْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُلُوْرِكُمْ** ”تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کرے“

ای فعل ما فعل من واقعات جمۃ لمصالح کثیرة منها ان یبتلى الله ما فی صدورکم یعنی جو کچھ یہ واقعات ہوئے ہیں۔ ان میں بہت سی حکمتیں ہیں مجملہ ان کے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے تمہارے دل کی بات کا امتحان مقصود تھا۔ دل کی بات سے مراد ایمان ہے کہ ان واقعات میں تمہارے ایمان کی آزمائش تھی کہ دیکھیں مصیبت کے وقت بھی ہم سے تعلق رکھتے ہو یا نہیں کیونکہ..... احسان کے وقت تو ہر شخص آقا سے راضی رہتا ہے۔ ہاں! جب وہ تھوا،

بند کر دے اس وقت بھی علاقہ رہے تو کہا جائے گا کہ واقعی اس کو تعلق ہے ورنہ عام حالت تو یہ ہے جو حق تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمائی ہے۔

فَإِمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا أَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَةً فَيَقُولُ رَبِّيْ أَكْرَمَنِ وَأَمَّا  
إِذَا مَا أَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيْ أَهَانَنِ

”سوآدمی کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے یعنی اس کو ظاہر انعام و اکرام دیتا ہے تو وہ بطور فخر کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی اور جب اس کو دوسری طرح آزماتا ہے یعنی اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ شکایتا کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی۔“

کہ انسان پر جب حق تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں میرے رب نے میری قدر کی۔ اور جب کوئی آزمائش واقعہ لا جاتا ہے اور رزق کی تنگی کر دی جاتی ہے تو یوں کہتے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بے قدر کر دیا۔ اور یہیں سوچتا کہ شاید میری آزمائش مطلوب ہو۔

نیز یہیں دیکھتا شاید میرے کسی عمل کی سزا دی گئی ہو۔ بلکہ حالت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت لوگ یوں کہتے ہیں کہ نہ معلوم ہم کس خطایں پکڑے گئے گویا بالکل معصوم ہیں کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ ارے خطا تو ہم سے روزانہ ہوتی ہے۔ پس مصائب کو گناہوں کی سزا سمجھو یا ایمان کی آزمائش سمجھو۔ مگر یہ مت سمجھو کہ خدا تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ کیونکہ یہ خیال خطرناک ہے کہ اس سے تعلق ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ تعلق زائل ہو جاتا ہے۔ اس لئے یہ اعتقاد کبھی نہ کرے کہ خدا مجھ سے ناراض ہے کیونکہ اول اول تو اس خیال سے دل کو قلق ہوتا ہے۔ پھر قلق حد سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یوں کہتے لگتا ہے کہ جب وہ راضی نہیں ہوتے تو جانے دو۔

اسی لئے شیخ اکبرؒ نے لکھا ہے کہ گناہ پر ایک دفعہ خوب رو و هو کرتوبہ کر لے۔ پھر قصد اس کو یاد نہ کرے کیونکہ مقصود بالذات خدا کی یاد ہے نہ گناہوں کی یاد مقصود بالذات ہے نہ طاعات کی یاد۔ گناہوں کی یاد سے توبہ مقصود ہے جب وہ حاصل ہے تو اب قصد اگناہ کو یاد کر کے اس کی یاد کو مقصود بالذات نہ بناؤ۔ اور خود بخود بلا قصد کے یاد آجائے پھر توبہ اور استغفار کر لے جیسے حدیث میں ہے کہ مصیبت خود بخود یاد آجائے تو انا اللہ پڑھ لے کہ اس وقت انا اللہ پڑھنے کا بھی وہی ثواب ہو گا جو میں مصیبت کے وقت پڑھنے کا ثواب رکھا اور طاعات کے یاد کرنے سے مقصود یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تاکہ شکر سے تعلق مع امنعم قوی ہو جب یہ مقصود حاصل ہو گیا تو اب قصد اطاعات کو بھی یاد نہ کرے ورنہ عجب و کبر پیدا ہو جائے گا۔

## عمر اور میر

انبیاء علیہم السلام کا کمال یہی تھا کہ وہ اللہ کی یاد کو مقصود بالذات بناتے تھے۔ طاعات کو مقصود بالذات نہ بناتے تھے۔ اور یہی حکمت ہے آپ کے سہوکی

کار پاکاں راقیاس از خود مکیر گرچہ ماند درنوشتن شیر و شیر

”پاک لوگوں کے کام کو اپنے پر قیاس نہ کر۔ لکھنے میں تو شیر اور شیر ایک جیسے ہیں۔ مگر معنوں میں بڑا فرق ہے۔“ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سہوکو اپنے سہو پر قیاس نہ کرو۔ حضورؐ کو جو سہو ہوا ہے تو حق تعالیٰ کی طرف۔ تجھکاں کرنے سے ہوا ہے کہ اس وقت آپ کی توجہ نماز کی طرف نہ تھی۔ بلکہ نماز سے عالیٰ کی طرف تھی۔

غرض جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حق تعالیٰ کی یاد ہی انبیاء کے نزدیک مقصود بالذات نہ بناؤ کیونکہ اس سے یہ خیال ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں اور یہ خیال خطرناک ہے۔

ظاہر میں تو شیخ کا یہ قول بھی انک معلوم ہوتا ہے مگر غور کر کے دیکھو بڑے کام کی بات ہے۔ گو عام لوگوں کے سامنے کہنے کی بات نہ تھی۔ مگر ضرورت کی وجہ سے زبان پر آگئی۔ اللہ تعالیٰ سامعین کو فہم سليم عطا فرمائیں اور بحمد اللہ اس وقت تجمع خاص ہی ہے امید ہے کہ اس کے سمجھنے میں غلطی نہ کی جائے گی۔

بہر حال واقعہ احادیث میں حق تعالیٰ نے یہ حکمت بیان فرمائی۔ کہ اس سے تمہارے ایمان کی آزمائش مطلوب تھی کہ کون مخلص ہے کون منافق ہے۔ کیونکہ اس مصیبت کے وقت منافقین میں باہم سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔ ان کو عمر کہ میں آنے سے رنج تھا۔ کبھی کہتے۔

هل لنا من الامر من شيء كه همارا كچھ اختیار بھی ہے۔ اور کبھی کہتے۔

لو كان لنا من الامر شيء ما فقلنا له هنا

”اگر ہمارا بس چلتا تو ہم یہاں اس طرح قتل نہ کئے جاتے۔“

اور صحابگی یہ حالت تھی کہ عین اس پریشانی میں بھی ان کو نیند آرہی تھی۔ چنانچہ ایک صحابی کے ہاتھ

اورد عليه الشیخ سیدی الخلیل قدس سره بان کمال التوجہ الی الله تعالیٰ یستلزم التوجہ  
الی الاحکام کملاً کما یعرفہ کل من له ذوق بالخصوص الشام بین یدی ربہ ان کمال الامثال  
للأحكام انما یکون حال التوجہ الشام الی الله تعالیٰ ثم قال بل سب سب سہوہ علیہ السلام مارواه  
مالك فی المؤطرا بلاغاً لا انسی ولکن انسی لانس والله تعالیٰ اعلم فلیحرر ۱۲ قلت هذا الذي  
ذکر انما هو حکمته للسہو والکلام فی علة السہو واما حدیث الا ستلزم المذکور فهو مقام وما  
ذکرته هو حال والانبیاء علیهم السلام غالب احوالهم المقام لكن بطرا علیهم الحال تازة ولذا يقع  
علیهم السہو قليلاً وهذا من ذوقی والله اعلم ۱۲ اثر علی۔

سے کنی بار تکوار گر پڑی۔ ایسے سور ہے تھے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے اسباب تخفیف جمع فرمادیے ہیں کہ معرکہ میں مسلمانوں کو سلا بھی دیا بعد میں عتاب کر کے دلابھی دیا۔ پھر ہسا بھی دیا۔“ اور غور کیا جائے تو عتاب میں بھی عنایت تھی کیونکہ خطا پر عاشق کو کچھ کہہ لیا جائے تو اس کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ بس محبوب نے دل کی بات خاہر کر کے بدلتے لیا ہے اب اسکے دل میں کچھ نہیں رہا۔ ہے کہ بدول مزا کے چین نہ آئے گا۔ بدول اس کے میری تسلی نہ ہوگی۔ جیسے بعض صحابہؓ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا۔ ان کو بدول اجرائے حد کے چین ن آیا۔ پس یہ عتاب بھی درحقیقت اسباب تخفیف ہی تھا۔

اب آپ کی سمجھی میں آیا ہوگا کہ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا مطلب کہ اتنی حق تعالیٰ مصیبت کے ساتھ ہی ایک راحت بھی دیتے ہیں۔ اگر عسر کو واحد اور یسر کو متعدد مانو۔ جیسا مشہور قاعدة ہے تو ایک عسر کے ساتھ دو یسر ہوئے۔

### تلائی مصائب کی صورت

صاحب! جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے لئے اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ عسر واحد پر یسرین کا ترتیب ہوتا ہے۔ یہ آیت صحابہؓ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سب کے لئے عام ہے۔

پس مصیبت سے پریشان نہ ہو بلکہ اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کرو چنانچہ ایک تدبیر تو یہ ہے کہ اس وقت اپنے اعمال کو یاد کرے کیونکہ اکثر مصائب بوجہ اعمال سیبیہ کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

**وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيَّةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِكُمْ** ”تم کو اے گنہگار و جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے۔“

کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے اس پر انبیاءؓ کے مصائب سے شبہ نہ کیا جائے کیونکہ وہاں صرف صورت مصیبت ہوتی ہے حقیقت مصیبت نہیں ہوتی۔ کیونکہ گوانبیاء علیہم السلام کو مصیبت کے وقت بوجہ ادراک لطیف اور صفائی قلب کے رنج تو ہوتا ہے مگر پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ وہ معصوم ہیں ان پر تکالیف کا اور دو معاصی کے نہیں ہوتا پھر وہ پریشان کیوں ہوں۔ پریشانی تو گناہ کا نتیجہ ہے۔

پس ہم کو مصیبت کے وقت اول تو اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہئے تاکہ اپنی خطاكا کا استحضار ہو کر مصیبت سے پریشانی زیادہ نہ ہو۔ کیونکہ ..... اپنی خطا پر جو سزا ہوتی ہے اس سے دوسرے کی شکایت نہیں ہوتی بلکہ انسان خود نا دام ہوتا ہے کہ میں اسی قابل تھا۔

پھر اجر کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا بہت ثواب رکھا ہے حدیث میں آتا ہے کہ

مسلمان کو جو ایک کا نشان لگتا ہے وہ بھی اس کے لئے ایک حسنہ ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چڑاغِ گل ہو گیا۔ آپ نے انا اللہ پڑھا۔ حضرت عائشہؓ نے پوچھا یا رسول اللہؐ کیا یہ بھی مصیبت ہے فرمایا ہاں! جس چیز سے مسلمان کو تکلیف ہو وہ مصیبت ہے اور اس پر ثواب کا وعدہ ہے جب ادنیٰ ادنیٰ تکلیف پر ثواب کا وعدہ ہے تو زیادہ کلفت پر..... ثواب کیوں نہ ہو گا۔ پس ثواب کو یاد کر کے غم کو بکا کرنا چاہئے۔

پھر اس بات کو سوچے جو اس آیت میں بتلائی گئی ہے **وَلِتَسْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ** اللہ تعالیٰ نے مصیبت دیکھ رہا ہے ایمان کو آزمایا ہے کہ اسکو مصیبت میں ہم سے تعلق ہے یا نہیں۔ پس مصیبت میں ثابت قدم رہنا چاہئے خدا کی شکایت نہ کرے۔ کوئی بات ایمان کے خلاف زبان و دل پر نہ لائے۔

## تحمیص و ابتلاء کا فرق

اس کے بعد **وَلِتَعْصِمْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ** فرمائے میں نکتہ یہ ہے کہ تحمیص و ابتلاء میں فرق ہے جس کو ایک مثال سے سمجھو کر سونے چاہندی کو پر کھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اول کسوٹی پر رکھتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سونا چاہندی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اس کو اگ پر کھتے ہیں تاکہ میل کچیل کو الگ کر دیا جائے۔ پس **لِيَسْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ** کا حاصل تو یہ تھا کہ نفس ایمان کی آزمائش کی جاتی ہے کہ اس میں ایمان بھی ہے یا نہیں اور **تَحْمِيصْ** کا حاصل یہ ہے کہ مصیبت کے ذریعہ سے ایمان کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔

رہایہ کہ ایمان کے میل کچیل سے کیا مراد ہے تو سنئے کہ بعض لوگوں کا ایمان و ساوس و معاصی سے مشوب ہوتا ہے۔ مصیبت کے ذریعہ سے وساوس و معاصی کا میل دھو دیا جاتا ہے کیوں کہ مصیبت کی خاصیت یہ ہے کہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے اور وہ غفلت جو وساوس و معاصی سے قلب میں پیدا ہو گئی تھی مصیبت کے وقت دور ہو جاتی ہے۔ یہی تحمیص ہے اور یہ تفسیر اہل سنت کے مذہب پر سب سے زیادہ منطبق ہے کیونکہ وہ ایمان خالص و ایمان غیر خالص کے قاتل ہیں بخلاف معزلہ و خوارج کے کہ وہ معاصی کو مزیل ایمان یا موجب کفر کرتے ہیں۔ پس ان کے نزدیک یا ایمان اور عدم ایمان خواہ ایمان و کفر۔ وہ ایمان ناقص و کامل کا فرق نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک معاصی سے ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ یا کفر بھی لازم آ جاتا ہے۔

غرض! مصائب میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے اور ایمان کے اندر معا�ی و وساوس سے جو میل کچیل آ جاتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور اس شخص سے بندہ پر مبدیت غالب ہو جاتی ہے اور دعویٰ اور غرور اور تکبر کا میل و کچیل کم ہو جاتا ہے اور اپنی حقیقت سنکشف ہو کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آدمی کبھی دعویٰ نہ کرے۔

## رحمت و قدرت حق تعالیٰ

دیکھئے! حق تعالیٰ نے نمرود کو ایک مجھر سے ہلاک کیا ہے۔ حالانکہ مجھر کی نسبت نمرود سے وہ نسبت تھی جو ایک نیل کے سینگ سے تھی۔

قصہ مشہور ہے کہ ایک مجھر نیل کے سینگ پر جا بیٹھا پھراں سے کہنے لگا کہ معاف کرنا میں تمہارے سینگ پر بہت دیر سے بیٹھا ہوں نیل نے کہا مجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ تو کب آیا اور کب چلا گیا۔ تو نے اطلاع کر کے خواہ مخواہ اپنے ذمہ احسان رکھا۔ نمرود کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی۔ کہ ایک مجھر مجھے ہلاک کر دے گا۔ مگر خدا تعالیٰ نے اس حقیر جانور سے اسکو ہلاک کر دیا۔ مجھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا اور اس کا بھیجا کھانا شروع کر۔

بس! اب کیا تھا کہ اگر نمرود ناچنے ہزار دوائیں کیں مگر سب بے سود۔ پھر تماشا یہ کہ جب مجھر دماغ میں کاشتا اس وقت ایسا بے چین ہوتا کہ اپنے سر پر نوکروں کے ہاتھوں سے جو تے لگواتا جب پکھ چین آتا (یہ تھا دعویٰ خدا تعالیٰ کا انجام کہ نوکروں کے ہاتھوں سے جو تے کھاتا)

صاحب! واقعی خدا کی رحمت و قدرت ہے کہ وہ اس لشکر کو ہمارے دماغ سے روکتے ہیں کہ سوتے ہوئے ہمارے دماغ میں نہیں گھس جاتے۔ جیسے لشکر کے لئے حدود مقرر کر رکھی ہیں۔ بعض دفعہ نیل لگا کر جو سونے کا اتفاق ہوا تو جاگ کر یہ دیکھا کہ تکیہ کے اوپر چیزوں کا لشکر موجود ہے مگر سر میں اور دماغ میں ایک نہیں ہوتی یہ خدا تعالیٰ کی حفاظت نہیں تو اور کیا ہے۔

مگر انسان اپنے اندر خاصیت سمجھتا ہے کہ یہ جانور اس خاصیت کی وجہ سے مجھ سے دور رہتے ہیں۔ افسوس حفاظت تو کرے خدا اور سائنس والے اپنے اندر خاصیت کے قابل ہو گئے۔ مگر ان سے کوئی پوچھتے کہ یہ اس وقت کہاں جاتی رہتی ہے جب کان اور ناک وغیرہ میں بعض دفعہ جانور گھس جاتا ہے۔ اور ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں اس کا انکار نہیں۔

اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اور جب کبھی وہ کسی حکمت سے اپنی حفاظت کو انھا لیتے ہیں اس وقت انسان کا بجز طاہر ہو جاتا ہے۔

## مرتَخ پر آبادی

پھر دیکھئے تو کہ خدا اور اتنی کثیر مخلوق کا وہ انتظام فرماتے ہیں جس کی شمار نہیں ہو سکتی اول توزیں ہی کتنی بڑی ہے پھر اس میں حیوانات اور کیڑے مکوڑے بھنگے وغیرہ کس قدر بے شمار ہیں پھر بعض لوگ آج کل مدی ہیں کہ مرتَخ و قمر وغیرہ سیارات میں بھی آبادی ہے اور سائنس والے وہاں جانے کا قصد بھی کر رہے ہیں۔ اس کو بھی ملا جب تھے تو حیوانات کا اور عدد بڑھ جاتا ہے۔ ان سب کا محافظہ وہ ایک خدا بس جان اللہ! اس مقام پر ایک استھن اور مضمون یاد آگیا۔ وہ یہ کہ بعض لوگ جو مرتَخ میں جانا چاہتے ہیں ہم تو اس ارادہ سے خوش ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے کام لکھیں گے۔ اول تو معراج سے اشکال رفع ہو گا۔ دوسرا اخبارات میں وہاں کے حالات پڑھیں گے تو عجائب قدرت کا علم ہو گا۔ اور شرعاً وہاں آباد نہ ہونا محال نہیں کیونکہ شریعت نے اس کی نفی نہیں کی۔ بلکہ غالب تو یہی ہے کہ سکوت کیا ہے اور احتمال کے درجہ میں بعض نصوص میں اس مسئلہ کو داخل بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن میں ایک مقام پر ارشاد ہے۔

وَمِنْ أَيْلِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْتٌ فِيهِمَا مِنْ ذَآبَةٍ

”کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان دونوں میں جو

حیوانات پھیلائے ہیں (اور دا آب کا اطلاق ملائکہ پر نہیں ہوتا)

مفسرین نے تو اس میں یہ تاویل کی ہے کہ مراد مجموعہ ارض و سما ہے کہ مجموعہ میں دوناب پیدا کئے اور مجموعہ پر حکم ایک جزو کے اعتبار سے بھی صحیح ہے چنانچہ

يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْأَنْوَافُ وَالْمَرْجَانُ إِنْ دُوْنُوْنَ سَمَوَاتٍ أَوْ مُوْنَوْنًا بِرَآءَدَ ہوتا ہے

میں مفسرین نے یہی تاویل کی ہے۔ بہر حال ممکن ہے کہ سیارات میں بھی کوئی حیوانی مخلوق ہو اور اس سے اہل سائنس کا غرور توٹھا کیونکہ وہ اہل مرتَخ کو اپنے سے عقل مانتے ہیں پھر اس کے ساتھ سماوات اور اجرام علویہ کی مخلوق ملا لو اور اس کے بعد کشف کو بھی ملا لو۔

عبدالکریم جیلی کا کشف ہے کہ ایک دریا زمین و آسمان سے باہر ہے جس کی ایک موج ساتوں آسمان وزمین سے دس لاکھ حصہ زیادہ ہے۔ مگر اس کی موج آسمان وزمین کے ساتھ نکلا جائے تو سب غرق ہو جائیں۔ مگر ملائکہ اس کی موجودوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ تاکہ آسمان وزمین سے نہ نکلا جائیں اور اس دریا میں نہ معلوم کتنی مخلوق دریائی ہوگی۔ تحقق تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ اپنی تمام مخلوق کی حفاظت اور کافی انتظام فرماتے ہیں اور واقعی اگروہ حفاظت نہ فرمائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔

چنانچہ اس حفاظت پر اپنا ایک واقعہ یاد آگیا۔ ایک رات اندر میرے میں خانقاہ سے میں اپنے گھر گیا تو گھر کا راستہ بھول گیا اور کسی کے گھر پہنچ گیا بڑی وقت سے راستہ ملا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور عظمت منکشف ہوئی۔

### مصاب و عبدیت

پس یہ فائدے ہیں مصاب و عبدیت میں کہ ان سے استحضار عظمت ہوتا ہے کیونکہ رنج و تکلیف اور بیماری میں عظمت حق زیادہ منکشف ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابل اپنا عجز بھی زیادہ منکشف ہوتا ہے۔ پس مصاب سے انسان پر عبدیت کا غالبہ ہوتا ہے اور عبدیت اعلیٰ مقام ہے اور یہ مصاب میں زیادہ حاصل ہوتا ہے اسی لئے کسی نے کہا ہے:

اہل کاراں بوقت معزولی شبلی وقت و بازیزید شوند  
بازچوں میر سند برسر کار شمرذی الجوش و بیزید شوند  
”اہل کار جب معزول ہو جاتے ہیں تو وقت کے شبلی و بازیزید بن جاتے ہیں اور جب پھر کام پر لگ جاتے ہیں تو شمر اور بیزید بن جاتے ہیں۔“

جب اہل کار معزول ہو جاتے ہیں اس وقت کوئی ان کی نماز اور وظیفہ اور دعا کی حالت دیکھے۔ اہل کار کے لفظ پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک حاکم ندی کے پل سے گھوڑا لے کر اتر گیا اور ملاح ٹھیکیدار کو محصول نہ دیا۔ ملاح نے اس کو نونکا چاہا تو اس کے رفیق نے کہا بھائی انہیں کچھ نہ کہو۔ یہ الکھار ہیں۔ الکھار محصول نہیں دیا کرتے۔ تو اس نے اہل کار کو الکھار کہا۔ واقعی بعضے تو ایسے ہی ہیں کیونکہ معمولی کھاڑ تو ایک ہی بی بی کا بوجھ اٹھاتا ہے اور الکھار بی بی کا بار بھی اٹھاتا ہے اور بابا کا بھی اور بوبو کا بھی۔ ان میں سب حروف علت جمع ہیں کیونکہ تمام مخلوق کو ستاتے ہیں۔ سب کا حق ان کی گردان پر رہتا ہے۔ ان کے حق میں سب علت ہی ہیں تو انسان کو معزولی اور بیماری کے وقت عظمت حق کا استحضار ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ اسی کی شکایت فرماتے ہیں۔

وَإِذَا مَسْكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمُ إِلَى  
الْبَرِّ أَغْرَضْتُمُ طَوَّافَ كَانَ الْأَنْسَانُ كَفُوزًا

کہ سمندر میں جب طوفان کا منظر سامنے آتا ہے تو تم خدا کے سواب کو بھول جاتے ہو۔ پھر جب سلامتی کے ساتھ خشکی میں تم کو پہنچا دیا جاتا ہے تو خدا سے پھر جاتے ہو۔ اور واقعی انسان

ہے بڑا شکر۔ آگے فرماتے ہیں۔

آفَإِنْتُمْ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُؤْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَاً ثُمَّ لَا تَجِدُوا الْكُمْ وَكَيْلًا  
کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ خدا تعالیٰ تم کو خشکی ہی میں زمین کے اندر دھنادیں  
یا تم پر ایسی آندھی بھیج جو کنکر پھر بر سانے لگے پھر تم کسی کو اپنا کار ساز نہ پاؤ۔

چنانچہ پچھلے دنوں کا گنگڑہ میں زلزلہ آیا تھا تو بہت سے آدمی زمین کے اندر دھنس گئے۔ بہت  
سے مکانات زمین کے اندر اتر گئے۔ ہر دوئی میں ایسی تیز ہوا آئی تھی کہ آدمی اڑ گئے۔ اگر کسی کو  
اس سے بھی عبرت نہ ہوتا اور سنو!

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيَّذَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ  
فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا الْكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا

کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ خدا تعالیٰ تم کو دوبارہ سمندر ہی میں لے جائے۔ پھر تم پر ہوا کا  
خت طوفان بھیج دے۔ پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے اور تم کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ ملے۔  
حاصل یہ کہ کیا تم کو یہ احتمال نہیں کہ شاید سمندر میں پھر سوار ہو جاؤ۔ اور وہی واقعہ پھر پیش  
آئے جو پہلے پیش آیا تھا۔ غرض! آدمی کو تکلیف سے سبق حاصل کرنا چاہئے صحت و عافیت کے بعد  
بھی بیماری اور تکلیف کے لوٹنے سے ڈرتا رہے اور ہر وقت گریاں بربیاں رہے۔

اے خوش آشی کہ اوگریاں اوست      اے خوش آش دل کا آس بربیاں اوست

”وَهَآنِكُهُ أَچْحِيُّ هُوَ جُواْسُ كِي رَاهِ مِنْ روْنَهُ دَالِي هُوَ اُورُوْهُ دَلِ اَچْحَاهُ هُوَ جُواْسُكِي رَاهِ مِنْ جَلَّتَا۔“

در تفرع باش تاشادں شوی      گریہ کن تابے دہاں خندان شوی

”زاری کرتا رہتا کہ خوش ہو۔ روتا رہتا کہ ہنسنے والا بنے۔“

در پس ہر گریہ آخر خنده ایست      مرد آخرت میں مبارک بندہ ایست

ہر رونے کے پیچے آخر ہنسنا ہے۔ انجام پر نظر کرنے والا ہی مبارک آدمی ہے۔

### پھر کا گریہ

سیر میں ایک پھر کی حکایت لکھی ہے کہ موئی علیہ السلام کا اس پر گزر ہوا۔ دیکھا کہ زار زار رو  
رہا ہے پوچھا کیوں روتا ہے کہا جب کہ میں نے یہ آیت سنی ہے۔

وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ كَهَجَنَمْ كَا اِيَّنْ هَنْ آدَمِ بَھِی ہیں اور پتھر بھی۔

اس وقت سے مارے خوف کے رورہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ! اس پتھر کو جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ وہاں سے وہی آگئی کہ ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ اس پتھر کو جہنم میں نہ ڈالا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تسلی کر دی۔ بہت خوش ہوا اور رونا موقوف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ ایک مدت کے بعد موسیٰ علیہ السلام پتھر یہاں سے گزرے تو دیکھا پتھر رورہا ہے۔ پوچھا اب کیوں روتا ہے جب کہ تیری تسلی کر دی گئی۔ اور تجھ کو بشارت مل گئی کہا اے موسیٰ علیہ السلام وہ بشارت رونے ہی کی بدولت ملی تھی اب رونے کو کیوں چھوڑوں جس کی بدولت اتنی بڑی دولت ملی ہے۔

ایسا ہی انسان کو کرنا چاہئے کہ اگر توب و استغفار اور دعا کر کے مصائب سے نجات پا جائے تو اس سبق کو چھوڑ نہیںتا کہ نعمتِ زائل نہ ہو جائے۔ خدا تعالیٰ سے واسطہ قطع نہ کرو۔ اپنا نہ ہب وہ نہ کرو جو یہاں ایک گنوار نے ظاہر کیا تھا۔ کہ اس کا بھتیجا نماز پڑھتا۔ اعتکاف کرتا، دعا کرتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا نہ معلوم سوہرا! خدا کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کیا مانگتا ہے۔ کھانے کو غلہ موجود، پہنچنے کو کپڑا موجود، روپیہ میں روپیہ ہے۔ جانوروں میں جانور۔ زمین میں زمین اور خدا ہے کیا مانگے ہے، گویا کھانے پہنچنے کو مل جائے تو نعوذ بالله! خدا سے کچھ واسطہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مگر دیکھنے اللہ تعالیٰ کیسے حلیم ہیں کہ ایسی گستاخی پر بھی رزق کو بنڈ نہیں کرتے۔

حضرت ابن عطاءؓ کا الہام ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں تو ایسا رزاق ہوں کہ اگر تو ہر وقت بھی یہ دعا کرے کہ اے اللہ! مجھے رزق نہ دے جب بھی میں تیری روزی کو بندنہ کروں گا تو کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تیرے مانگنے پر بھی نہ دوں گا۔

## محبت آمیز نکیر

حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسٹح کی امدابند کرنے کا ارادہ فرمایا تھا کیونکہ قصہ افک میں حضرت عائشہؓ کے متعلق ان کی زبان سے بھی کچھ نکل گیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی واقعہ ایسا ہو جائے تو کوئی جنید وقت بھی اپنا زبان کی پوری حفاظت نہ کر سکے گا۔ کچھ نہ کچھ ہر شخص کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے۔

یہ حضرات صحابہؓ ہی کا کمال ہے کہ منافقین کے اس قدر شور و شعب میں صرف دو تین صحابہ کی زبان سے بے احتیاطی ہوئی۔ باقی سب محفوظ رہے۔ مجملہ ان دو تین کے ایک حضرت مسٹح بھی تھے ان کی زبان سے بھی کوئی بات نکل گئی جب وہی سے حضرت عائشہؓ براہت ثابت ہو گئی تو حضرت صدیق

کو مطلع پر غصہ آیا کیونکہ یہ حضرت صدیقؓ کے قریبی عزیز بھی تھے اور حضرت صدیقؓ ان کی مالی امداد بھی کرتے تھے۔ اس لئے یہ آپ نے قسم کھالی کہاب سے مطلع کی امداد نہ کروں گا تو حق تعالیٰ نے آیت:

وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْفُرْبَيْ  
وَالْمَسِكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

میں حضرت صدیقؓ کو اس ارادہ سے منع فرمایا کہ روزی بند کرنے کی قسم نہ کھانا چاہئے۔ اور گو بظاہر اس آیت میں حضرت صدیقؓ پر نکیر ہے کہ اصحاب فضل کو یعنی جن کو فضیلت دینیہ حاصل ہے اور اصحاب وسعت کو یعنی جن کو خدا نے مالی وسعت دی ہے۔ اپنے قرابت دار اور مہاجر مسکینوں کی امداد بند کرنے کی قسم نہ کھانا چاہئے۔ اس میں حضرت صدیقؓ اکبرؓ کی یہ تعریف ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ نے دینی فضیلت بھی عطا کی ہے اور دنیوی وسعت بھی عنایت کی ہے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ وسعت دنیویہ مذموم نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کسب کمال سے منع کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے بلکہ اس کے مال سے منع کرتے ہیں اگر کوئی شخص مال سے محفوظ ہونے کا انتظام کر لے تو اس کے لئے وسعت دنیویہ مذموم نہیں۔ پھر اس میں حضرت مطلع کی بھی تعریف ہے کہ وہ مسکین دنیویہ مذموم نہیں۔ پھر اس بلغ عنوان میں جس قدر ترغیب و تمحص ہے ظاہر ہے۔ اس کے بعد حضرت صدیقؓ اکبرؓ کا ایک مراقبہ کی تعلیم ہے۔

آلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ . وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائیں یعنی اگر تم اپنے خطاؤ اروں کی خطا معاف نہ کرو گے تو اگر خدا تعالیٰ بھی ایسا ہی کرنے لگیں تو کیا ہو؟ آخر تم بھی اُسی کے خطاؤ ار ہو۔ پس اگر یوں چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہاری خطا تکمیل میں معاف کر دیں تو تم اپنے خطاؤ اروں کو معاف کر دیا کرو۔ یہ من کر حضرت صدیقؓ پکھل گئے اور کہا۔ بلی احباب ان یغفر اللہ لی۔ بے شک میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خطا معاف فرماویں۔ اس کے بعد حضرت مطلع کی امداد بدستور جاری کر دی اور مدحت العزیز بھی بند نہ کی۔<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup> قلت ولكن الغواشى ومونقه القلب شى آخر فرب جرم لا يستطيع الانسان معه ان يشرح صدراً بال مجرم كمن اراده باهله وولده سرور فيكن ان يغفر عنه ولكن يعلو الفة القلب والا بساط معده بعد ذلك دائمالما جبله الله على الحياد الغيرة الشى هي شعبه من الايمان وربما يتفرأ العر من رؤيه مثل هذا المجرم وسماع صوته واقتضى الى محل اقامته والا مرو النهى انما يتعلقان بالا ختارات لا بعضها ولقد وجلتنا مشاتخنا انهم ربما يغفون عن بعض الخطأ يا واللئوب ولكن لا يرضون بتجليطة المجرم ولا بحضوره عندهم نجطابه ولا بكتابه والله يعلم بما في صدور العلمين. ۱۲ ظ

## مراقبہ عظمت قدرت

صاحب! ہم کو اپنے خطاوарوں کا قصور معاف کر دینا چاہئے اگر ہم خدا تعالیٰ سے اپنے قصور کی معافی کے طالب ہیں۔ آخر ایسا کون ہے جو خدا کا قصور وار نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اپنے قصور کی معافی تو چاہو اور رسول کی خطا معاف نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کریں جو تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو۔

اس مکافات بالمثل پر ایک واقعہ یاد آگیا۔ کسی عالم سے کسی سید نے کچھ مانگا اور یہی کہا کہ میں سید ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے سید ہونے کا کیا ثبوت ہے رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی کہ میدان قیامت قائم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر امت کو پانی پلا رہے ہیں اس کو بھی پیاس لگی اور حوض کوثر پر حاضر ہوا۔ حضور نے اس سے اعرض کیا اس نے کہایا رسول اللہ! میں آپ کا امتنی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت دو کہ تم میرے امتنی ہو۔ تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے۔ اب تو یہ حیران ہوا اور رونے لگا۔ حضور نے فرمایا کہ ہماری اولاد سے تو سید ہونے کا ثبوت مانگتے ہو اور خود ثبوت نہیں دیتے۔ اب اسکو تنبہ ہوا اور بیدار ہو کر سیدزادہ سے معافی چاہی۔

پس انسان کو ڈرنا چاہئے کہ جو برتاوہ دوسروں سے کرتا ہے کہیں اس کے ساتھ بھی وہی برتاونہ ہونے لگے اپنے تقویٰ و طہارت پر ناز کر کے گنہگاروں کو حقیر نہ سمجھو ان کی خطا میں معاف کر دیا کرو۔ تکبر کرنے سے اندیشہ سلب نعمت کا ہوتا ہے جو کچھ مستعبد نہیں۔

دیکھئے! اب سے زیادہ علم کی نعمت محفوظ بھی جاتی ہے۔ مشہور ہے کہ یہ ایسی دولت ہے کہ چور بھی اس کو نہیں چڑا سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ اس کے تعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا علم سب سے زیادہ کامل ہے ارشاد فرماتے ہیں۔

وَلِئِنْ شِئْتَ لَنَدْهَبَنَّ بِإِلَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا  
وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ طَإِنْ فَضْلَةَ كَانَ عَلَيْكَ كَثِيرًا

”اگر ہم چاہیں تو اس وحی کو جو آپ کے پاس بھیجی گئی ہے سلب کر لیں پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کسی کو اپنامدگار نہ پائیں گے۔ آگے آپ کی تسلی ہے کہ ہم محض رحمت کی وجہ سے آپ پر وحی بھیج رہے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ یعنی آپ بے فکر رہیں ہم

ایسا کریں گے نہیں کیونکہ ہم نے یہ علم آپ کو بوجہ رحمت و فضل کے عطا فرمایا ہے۔

**وَعَلِمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ طَوَّكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا** "کہ خدا نے آپ کو وہ علوم عطا فرمائے ہیں جو آپ کو پہلے سے حاصل نہ تھے اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے۔"

توجب علم کے بھی سب ہونے کا اندیشہ ہے تو اور چیزوں کا تو کیا پوچھنا ہے اس لئے انسان کو گناہوں سے توبہ کرنی چاہئے اور اپنے کمالات پر کبھی نازدہ کرے۔ بلکہ ہمیشہ لرزائی ترساں رہنے کا ہمیشہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار کے اس سے اپنے کمالات پر نازدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ مراقب اختیار سے بھی ہوتا ہے اور کبھی بلا اختیار بھی میرسر ہو جاتا ہے مصائب میں یہ مراقبہ خود خود حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم کو چاہئے کہ آئندہ کے واسطے بھی اس مراقبہ عظمت و قدرت کو معمول بنالیں تاکہ عبدیت حاصل ہو۔

## اصلاح قلب

خلاصہ یہ کہ مصائب میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے استحضار عظمت ہوتا ہے اور عبدیت حاصل ہوتی ہے اسی کی طرف **إِنَّ اللَّهَ مَا فِي صُنُورِكُمْ وَلَيُمَحْضَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ** میں اشارہ کیا گیا ہے۔ رہایہ کہ اس آیت میں ایک جگہ صدور کم اور ایک جگہ قلوب کم کیوں فرمایا۔ اس میں اسلام یہ ہے کہ تفہن پر محمول کیا جائے جیسا کشاف سے کہا ہے اور اگر نکتہ ہی کی ضرورت تو احسن یہ ہے کہ کہا جاوے کے دو لفظ اس لئے اختیار کئے گئے کہ صدر باعتبار اپنی حقیقت کے ظاہر ہے اور قلب باعتبار اپنے حقیقت کے باطن ہے تو اس میں اشارہ اس پر ہے کہ کبھی ظاہر کی اصلاح ہوتی ہے یعنی کبھی ابتلاء سے اولاً صدر کی اصلاح کی جاتی ہے جو کہ جوارج سے ہے اور اس کا اثر باطن تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی تھیجus سے قلب کی اصلاح کی جاتی ہے جو کہ باطن ہے اور اس کا اثر ظاہر تک پہنچ جاتا ہے۔

پس دو لفظ اختیار کرنے میں اشارہ تنبیہ کردی گئی ہے کہ کسی جانب میں اصلاح ظاہر سے باطن کی اصلاح سہل ہو جاتی ہے۔ اور کسی حالت میں بر عکس۔ غرض! جس طرح بھی ہو اصلاح کرنا چاہئے۔ اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔

## مصیبت اور نعمت

اس تقریر سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ بیان پہلے بیان کا تمہرے ہے کیوں کہ دونوں میں مصائب کا علاج بتایا گیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے بیان کا حاصل یہ تھا کہ جس قدر واقعات پیش

آتے ہیں یہ سب تجارت میں داخل ہیں کہ ایک چیز ہم سے لی جاتی ہے اور اس کے عوض دوسری چیز دی جاتی ہے اور تجارت بھی ایسی چیز ہے کہ

نیم جاں بتا ندو صد جاں وہد آنچہ درہمت نیا یہ آں وہد

”آہمی جاں لیتا ہے اور سو جاں دیتا ہے جو چیز، ہمت میں نہیں ہوتی وہ دیتا ہے۔

مگر ہم اس واسطے اس کی قدر نہیں کرتے کہ یہ نعمت ارزائیں مل گئی ہے مولانا اسی پر ایک جگہ شکایت کے طور سے فرماتے ہیں

اے گراں جلن خوار دیدستی مرا زانکہ بس ارزائی خریدستی مرا

”اے گراں جاں! تو نے مجھے سمجھا کہ میں خوار ہوں اور مجھے تو نے ارزائی خریدا ہے۔“

ارزائی خریدنے پر ایک لطیفہ یاد آیا۔ شاہ جہان پور میں کچھ ولائی پٹھان گھوڑا بیچنے آیا۔ ایک رئیس نے ایک گھوڑا اپسند کر کے قیمت پوچھی۔ اس نے قیمت گراں بتلائی تو رئیس نے کہا تم بڑے گراں فروش ہوں کہا بجا ہے۔ مگر آپ بڑے ارزائی خرید ہیں۔ اس جواب سے وہ چپ ہی تو رہ گیا۔

توجہ یہ مصائب و اقعات تجارت ہیں تو ان پر رونا کیسا۔ کیوں کہ تجارت میں کوئی رویا نہیں کرتا۔ اور آج کے بیان کا حاصل یہ ہے کہ مصیب حالاً تو مصیبت ہے مگر مالا نعمت ہے کیونکہ اس سے منافع و مصالح حاصل ہوتے ہیں چنانچہ اور پران منافع کا بیان تفصیل سے گزر چکا ہے۔

منجمدہ ان کے منفعت یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کرنے سے ثواب ملتا ہے اور ثواب بھی بغیر حساب یعنی بے شمار جس کی کوئی حد نہیں۔ چنانچہ نص میں ہے

إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب پورا دیا جائے گا۔

اور بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہ مصیب پر بغیر صبر کے بھی ثواب ملتا ہے اور صبر کا اجر اس کے علاوہ ہے۔ یہ قول میں اولاً ذوقی سمجھا تھا۔ لیکن بعد میں یاد پڑتا ہے کہ حدیث سے بھی اس کی تائید مل گئی تھی۔ ثواب مصیبت فی نفسہ نعمت ہو گئی۔

اس پر شاید یہ سوال ہو کہ اگر کسی نے صبر نہ کیا اور مصیب میں کلمہ کفر بک دیا تو کیا پھر بھی مصیب پر ثواب ملے گا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مصیب کا مقتضی تو ثواب ہی تھا۔ مگر کلمہ کفر نے اس کے ثواب کو باطل کر دیا۔

جیسے نماز کا مقتضی ثواب ہی ہے مگر کوئی نماز پڑھ کر کلمہ کفر یک دے تو ثواب جب ہو جائے گا۔ ہاں اگر مصیبت کے بعد کلمہ کفر نہ بکے صرف بے صبری ہی ظاہر کرے تو مصیب کا ثواب الگ ملے گا اور بے صبری کا گناہ الگ ہو گا۔ جیسے نماز کے بعد غیبت کر دے رہا یہ کہ زیادہ کون ہو گا مصیبت کا ثواب یا بے صبری کا گناہ تو اس کا فیصلہ میزان عمل سے ہو گا۔ مگر چونکہ مجھ کو وہ حدیث اس وقت پوری طرح یاد نہیں جس میں مجرد مصیبت پر اجر کا وعدہ ہے اس لئے میں جزم کے ساتھ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بلکہ تین احتمال ہیں۔

ایک یہ کہ نص مقتید ہو بعدم الشکوئی جیسے اتفاق فی سبیل اللہ کا اجر عدم المن کے ساتھ مقتید ہے کہ صدقہ کر کے احسان نہ جتائے۔ اگر احسان جلتا یا تو ثواب جب ہو جائے گا۔ اسی طرح ممکن ہے کہ مجرد مصیبت کا اجر اس بات کے ساتھ مقتید ہو کہ اس پر شکوہ شکایت اور بے صبری نہ کی جائے۔ اس صورت میں صوفی کا قول رد ہو گا۔

دوسرے یہ کہ نص مصرح ہو یعنی اس میں تصریح ہو کہ مصیبت پر باوجود بے صبری کے بھی اجر ملے گا۔ اس صورت میں قول صوفی صحیح ہو گا۔

تیسرا یہ کہ نص ساکت ہو تو قول صوفی جھت تو نہ ہو گا۔ مگر انا عند ظن عبدی بی کی بناء پر نفس مصیبت پر بھی مستقل ثواب کی امید کی جاسکتی ہے۔ تو یہ کیسی تجارت ہے کہ نفع پر نفع ہے کہ مصیبت سے دنیا میں بھی نفع کہ ایمان پختہ ہوتا ہے گناہ دھل جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے تعلق خاص ہو جاتا ہے۔ اور آخرت بھی نفع ہے کہ مصیبت کا الگ ثواب، صبر کا الگ ثواب۔

### کریم کی عادت

کریم کی عادت ہے کہ اپنے کرم سے وہ ثمن میں بھی ترقی کر دیا کرتا ہے۔ کہ پہلے ایک قیمت دی تھی اور پھر قیمت بڑھادی کہ پہلا ثمن کم تھا لو اور لو۔

بعض میں زیادتی تو ہم نے بھی دیکھی ہے کہ مکہ میں دو آنے کے انہیں میں نے خریدے۔

۱۔ قلت نم فشن عن کتب الحديث وقال قد اخراج الطبراني في الاوسط والكبير بسنده ضعيف عن ابن مسعود رضي الله عنه رفعه من مات له ولد ذكر او انشى فلم او لم يسلم رضي او لم يرض او لم يصبر لم يكن له ثواب الا لا به كذا في جمع الفوائد (ص ۱۲۱) ج ۱ قلت ولكن لا يصح دعوى العموم في كل مصيبة ملورد النص في واقعته عين والمصائب مختلفة في الاجر لا يجوز قياس احد بها على الاخرى في الثواب فلا مجال للرأي فيه اللهم الا ان يكون في درجة الرجاء عملا بقوله تعالى في الحديث القدسى اناعند ظن عبدي بي اظ وقلت هذا الفرق خلاف الظاهر العموم نعم يمكن التفاوت في مقدار الاجر حسب التفاوت في المصيبة. ش ۱۲۔

دکاندار نے ترازو میں تول کر بہت سے انجر توقع سے زیادہ میرے رومال میں دے دیئے۔ میں ان کو اٹھا کر چلنے لگا۔ تو اس نے آواز دی یا شیخ یا شخ (وہاں سب شیخ جلا ہے بھی اور سید بھی۔ کیونکہ شیخ کے معنی بزرگ ہیں وہ ہر شخص کو تعظیماً اسی لفظ سے پکارتے ہیں۔ میں لوٹا تو اس نے اتنے ہی تول کر اور دیئے اور کہا جاؤ اب تمہارا حق پورا ہو گیا۔

سبحان اللہ! کیسی امانت تھی کہ خود بلا کر بیج کو پورا کیا۔ یہاں کے تاجر تو غنیمت سمجھتے کہ اچھا ہوا خود چل دیا۔ یہ تو بیع میں زیادت کی مثال تھی اور کریم محسن میں بھی زیادت کیا کرتا ہے اور ایشیائی بادشاہ اور نواب تو ذرا ذرا اسی بات پر بے شمار دولت دے دیا کرتے تھے۔

میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ خانخانائ کسی دورہ میں تھے اور ان کے ساتھ نوکر چاکر اور درباری لوگ دوست احباب بھی تھے اور خزانہ بھی بہت کچھ تھا۔ جب پہلی منزل پر اترے ہیں اور اترنے سے پہلے ان کا خیمه اسی طرح لگایا گیا جس طرح دربار کا اجلاس ہوتا ہے۔ اس وقت ایک شاعر نے آ کر یہ شعر پڑھا

منعم بہ کوہ و دشت و بیاباں غریب نیست ہر جا کہ رفت خیمه زد و بارگاہ ساخت  
”دولت من پہاڑ، جنگل اور بیاباں میں مسافرنہیں ہوتا۔ جہاں گیا خیمه لگایا اور بارگاہ بنالی۔“  
منعم خانخان کا خلص بھی ہے۔ اس شعر پر ان کو بہت حظ آیا اور ایک ہزار روپے دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد کوچ ہوا اور دوسری منزل آئی تو شاعر نے پھر وہی شعر آ کر پڑھا

منعم بہ کوہ و دشت و بیاباں غریب نیست ہر جا کہ رفت خیمه زد و بارگاہ ساخت  
خان خانائ نے ایک ہزار روپیہ پھر دیا۔ تیسرا منزل پر اس نے پھر یہ شعر پڑھا تو انہوں نے پھر اس کو ایک ہزار روپے دیئے۔ اب درباریوں نے شاعر کو ذرا دیا کہ بس بھاگ جا تجھے بہت مل گیا ہے کہیں یہ سب نہ چھن جائے کیونکہ ایشیائی بادشاہوں کا یہی حال ہے

گا ہے بس لامے بخندند گا ہے بدشامے خلعت و ہند

(کبھی مسکرا کر سلامتی دیتے ہیں اور کبھی گالیوں کی خلعت سے نوازتے ہیں)  
شاعر کی بھی سمجھ میں بات آگئی وہ بھاگ گیا۔ چوتھی منزل پر خان خانائ پہنچ تو شاعر کا انتظار کیا۔ خدام سے پوچھا آج وہ شاعر کہاں چلا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا وہ تو بھاگ گیا۔ کسی نے اس کو ذرا دیا کہ یہ رقم بھی کہیں چھن نہ جائے بھاگ جا تجھے بہت مل گیا۔

خان خاتاں نے کہا۔ افسوس! غریب کو خواہ مخواہ ڈرایا۔ بخدا میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک سارا خزانہ ختم نہ ہو جاتا۔ میں اسکو برادری کرتا۔ کیونکہ اس کے اس شعر سے مجھ کو بے حد حظ آیا تھا۔

یہ حکایت تو کتابی ہے اور ایک حکایت والد صاحب مرحوم سے میں نے سنی ہے کہ ایک دفعہ ہارون رشید مع وزیر کے جنگل کی سیر کو چلے۔ ایک بوڑھے کو دیکھا کہ باغ میں گٹھلیاں بورہا ہے۔ خلیفہ نے وزیر سے کہا کہ اس سے پوچھو کیا بورہا ہے۔ وزیر نے پوچھا کہا، بھجور کی گٹھلیاں بورہا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا کہ یہ کتنے برس میں پھل لے آئیں گی۔ کہا میں پچیس سال میں۔ خلیفہ ہسا کہ بوڑھے میاں کے پیرو قبر میں لٹک رہے ہیں۔ اور میں پچیس سال آئندہ کا سامان کر رہے ہیں وزیر نے یہ بات بوڑھے سے کہی تو کہنے لگا کہ اگر سب باغ لگانے والے یہی سوچا کرتے جو تم سوچتے ہو تو آج تم کو ایک بھجور بھی نصیب نہ ہوتی۔ میاں دنیا کا کام یوں ہی چلتا ہے کہ کوئی لگاتا ہے کوئی کھاتا ہے۔

خلیفہ نے یہ معقول جواب سن کر کہا نعم (یعنی بے شک صحیح ہے) اور ہارون کا یہ قاعدہ مقرر کیا ہوا تھا کہ جس شخص کی بات پر ہم کہہ دیں اس کو ایک ہزار درہم یا دینار دیئے جائیں چنانچہ) وزیر نے اسی وقت ایک ہزار کا توڑا اس کے حوالے کیا۔ اس کے بعد دونوں چلنے لگے تو بوڑھے نے کہا میری ایک بات سنتے جاؤ کہا بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا کہ کسی کائن تو میں پچیس سال میں پھل لاتا ہے مگر میرا بیچ ایک ہی ساعت میں پھل لے آیا خلیفہ نے کہ نعم۔ وزیر نے ایک ہزار کا دوسرا توڑا اس کے حوالے کیا پھر آگے چلنے لگے تو بوڑھے نے کہا ایک بات اور سنتے جاؤ کہ کسی کائن تو سال بھر میں ایک بار پھل لاتا ہے اور میرا بیچ ایک ساعت میں دوبار پھل لے آیا۔ خلیفہ نے کہا نعم وزیر نے ایک ہزار کا تیسرا توڑا اس کے حوالے کیا۔ اور خلیفہ سے کہا کہ بس اب تیز چلنے۔ یہ بوڑھا تو بڑا عقائد ہے ہم کو لوٹ لے ہی لے گا۔ صاحبو! جب سلاطین دنیا کی یہ عطا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر خوش ہو کر اتنا دیتے ہیں تو حق تعالیٰ اگر بے شمار عطا فرمادیں تو کیا تعجب ہے۔ حق تعالیٰ کی عطا تو دیکھنے کے کس قدر دیتے ہیں۔ مصیبت پر الگ ثواب ہے۔ صبر پر جدا اجر ہے مصیبت سے عافیت حاصل ہو اور شکر کرو تو اس پر الگ ثواب ہے مصیبت دور کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس پر الگ ثواب ہے پھر خلود رہا الگ کہ ان نعمتوں کو زوال ہی نہیں ہے۔

---

۱۔ کیونکہ اس نے سلسلہ اعداد شروع کر دیا تھا جو کہ غیر متناہی سلسلہ ہے جس کی کہیں انتہائیں وہ اس کے بعد یوں کہتا کہ سہرابیع تمن بار پھل لایا پھر کہتا چار بار پھل لایا۔ اس لئے وزیر نے سلسلہ غیر متناہی سے بچتے کے لئے دہاں سے چلنے کا مشورہ دیا کیونکہ متناہی سے غیر متناہی سلسلہ کا حق اونہیں ہو سکتا۔ ۱۲۔

## جنت کی غذا

خلود پر بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ جنت میں ہمیشہ کھائیں گے تو پا خانہ کہاں کریں گے؟ اگر جنت ہی میں پا خانہ کیا تو وہ بھم پولیس ہو جائے گی اور پا خانہ نہ کیا۔ بلکہ سب جزو بدن ہو گیا تو اجزاء بڑھتے اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ انھنا بھی محال ہو جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کھانے کے بعد پا خانہ کرنا جب ضروری ہے کہ غذا میں فضلہ ہو۔ جنت کی غذا میں فضلہ بالکل نہ ہو گا۔ بلکہ اس کے سارے اجزاء ویسے ہی ہوں گے جیسے دنیا کی غذا کا وہ حصہ ہے جس کا خون بنتا ہے پا خانہ نہیں بنتا۔ رہایہ کہ پھر موٹے ہو جائیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں حرکت و طیاراں بہت رہے گا۔ کبھی یہاں سے وہاں اڑ گئے کبھی یہاں سے وہاں بھاگ گئے اس طرح غذا تخلیل ہوتی رہے گی اور زیادہ موٹا پانہ آئے گا۔

## متنا ہی عمل پر غیر متنا ہی ثواب

بعض نے خلود پر یہ اشکال کیا ہے کہ عمل متنا ہی کا ثواب غیر متنا ہی عقل کے خلاف ہے اسکا جواب یہ ہے کہ تم بے وقوف ہو، انعام چاہے جتنا بھی زیادہ ہوا سکو خلاف عقل کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دوسرے ہم کو یہ مسلم نہیں کہ عمل متنا ہی ہے کیونکہ خلود ایمان کا بدله ہے اور ہر مؤمن کی نیت یہ ہے کہ میں ہموہ مؤمن رہوں گا۔ خواہ ہزار سال کی عمر ہو یا ایک لاکھ برس کی، کوئی مسلمان زوال ایمان کا وسوسہ بھی نہیں لاتا۔

وَنِيهِ الْمُؤْمِنِ ابْلَغَ مِنْ عَمَلِهِ "اللَّهُ تَعَالَى" كے نزدیک نیت عمل سے بھی زیادہ ہے، (ابحاف السادة المتفقین: ۱۵: ۱۰)

اس لئے مؤمن کی اس نیت کا صلد غیر متنا ہی کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح کافر کو خلود جہنم بھی اسی لئے ہے کہ وہ اپنے عقیدے کفر پر ہمیشہ جتہ رہنے کا قصد رکھتا تھا۔ غرض پہلے بیان کا حاصل یہ تھا کہ مصیبت مصیبت ہی نہیں بلکہ تجارت ہے۔

## المصیبت کے منافع

آج کے بیان کا حاصل یہ ہے کہ مصیبت مصیبت تو ہے مگر اس کی حکمتون اور مصلحتوں کا استحضار کر کے اس کو نعمت سمجھو اور مصلحت مختلف علاجوں کے بتانے میں یہ ہے کہ طبائع مختلف ہیں بعض طبائع مصیبت کو بلا واسطہ نعمت نہیں سمجھ سکتیں تو ان کا اس طرح علاج کیا گیا کہ تم اس کو مصیبت ہی نہ سمجھو۔ مگر اس میں یہ منافع بھی نہیں ہیں ان کو سوچو۔

ایک نفع مصیبت کا یہ ہے کہ اس سے باطن کا بہت جلا ہو جاتا ہے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ

رسوی کے مجاہدات سے باطن کو وہ نفع نہیں ہوتا جو ایک ساعت کے حزن سے ہوتا ہے۔ خاص کر ایمان کو اس سے پختگی ہوتی ہے جو تمام امور باطنہ میں سب سے افضل ہے۔ چنانچہ اور معلوم ہو چکا ہے کہ مصیبت سے ایمان کی ترقی و تحسیں ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ سے خاص تعلق ہو جاتا ہے جو سالک کا اصل مطلوب ہے۔ نیز عبدیت کا بھی غلبہ ہو جاتا ہے جو تعالیٰ ..... مقام ہے اب آیت کا ایک جملہ رہ گیا ہے۔

**وَاللَّهُ عَلِيهِمْ مِّنْ بَدَائِ الْصَّدُورِ** ”اللَّهُ تَعَالَى سب باطن کی چیزوں کو خوب جانتے ہیں“

میرے ذوق میں اس جملہ سے ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں کو لیستِ اللہ مَا فِيْ صُدُورِكُمْ وَلِيُّمَحْضَ مَا فِيْ قُلُوبِكُمْ سے یہ وسوسہ ہو سکتا ہے کہ دوا سے تو علاج اسی مرض کا ہوتا ہے جس کا ہم کو علم اور ہم اس کے علاج کا قصد کریں۔ اور اگر ہم نے ایک مرض کا علاج کیا جس کا ہم کو علم تھا تو اس سے دوسرے مرض کا توازن نہ ہو گا جس کا علم نہیں۔ جیسا بعض لوگوں کو استغفار میں بھی یہی خیال ہے کہ توبہ و استغفار سے وہی گناہ معاف ہوتا ہے جس کا نام لیا جائے۔ یادل میں خیال کیا جائے اور جس گناہ کا اس وقت خیال بھی نہ ہو وہ معاف نہ ہو گا۔ خلاصہ یہ کہ ان لوگوں کو یہ وسوسہ ہوا کہ مصائب سے تحسیں کامل نہ ہو گی۔ کیونکہ ہم کو اپنے بہت سے امراض کا علم نہیں ہوتا اور بہت سے گناہ ہم کر کے بھول جاتے ہیں تو یہ گناہ کیونکر معاف ہوں گے۔

اللَّهُ تَعَالَى نے وَاللَّهُ عَلِيهِمْ مِّنْ بَدَائِ الْصَّدُورِ میں اس شبہ کا جواب دیا ہے کہ تمہارا یہ گمان صحیح نہیں کہ علاج سے اسی مرض کا ازالہ ہوتا ہے جس کا سریض کو علم ہو یا کہ طبیب کا علم کافی ہے اور اللَّهُ تَعَالَیٰ کو تھارے قلوب کو پوری حالت معلوم ہے تو وہ ان مصائب سے سب امراض کا علاج کر دیں گے اور سارے گناہ و ہودیں گے اور استغفار میں بھی یہی بات ہے کہ اجمالی استغفار سب گناہوں کی مغفرت کے لئے کافی ہے۔

ای طرح حدیث میں ہے واستغفر ک ممَا تعلم و لا اعلم (میں تجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں جس کو آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا) یہ دوسری رحمت ہے جو مصائب سے حاصل ہوتی ہے۔ پس ان منافع و مصالح کو پیش نظر کر کر مصیبت کی پریشانی کو بلکا کرنا چاہئے۔ اور مایوس نہ ہونا چاہئے اور آئندہ کے لئے بھی اعمال صالح کی پابندی کا عہد کرنا چاہئے کہ ہمیشہ عبدیت کا یہی برداور کھوں گا۔ جو مصیبت میں تھا۔ اور ان مصایب میں کو یاد کر کے غم و حزن کو کم کرنا چاہئے۔ اب دعا کیجئے کہ اللَّهُ تَعَالَیٰ ہم کو فہم سلیم عطا فرمائیں۔ اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں۔

وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سِيدِ الْخَلْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى

اللَّهِ وَاصْحَابِهِ اجمعِينَ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

## الجبر بالصبر

یہ وعظ ۲۳ ذی الحجه ۱۴۲۷ھ بروز دو شنبہ بوقت صبح تھانہ بھون  
 میں بر مکان مشی اکبر علی صاحب مرحوم نے کرسی پر بیٹھ کر ان  
 کے لڑکے کی تعزیت کے سلسلہ میں بیان فرمایا جو پونے چار گھنٹہ  
 میں ختم ہوا مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی نے قلمبند کیا۔  
 ۵۰۰ سے زائد کا مجمع تھا۔ عورتیں علاوہ پردہ میں تھیں۔

## خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكّلُ عَلَيْهِ  
وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ النَّفَّاسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا  
مُضِلٌّ لَهُ، وَمِنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، لَا  
شَرِيكَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ، وَصَلَّى  
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ。بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.  
يَا يٰهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيهِنَّ كُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمُ اللّٰهُ فِي قُلُوبِكُمْ  
خَيْرًا يُؤْتُكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخْذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَوَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ

(ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں فرمادیجئے  
کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں کچھ بھلائی (مراد ایمان ہے) دیکھیں گے تو تم کو اس مال سے  
بہتر (عوض) عطا فرمائیں گے جو تم سے اس وقت بطور قدیم لیا گیا ہے اور تمہاری مغفرت فرمادیں  
گے بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشے والے بڑے مہربان ہیں)

تمہرید

مجھ کو اس وقت جو مضمون بیان کرنا ہے یہ آیت اس باب کی تو نہیں ہے مگر اس کے مناسب ہے  
پھر ایک مناسب سے دوسرے مناسب تک پہنچ کر مقصود کا بیان ہو جائے گا۔ اور گوئی مقصود کیلئے خاص آیات

بھی موجود ہیں۔ مگر مجھے اس وقت تعمیم مطلوب ہے اور وہ تعمیم اس مناسب سے زیادہ واضح ہوگی۔ کیونکہ اس میں مقصود کی علت بھی مذکور ہے یعنی ایتاء نعم البدل کی جو کہ مقصود ہے علت کی کہ ایمان ہے مذکور ہے جس کے اشتراک سے مضمون زیادہ عام ہو جائے گا۔ اس لئے اس کوتلاوت میں اختیار کیا گیا ہے۔

تعیم کا یہ حاصل ہو گا کہ یہ آیت مقصود کو اور اس کے نظائر و اشباع سب کو شامل ہو جائے گی۔ اس بیان کا محرك بعض واقعات کا پیش آتا ہے جو اہل واقعات کی طبیعت پر گراں ہیں۔ اس لئے گرانی کے ہلاکار نے کی ضرورت ہے اور وہ واقعات مشترک النوع مختلف الاصناف ہیں۔

اصناف میں بعض وہ ہیں جو چھوٹوں کے فوت ہونے سے تعلق رکھتے ہیں یعنی بچوں کے انقال سے اور ایک واقع ایسا ہے جس میں فوت ہونے والے بعض کے لحاظ سے بڑے تھے۔ بلکہ اکثر کے لحاظ سے بڑے تھے اور بعض کے لحاظ سے ہمسر تھے اور وہ اپنے بھائیوں کے لحاظ سے بھی ہمسر تھے گو کچھ تھوڑا بہت عمر میں فرق ہو مگر اخوت کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں ہمسری کا رنگ غالب ہوتا ہے تھوڑے سے فرق سے اس میں ہمسری فوت نہیں ہوتی۔

یہ واقعات تو اقارب میں پیش آئے تو کل ایک دوست مہماں آئے ہیں ان کے پچھے کا انقال ہو گیا ہے۔ تو اب یہ مضمون اقارب و احباب سب کے لئے خاص طور پر مفید ہے اور چونکہ اس وقت تعمیم کے ساتھ بیان ہو گا۔ اس لئے ہر ناگوار واقعہ میں اس سے نفع ہو گا۔ اور کم و بیش ہر شخص کو دنیا میں کوئی نہ کوئی واقع ناگوار ضرور پیش آتا ہے اور جس کو پیش نہ آیا ہو اس کو آئندہ پیش آنے کا احتمال ہے۔ اس لئے یہ مضمون سب کی ضرورت کا ہے۔

اسی لئے علوم دینیہ کی ہر شخص کو ضرورت ہے تاکہ وقوع کے وقت اس سے کام لیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے واقعات کا بھی پہلے سے انتظام فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

سَيَقُولُ الْسُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا

اب تو بے وقت لوگ کہیں گے کہ ان (مسلمانوں) کو ان کے (سابق سمت) قبلہ سے جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے کس (بات) نے بدل دیا۔

یہ آیت تحویل قبلہ کے متعلق ہے کیونکہ قبلہ کے احکام اول اول بدلتے رہتے تھے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عارضی قبلہ بنایا تھا اور آئندہ اسکو منسوخ کرنا تھا اور اس پر کفار کی طرف سے اعتراض واقع ہونے والا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا کہ

آنندہ واقع ہونے والے اعتراضات سے مسلمانوں کو زیادہ رنج نہ پہنچ۔ تو پہلے ہی سے اطلاع فرمادی کہ بیوقوف اور نادان لوگ تمہارے اوپر اس طرح اعتراض کریں گے تم ان سے دلگیر نہ ہونا۔

## حقیقی کمال

اس اہتمام کی وجہ یہ ہے کہ اعتراض سے اثر تو ہوتا ہی ہے اکابر پر بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی صبر کرتا ہے کوئی جواب دیتا ہے اور انتقام لیتا ہے۔ ہمارے اکابر کا معمول یہ ہے کہ وہ ایسے موقع پر صبر کرتے ہیں اور اس میں ایک لطیف راز ہے جو ذوق قائمیرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ یہ حضرات ہر شخص کو اس کے مقصود تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور یونکہ معارض کا مقصود دایدا ہے۔ اسلئے اسکو مقصود میں کامیاب کرنے کے لئے جواب نہیں دیتے کہ اگر جواب دیں گے تو اس کا مقصود حاصل نہ ہو گا کیونکہ جواب دیتے سے شفاعة غیظ ہو جاتا ہے اور اعتراض کا اثر ہلاکا ہو جاتا ہے۔ پس وہ ایک مسلمان جائی خوش کرنے کے لئے جواب نہیں دیتے۔

غرض اہل اللہ بے حس نہیں ہوتے۔ ان کو بھی اعتراض سے اثر ہوتا ہے ان کا بھی دل لکھتا ہے مگر وہ بعض وجہ سے صبر کرتے ہیں اگر اعتراض سے اثر نہ ہو صبر میں فضیلت ہی نہ ہو گی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے:

**وَإِذَا مَا عَصَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔** ”اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔“

فرمایا ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو معافی اور درگذر سے کام لیتے ہیں۔ لم یغصبو انہیں فرمایا کہ ان کو غصہ ہی نہیں آتا۔ کیونکہ غصہ کا آنا کمال نہیں کمال یہ ہے کہ غصہ آئے اور اس کے مقتضی پر عمل نہ ہو۔ بعض لوگ اہل اللہ کو فانی سمجھ کر ان کے ساتھ ایسا برداشت کرتے ہیں کہ بے وہر ک جو چاہتے ہیں اسکے لئے اس کو احتراض کر دیتے ہیں اور یہ صحیح ہے کہ ان پر اثر نہ ہو گا سو وہ خوب سمجھ لیں کہ اثر ان پر بھی ہوتا ہے اور وہ صبر کرتے ہیں اور ان کے صبر کا دبال اشد ہے۔ حضرات صحابہؓ کو بھی اعتراض سے ناگواری ہوتی تھی کیونکہ اس میں اجر ہے۔ مگر ناگواری زیادہ ہو تو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے جس سے دنیا اور دین کے کاموں میں خلل واقع ہونے لگتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام

لے۔ وفيه ان هذا المقصود حرام ولا عانة على الحرام ولا سلم ان يقال انهم لا يجيرون عملا بقوله تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامر (ب ۲۵) وانما كان من عزم الامر لعافيه من مجاهدة النفس وتسكين الدھماء لما في الانتقام ولا تحصار للنفس الازلة الفتنة وزيادة تها ولذا سمعى الله تعالى جزاء سینة وان كان عدلا في الحقيقة ولكن بزيد الشر وبروت البقضاء وفيه ان نداء من الاحوال لا من الاعمال ولا عانة من الاعمال ۱۲۔

فرمایا کہ گوتا گواری ہو مگر ہلکی ہوتا کہ قابل برداشت ہو جائے اور اجر زیادہ ہو۔  
حاصل انتظام کا یہ ہے کہ پہلے سے خبر دیدی کہ بے وقوف لوگ عنقریب اعتراض کریں گے۔

## راحت کی صورت

ظاہر ہے کہ پیش آنے والی بات سے پہلے ہی مطلع کر دیتا نا گواری کو کم کر دیتا ہے کیونکہ نا گواری خلاف توقع سے ہوا کرتی ہے مثلاً آپ کسی شخص سے یہ توقع کر کے ملنے جائیں کہ وہ آپ کی بہت زیادہ تعظیم و مدارات کرے گا۔ اس کے بعد اگر اسکی طرف سے ذرا بھی خاطر کرنے میں کمی ہوگی تو بہت رنج پہنچ گا اور اگر اس سے کوئی توقع نہ ہو تو اب اس کی بے رخی اور روکھے پن سے زیادہ ملال نہ ہو گا کیونکہ اس سے کچھ امید ہتی پہلے سے نہ تھی۔ غرض نا گواری ہمیشہ خلاف توقع سے ہوتی ہے۔

اسی لیے حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ نے ایک بار اپنے استاد الاستاد کا مقامہ بیان فرمایا کہ راحت اگر چاہتے ہو تو کسی سے توقع نہ رکھنا۔ پھر مولانا نے حاضرین جلسے سے فرمایا کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ خدام نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے مریبی اور محسن ہیں اور ہم سے زیادہ ہمارے حال پر شفقت فرماتے ہیں۔ فرمایا۔ مگر میں تم سے خیرخواہی کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے سے بھی توقع نہ رکھنا۔ اسکا اثر ہو گا کہ اس حالت میں جو کچھ خدمت مجھے سے ہوگی اس کو غنیمت سمجھو گے اور خلاف توقع ہونے کی وجہ سے سرست ہوگی اور کسی وقت میں خدمت میں کمی کروں تو تم کو شکایت اور نا گواری نہ ہوگی۔

یہی راز اس کا ہے کہ میں نے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حاجی صاحبؒ کے وصال کے بعد بیعت نہیں کی۔ حالانکہ مجھے رغبت تھی۔ مگر میں نے اسی لئے بیعت نہیں کی کہ حضرت کی عنایات تو میرے حال پر بدوس بیعت کے بھی بہت ہیں اور جس تعلق کے لئے بیعت کی جاتی ہے وہ مجھے بدوس بیعت کے بھی حضرت سے حاصل ہے اور بیعت سے یہ ہو گا کہ حضرت کے حقوق مجھ پر زیادہ ہو جائیں گے اس وقت اگر کسی بات میں بھی کمی ہوئی تو ممکن ہے حضرت کو نا گواری ہو اور اب حضرت کو میری طرف سے کسی قسم کے حقوق کا انتظار نہیں میں جس قدر بھی حق تعلق ادا کروں وہ سراسر موجب انتراح ہے تکدر کا احتمال ہی نہیں اور بیعت کے بعد تکدر کا احتمال بھی تھا۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس کو میرے نفس کی تاویل سمجھے گر حقیقت میں جو وجہ تھی وہ میں نے بیان کر دی۔

بہر حال چونکہ نا گواری ہمیشہ خلاف توقع سے ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مطلع فرمایا دیا کہ تم پر اعتراضات بھی ہوں گے اس لئے ان کے لئے بھی آمادہ ہو جاؤ۔

## پریشانی کی وجہ

نہیں سے نکتہ معلوم ہوتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نَّزَّلَ لِلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةً فَرَمَيَا نَّاسًا بَعْضَهُمْ مِّنْ تِلَادِهِ يَأْكُلُونَهُ كیونکہ اذا یقین کے موقع پر استعمال ہوتا ہے اور ان احتمال کے موقع پر اذا

اصابتهم میں بتلا دیا گیا ہے کہ مصیبت تو آوے ہی گی

ہر آنکھ زاد بنا چار بایدش نوشید      زجام دہرے کل من علیہما فان

”جو بھی پیدا ہوا ضروری طور پر اسے فتا کی شراب زمانے کے پیالے سے پینی ہوگی۔“

اس علم کے بعد مصیبت سے وہ غم نہیں ہوتا جو دفعۃ آنے سے ہوتا ہے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ بڑے عاقل ہیں جو موت کو ہر دم یاد کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان پر موت دفعۃ آنے آئے گی۔ اس لئے ان کو موت سے وحشت بھی نہ ہوگی۔ دنیا دار اپنے کو عاقل سمجھتے ہیں یہ غلط ہے وہ بہت سے بہت آکل ہیں عاقل نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے دل میں حساب و کتاب معاش کا لگاتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے منصوبے قائم کرتے ہیں اور وہ حساب و کتاب پورا ہوتا نہیں کیونکہ

ما کل ما یعنی المرء یہ درکہ      تجربی الریاح بما لاتستھی السفن

”انسان کی ہر آرزو پوری نہیں ہوا کرتی کیونکہ ہوا میں کبھی کشتی کے خلاف بھی چلتی ہیں۔“

توجب خلاف امید و اقدامات ان کو پیش آتے ہیں اس وقت سخت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اور اہل اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ سمجھتے ہیں۔ شاید ہمیں نفس نفس واپسیں بود۔ اور اس کا محض احتمال کافی نہیں کیونکہ احتمال تو سارے عالم کو ہوتا ہے کہ شاید آج موت آجائے بلکہ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے اس شخص کی حالت ہوتی ہے جس کے پاس باادشاہ کا پیام پہنچ جائے کہ آج ہم تم کو بلا نے والے ہیں۔ تیار رہنا اور کوئی وقت مقرر نہ کرتے تو آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کا سارا دن اہتمام ہی میں گزر جاتا ہے اسی طرح اہل اللہ ہر وقت اپنے معاملات کو صاف کرتے رہتے ہیں تاکہ جس وقت بلاوا آجائے خوشی سے چلنے کو تیار ہو جائیں۔

## مقروظ کا فرض

صاحب! احتمال وہی معتد بہے جس کے مقتضاض پر عمل ہو ورنہ یوں توڑا کو بھی ڈاکھڑا لئے کے وقت مزا کا احتمال ہوتا ہے مگر جب اسکے مقتضاض پر عمل نہ ہو ایسا احتمال چوہہ میں ڈالنے کے قابل ہے پس اہل اللہ

کوشاید ہمیں نفس نفس واپسی بود کا احتمال مع اعمال ہوتا ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے سبکدوٹی کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ اگر نمازیں فوت ہوئی ہوں انکو قضا کر لیتے ہیں یا قضا کرتے رہتے ہیں۔

اس پر تم شاید یہ کہو کہ دس سال کی نمازیں ایک دن میں کس طرح قضا ہوں گی اور جب قضا نہ ہو سکیں تو ہر دم موت کے لئے کیونکر تیار ہو سکیں گے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس شخص کو ادا کا اہتمام ہو گیا اور اپنی وسعت کے موافق کام بھی کرنے لگا۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مثل ادا کرنے والے ہی کے ہے۔ پس وہ اپنی وسعت کے موافق ادا کرتا رہے اور جو رہ جائے اس کے متعلق وصیت کر جائے جو شکست مال سے زیادہ میں صحیح نہیں اور اس میں بھی بندوں کے حال پر عنايت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کو (بجهان کے احتیاج کے) اپنے حقوق سے (بجهہ استغفار کے) مقدم رکھا۔ پس فرمادیا کہ نمازو روزہ وغیرہ کے فدیہ کی وصیت شکست سے زائد میں نہ کرو۔ کیونکہ اس میں ورش کا نقصان ہے اور ہمارا کوئی نقصان نہیں۔

ہم تو اگر چاہیں ویسے بھی معاف کر دیں گے۔ پس اگر کسی شخص کے ذمہ لوگوں کا ایک لاکھ روپیہ قرض ہو اور وہ آج ادا کرنے کا ارادہ کرے تو جتنا اس سے ہو سکے ادا کرنا شروع کرے جس کے لئے اس کی ضرورت نہیں کہ اپنے کو زیادہ تنگی میں ڈالے۔ بلکہ اپنے حوانج ضروری سے جو فاضل ہو اس کو قرض میں دینا شروع کرے خواہ ایک ہی روپیہ ماہوار ادا کرنا شروع کر دے تو وہ آج ہی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سبکدوٹ قرار پائے گا۔ مگر یہ ضروری ہے کہ فضول خرچوں کو بند کر دے اب اگر اس نے ایک لاکھ میں سے پچاس ہی ادا کئے اسکے بعد موت آگئی تو وہ عند اللہ کا مسودی ہے۔

یہ جو میں نے کہا ہے کہ مقرض کو فضول خرچ بند کر دینا چاہئے اس پر ایک قصہ یاد آیا کہ مولانا نواب قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مقرض تھے ایک دفعہ آپ نے دہلی کے سب بزرگوں کی دعوت کی۔ شاہ محمد الحنفی صاحب کو بھی مدعو کیا اور مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی کو بھی مدعو کیا۔ سب حضرات نے تو دعوت قبول کر لی۔ مگر مولانا مظفر حسین صاحب نے منظور نہ کیا۔ نواب صاحب نے شاہ الحنفی صاحب سے ان کی شکایت کی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی مظفر حسین کیا تم کون نواب صاحب کی آمدی میں بھی شبہ ہے اور کیا تمہارے نزدیک ہم نے مشتبہ مال کی دعوت قبول کی ہے۔ مولانا مظفر حسین صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے سامنے کیا چیز ہوں۔ جو نواب صاحب کے مال کو مشتبہ بھوؤں۔ مگر میں نے اس واسطے دعوت سے غدر کیا کہ نواب صاحب مقرض ہیں اور دعوت میں وہ

ریسانہ خرچ کریں گے جو تین چار سور و پیسے کم نہ ہوگا۔ اور مقرض کو ایسا کرنا جائز نہیں۔ ان لازم ہے کہ جو تم دعوت میں خرچ کریں اس کو قرض ہی میں ادا کرویں تو عند اللہ کچھ سبکدوشی ہو جاوے۔ شاہ صاحب نے یہ بات سن کر فرمایا کہ بھائی اس طرف ہمارا ذہن بالکل نہیں گیا۔ واقعی تمہاری رائے صحیح ہے اور اب ہم بھی دعوت قبول نہ کریں گے۔

چنانچہ سب بزرگوں نے انکار کر دیا اور یہی کہا کہ آپ کو بجائے دعوت میں رقم لگانے کے قرض میں ادا کرنا چاہئے حالانکہ ان کے قرض میں اس رقم سے کچھ سہارانہ لگتا تھا کیونکہ قرض بہت تھا۔ مگر عند اللہ اتنا ادا کرنا معتبر ہے دنیاداروں کے یہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ ایک لاکھ سے ایک روپیہ ادا کرنا معتبر نہیں مگر عند اللہ معتبر ہے یعنی وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔

دنیاداروں کی تو یہ حالت ہے کہ ایک رجہ پر ایک لاالہ کا قرض تھا اس نے عدالت میں ناش کی۔ حاکم نے لاالہ سے کہا کہ سود معاف کر دو اور اصل لے لو اس نے انکار کیا کہ ہمارا تو کاروبار سود ہی پر ہے اور یہی ہماری کمائی ہے اس کو کیونکر معاف کر دوں۔ حاکم نے کہا بہت اچھا تم اصل بھی لو اور سود بھی لو۔ چنانچہ اس نے مع سود کے ڈگری کر دی۔ مگر فیصلہ میں یہ لکھا کہ قرض قطع وار وصول کیا جائے اور قطع ایک روپیہ سال مقرر کر دی۔ کیونکہ حاکم کو یہ اختیار ہے کہ جتنی چاہے قطع مقرر کر دے۔ اس فیصلہ سے لاالہ تو گویا زندہ درگور ہو گیا۔ اس کے نزدیک یہ اداقتیل شمارہ ہوئی۔ مگر عند الحاکم معتبر ہے۔

وہ شبہ جاتا رہا کہ اگر کسی کے ذمہ دس سال کی نمازیں قضا ہوں یا دس لاکھ روپیہ قرض ہو تو وہ ایک دن میں کیونکر سبکدوش ہو سکے گا۔ سو میں نے بتلا دیا کہ ایک دن کے اندر ہی انسان تمام حقوق سے حکما سبکدوش ہو سکتا ہے۔

## موت سے وحشت

اہل اللہ موت کو یاد کرتے ہیں اور اس کے مقضا پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس سے ان کو آخرت کا نفع ہوتا ہے دنیا میں بھی راحت ہوتی ہے کیونکہ جب وہ ہر دم موت کو یاد کرتے ہیں تو کسی مصیبت سے وہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ جب ان کو موت سے جو اشد الحوادث ہے وحشت نہیں تو اور کسی حادث سے پریشانی کیوں ہوگی اور دنیادار کو موت سے بہت وحشت ہے اس لئے وہ ہر ایسی مصیبت سے پریشان ہو جاتا ہے جس میں موت کا خطرہ ہو۔

چنانچہ شاید مولا ناجامی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بڑھیا کی لڑکی جس کا نام مہستی تھا

بیمار ہوئی تو بڑھیا اس کی محبت میں کہا کرتی کہ اے موت مجھے لے اور بچی کو چھوڑ دے ایک دن وہ گھر میں بیٹھی تھی کہ اس کی گائے محلہ میں کسی کے گھر چلی گئی اور ہانڈی میں منہ ڈال دیا۔ ہانڈی اس کے منہ میں پھنس گئی اور وہ اسی حلیہ سے گھر میں آئی تو بڑھا یہ سمجھی کہ یہ موت ہے جس کو میں روزانہ پکارا کرتی تھی تو وہ گھبرا کر کہتی ہے کہ

گفت اے موت من نہ مہستیم              پیر زال غریب محتشم  
”اے موت! میں مہستی نہیں ہوں مہستی تو وہ سامنے پنگ پر پڑی ہے میں تو غریب بڑھیا ہوں۔“  
موت کے خیال سے ہی ساری محبت اور مانتا جاتی رہی۔ اب وہ موت سے کہتی ہے کہ مہستی وہ پڑی ہے اے لے لے۔

### انسان کی خود غرضی

بات یہ ہے کہ انسان بڑا خود غرض ہے اس کو اولاد سے محبت بھی اپنے حظ و نفس کے لئے ہے کہ ان کے تماشے اچھے معلوم ہوتے ہیں اور یہ جو بعض لوگ کسی کی محبت میں جان دیتے ہیں شاید کوئی یہ سمجھے کہ وہ دوسرے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے یہ غلط ہے بلکہ وہ بھی حظ و نفس کے لئے جان دیتا ہے کیونکہ وہ رنج عشق کے خل سے اپنے کو عاجز سمجھتا اور جہل کی وجہ سے موت کی تکلیف کو اس سے اخف سمجھتا ہے اس لئے وہ موت کو اس کلفت پر اپنی ہی راحت کے لئے ترجیح دیتا ہے۔ پس انسان سب خود غرض ہیں۔ خواہ دین کی غرض ہو یا دنیا کی۔ پھر دینداروں میں بھی کوئی ثواب کی نیت کرتا ہے کوئی ثواب سے بھی بالا ہے مگر وہ بھی خود غرض ہے کیونکہ وہ رضاۓ حق کا طالب ہے اور یہ غرض سب سے بالا ہے۔

جیسے ایک صاحب حال بزرگ کے سامنے کسی نے دوسرے کو کہا پانی پلا دے ثواب ہو گا یہ سن کر فرمایا ہے ثواب کیلئے پانی پلاتے ہو محبوب کیلئے نہیں پلاتے۔ ظاہر میں یہ بزرگ بے غرض معلوم ہوتے ہیں۔ مگر حقیقت میں وہ بھی غرض مند تھے کیونکہ وہ ایسی غرض کے طالب تھے جس سے بڑھ کر کوئی غرض نہیں۔ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک بار رسالہ ارشاد مرشد مجھے دیا کہ مطبع نظامی میں طبع کر دیا جائے کیونکہ مطبع نظامی میں صحیح و خوبی طبع کا اہتمام تمام مطبوعوں سے زیادہ تھا چنانچہ رسالہ طبع کر کر میں حضرت کی خدمت میں لے گیا حضرت نے اسکے مصارف دریافت فرمائے تو میں نے عرض کیا حضرت عبدالرحمٰن خان صاحب بڑے سمجھی ہیں۔ انہوں نے اس کا کچھ عرض تھیں لیا مخصوص ثواب کیلئے طبع کر دیا ہے فرمایا کہ عبدالرحمٰن خان کو تم سمجھی کہتے ہو وہ بڑے بخیل ہیں کہ ایک روپیہ کے

بدلہ میں سات سوروپے کے طالب ہیں۔ انہوں نے یہاں بھی اپنی تجارت کو نہیں چھوڑا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان سب خود غرض ہیں۔ اس لئے اپنی جان سے زیادہ کسی کو کسی سے محبت نہیں اس لئے دنیادار لوگ موت سے مصائب سے بہت گھبراتے ہیں اور اہل اللہ چونکہ موت کو یاد رکرتے رہتے ہیں اور اس کے لئے ہر دم تیار رہتے ہیں اس لئے اب ان کو نہ یہوی کے مرنے کا رنج ہوتا ہے نہ بچہ کا۔ کیونکہ وہ تو خود ہی موت کے لئے تیار ہے اور ان کی ہر بات سے دوسروں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر دم موت کے لئے تیار ہیں۔

چنانچہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی خدمت میں ایک شخص روتا ہوا آیا کہ حضرت میری یہوی مر رہی ہے دعا فرمادیجئے کہ حق تعالیٰ اس کو شفاعة طافرمائیں۔

حضرت نے ہنس کر فرمایا کہ عجیب بات ہے ایک شخص قید خانہ سے چھوٹ رہا ہے اور دوسرا روتا ہے کہ یہ قید خانہ سے کیوں رہا ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت میری روٹی کون پکائے گا۔ فرمایا جی ہاں جب تم مال کے پیٹ میں تھے تو وہ وہاں بھی تم کو روٹی پکا کر کھلاتی ہو گی۔

پھر فرمایا کہ میاں تم بھی چند روز میں وہیں پہنچنے والے ہو جہاں وہ جا رہی ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ آیا یہوی کو موت سے بچانے اپنی ہی موت کی بشارت لے چلا۔

اس وقت تک تو حضرت ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک ایسی بات پر برہم ہو گئے جو آج کل برہم ہونے کی بات نہیں سمجھی جاتی بلکہ حب دین کی بات سمجھی جاتی ہے وہ کہنے لگا کہ حضرت فلاں شخص نے مجھے مدینہ لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ اب وہ وعدہ سے ہٹنے لگا ہے دعا فرمادیجئے کہ وہ مجھے مدینے لے جائے۔ بس حضرت یہ سننے ہی برہم ہو گئے فرمایا۔ ہمارے سامنے شرک کی باتیں نہ کرو۔ (غیر اللہ پر اتنی نظر کہ اس کے ہی لے جانے سے تو تم مدینہ پہنچو گے)

حضرت کی مجلس میں بیٹھ کر بات بات سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہر دم موت کے لئے تیار ہیں اور ہر کام میں خدا تعالیٰ پر نظر ہے اب ایسے شخص پر موت گراں کیوں ہو گی اور کسی مصیبت سے کیوں پریشان ہو گا۔

غرض جس مصیبت کے لئے انسان پہلے سے آمادہ رہے اس پر وہ مصیبت خفیف ہو جاتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سَيَقُولُ الْسُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ میں صحابہ کو پہلے سے مطلع فرمادیا کہ تحویل قبلہ کے وقت تم پر اعتراضات ہوں گے ان کے لئے آمادہ ہو جاؤ۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ آئندہ واقعات سے مسلمانوں

کو زیادہ رنج و کلفت نہ ہوا اور اسی لئے شریعت کی تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم میں اس کا لحاظ فرمایا ہے کہ پریشانی اور غم اس سے ہٹا کا ہو جاتا ہے۔ میں ایسا ہی مضمون بیان کرتا ہوں کہ اس کے استھنار سے کسی غم میں ٹھق نہ رہے گا۔ یہاں تک داعی اور محرك کا بیان تھا۔

اب میں مضمون کا حاصل حقیقت کے لحاظ سے بتانا چاہتا ہوں تو اس مضمون کی حیثیت اس عنوان سے جو آج بیان ہو گا۔ شاید کبھی سننے میں نہ آئی ہوگی۔ اس لحاظ سے یہ تعلیم جدید ہے۔ گوفی الواقع علوم دینیہ سب قدیم ہیں مگر ہمارے علم و سماں کے لحاظ سے بعض علوم جدید ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو نہیں یا خاص عنوان سے نہیں سنا۔

### مصیبت کی حقیقت

خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ جنگ بدر میں (اور بدر ایک موقع کا نام ہے جہاں غزوہ ہوا تھا) کچھ کفار قید ہو کر آئے تھے جن کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ حق تعالیٰ کو یہ امر ناپسند ہوا۔ جس کا اور پر ذکر ہو چکا ہے اس کے بعد ان قیدیوں کے متعلق ارشاد ہے:

**يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيهِكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنَّمَا يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ  
خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخِذْتُمْ مِنْكُمْ وَإِنْفَرَلَكُمْ**

اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرمادیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں کچھ بھلانی دیکھیں گے (مراد ایمان ہے) تو تم کو اس مال سے بہتر (عوض) عطا فرمائیں گے۔ جو تم سے (اس وقت فدیہ لیا گیا ہے اور تمہاری مغفرت فرمادیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اس جملہ میں اعطافی الدنیا مراد ہے اور جملہ ثانیہ میں اجر آخرت مراد ہے ویغفر لكم یعنی آخرت میں تمہاری مغفرت فرمادیں گے واللہ غفور رحیم کہ اللہ تعالیٰ تو بہت مغفرت فرماتے والے اور حرم فرمانے والے ہیں (اس لئے تم کو اس وعدہ میں تردید نہ کرنا چاہئے)

حاصل آیت کا یہ ہے کہ اگر تمہارے دل میں ایمان ہو تو نہم کو اس مالی۔۔۔ نقصان کا اندر یہ نہ کرنا چاہئے جو فدیہ سے اس وقت پہنچا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا و آخرت میں اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ہر نقصان و مصیبت کا نعم البدل ملتا ہے اور ہر چند کا مورد آیت کا خاص ہے مگر جس امر پر اس وعدہ کو مرتب فرمایا ہے وہ مورد کے ساتھ خاص نہیں

بلکہ عام ہے اس لئے آیت سے یہ قاعدة مفہوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ہر مصیبت کا نعم البدل ملتا ہے۔ یہاں تو تعمیم پر کوئی صیغہ صراحة دال نہیں مگر دوسری نصوص سے اس تعمیم کی تائید ہوتی ہے۔ اس وعدہ اور قاعدة کو بلوظ رکھ کر ایک اور حقیقت واضح ہوئی وہ یہ کہ مصیبت کی حقیقت تجارت ہے۔ یہی حقیقت ہماری نظر سے غائب ہوتی ہے اس لئے مصیبت سے رنج زیادہ ہوتا ہے۔

اب دیکھو کہ تجارت میں انسان یہ چاہا کرتا ہے کہ میرے مال کی نکاسی ہو کر جو چیزیں میرے ہاتھ کے تسلی ہیں ان کا لینے والا، خریدنے والا ہو۔ اگر خریدار کوئی نہ آئے تو تاجر گھبرا جاتا ہے۔ خاص کر ایسی اشیاء میں جو باقی رہنے والی نہیں جیسے کل کے روز برف بہت ارزش دہلي کے بھاؤ پر مل گئی تھی کیونکہ خریدار کم ہوئے اور برف کا رہنا دشوار تھا اس لئے دہلي کے بھاؤ پر یعنی اپنی خریداری پر ہی دے گیا۔ شہروں میں تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ شام کو برف نہات ارزش ہو جاتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ تاجر اپنے مال تجارت کے پڑا رہنے پر نجیده ہوتا ہے نکل جانے پر نجیده نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ اپنے خریداروں کے ہاتھ ایک محدود نفع پر بیچتا ہے مگر پھر بھی وہ خریداروں کا مشاقر رہتا ہے کہ کوئی میرا مال لے لے۔ مرا سجن ہو تو تولیہ ہی ہو۔ تولیہ نہ ہو تو میل کچھی صافی ہی سکی یعنی نفع نہ ہو کچھ خسارہ ہی کبھی چنانچہ بعض دفعاً یہ مال کو جس کا خریدار کوئی نہ ہو کسی قدر خسارہ سے بھی فروخت کر دیتا ہے۔

جب تجارت کی یہ حقیقت ہے تو صاحبو! اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ واقعات رنج و مصیبت تمام تر تجارت ہی ہیں اور تجارت بھی ایسی جس سے بڑھ کر نفع کسی تجارت میں نہیں ہوتا تو کیا پھر بھی نالہ و شیوں باقی رہے گا۔ میں رنج طبعی کا منکر یا مانع نہیں جو فطری طور پر ہوتا ہے۔ بلکہ میں آگے اس کی ضرورت پر کلام کروں گا کہ طبعی رنج تو ہونا چاہئے ورنہ ثواب واجر ہی نہ ہو گا۔ مگر میں اس وقت رنج عقلی کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں کہ واقعات رنج و مصیبت کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد رنج عقلی نہ ہونا چاہئے۔

### عمل صبر و شکر

خلاصہ یہ ہے کہ حالات دکی دوستمیں ہیں۔ گوارونا گوار۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دوستمیں ہیں۔ اختیاری وغیراختیاری۔ یہ کل چار قسم کے حالات ہوئے جن میں سے ہر ایک کے متعلق جدا جد ا حقوق ہیں اور مومن اگر ان کے حقوق ادا کرتا رہے تو اس کا نعم البدل ملتا ہے اسی لئے مومن کسی حالت میں نقصان میں نہیں۔ بلکہ ہر حالت میں نفع میں ہے اسی لئے حدیث میں ہے نعم الرجل المؤمن ان اصابتہ سراء حمد و ان اصابتہ ضراء صبر و فی کل اجر (لم أجد الحدیث فی "موسوعۃ اطراق الحدیث") او

کما قال ”مومن آدمی بڑی اچھی حالت میں ہے اگر اسکو راحت پہنچتی ہے حمد و شکر کرتا ہے اگر تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے اور ہر ایک میں اسکو اجر ملتا ہے یعنی شکر میں بھی اجر ہے اور صبر میں بھی۔“

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امور غیر اختیاریہ میں جواج ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو اختیار اس وقت مومن سے صادر ہوتے ہیں یعنی راحت میں حمد۔ جس کی حقیقت یہاں شکر ہے اور وہ ایک عمل ہے جو اس نے حق تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا ہے اس کے عوض میں اجر ملتا ہے اور مصیبت میں صبر کرنا بھی ایک عمل ہے جس پر اجر ملتا ہے۔ پس دونوں صورتوں میں نعم البدل اسی عمل پر ملا جو اختیاری ہے۔ پس جس طرح اعمال کے اعطاء و اخذ کے عوض میں بھی انسان کے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ یعنی صبر و شکر مثلاً حق تعالیٰ بنده کو نعمت مال عطا مفرما دیں یا نعمت اولاد تو اس کے عوض میں اس کے اوپر شکر واجب ہے یا اس سے مال و اولاد کو لے لیں تو اس پر صبر واجب ہے۔

اسی طرح اعراض و اعمال پر بھی یہ حقوق ہیں مثلاً نماز، روزہ وغیرہ کی توفیق عطا فرمائیں یا ذکر میں انوار و علوم عطا فرمائیں تو اس پر شکر لازم ہے اور اگر ذکر میں انوار و کیفیات سلب ہو جائیں تو اس پر صبر لازم ہے اور یہاں خود اعمال پر بھی اجر ملتا ہے اور ان کا شکر ادا کرنے پر اجر ہے چنانچہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے عوض تو اس کو وہ اجر ملتا ہے جو خیال سے باہر ہے حدیث میں ہے۔

اعددت لعبادی الصالحين مala عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر

علی قلب بشر (مسند احمد ۳۳۸: ۲، الترغیب والترہیب ۵۲۱: ۳)

تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پس جملہ اعمال صالحہ کا بجالانا بھی ایک تجارت ہوئی جسکے نفع کی یہ شان ہے

خود کہ یا بدایں چنیں بازار را

نیم جاں بستاند و صد جاں و ہد

آنچہ درو ہمت نیا یہ آں و ہد

ایسا بازار کہاں مل سکتا ہے جہاں ایک پھول کے بدے لگزار ملے۔

آدھی جان لیتا ہے اور سو جان عطا فرماتا ہے جو چیز تیرے وہم میں بھی نہیں ہوتی وہ دیتا ہے۔“

## عبدات اور تجارت

اور اگر عبادت کا تعلق اموال سے ہو تو وہ بھی تجارت ہے جس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے صراحت لفظ ارشاد فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

”بِلَا شَهِيدَ لِيَا هَيْ كَمْ تَجَارَتْ مَلَكَى“ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے بالوں کو اسی بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ انکو جنت ملے گی۔

جس میں تجارت کی حقیقت پر صاف طور سے تنبیہ ہے (وقال تعالیٰ

**فَلِيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ**

”تو ہاں! اس شخص کو چاہئے کہ اللہ کی راہ میں ان (کافر) لوگوں سے لڑیں جو آخرت (و چھوڑ کر) اس کے بد لے دنیوی زندگی کو اختیار کئے ہوئے ہیں۔“ وفیہ لفظ الشراء بمعنى البيع وقال الَّذِينَ اشْتَرَوُ اصْنَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبَحُتْ تَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی ہے جبائے ہدایت کے تو سودمند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقہ پر چلے۔ وفیہ ان اختیار الكفر صفقہ خاسرة وقال تعالیٰ وَلِبَشْ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ طَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ چونکہ تجارت کی طرف طبائع عام طور سے راغب ہیں۔ اسی لئے تجارت کا عنوان اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ تم جو اعمال کرتے ہو وہ درحقیقت ایک معاملہ تجارت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کر رہے ہو۔ افسوس! نماز کو، تم لوگوں نے اسی لئے مصیبت سمجھ لیا ہے کہ اس کی حقیقت نہیں سمجھی۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کی حقیقت تجارت ہے کہ ایک چیز دیدی اور ایک چیز لے لی۔ تو نماز سے کبھی گرانی نہ ہو اور نہ اس کو بیگار کی طرح ٹالا جائے۔ بلکہ جس طرح تاجر اپنے مال کو صاف سترار کھتا ہے اور خوب صورت بنا کر خریدار کو دیتا ہے اسی طرح ہم بھی نماز کو خوب صورتی کے ساتھ داکیا کرتے۔ یہ تو گوارا حالات کے متعلق بیان تھا۔

اب نا گوارا حالات کے متعلق سنئے۔ کہ ان میں بھی تجارت کی حقیقت موجود ہے اور گواں حقیقت سے جہل عام ہے نعمتوں میں بھی اور مصائب میں بھی اگر نعمتوں میں اس جہل کا وہ ضرر نہیں جو مصائب میں ہے کیونکہ نعمتوں میں رنج تو نہیں ہوتا جس سے پریشانی بڑھ کر دین اور دنیا کے کاموں میں خلل واقع ہو۔ بخلاف مصائب کے وہاں اس حقیقت کے جہل سے رنج کا اثر دل پر چھا جاتا ہے جس سے تمام کاموں میں خلل واقع ہو جاتا ہے اس لئے یہاں علاج کی ضرورت ہے اب میں مصائب کے متعلق بھی اس حقیقت کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔

### المصیبت اور تجارت

احادیث کے الفاظ میں غور کرنے سے معلوم ہتا ہے کہ مصائب میں بھی تجارت کے الفاظ حضور نے

استعمل فرمائے ہیں۔ چنانچہ آپ کی صاحبزادی کا پچھہ مرنے والا نہیں نے حضور کو بلایا تو آپ نے تسلی کیلئے فرمایا:

انَّ اللَّهَ مَا أَخْدَ وَاللَّهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ عِنْدِهِ هُوَ بِأَحْلٍ مُسْمَى فَلَتَصْبِرْ  
وَلَتَحْتَسِبْ (الصحيح للبخاري ۲: ۱۰۰)

فرمایا اللہ ہی کا دیا جو کچھ ہو یا اور اللہ ہی کا ہے جو لیا۔ پس صبر کریں اور رثواب کی امید رکھیں۔ یہاں اخذ و اعطاء ہے اور اخذ و اعطاء ہی تجارت کی حقیقت ہے یہاں بعض صوری تجارت ہے حقیقی تجارت نہیں کیونکہ حقیقت تجارت تو یہ ہے کہ اپنی چیز دے اور دوسرے کی لی اور یہاں جو کچھ ہے سب خدا ہی کا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے ہم بچے کو کوئی چیز بطور اباحت کے دیں (اباحت کی قید اس لئے بڑھائی۔ تاکہ آگے شرعی اعتراض واردنہ ہو) پھر کسی مصلحت سے وہ چیز اس سے لے لیں۔ اور دوسری دے دیں۔ مثلاً کسی کو اپنی اولاد کو اصول تجارت سکھلانا مقصود ہے۔ وہ اس کو ایک آگینہ کا ٹکڑا دیتا ہے اور ایک اشرفتی کے بدلتے میں بچے سے اس کو خرید لے تاکہ وہ آگینہ کی حقیقت اور روپیہ واشرفتی کی قیمت سے واقف ہو جائے تو یہ درحقیقت تجارت نہیں بلکہ صورت تجارت ہے۔

اسی طرح حق تعالیٰ نے بعض چیزوں بندہ کے نامزد کر دی ہیں جو اباحت ہی کے طور سے ہے گواں پر ملک کے آثار بھی مرتب کیے گئے ہیں مگر حضرت کی حق ملک کے اعتبار سے یہ نامزدگی اباحت ہی ہے۔ ہاں دوسروں کے اعتبار سے ملک کہنا صحیح ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے طلباء کو مدرسہ سے کتابیں دی جاتی ہیں تو مدرسہ کی ملک کے اعتبار سے تو یہ کتابیں طلباء کے نامزد بطور اباحت کے ہیں مگر بعض آثار اس میں ملک کے بھی ہیں چنانچہ ایک طالب علم سے دوسرا طالب علم بلا اذن کے کتابیں نہیں لے سکتا۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے بھی بعض مصالح کی وجہ سے بعض اشیاء کو ہمارے لئے نامزد فرمادیا ہے۔

ایک مصلحت تو یہ ہے کہ نامزدگی میں بندہ کو حظ آتا ہے کہ میرا مال میری یوں، میرا بچہ میری زمین، میرا مکان وغیرہ وغیرہ، دوسرے یہ کہ تاکہ اس سے کوئی چھین نہ سکے۔ اگر نامزدگی نہ ہو اور بندہ کی ملک نہ ہو تو کسی کے پاس کوئی چیز سلامت نہ رہے اور یہیں سے میں کہتا ہوں کہ حقیقت شریعت کی محتاج ہے (یعنی وہ حقیقت جو عام طور پر صوفیاء کے ذہن میں ہے) (ورنہ طریقت و حقیقت شریعت ہی کے اجزاء ہیں) مگر جس حقیقت کو جہلاء صوفیا گاتے پھرتے ہیں میں میں کہتا ہوں کہ وہ بھی شریعت کے محتاج ہے۔ اگر شریعت نہ ہو تو صوفی صاحب کے تسبیح و مصلی اور نذر انے اگر کوئی

ملانا لے جائے پھر وہ براہ مائنیں کیونکے

درحقیقت مالک ہر سے خداست

ایں امانت چند روزہ نزد ماست

”حقیقت میں ہر شے کا مالک خدا تعالیٰ ہے یہ امانت چند دن کے لئے ہمارے پاس ہے۔“

جب بندہ کی کوئی شے نہیں۔ نہ اس کو حق ملک حاصل ہو۔ تو ملانوں کو یہ کہنے کا حق ہے کہ کچھ

دنوں خدا کا مال تم نے برتاب ہم برتنیں گے اعتراض اور ناگواری کی کیا بات ہے۔

## ایک جبری۔ کی بے صبری

جیسے مولانا نے ایک جبری کو حکایت لکھی ہے کہ وہ ایک شخص کے باغ میں گھس کر مالک کے سامنے انگور توڑ کر کھانے لگا۔ مالک نے کہا میاں! یہ کیا حرکت ہے نہ اجازت لی نہ قیمت دی اور میرے باغ میں لگے تصرف کرنے۔ جبری نے کہا بس بس! خاموش بیٹھا رہ باغ بھی خدا کا۔ پھل بھی خدا کا۔ میں بھی خدا کا، تو روکنے والا کون ہے۔ مالک باغ بڑا ہو شیار تھا۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دی کہ ایک رسی اور ختکالانا۔ غرض! دونوں نے رسی میں جبری کو باندھا اور کٹای شروع کر دی اب لگا چلانے۔ مالک باغ نے کہا کہ رسہ بھی خدا کا، ختکا بھی خدا کا میں بھی خدا کا تو بھی خدا کا۔ پھر چلاتا کیوں ہے چونکہ چوت کا تحمل نہ ہو سکتا تھا۔ اس لئے یہ جواب نہ دے سکا کہ یہ چلاتا بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اس لئے اعتراض لغو ہے۔ بلکہ ہوش درست کر کے کہنے لگا۔

گفت تو بہ کردم از جبراے عیار اختیار سست اختیار سست اختیار

اس نے کہا میں نے توبہ کر لی جب کچھ نہیں اختیار ہی اختیار ہے وہ چوت کھا کر صوفی نہ ہا۔ بلکہ مولوی ہو گیا۔

تو صاحبو! اگر یہ حقیقت واضح کر دی جائے تو سب آدمی بالشویک ہو جائیں جن کا دعویٰ ہے کہ سب انسان مساوی ہیں کسی کو کسی سے مالدار بننے کا حق نہیں۔ بلکہ جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے اس سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں حضرت حاجی صاحبؒ نے مشنوی کے اس شعر کا

سر پہاں سست اندر زیر و بم فاش گر گو یم جہاں برہم زنم

یہی مطلب بیان فرمایا تھا کہ اگر مسئلہ واحدۃ الوجود ظاہر کر دوں تو عالم میں فساد ہو جائے۔ کم فہموں کی نظر سے انتیاز اٹھ جائے یہ جو عالم میں نظام دامن قائم ہے یہ شریعت ہی کی بدولت ہے کہ یہ زید کا حق ہے یہ عمر و کا حق ہے دوسرے کے حق میں تصرف حرام ہے تو ان مصالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندہ کے نامزد بعض چیزوں کر دی ہیں۔ مگر ان کا تو یہ مطلب نہیں کہ تم اس نامزدگی سے حق تعالیٰ کا

بھی مقابلہ کرنے لگو۔ اگر کوئی آقا پنے غلام سے کہدے کہ یہ پنگ تمہارا ہے تو اس میں مصلحت یہ ہے کہ دوسرے غلام اس کو نگ نہ کریں۔ بلکہ اس کی نامزد چیز میں بلا تکلف اسکو تصرف کرنے دیں۔ اب اگر یہ غلام آقا کو بھی اس پنگ پر بیٹھنے سے روکنے لگے تو یقیناً وہ بڑا نک حرام ہو گا

## مصلحت خداوندی

صاحب! یہی حالت ہماری ہو رہی ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ نے تو ہماری مصلحت کے لحاظ سے نامزدگی فرمائی تھی۔ ہم خدا تعالیٰ کے تصرف کو بھی ان چیزوں سے روکنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ کوئی تصرف کرتے ہیں تو ہم پیٹ پھاڑ کر مرے جاتے ہیں حالانکہ جو چیز بادشاہ کے نامزد ہو جائے اور اس کے خزانہ میں پہنچ جائے وہ تو زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے ہمارے نامزد ہتی تو خطرات کا اندر یہ شہ تھا۔

چنانچہ جس بچہ کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا اس کے بارے میں یہی آیا ہے کہ اس کی فطرت میں کفر تھا۔ اگر زندہ رہتا کافر ہوتا۔ اور ماں باپ کو اس سے بہت محبت تھی۔ اندر یہ شہ تھا کہ ماں باپ پر بھی اس کے کفر کے اثر پہنچتا۔ کیونکہ جس طرح اولاد ماں باپ کے اثر سے بگزتی ہے اس طرح کبھی والدین بھی اولاد کے اثر سے بگزتی ہے اس تو اب جو اولاد بچپن میں مر جائے ان کے متعلق سوچنا چاہئے کہ نہ معلوم یہ جوان ہو کر کیسے ہوتے ممکن ہے جوانی میں یہ ایسے ہوتے کہ ہم کو ان سے نفرت ہوتی اور ہم خود ان کی موت کی تمنا کرتے اور اب معصومی کی حالت میں انتقال ہوا ہے تو یہ سب خطرات سے محفوظ ہو گیا کیونکہ معصوم بچے جمہور کے نزدیک جنتی ہیں۔

امام صاحبؒ سے جو اس مسئلہ میں اللہ عالم بما کان عالمین منقول ہے جس کا حاصل توقف ہے تو اس کی وجہ یا تو عدم بلouغ نصوص ہے اور اس میں کچھ نقص نہیں کیونکہ مد وین علوم و احادیث سے پہلے علماء کو نصوص مدرسیجا ہی..... پہنچتی تھیں تو ایک وقت میں اگر کسی عالم کو کوئی حدیث نہ پہنچ تو کیا تعجب ہے اور تو اور حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک وقت ایسا گزر رہے جس کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں

مَا كُنْتَ تَذَرِّيْ مَا الْكِبَرُ وَلَا الْأَيْمَانُ وَلِكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِيْ بِهِ مَنْ نَشَاءَ مِنْ عِبَادِنَا

آپ کو خبر نہ یہ تھی کہ کتاب (اللہ) کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایکان کی انتہائی کمال کیا چیز ہے لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا جس کے ذریعہ سے ( بواسطہ آپ کے ) ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔

اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

فُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔

کہ زیادت علم کی دعا فرماتے رہا کیجئے جس سے معلوم ہوا کہ حضورؐ کے علوم میں بھی تدریس ہاتھی ہوئی تھی۔ دوسری بات میرے ذہن میں امام صاحب کے توقف کے متعلق یہ آئی ہے کہ امام صاحب نے اس عنوان میں ہم کو ایسے امور کی تحقیق سے منع فرمایا ہے جن پر دین کا مقصود موقوف نہیں چونکہ بچوں کے دخول جنت و عدم دخول کی تحقیق پر کوئی دینی مقصود موقوف نہیں ہے تو جس کو اس کی تحقیق نہ ہوئی ہو وہ اس کے درپے نہ ہو۔ اس لئے امام صاحب نے سائل کو محمل جواب دیا۔ اس کے سامنے تحقیق بیان نہیں فرمائی کیونکہ اس کا سوال فضول تھا۔ امام صاحب نے بہت سے فروع میں اسی اصل کو بلوظ فرمایا ہے آج کل ایسے فضول سوالات بہت کئے جاتے ہیں جن پر دین کا کوئی مقصود موقوف نہیں۔

مثلاً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ فلاں کا بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے۔ میں جواب دیا کرتا ہوں کہ اگر چھوٹا گناہ ہوا تو کیا ارتکاب کا قصد ہے اگر کہے ہاں! تو میں کہتا ہوں کہ کیا کبھی اپنے چھپر میں چنگاری لگانے کے متعلق بھی یہ سوال کیا ہے کہ یہ چنگاری چھوٹی ہے یا بڑا انگارہ ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ چھوٹی چنگاری ہے تو کیا اس کو چھپر میں لگانے کی جرأت کرو گے؟ اگر کہو نہیں کیونکہ ذرا کی چنگاری بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی پر چھوٹے گناہ کو قیاس کر لو جو شخص چھوٹے گناہ پر جرأت کرتا ہے وہ کل بڑے پر بھی جرأت کرے گا۔

اسی طرح یہ سوال کیا جاتا ہے کہ چند مردوں کو ثواب بخشنا جائے تو تقسیم ہو کر پہنچے گا یا با تقسیم کے سب کو برابر پہنچے گا۔ اگر تقسیم ہو کر پہنچتا ہے تو اب اجان کو تو بہت کم ملے گا۔

میں کہتا ہوں کہ تم اس فکر میں کیوں پڑے اگر تقسیم ہو کر بھی ثواب پہنچا تو اللہ تعالیٰ کو بڑھانا بھی تو آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوارہ کے صدقہ کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ جبل احمد سے بھی بڑھ جاتا ہے اب بتلاؤ کہ پہاڑ میں کتنے ارب چھوارے ہوں گا اور اتنے ارب میں اگر تقسیم جاری ہو تو کیا حرج ہے ارے میاں! اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ذرا سا عمل قبول ہو جائے تو بہت ہے پھر تم کس فکر میں پڑے ہو ہمارے حاجی صاحب قدس سرہ نے خوب فرمایا ہے

س ہے اپنا ایک ہی نالہ اگر پہنچے وہاں گرچے کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم گраб علماء بھی ان مسائل کی تحقیق کے درپے ہو جاتے ہیں اور ہم نے بھی لڑکپن میں ایسی

تحقیق کی ہے مگر اب معلوم ہوا کہ یہ مشغله فضول تھا۔ پس عوام کو یہ چاہئے کہ فضولیات کی تحقیق نہ کریں۔ اور علماء کو چاہئے کہ ان فضولیات کا جواب نہ دیں۔

### علیٰ و معاویہ

مولانا محمد نعیم صاحب لکھنؤی سے ایک شخص نے حضرت علیٰ و معاویہ رضی اللہ عنہما کے متعلق سوال کیا۔ مولانا نے سائل سے پوچھا کہ یہ سوال کس کا ہے اور وہ اور تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا کہ سوال فلاں حافظ صاحب کا ہے اور وہ رنگریز ہیں اور میں درزی ہوں۔ فرمایا کہ تم کپڑے سیتے رہو اور ان حافظ صاحب سے کہہ دو کہ کپڑے رنگتے رہیں۔ علیٰ جانیں اور معاویہ جانیں۔ تم سے ان کے معاملہ کا کیا تعلق؟ میں اطمینان دلاتا ہوں کہ قیامت کے دن ان کا مقدمہ تمہارے اجلas میں نہ آئے گا۔

اسی طرح ایک شخص نے میرٹھ میں ایک عالم سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین موسمن تھے یا نہیں۔ عالم نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کہا ہاں پڑھتا ہوں۔ کہا اچھا بتلا و نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ اب وہ خاموش ہیں فرمایا جاؤ تم کو نماز کے فرائض کی خبر نہیں جس کا سب سے اول قیامت میں حساب ہوگا۔ اور زائد باتوں کی تحقیق کے درپے ہو۔ ان فضولیات کی تحقیق میں نفس کا کیدیا ہے کہ فرائض و واجبات کی تحقیق میں تو عمل کرنا پڑتا ہے اور عمل دشوار ہے اور فضولیات کے سوال میں لوگ تو اس کو دیندار سمجھیں گے کہ ایسے ایسے بار ایک سوال کرتے ہیں اور کرنا کچھ پڑتا نہیں۔ اس لئے عام طور سے لوگ فضول سوال کر کے دیندار مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ خیر عوام تو جاہل ہیں مگر بعض علماء کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بھی ایسے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ میں ایسا روگ نہیں پالتا۔

چنانچہ ایک جنتلیمین نے بھی چند روز ہوئے سو دو غیرہ کی بابت سوال کیا۔ میں نے کہا میں فلسفی نہیں ہوں۔ اس لئے میرے ذمہ مصالح و اسرار و فلسفہ ادکام کا بیان کرنا ضروری نہیں صرف خدا رسول کا حکم بیان کرنا میرے ذمہ ہوگا۔ اس لئے میں قال اللہ و قال الرسول کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔

### عظمت حق

امام صاحب نے اس احتیاط کی وجہ سے اس مسئلہ میں جواب واضح نہیں دیا۔ بلکہ توقف کے عنوان سے سائل کو سوال لا طائل سے روکنا چاہا۔ وہ سراز امام صاحب کے ایسے جواب میں یہ ہے کہ

اطفال کا جنتی ہونا اصل میں اخبار احادیث سے ثابت تھا۔ مگر عوام احادیث اور متواتر میں فرق نہیں کرتے اس لئے احتیاط کی اور یہ احتیاط وہ کرے گا جس کو عظمت حق کا ذوق ہو۔ اس سے بڑھ کر دیکھنے ملائکہ و انبیاء علیہم السلام قطعاً معصوم ہیں۔ مگر حالت یہ ہے انبیاء تھراتے ہیں تو جہاں عظمت کا غلبہ ہوگا وہاں احتیاط ضرور ہوگی اس لئے امام صاحب نے اس مسئلہ میں توقف کے ساتھ جواب دیا۔ تاکہ عوام اس پر جزم کر کے بے فکر نہ ہو جائیں اور عشرہ بشرہ کے بارہ میں توقف اس لئے نہیں فرمایا کہ وہاں جو نصوص ہیں وہ معنی متواتر اور اجماعی ہیں لیکن اب ممکن ہے کہ مسئلہ اطفال بھی ختن سے بڑھ گیا ہو بوجہ انقسام اجماع متاخر کے۔ گوہہ اجماع بھی خلافت فیہ ہو کیونکہ بعض اجماع مختلف فیہ بھی ہیں جیسا اہل علم کو معلوم ہے۔ لہذا اب ہم کو اس پر یقین کر لیتا چاہئے کیونکہ اب یہ مسئلہ گویا متفق علیہ ہے۔ دوسرے ہمارا اعلان اسی میں ہے کہ ہم بچوں کو معصوم اور بے گناہ سمجھیں کیونکہ ہم لوگ بچوں کے مرنے سے زیادہ دلگیر ہوتے ہیں، ہم کو تسلی کی زیادہ ضرورت ہے اور زیادہ تسلی اس میں ہے اب اس کے دلائل سنئے۔

### اولاً اور شفاعت

حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے تین بچے مر گئے ہوں وہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے دو بچے مرے ہوں، فرمایا وہ بھی۔ پھر کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا ایک ہی بچہ مرا ہو۔ فرمایا وہ بھی پھر کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کا ایک بھی بچہ نہ مرا ہو۔

قالَ إِنَّ فِرْطَ لَا مُتَىٰ وَ لِنْ يَصَابُوا بِمُثْلِيٍ (سنن الترمذی: ۱۰۶۲، مسند احمد: ۳۳۵)

فرمیا تو میں اپنی امت کا آگے جا کر سماں کرنے والا ہوں لہو میری موت جیسا حال شیری اس مت پر کوئی نا آریگا۔ اس لئے ان کے واسطے میری وفات کا صدمہ ہی مغفرت کو بس ہے۔ نفديك بابا،  
نا و امها تنا يا رسول الله

فَلَوْ أَنْ رَبَّ النَّاسِ بَقِيَ مُحَمَّداً سَعَدَنَا وَلَكِنَّ أَمْرَهُ كَانَ مَا ضَيَا  
”اگر اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھتے تو یہ ہماری سعادت تھی مگر خدا کا حکم نافذ تھا اس لئے وہ اس جہان سے چلے گئے۔

یعنی میں آگے جا کر اپنی امت کے لئے مغفرت کی سعی و سفارش کروں گا۔

اس پر شاید کوئی یہ کہے کہ جیسے بے اولادوں کے لئے حضورؐ کی شفاعت کافی ہے۔ ایسی ہی اولادوں کے لئے بھی کافی تھی اولاد کی شفاعت کی کیا ضرورت تھی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو زیادت تسلی کے لئے اس کی ضرورت تھی دو وجہ سے ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ادب و خوف کے ساتھ شفاعت فرمائیں گے اور بچہ ضد کے ساتھ شفاعت کرے گا۔ یہ بچے جس طرح یہاں والدین پر ضد کرتے ہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ پر بھی ضد اور نازو نخزے کریں گے چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ بچہ جنت کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا اندر جاؤ کہہ کا نہیں جاتے۔ پوچھیں گے کیوں؟ کہہ گا جب تک ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہ ہوں گے اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے تو اس سے حق تعالیٰ فرمائیں گے۔

### ایہا الطفل المِرَاغُمْ رَبِّهِ ادْخُلْ أَبُوكَ الْجَنَّةِ

”اے اپنے پروردگار سے ضد کرنے والے بچے جا اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا۔“  
و عمرے عقلاء عدد بڑھنے سے زیادہ قوت ہوتی ہے گو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انضمام ضمیمہ کی ضرورت نہیں۔ آپ تھا ہی اکٹھی ہیں۔ مگر طبعاً عدد بڑھنے سے تسلی زیادہ ہوتی ہے۔ نیز حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا بچہ مرتا ہے اور ملائکہ اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتے ہیں۔

اخذتم ولد عبدی قالوا اللهم نعم ثم يقول هل قبضتم ثمرة فؤاد عبدی  
قالوا اللهم نعم فيقول فماذا قال عبدی قالوا اللهم حمدك وصبر فيقول

ابنوا العبدی بيتأ فی الجنة وسموه بيتأ الحمد كمال قال.

کیا تم نے میرے بندہ کے بچہ کو لے لیا۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہاں! پھر فرماتے ہیں کیا تم نے میرے بندہ کے جگر گوشہ کو لے لیا وہ کہتے ہیں اے اللہ ہاں!۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے بندہ نے کیا کہا فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اس نے آپ کی حمد کی (مراد شکر ہے) اور صبر کیا۔ اس پر حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں (کہ گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندہ کو بخش دیا اور) اس کے لئے جت میں ایک محل تیار کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔

یو چھٹوں کے مر نے پر وعدہ ہے جس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بچوں کے مر نے پر نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ یعنی مغفرت اور جنت کا مل اور بڑوں کے مر نے پر بھی اسی طرح اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔

## صبر کی ترغیب

حدیث میں ہے: من اخذت صفیة (ای جبیہ) فصبر لم يكن له ثوب الا الجنة. (لم أجد الحديث في "موسوعة اطرواف الحديث") او کما قال "حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس شخص کے محظوظ (اور پیارے) کو لے لوں (جو عام ہے ہر محظوظ کو۔ خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا تم سر ہو جیسے بھائی ہو اور بیوی وغیرہ) پھر وہ صبر کر لے تو اسکا اجر جنت کے سوا کچھ نہیں۔

یعنی وہ جنت میں ضرور پہنچ گا) یہاں نعم البدل کا وعدہ ہے اور جنت سے بہتر نعم البدل کیا ہو گا۔ اسی مضمون کو ایک بدوسی نے بہت خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اور حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کو بہت صدمہ ہوا۔ تو بدوسی نے آکر اشعار میں ان کو تسلی دی۔ اشعار تو اہل عرب کی گھٹی میں ہیں۔ بچہ بچہ یہاں تک کہ عورتیں بھی عرب میں شاعر ہوتی ہیں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے فرماتے ہیں کہ مجھے اس بدوسی سے بہتر کسی نے تسلی نہیں دی۔ چنانچہ کہتا ہے اصبر نکن بک صبرین فانما صبر الرعیة بعد صبر الرواس "اے ابن عباس! آپ صبر کیجئے تاکہ ہم بھی آپ کی وجہ سے صابر بنیں۔

مطلوب یہ ہے کہ آپ مقتداۓ دین ہیں۔ آپ کے افعال کا سب اتباع کرتے ہیں۔ پس ایسے حوادث میں آپ صابر رہیں گے۔ تو ہم بھی مصائب میں صابر رہا کریں گے۔ اگر آپ نے صبر نہ کیا تو عوام بھی صبر نہ کریں گے۔

سبحان اللہ! کیسے اچھے عنوان سے صبر کی ترغیب دی۔ آگے کہتا ہے

خیر من العباس اجرک بعده والله خير منك للعباس

آپ کے لئے حضرت عباس کے زندہ رہنے سے وہ اجر بہتر ہے جو ان کے وصال پر آپ کو ملا کیونکہ حضرت عباسؓ اگر زندہ رہتے تو بہت سے بہت حضرت عباسؓ آپ کو ملتے اور آپ کے حق میں ثواب ان سے بہت ان سے بہتر ہے کیونکہ ثواب کی حقیقت ہے رضاۓ خدا۔ تو یوں کہئے کہ حضرت عباسؓ کے وصال پر صبر کرنے سے خدا آپ کو ملا اور یقنا خدا تعالیٰ سب سے بہتر ہیں اور حضرت عباسؓ کے لئے خدا آپ سے بہتر ہے۔ کیونکہ وہ مر کر خدا کے پاس پہنچ گئے اگر نہ مرتے تو دنیا میں رہتے جس میں رویت الہی نہیں ہو سکتی اور حضرت عباسؓ اگر آج نہ مرتے تو کسی نہ کسی دن ضرور مرتے کیونکہ حرارت غریزی کی رفتار

ایک خاص حد پر منہی ہو جاتی ہے کبھی ضرور ختم ہو گئی خواہ مرض سے ہو یا بدلوں مرض کے۔  
چنانچہ کانپور میں ایک بوڑھے میاں اسی طرح ختم ہو گئے کہ گھر میں آکر ماما سے کھانے کو  
کہا۔ ماما کھانا لے کر آئی تو یہاں بڑے میاں ختم ہو چکے تھے۔ حالانکہ وہ مریض نہ تھے بس وہی  
بات تھی حرارت غریز یا اپنی حد پر پہنچ کر ختم ہو گئی تھی۔

اسی طرح مرنے والے کے متعلق یہ سوچے کہ اگر وہ اس وقت نہ مرتا بلکہ زیادہ دن تک بیمار رہ کر  
صاحب فراش بن کر مرتا تو شاید مبغوض ہو کر مرتا کہ اعزہ بھی گھبرا جاتے اور اس میں بھی اس کا ضرر تھا  
کیونکہ تم اسکو اس حالت میں یاد نہ کرتے۔ ثواب بھی نہ پہنچاتے۔ کیونکہ ثواب اسی کو پہنچاتے ہیں جسکے  
مرنے کا صدمہ ہوتا ہے اور جس کے مرنے پر خوشی ہو کہ اچھا ہوا پاپ کٹا۔ اسکو بہت کم یاد کیا جاتا ہے۔  
اسی طرح تمہارا بھی نفع اسی میں ہے کہ اپنا عزیز محبوب حالت میں مرے کیونکہ تم اس کو یاد کرتے  
ہو تو وہ بھی تمہارے واسطے دعا کرتا ہے۔ پس تم کو اس سے نفع پہنچتا ہے اور اس کو تم سے نفع پہنچتا ہے۔  
کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں شخص تو عالم اور بزرگ ہیں ان کو ہماری دعا اور ایصال ثواب کی کیا  
ضرورت ہے تو مرنے کے متعلق یہ نفع عام نہ ہوا۔

## علم ارواح

صاحب! وہاں چھوٹے بڑے کا حساب نہیں بلکہ وہاں بعض مواقع پر چھوٹے بڑوں کو اور شاگرد استاد  
کو۔ اور مرید پیر کو بخشوا میں گے اور ہر شخص کو اپنی مغفرت کے لئے چھوٹی چھوٹی باتوں کی تلاش ہو گی۔  
چنانچہ ایک شخص گرفتار ہو کر جہنم کی طرف جاتا ہوا ایک ولی کو راستہ میں دیکھ کر پہنچانے گا۔ اور  
کہہ گا کہ میں نے فلاں دن آپ کو وصو کرایا تھا آج میری مدد سمجھے یہ سنتے ہی وہ بزرگ اس کی  
شفاعت کریں گے اور بخشوا میں گے۔

حضرت حاجی صاحب پر یہ حقیقت خوب منکشف تھی۔ اسی لئے حاجی صاحب بیعت میں بہت  
جلدی فرماتے تھے حضرت کے یہاں قیود و شرائط نہ تھے اور فرماتے تھے کہ ہم تو اس نیت سے بیعت کرتے  
ہیں کہ یہ دونوں جانب سے دشیری ہے۔ پس قیامت میں ہم میں اور اس میں جو مر جوم ہو گا وہ مغضوب کو  
ساتھ لے گا۔ اور عکس کا احتمال ”سبقت رحمتی“ کے خلاف ہے انشاء اللہ دونوں میں سے ایک تو مر جوم ہو، ہی  
گا۔ سبحان اللہ! حضرت کو اپنے مریدوں کے متعلق بھی یا میدھی کہ شاید وہی ہم کو بخشوا میں۔

غرض یہ تجارت کیسی عدمہ ہے کہ ہر حالت میں اجر اور نعم البدل ہی ملتا ہے بھراں سے بڑھ کر یہ کغم

البدل کے ساتھ آپ کی اصلی چیز بھی آپ کو واپس دیدیں گے۔ کیونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے اعزہ مرتے ہیں اولاد ہو یا بھائی اور بابا پ اور بیوی وغیرہ سب کی مفارقت چند روزہ ہے بزرخ ہی میں مل جائیں گے اور آخرت میں ملنا تو سب تی جانتے ہیں۔ یہ واقعات تو اس عالم میں پہنچ کر ہوں گے اور عین موت کے وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ ملائکہ مسلمان کی روح قبض کر کے حریر کے نکڑے میں عزت کے ساتھ پیٹ کر لے جاتے ہیں پھر راستے میں فرشتے باہم جھپٹا جھپٹی کرتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے دو۔ وہ کہتا ہے کہاب میں لوں گا۔ پھر آسمانوں کے دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں اور تمام فضائے زمین و آسمان اس کی خوبیوں سے معطر ہو جاتی ہے۔ پھر آسمان والے اچھے اچھے القاب و اسماء سے اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر ارواح انسانیہ اس کا استقبال کرتی ہیں اور بہت عزت کے ساتھ اس کو عالم ارواح میں لے جاتی ہیں۔ اور اس سے باتیں کرتی ہیں۔ جیسے مہمان سے میزبان باتیں کیا کرتا ہے اور ضروری باتیں کر کے زائد سوالات بھی کرتی ہیں کہ فلاں شخص کیسا ہے فلاں کیسا ہے جن میں سے بعض کی نسبت یہ نوار و کہتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے کیا وہ یہاں نہیں آیا۔ اس پر سب ارواح افسوس کر کے کہتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں گیا یہاں نہیں آیا۔

صاحب! ان واقعات کو یاد کرو اور سمجھ لو کہ ہمارا عزیز عزت و آسانش میں پہنچا ہے اور جو یہ سمجھے کہ میرا عزیز آسانش میں ہے اس کو رنج کیوں ہو۔

### تواضع اور رحم

رہایہ کہ احتمال تو عذاب کا بھی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ احتمال بھی مفید ہے۔ تم اس احتمال سے اس کو ثواب پہنچاؤ اور اس کے بعد امید رکھو کہ ان شاء اللہ بخش دیا گیا۔

رہایہ کہ احتمال تو پھر بھی رہا کیونکہ ایصالِ ثواب کے بعد وہ تو نہ آئے گی اور یقین مغفرتِ ثاب بھی نہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا بامید قائم تو آخرت بھی بامید قائم۔ تم اس باب مغفرت کو جمع کر کے مغفرت کی امید رکھو۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ظلیمات سے بھی تسلی ہو جاتی ہے۔ اور قطعیات سے تسلی تو ان بیاء علیہم السلام کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتی۔

صاحب! تجربہ یہ ہے کہ ان ظلیمات تی سے آپ کو تسلی ہو جائے گی آپ ان باتوں کو دل میں مستحضر کر کے دیکھئے۔ ان شاء اللہ آپ کو اس سے بہت سچھ تسلی ہو گی اور غم ہلکا ہو جائے گا۔

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا بچہ مر گیا ہے

جس کا مجھے بہت افسوس ہے کوئی ایسی بات سناؤ جس سے میراغم ہلکا ہو جائے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن ہے ان الاطفال من دعا میص الجنۃ (لم اجد الحديث فی "موسوعة اطراف الحديث") کہ یہ پچ جو مر جاتے ہیں یہ جنت کے دعاء میص ہو جاتے ہیں۔

دعویں ایک کیڑا ہے جو پانی کے اندر ادھر سے ادھر بھاگا پھرتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ پچ جنت میں ادھر ادھر بھاگے پھریں گے۔ ہر ایک درجہ میں گھتے پھریں گے کہ انکو کوئی روک نہ ہوگی جس گھر میں چاہیں گے چلے جائیں گے جیسے یہاں دنیا میں بھی پچ کسی گھر سے نہیں رکتے جس کے گھر میں چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں اور ہر جگہ ان کو چاہ ہوتی ہے کیونکہ چھوٹا بچہ تو جانور کا بھی بھلا معلوم ہوتا ہے انسان کا بچہ تو کیوں نہ بھلا معلوم ہوگا۔ ہر شخص کو چھوٹے بچہ پر پیار بھی آتا ہے اور اس کی تکلیف پر رحم بھی آتا ہے حتیٰ کہ بھنگی کے بچے پر بھی رحم آتا ہے۔

رام پور کا قصہ ہے کہ قاضی سراج الحق صاحب مرحوم کے گھر میں بھنگن کمانے کی اور اپنے بچے کو باہر دروازہ پر بخلا کیتی وہ رونے لگا۔ قاضی صاحب باہر بیٹھک میں بیٹھے تھے وہ بچے کے رونے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے اور فوراً اس کو گود میں انٹھالیا اور اس کو بھلاتے رہے۔ لوگ بھنگیوں کے بچوں کو گود میں لینے سے اپنے کپڑوں اور بدن کو ناپاک سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ خیال غلط ہے۔ خشک بچہ کو گود میں لینے سے نہ ہمارا بدن ناپاک ہوتا ہے۔ ہاں اگر بھیگا ہوا ہو اور غالب گمان یہ ہو کہ اسکے کپڑوں کو اور بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے تو بے شک اس سے جسم اور لباس کے ناپاک ہو جانے کا احتمال ہے۔ مگر یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک لوٹا پانی سے سب پاک ہو سکتے ہیں۔ مگر عام طور پر کوئی بھنگیوں کے بچوں سے لوگ گھن کرتے ہیں۔ اس لئے قاضی صاحب نے واقعی یہ بڑا کام کیا۔ ان کو بہت اجر ملا ہوگا، ہم جیسوں سے تو ایسا نہ ہو سکتا۔ مگر جس سے یہ کام ہو سکے اسکو بڑا ثواب ملے گا کیونکہ اللہ اس میں تواضع بھی ہے اور انسان کے بچے سے ہمدردی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو تواضع و رحم یہ دو صفتیں بہت محبوب ہیں یہ تو آخرت کا نفع ہے اور دنیا کا نفع یہ ہے کہ وہ

---

۱۔ اس تعلیم اسلامی میں غور کرنا چاہئے کہ اسلام نے کسی قوم کی چھوٹ چھات سے مسلمانوں کو ناپاک نہیں بنایا۔ بخلاف دوسرے مذاہب کے کہ ان کے یہاں چھوٹی قوموں کو ہاتھ لگ جانا سخت و بال کا سبب ہے کہ ان کا دھرم خراب ہو جاتا ہے گویا وہ انسان کو کہتے اور سورے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ ۱۲۔ اظ

بھنگن لے تو قاضی صاحب کی جان نثار ہو گئی ہو گی۔ جب تم اپنی چھوٹی قوموں کی اولاد سے ایسی ہمدردی کرو گے تو وہ ہر وقت تمہاری خدمت کے لئے جان و دل سے حاضر رہیں گے۔

تو جس طرح یہاں پر بچے ہر شخص کو محبوب ہیں اور ہر ایک کو ان پر رحم آتا ہے اور کسی گھر سے ان کو روکا نہیں جاتا اسی طرح جنت میں یہ بچے جہاں چاہیں گے بھاگے بھاگے پھریں گے۔

سو ان حالات کو سوچ کر تسلی حاصل کرو۔ جیسا کہ راوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر حالانکہ خبر واحد تھی جو ظہیر ہوتی ہے مجھے بہت تسلی ہوئی کہ سارا غم جاتا رہا۔

اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں کہ ہائے بچہ مر گیا۔ دوسرا ہے پہلا کو نہیں دیکھتے کہ وہ مر کر کہاں اور کس حالت میں گیا۔ ان باقتوں کو سوچو تو ضرور غم ہلکا ہو جائیگا۔

## آخرت کا نعم البدل

اور سنئے حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کو غیرہ سے اس طرح تسلی دی گئی۔

ان فی الله عزاء من کل مصيبة و خلفا من کل فائت فبا الله فتفقا و ایاہ

فارجوا فانما المحروم من حرم الشواب (التعاف السادة المتعفين ۵: ۱۱۳)

”کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مصیبت سے تسلی کیلئے کافی ہے اور ہر قوت ہونیوالی چیز کا عوض ہیں اسی پر بھروسہ رکھو اور اسی سے امید رکھو۔ کیونکہ محروم تودہ ہے جو ثواب (یعنی رضاۓ حق) سے محروم رہے۔“  
صاحبہ! یہ کیا تھوڑی بات ہے کہ تمہارے عزیز کے بدلتے تم کو خدا ملتا ہے پس اب تو ایسے موقع پر یوں کہنا چاہئے۔

روز ہاگر رفت گو رو باک نیست تو بمال اے آنکہ جز تو پاک نیست  
اگردن ختم ہو گئے تو کیا ذر ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے تیرے سوا کون پاک ہے۔

کیا اس سے بھی آپ کی تسلی نہ ہو گی کہ آپ کو اپنے عزیز کے بدلتے میں خدامل جائے جس کی جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ یقیناً جنت کے ملنے سے خدا کیا ملتا بدر جہا بہتر ہے۔

۱۔ ذرا مخالفین اسلام اس موقع میں غور کریں اور بتلا نہیں کہ کیا کوئی برہمن اور پنڈت اور اعلیٰ ہندو ذات کا آدمی بھی ایک بھنگن کے بچے کو گود میں اٹھا سکتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی اولاد جیسا برہتا و کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ پھر حیرت نہیں کہ اب بھی یہ لوگ مسلمانوں کو بے رحم اور اپنے کو رحم نہ کہتے ہیں۔ بخدا مسلمانوں سے زیادہ رحم نہ کوئی قوم نہیں ہو سکتی۔

اس پر مجھے ایک حکایت یاد آگئی کہ ہارون رشید جو مسلمانوں کا بڑا بادشاہ اور خلیفہ تھا۔ عید کے دن جشن کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ دربار میں جتنی چیزیں موجود ہیں اس میں سے جس چیز پر جو شخص ہاتھ رکھ دیگا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ درباریوں نے اس اعلان کے بعد ہاتھ رکھنا شروع کر دیا۔ کسی نے جو ہرات پر ہاتھ رکھا کسی نے سونے چاندی پر۔ ایک باندی نے جو ہارون رشید کو پنکھا جھل رہی تھی۔ خلیفہ کی کمر پا ہاتھ رکھ دیا۔ خلیفہ نے اس حرکت پر براہم ہر کر سوال کیا کہ یہ کیا حرکت ہے کہا حضور کا اعلان عام تھا کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کی ہے۔ اس میں کوئی استثناء تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ درباری بے وقوف ہیں جو سونے چاندی اور جواہرات پر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایسی چیز پر ہاتھ رکھنا چاہئے جس کے ہاتھ میں سب چیزیں ہیں اس لئے میں نے حضور پر ہاتھ رکھ دیا کہ جب آپ میرے ہوں گے تو سب چیزیں میری ملک ہو جائیں گی۔

اس جواب کو سن کر ہارون بہت خوش ہوئے اور (فرمایا کہ میں تیرا ہو گیا) واقعی باندی بہت سمجھ دار تھی تو بتلا یئے ان واقعات مصیبت میں کیا یہ بات تھوڑی ہے کہ ان کے ذریعہ سے خدا، ہم کو ملتا ہے جس کی جنت ہے اور دوزخ بھی۔

شاید کسی کے عوں میں یہ موسا آیا ہو کہ دوزخ ہماری ہو گئی تو کیا نفع ہوا۔ کیا ہم دوزخ میں رہیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ افسوس آپ نے بات کو سمجھا ہی نہیں دنیا میں جیل خانہ بادشاہ کی ملک ہوتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ جیل خانہ میں رہتا ہے۔ اس کا یہ طلب ہرگز نہیں ہوتا۔ بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم جس کو چاہو گے بخشوا لو گے اور جہنم سے نکلو لو گے۔

اس پر شاید آپ یہیں کہ کیا کفار کو بھی بخشوا لیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ جس کے تعلق سے جہنم بواسطہ آپ کی ملک ہوتی ہے جب وہ کفار کو بخشنا چاہیں گے تو تم بھی نہ چاہو گے۔ یہ تو آخرت کا نعم البدل تھا۔ اب یہ سمجھئے کہ دنیا میں بھی ہر فوت ہونے والی چیز کا نعم البدل ہم کو عطا ہوتا ہے خواہ مال و اولاد دفوت ہو یا کوئی عزیز و قریب۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ غرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت کے لئے ہم کو دعا تعظیم فرمائی۔

**إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُعُونَ اللَّهُمَّ إِنِّي احْتَسِبْ مَصِيبَتِي فَاجْرُونِي فِيهَا وَابْدُلْنِي**

بھا خیرا منہا۔ (سنن أبي داؤد: ۳۱۱۹)

”اے اللہ! میں آپ سے اس مصیبت کا ثواب مانگتی ہوں۔ پس مجھے اس کا اجر عطا فرمائیے اور اس کا نعم البدل دیجئے۔

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھی مگر وابدالنی بجا خیر امنحا کہتے ہوئے دل رکتا تھا کیونکہ میں اپنے دل میں یہ کہتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو گا اور حضورؐ کے ملنے کا وہم بھی نہ ہوتا تھا کیونکہ۔

### آرزوی خواہ لیک اندازہ خواہ

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دل پر جبر کر کے یہ بھی کہا تو خدا تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ کے عوض حضورؐ عطا فرمائے۔

### تجارت آخرت

اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کی حقیقت تجارت ہے کہ ایک چیز لی گئی اور دوسرا چیز دی گئی۔ نصوص میں تجارت پر صاف اشارات موجود ہیں اسی لئے اعمال کا وزن کا وزن ہو گا جیسا تجارت میں وزن ہوا کرتا ہے اور جب وہاں اعمال بھی جو کہ اعراض ہیں اعیان بن جائیں گے جیسا کہ وزن کا متفقی ہے تو اعیان تو اعراض ہی ہیں۔ اور مصائب کے بارہ میں لفظ اخذ و اعطاء و ابدال وارد ہے۔ یہ بھی معنی تجارت پر دال ہے اور تصدق اموال میں لفظ..... اعراض اور بذل نفس مال میں لفظ اشتراکی وارد ہے۔ غرض جو چیز بھی ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے اس کا عوض اور نعم البدل ہم کو ملتا ہے۔ اعمال کے متعلق مجھے ایک اور نص یاد آ۔ جس میں لفظ ایتاء بمعنی اعطاء ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَنْتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجْلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ

”اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اس حالت میں کہ ان کے دل لرزائی و ترسان ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف واپس جانیوالے ہیں۔ یہ لوگ بھلائی میں ترقی کرتے اور اس کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے ڈرتے ہیں فرمایا نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تصدق اور صلوٰۃ اور صیام بجالا کر ڈرتے ہیں کہ شاید قبول نہ ہوں اور خدا کے سامنے جا کر ہم کو شرمندگی ہو (وہاں یہ کہا جائے کہ تم نے کیا عمل ہمارے یہاں بھیجا)

حضرت عائشہؓ کے سوال سے یہ معلوم ہوا کہ اس آیت میں یوں تون اعطاء مال کے ساتھ

خاص نہیں۔ بلکہ ہر عمل کو شامل ہے جبکہ تو انہوں نے اس کو اعمال گناہ پر محول کیا۔ اور بعض لوگوں نے اس میں یوں کہا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے سوال یا تون کی القراءات کے متعلق کیا ہے جو بمعنی یقعلون ہے اس صورت میں ایتاء سے استدلال ثابت نہ ہو گا کیونکہ ترمذی کی حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ یوتوں کے متعلق سوال کیا۔ اور القراءات شاذہ بوجہ شذوذ کے ثابت نہیں اور یہ حدیث صحیح ہے پس صحیح کو غیر صحیح پر محول نہیں کر سکتے اور اس کو مان بھی لیا جاوے۔ تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر عام ہونا ضروری ہے ورنہ شاذ کا مفسر اور متواتر کا غیر مفسر رہنا لازم آوے گا۔ تو اس تفسیر کا تعلق ایتاء سے بھی ہو گا۔ پس یہ استدلال باقی رہا۔ جب یہ ہے تو آیت میں ایتاء بمعنی ایتاء مال نہیں ہے۔ بلکہ بمعنی ایتاء الوجوہ ہے جس کا حاصل ایجاد ہے۔

معنی یہ ہوئے کہ وہ جس عمل صالح کو وجود دیتے ہیں اس کو کر کے ڈرتے رہتے ہیں کہ دیکھئے قبول ہوا یا نہیں بے فکر نہیں ہو جاتے تو یہاں لفظ ایتاء بمعنی اعطاء ہے جو تجارت کے مناسب ہے۔ یہ ہیں وہ نصوص جن سے اعمال و احوال کا تجارت ہونا معلوم ہوتا ہے ان ہی میں سے ایک وہ آیت بھی ہے جس کو میں نے تلاوت کیا ہے

يَا إِيَّاهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيهِكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ  
خَيْرًا يُؤْتُكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخِذَ مِنْكُمْ

”ان قید یوں سے فرمادیجھے کہ اگر تمہارے دلوں میں خیر ہو گی۔ (یعنی ایمان) تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بہتر چیز دیں گے جو تم سے ملی گئی ہے۔

یہاں بھی نقصان مال پر نعم البدل کا وعدہ ہے جس کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ مومن کو ہر نقصان کا عوض اور نعم البدل ملتا ہے اور ان نصوص مذکورہ پر نظر کر کے ہم کو اس نص اخیر کی تعلیم کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ دوسری نصوص سے تعلیم ثابت ہے گوہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مما اخذ منکم میں ماعام ہے مال کو اور غیر مال کو جس میں سب اعمال اور اعیان داخل ہیں خصوصاً جبکہ قاعدة فہمیہ یہ ہے کہ اعتبار عموم نص یہ خصوص مورود کا اعتبار نہیں مگر مجھے خود اس قاعدة ہی کے عموم میں کلام ہے۔ اسلئے میں اس آیت پر تعلیم کا مدار نہیں کرتا بلکہ مجموع نصوص کے اعتبار سے اس مضمون کو عام کرتا ہوں۔ مگر اس کی تلاوت اس لحاظ سے ہوئی ہے کہ ایک مناسب

إِنَّ فَالاِيَّاتَ عَلَى هَذَا عَامٍ لِكُلِّ عَمَلٍ كَعُمُومَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ مَثَلُوا الْفَتَنَةَ لَا قَوْهَا أَمْ لَا خَذَبَهَا وَلَا شَرُوهَا وَلَا يَتَوَقَّفُ الْعُمُومُ عَلَى قِرآنَةِ يَاتُونَ مَا اتُوْمَنَ الْآتِيَانَ وَاسْهَلَ التَّوْجِهَاتَ فِيهَا اَنْ يَكُونَ يَاتُونَ تَفْسِيرًا لِمَا يَتُونَ قَطْنَةَ قِرَاءَةَ.

سے دوسرے مناسب کی طرف اشارہ کرنا ابلغ ہے اور تمام نصوص کا پڑھنا دشوار تھا۔ بلکہ کسی ایک کا اختیار ضروری تھا جس کے لئے وجہ مرنج میں نے بالکل تجمید کے شروع میں بیان کر دی۔

## میزان عمل

خلاصہ یہ کہ معاملات تشریعیہ کا تجارت ہونا تو ظاہر ہے کہ ایک عمل ہم نے پیش کیا ادھر سے اس کی قیمت مل گئی مگر اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جس قدر معاملات تکوین ہمیں بھی ہوتے ہیں ان سب کی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر غم بہت ہلکا ہو جائے گا۔ باقی طبعی غم کا میں انکار نہیں کرتا۔ وہ تو ہو گا اور ہونا چاہئے کیونکہ اسی کی وجہ سے اجر ملتا ہے اور اس سے شان عبدالیت ظاہر ہوتی ہے اگر انسان پر رنج و غم وارد نہ ہو تو فرعون بے سامان ہو جائے گا مگر ضرورت اس کی ہے کہ اس غم کو ہلکا کیا جائے کیونکہ غم کا بڑھنا خود مصیبت ہے جس سے راحت فوت ہونے کے علاوہ بعض اوقات جو اصل دولت ہے اجر۔ وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے اور غم ہلکا ہونے کی وہی تدبیر ہے جس کا ذکر ہورہا ہے یعنی جب انسان یہ سمجھے گا کہ ہر معاملہ میں حق تعالیٰ مجھ کو نعم البدل عطا فرماتے ہیں تو غم ہلکا ہو جائے گا پھر وہ نعم البدل بھی اس قدر ہے کہ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے اور مصائب پر صبر کرنا تو نہایت دشوار عمل ہے۔ اس پر تو وہ غیر متاثری ملے تو کیا عجب ہے جس پر آیت: إِنَّمَا يُؤْفَى  
الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ مُسْتَقْلُ رَبِّنَے والوں کا صلبے شمارتی ملے گا۔

میں متنبہ بھی فرمایا ہے وہاں تو خفیف خفیف عمل پر بھی بے اندازہ اجر مل جاتا ہے چنانچہ حدیث ترمذی میں ہے کہ ایک بار اللہ اکبر کہنے سے آسمان وزمین کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے اور سبحان اللہ کہنے سے آدمی میزان عمل اور الحمد للہ سے پوری میزان عمل بھر جاتی ہے۔

یہاں لئے فرمایا کہ شاید کسی کو اللہ اکبر کا ثواب سن کر یہ احتمال ہو کہ نہ معلوم میزان عمل بھی کسی چیز سے بھری ہوگی۔ کیونکہ ممکن ہے وہ آسمان وزمین کی فضائے بھی زیادہ ہو تو ایک عمل سے اگر فضا بھی بھر جاتا ہے تو ممکن ہے وہ آسمان وزمین بھرنے کے لئے کافی نہ ہو اور ہم کو سابقہ پڑے گا میزان ہی سے خصوص طالب علموں کو ایسے احتمالات بہت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک تو کثرابھی حوض کے برابر ہو سکتا ہے۔  
**دور قدیم کے طلباء**

جیسا ایک حکایت ہے کہ ایک بادشاہ وزیر میں گفتگو ہو رہی تھی۔ بادشاہ کہتا تھا کہ طلباء عربی بہت عاقل ہوتے ہیں وزیر کہتا تھا کہ ان سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں۔ اتفاق سے ایک طالب علم جو تیار

چھتائے ختہ حال سامنے سے گزرے بادشاہ نے ان کو بلا یا اور وزیر سے کہا کہ ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ طالب علم اتفاق سے میرے سامنے آگیا میں نے اس کو انتخاب کر کے نہیں بلا یا۔ اب میں اس کی عقل کا امتحان کر کے تم کو دھلاتا ہوں کہ عربی طلبہ کیسے عاقل ہوتے ہیں۔ طالب علم کو بادشاہ نے عزت سے بھلایا اور سامنے ایک حوض تھا۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اول وزیر سے سوال کیا۔ کہ بتاؤ اس میں کتنے کثورے پانی کے آسکتے ہیں۔

وزیر نے کہاں بدوں شمار کے اس کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔ حوض کو خالی کیا جائے اور کثورہ بھر بھر کر پانی اس میں ڈالا جائے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کتنے کثورے پانی آسکتا ہے۔ بادشاہ نے اس کے بعد طالب علم صاحب سے دریافت کیا کہ مولانا آپ بتائیں کہ اس میں کتنے کثورے پانی آسکتا ہے طالب علم نے کہا کہ یہ سوال مہمل ہے۔ پہلے کثورا تو متعین ہونا چاہئے کہ وہ کثورا کتابڑا ہے اگر کثورا حوض کے برابر ہے تو ایک کثورا پانی آسکتا ہے اگر اس سے آدھا ہے تو دو کثورے، اگر تہائی ہے تو تین، اگر سواں حصہ ہے تو سو کثورے اگر ہزار ہواں حصہ ہے تو ایک ہزار کثورے۔ اور اگر لاکھواں حصہ ہے تو ایک لاکھ کثورے۔ غرض جو نسبت مساحت میں حوض کے کثورے کو ہو گی اسی نسبت سے اس میں کثورے سائکیں گے۔ اس لئے اول کثورا متعین کرنا چاہئے اس کے بعد سوال کرنا چاہئے۔

بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اب انصاف کی بات تو یہ ہے کہ تم قلمدان وزارت اس طالب علم کے حوالے کر دو اور خود جا کر طالب علمی کرو۔ مگر تمہارے خاندان میں وزارت چلی آ رہی ہے اس لئے معاف کرتا ہوں اور تم کو اس عہدہ پر بحال کرتا ہوں۔ اسکے بعد مولوی صاحب سے کہا کہ مولانا آپ کو بہت تکلیف دی گئی معاف کیجئے گا اب آپ جاسکتے ہیں۔

وہ سلام کر کے چلتے ہوئے اور ان کے دل میں وزارت کی ذرا بھی ہوس پیدا نہ ہوئی حالانکہ بادشاہ ان کی قابلیت وزارت کو تسلیم کر چکا تھا۔ کیونکہ اس زمانہ میں طلباء کو دنیا کی ہوں نہ تھی۔ طلباء اس زمانہ میں سب صوفی ہوتے تھے۔ اسی لئے پہلے زمانہ میں خانقاہوں کی اور تعلیم تصوف کی ضرورت نہ تھی کیونکہ سب ماں کے پیٹ سے صوفی ہی پیدا ہوتے تھے اور ان کا وہی مذاق ہوتا تھا جو حضرت غوث اعظم کا اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک سخنر..... بادشاہ ملک نیروز نے آپ کے مصارف کے لئے آپ کو ایک معتدبہ حصہ ملک کا پیش کرنا چاہا۔ آپ نے رباعی میں جو لکھا چوں چتر سخنی رخ نہیں سیاہ باد در دل اگر بود ہوں ملک سخنم

زانکہ یا فتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیروز بیک جو نمی خرم  
 ”سخن کے جھنڈے کی طرح میرے بخت کامنہ کالا ہوا اگر میرے دل میں ملک سخن کی آرزو ہو  
 جب سے مجھے آدمی رات کو اٹھنے کا چسکا لگا۔ ملک نیروز کو میں ایک جو کے بد لے بھی نہیں خریدتا۔“  
 ایک عالم کی حکایت رسالہ القاسم دور قدیم میں لکھی تھی کہ وہ خدمت دین میں مشغول رہا  
 کرتے تھے کب معاش کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ایک نانبائی آپ کا معتقد تھا۔ اور جان شار تھا۔ اور ایسے  
 شخص سے مانگ کر کھانا بھی جائز ہے اس سے آپ نے کہہ رکھا تھا کہ بھائی جب کبھی ہم کو بھوک  
 ستائے گی ہم بے تکلف تمہارے پاس آ جایا کریں گے مگر ایک شرط ہے وہ یہ کہ ہمارے سامنے وہ  
 مکڑے رکھ دینا جو مسافروں کے آگے سے بچ جاتے ہیں۔ اگر سالم روٹی دو گے تو ہم نہ کھائیں گے۔  
 نانبائی نے اس خیال سے یہ شرط منظور کر لی کہ اس کے خلاف میں مولانا کو تکلیف ہو گی اور  
 مکڑوں سے بھی رہ جائیں گے چنانچہ جب بھوک لگتی۔ مولوی صاحب اس کی دکان پر پہنچ جاتے  
 اور وہ مسافروں کے سامنے کے مکڑے بچے ہوئے ان کے آگے رکھ دیتا۔ انکو پانی میں بھگو کر کھا  
 لیتے اور پھر علمی..... مشغله میں مشغول ہو جاتے۔

اتفاق سے ایک دن جو گئے تو نانبائی نے کہا کہ آج تو مکڑے نہیں ہیں یا تو مسافروں نے  
 مکڑے چھوڑے نہیں یا کوئی بہت کھانے والا آگیا ہو گا جو مکڑے بھی کھا گیا۔ تو مولوی  
 صاحب خوش خوش فرماتے ہوئے واپس آگئے

**تِلْكَ إِذَا كَرَّةُ خَاسِرَةٍ كَهْ آجَ كِيْ واپسِيْ توبِرِيْ خَسَارَهُ كِيْ ہوئِيْ**

”آپ کو فاقہ میں بھی لطیفہ سو جھا کیونکہ قرآن سے اقتباس کرنا تو لطائف میں سے ہے۔“  
 طلباء کی حکایتیں اس قسم کی بہت سی ہیں۔ ایک حکایت تو والد صاحب سے سنی ہے کہ طلباء  
 ایک گھر اتنا لیا کرتے تھے جس کامنہ تک کر دیا کرتے۔ جو خط گھر سے آتا اس کو بغیر دیکھے پڑھے  
 گھر سے میں ڈال دیتے۔ اسی طرح برابر گھر سے میں خطوط ڈالتے رہتے۔ یہاں تک کہ جب  
 ساتھ آٹھ سال میں علم سے فارغ ہوتے اس وقت وہ گھر ا توڑا جاتا۔ اور تمام خطوط پڑھتے۔ کسی  
 میں رنج کی خبر ہوتی تو اس کو دیکھ کر رو لیتے۔ کسی میں خوش خبری ہوتی اس کو دیکھ کر ہنس لیتے۔

گے گریم و گے خندم دیوانہ چنیں باشد

کبھی روتا ہوں کبھی ہستا ہوں دیوانے ایسے ہیں ہوتے ہیں۔

ایک حکایت اور سنی ہے کہ ایک دن ایک طالب علم کے پاس تیل نہ تھا تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک رئیس کا جلوس لکھا جس میں مشعلیں اور فانوس وغیرہ بہت روشن تھے۔ آپ کتاب ہاتھ میں لے کر اس جلوس کے ساتھ ہو لئے اور مطالعہ کرتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ جلوس رئیس کے محل تک پہنچا۔ آپ بھی اس کے ساتھ محل میں چلے گئے۔ خدام نے روکنا چاہا مگر رئیس نے منع کر دیا۔ یہاں تک کہ روشنی کے فانوس وغیرہ خاص آرام کے کمرہ میں پہنچے۔ آپ وہاں بھی چلے گئے اور ایک تخت پر بیٹھ کر کتاب دیکھتے رہے اور ایسے مستغرق تھے کہ نہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھائی نہ باندھی کی طرف۔

رئیس ان کے اس استغراق پر محظوظ ہو گیا۔ جب مولوی صاحب مطالعہ سے فارغ ہوئے اس وقت ہوش آیا اور کتاب بند کر کے ادھر ادھر دیکھ کر گھبرا گئے کہ میں کہاں آگئیا اور کس طرح آگئیا۔ رئیس نے ان کی پریشانی دیکھ کر عرض کیا کہ مولانا آپ ذرا پریشان نہ ہوں آپ نے تو مجھے اپنا گرویدہ بنالیا ہے۔ واقعی علمی شوق اسی کا نام ہے جو آپ کے اندر دیکھا۔ اب میری درخواست یہ ہے کہ آپ میرے ہی غریب خانہ پر مقیم رہیں تبھیں کھانا کھایا کریں۔ میں آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھوں گا۔ مولوی صاحب بولے کہ میں اس قید کو پسند نہیں کر سکتا۔ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ ہاں البتہ مجھے اس کی تکلیف ہے کہ بعض دفعہ میرے پاس تیل نہیں ہوتا جس سے مطالعہ کا حرج ہوتا ہے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے پس اگر آپ اتنا کر دیں تو عنایت ہو گی کہ کسی نے سے کہہ دیجے کہ جب میں تیل لیتا چاہوں تو مجھے تیل دے دیا کرے اور آپ کے حساب میں دام لکھ دیا کرے مجھ سے داموں کا مطالبہ نہ کیا کرے اس سے زائد کی مجھے ضرورت نہیں چڑا نچر رئیس نے تیل کا انتظام کر دیا۔ ایسے ہی لوگوں کی بابت کوئی بزرگ فرماتے ہیں

خاکساراں جہاں را حقارت منگر  
تو چہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد  
دنیا کے خاکساروں کو حقارت سے نہ دیکھو تو کیا جانتا ہے کہ اس گرد میں شاید کوئی سوار ہو۔  
اور شیرازی فرماتے ہیں

گداۓ میکدہ ام لیک وقت مستی میں      کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم  
میں میکدے کا گدا ہوں لیکن مسی کے وقت آسمان پر ناز اور ستاروں پر حکم چلاتا ہوں۔

## صحیح استغراق

اسی طرح کا ایک قصہ استغراق کا حضرت شبیلی کا ہے کہ ایک دن وہ حضرت جنیدؓ کے گھر میں

بلا اطلاع گھس گئے۔ حضرت جنیدؒ کی بیوی پرده کے خیال سے اٹھنے لگیں۔ حضرت جنیدؒ نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور کہا ان سے پرده کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں چنا تھا وہ دیر تک لے بیٹھے ہوئے نہ کر مقامات میں گفتگو کرتے رہے اور حضرت جنیدؒ اپنی بیوی کو اٹھنے سے روکتے رہے یہاں تک کہ کسی بات پر حضرت شبلیؒ پھوٹ کر رہے تو حضرت جنیدؒ نے بیوی کو اشارہ کیا کہ اب چلی جاؤ۔ اب ان کو ہوش آگیا ہے۔

تو بعض دفعہ استغراق ایسا قوی ہوتا ہے جس میں صاحب استغراق کو مطلق خبر نہیں ہوتی کہ یہاں کوئی عورت بھی ہے یا نہیں۔ مگر اس کا پیچانا حضرت جنیدؒ جیسوں کا کام ہے۔

تو ایک زمانہ میں تو طلباء کی یہ حالت تھی اور اب یہ حالت ہے کہ ایک طالب علم نے میرے ایک دوست رئیس کو خط لکھا کہ میں عربی پڑھنا چاہتا ہوں اور گھر سے بوجہ تنگی کے خرچ نہیں آ سکتا۔ آپ میرے لئے پندرہ روپے ماہوار تخفواہ مقرر کر دیجئے۔ اس کے ساتھ ہی میرے نسبت یہ بھی لکھ دیا کہ اس نے مجھ کو یہ مشورہ دیا ہے وہ صاحب بہت عاقل ہیں۔ خدامال دے تو اس کے ساتھ عقل بھی دے انہوں نے وہ خط میرے پاس بھیج دیا کہ اس شخص کے متعلق کیارائے ہے میں نے لکھا کہ اس کذاب کو ایک پیسہ نہ دیا جائے وہ بھی کبھی میرے پاس بھی آتے ہیں۔ میں اس کی خبر لوں گا۔ مگر وہ خط بہت دنوں سے میرے پاس رکھا ہوا ہے اب تک تو وہ صاحب آئے نہیں۔ یا تو ان کو جواب نہ جانے سے شبہ ہو گیا کہ واقعہ کی مجھے اطلاع ہو گئی یا ان صاحب نے لکھ دیا کہ اس نے آپ کی امداد سے منع کر دیا ہے اس لئے معذوری ہے (یا اس شخص نے دوسرے طلباء کے ذریعہ سے خانقاہ میں اس خط کے متعلق تذکرہ سن لیا) اس لئے انہوں نے آنا ہی بند کر دیا۔

میں کثورہ والے طالب علم کا ذکر کر رہا تھا۔ غرض جب طلباء کے نزدیک کثورہ بھی حوض کے برابر ہو سکتا ہے تو میزان عمل ان کے نزدیک زمین و آسمان سے بڑا ہو تو کیا بعید ہے کیونکہ میزان عمل تو اللہ تعالیٰ کی میزان ہے اس لئے حضورؐ نے شبہ کو رفع کرنے کے لئے فرمایا کہ:

**الحمد لله يملا الميزان الحمد لله سے میزان عمل بھر جاتا ہے**

(مسند احمد ۵: ۳۶۵، سنن الدارمی ۱: ۱۹۷)

اب وہ شبہ رفع ہو گیا کہ شاید میزان خالی رہے۔

أَفَكَانَ دِاخْلًا فِي غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ فَلَا يَصْحُ قِيَاسَهُ عَلَى الْأَعْمَى وَقَدْ أَمَرَ بالْحِجَابِ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمِيَا وَإِنَّمَا لِكُونِ الْأَعْمَى مِنْ أُولَى الْأَرْبَةِ يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ إِنَّمَا  
وَهُوَ شَعْرٌ بِمَا كَانُوا هُنَّا بِالْحَدِيثِ وَالْقُولِ وَصَوْتِ الْحَلِيِّ فَيَمْلِي بِقَلْبِهِ أَلِيَّهُنَّ بِخَلْفِ الْمُسْتَغْرِقِ  
لَا نَهُ حَلْبَ الْحَيْوَانِ أَوْ كَالْطَّفَلِ الَّذِينَ لَا يَشْتَهِيُونَ ۚ ۱۲۷۔

## تاویل کا دروازہ

اس پر شاید کسی کو یہ وسو سہ ہو کہ بس اب نماز روزہ کی کیا ضرورت ہے ایک بار الحمد للہ کہہ لیتا کافی ہے۔ براقصہ تو میزان عمل کا ہے وہ تو اس سے بھر ہی جائے گا۔

جیسے ایک طالب علم نے گاؤں میں جا کر وعظ کہا اور یہ کہا کہ بنے نمازی سورکتے کے مثل ہیں اس جملہ پر گاؤں والوں کو جوش آگیا اور سب نے چڑھائی کر کے مولوی صاحب کو مارنا چاہا۔ میزان نے یہ رنگ دیکھ کر مولوی صاحب سے کہ آج خیر نہیں لوگ آپ پر چڑھائی کر کے آرہے ہیں کہا کیوں؟ کہا! آپ نے وعظ میں بنے نمازیوں کو سورکتا بنایا تھا، بولے بس اتنی بات پر چڑھائی کر رہے ہیں کہا ہاں جی کہنے لگے تم بے فکر ہو۔ میں ابھی سب کو ٹھنڈا کئے دیتا ہوں۔ یہ توبائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ واقعی یہ تاویل کا دروازہ کھلا رہے تو بات کا بدلتا کچھ بھی مشکل نہیں چنانچہ گاؤں والے آئے اور مولوی صاحب پر حملہ کرتا چاہا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی آخر میری کچھ خطاب بھی ہے؟ کہا اس سے بڑھ کر کیا خطاب ہو گی کہ تم نے ہم کو سورکتا بنایا۔ کہا میں نے تم کو نہیں کہا تھا۔ بلکہ بنے نمازیوں کو کہا تھا۔ گاؤں والوں نے کہا بھر ہم بھی توبے نمازی ہیں۔ مولوی صاحب بولے ہرگز نہیں تم بنے نمازی کیوں ہوتے۔ بتلوں کیا تم نے کبھی نئے کپڑے پہن کر آخری جمع کی نماز نہیں پڑھی بولے جی ہاں۔ آخری جمع کی نماز پڑھ لی ہے کہا اور عید بقر عید کی نماز۔ بولے وہ بھی پڑھتے ہیں کہا بھر تم بنے نمازی کدھر سے ہوئے بنے نمازی تو وہ ہے جو ایک دفعہ بھی عمر بھر میں خدا کے سامنے نہ جھکا ہو۔ بس اس جواب سے سب خوش ہو گئے۔

تجیسے اس طالب علم نے عید بقر عید کی نماز سے گاؤں والوں کو نمازی..... بنادیا تھا۔

## میزان گناہ و ثواب

ایسے ہی شاید کوئی نہ سمجھے کہ سبحان اللہ، الحمد للہ سے میزان عمل تو بھر ہی جائے گا بھر اور عمل کی کیا ضرورت۔ اسکے دو جواب میں ایک الزامی، ایک تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ سبحان اللہ! الحمد للہ سے میزان کا ایک پلہ ہی تو بھرے گا (کیونکہ اگر وہ بھی بھر گیا تو آپ جنت میں نہ جائیں گے۔ بلکہ اعراف میں رہیں گے۔ اور اگر وہ بہت زیادہ بھر گیا کہ اعمال صالحہ کے پلے سے بھی بھاری ہو گیا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لئے دوسرے پلہ کی فکر بھی لازم ہے جس میں گناہ رکھے جائیں گے اور ترک صلوٰۃ و ترک صیام و ترک زکوٰۃ و ترک حجج یہ سب معاصی ہیں۔ اگر گناہوں کا

پلے بھاری ہو گیا تو نیکیوں کا پلے بھر جانے سے کیا ہو گا۔

**تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبحان اللہ والحمد للہ کا ثواب بیان فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمات کی یہ خاصیت ہے یہ ایسا ہے جیسے طبیب یہ کہہ کہ بخشہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ دماغ کا ترقیہ کرتا ہے اور مواد مفاسد کا دفع کرتا ہے۔ مگر سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی مضر شے استعمال نہ کیا جائے جو اس کی خاصیت کو باطل کر دے۔ اب اگر کوئی سُنْحِیا کھا کر بخشہ پی لے تو بتلائے بخشہ سے کیا خاک نفع ہو گا۔ اور اگر اس صورت میں بخشہ کی خاصیت کا ظہور نہ ہو تو کیا حکیم کے دعوے کو غلط کہا جائے گا ہرگز نہیں۔**

### عنایت ربی

ایسے ہی یہاں صحبوں کے سبحان اللہ والحمد للہ کی واقعی یہ خاصیت ہے کہ میزان عمل کو بھردیتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ ایک سبحان اللہ والحمد للہ پر اس قدر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں تو والدین سبق کے ایک ایک لفظ پر ایک ایک پیرہ بھی نہیں دیتے۔ البتہ بعض لوگ مکتب جانے پر ایک ہفتہ میں بچوں کو ایک آنے تو دے دیتے ہیں اور ایک صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے بابا جان مہینہ بھر تک حقہ بھرنے میں دوپیے منصوري دیا کرتے تھے جو وزن میں تو ڈبل تھے مگر قوت میں کم تھے۔ اگر کسی بچے کو بابا نے عید لقرعید کے موقع پر ایک روپیہ دے دیا تو خوشی کی کوئی انہتا ہی نہیں۔ خصوص پہلے زمانے میں جب کدوپیہ کم تھا۔

ہمیں یاد ہے کہ والد صاحب نے عید کے دن ہم دونوں بھائیوں کو دودو آنے کے پیسے دیئے بھائی اکبر علی نے تو لے لئے میں نے لینے سے انکار کر دیا والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیوں واپس کر دیئے۔ میں نے کہا یہ تو تھوڑے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے والد تو ہم کو عید کے دن دوپیہ دیا کرتے تھے اور ہم اس سے ہی بہت خوش ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے کہا ہم میں اور آپ میں فرق ہے فرمایا وہ کیا۔ میں نے کہا آپ غریب کے بیٹے تھے اور ہم امیر کے بیٹے ہیں۔ اس پر بھائی اشارہ سے کہنے لگے کہ یہ کیا کہتے ہو گتا تھا کرتے ہو میں نے کہا اس میں گستاخی کیا ہے۔ ہم ان کو اپنے دادا پر ترجیح دے رہے ہیں اس میں تو اپنے والد کی تعظیم ہے۔ والد صاحب ہنسنے لگے اور ایک ایک دوپیہ عنایت فرمایا جب ہم خوش ہوئے۔

مگر آج کل ایک روپیہ کی بھی قدر نہیں۔ اب تو بچے دو تین روپے سے کم میں خوش نہیں ہوتے۔ غرض ہم اپنی اولاد کو ایک ہفتہ کی پڑھائی کے صلے میں ایک آنے دیتے ہیں اور یہ بھی سب نہیں دیتے بلکہ بعض والدین ہی ایسا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک سبحان اللہ کے عوض میں اس قدر دیتے ہیں کہ اٹھائے ناٹھے۔

اس پر مجھے ایک بات یاد آئی وہ یہ کہ دیانت نے تنازع کو ثابت کر کے اور (وہ ثبوت بھی اسی کے زعم میں ہے ورنہ درحقیقت اس کے پاس اس کی کچھ دلیل نہیں) نجات ابدیہ پر اعتراض کیا ہے کہ مسلمان جو اعمال صالحہ کے عوض میں نجات ابدیہ کے قائل ہیں یہ عقل کے خلاف ہے کیونکہ اس کی توانی مثال ہے جیسے کسی آدمی پر پانچ من بو جہ لا دیا جائے جس سے اس کا کوچخ نکل جائے۔ پس تناہی عمل کا غیر متناہی صلہ ہونا چاہئے۔

مجھے حیرت ہے کہ اس شخص کو عاقل کس نے کہہ دیا۔ پس ایسی دلیل سے آپ اس کی دلیل عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور گویہ اس بے عقل کی بات کا جواب دینا ہمارے ذمہ لازم نہ تھا۔ عقلاء خود اس کوں کر نہیں گے مگر ضعفاء کی حفاظت کے لئے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔

وہ یہ کہ انسان پر پانچ من بو جہ لا دنا اس وقت موجب تکلیف ہے جب کہ ایک دم سے لا دیا جائے اور غیر متناہی ثواب غیر متناہی مدت میں دیا جائے تو اس میں کیا اشکال ہے۔ اور مسلمان جو نجات ابدیہ کے قائل ہیں تو وہ اس کے ساتھ اس کے بھی تو قائل ہیں کہ اہل جنت ہمیشہ زندہ رہیں گے ان کو کبھی موت نہ آئے گی (دوسرے لادنے کی بھی ایک ہی کبھی ہے۔ بھلانجات ابدیہ سے کرپا لادنا کیونکر لازم آگیا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک شخص کو اس قدر خزانہ دیں جو کبھی ختم نہ ہوا اور وہ خزانہ ایک مقام پر محفوظ کر کے کنجی اس شخص کے حوالے کر دی جائے کہ ضرورت کے وقت بتنا چاہے نکالے اور خرچ کرے اور اگر اس شخص کے نزدیک عمر غیر متناہی عطا ہونا ہی لادنے کے مثل ہے تو اس کا حماقت ہونا ظاہر ہے کیونکہ عمر طویل سے کسی پر بھی کچھ گرانی نہیں ہوتی۔ بشرطیکہ قوئی دماغیہ وجسمانیہ معطل نہ ہوں بلکہ اسی زندگی کا تو کفار میں دنیا ہی کے اندر ہر کس طالب ہے۔

**وَلَتَجِدُنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمَ الْحِدْثَمْ  
لَوْيُعْمَرُ الْفَسَنَةُ (ب ۱)**

غرض آپ کو ہر عمل صالح پر بے انتہا اجر ملتا ہے اور ہر مصیبت میں نعم البدل عطا ہوتا ہے یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب اہل نعم اہل مصائب کے اجر کا مشاہدہ کریں گے تو وہ تمنا کریں گے کاش! دنیا میں ہماری کھالیں مقراض سے قطع کی جاتیں تاکہ آج ہم کو بھی یہ ثواب حاصل ہوتا۔ پس اس ثواب کے استحضار سے آپ کو غم ہلاکا کرنا چاہئے اور سمجھ لینا چاہئے کہ یہ سب مصائب درحقیقت تجارت میں داخل ہیں۔

## حق تفویض

یہ تو علاج عام ہے جو عوام کے لئے نامناسب ہے اور ایک علاج خاص ہے جس کو خواص استعمال کرتے ہیں اس کا نام تفویض ہے جس کی حقیقت قطع تجویز ہے یعنی وہ اپنے کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ جو چاہیں ان میں تصریح کریں۔ اپنی طرف سے وہ کوئی حالت یا نظام تجویز نہیں کرتے اور تمام تر پریشانی کا سبب تجویز ہی ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ایک نظام خاص اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہئے۔ اولاً وکو اس طرح پڑھنا چاہئے پھر اس نظام کے خلاف واقع ہونے سے کلفت ہوتی ہے اور زیادہ حصہ اس نظام کا جو ہماری طرف سے تجویز ہوتا ہے غیر اختیاری ہے تو غیر اختیاری امور کے لئے نظام تجویز کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے۔ اسی طرح تجویز کے لئے حدیث میں ہے۔

**اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء و اذا امسكت**

**فلا تحدث نفسك بالصباح (إتحاف السادة المتفقين ۱۰: ۲۶۳، ۲۵۱)**

کہ جب صبح ہو تو شام کے متعلق اپنے دل میں خیال نہ لاؤ اور شام ہو تو صبح کے متعلق خیال نہ لاؤ۔ راحت اسی میں ہے اسی لئے اہل اللہ نے تجویز کو قطع کر کے یہ ندہب اختیار کر لیا ہے زندہ کنی عطائے تو وربکشی فدائے تو دل شدہ بتلائے تو ہر چہ کنی رضاۓ تو اگر تو زندہ رکھے تو یہ تیراعطیہ ہے اگر مارے تو ہماری جان تم پر فدا ہو۔ دل تمہارا عاشق ہے جو آپ کی رضاہم اس پر راضی ہیں۔ اور یہ ندہب بنالیا ہے

ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے يا دل رنجان من

”آپ کی طرف سے ناخوشی میرے لئے خوشی ہے۔ دل آزاریار پر میرا دل قربان ہے۔“

انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم خدا کے ہیں ان کو اختیار ہے کو وہ جو چاہیں تصرف کریں۔ پھر اس کے بھی دو طریق ہیں کبھی تو استحضار ثواب سے تفویض حاصل ہوتی ہے کہ اس سے ہم کو ثواب ملے گا۔ شاید آپ یہ کہیں کہ یہ تو ہی پہلا علاج ہو گیا۔ مگر نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ پہلی صورت میں تو استحضار ثواب خود علاج تھا۔ اور اس صورت میں اصل علاج تفویض ہے اور استحضار ثواب تقویت تفویض کے لئے تفویض کی جاتی ہے۔ استحضار ثواب کو بھی اس میں دخل نہیں ہوتا گو ثواب بھی مل جائے مگر یہ ثواب کے لئے تفویض نہیں کرتا گو کہ ثواب سے استغنا بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنے کو ستحق نہیں سمجھتا۔ صرف استحقاق کی نفی ہوتی ہے کہ اگر ثواب نہ ملے تو عین عدل ہے کیونکہ میں

اس کا مستحق نہیں۔ یہ شخص محض اس لئے تفویض کرتا ہے کہ محبوب کا حق یہی ہے کہ اس کے سامنے اپنی رائے اور تجویز کو فنا کر دیا جائے۔ یہ تفویض کا عالی درجہ ہے کیونکہ جو..... تفویض ثواب کے لئے ہوتی ہے وہاں عمل مفوت ثواب سے انقطاع تفویض کا اختلال ہو سکتا ہے اور تفویض للرضامیں یہ اختلال نہیں رہا۔ یہ کہ تفویض کے بعد بھی بقاء رضا میں تو شہزاد احتمال ہو سکتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اول توجہ تک تفویض باقی ہے رضا بھی باقی ہے دوسرا صوفی ابن الحال ہوتا ہے وہ آئندہ کی فکر نہیں کرتا۔ وہ بقاء رضا میں بھی تفویض سے کام لیتا ہے۔ مگر یہ علاج چونکہ خاص ہے اس لئے میں نے اس کو تمیم کے طور پر بیان کر دیا ہے ورنہ اصل علاج عام وہی ہے جو اور پر بیان کیا گیا ہے کہ انتخاد ثواب کا مرافقہ کرے اور یہ بات سمجھ لے کہ ہر مصیبت پر نعم البدل ملتا ہے اور آخرت میں اومتہا ہی ہے۔

### مشاہدہ مصلحت و حکمت

دنیا میں بھی نعم البدل ملتا ہے اور خدا پر بھروسہ کر کے میں نہایت زور سے کہتا ہوں کہ دنیا میں بھی اس کو نعم البدل کا مشاہدہ ضرور ہوگا۔ مگر اس کے لئے ایک شرط ہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ کے معاملات میں غور کرتا رہے تو ہر واقعہ کی مصلحت سمجھ میں آجائے گی۔

بحمد اللہ مجھے تو خدا نے یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ مجھے تو ہر واقعہ میں کھلی آنکھوں سے مصلحت و حکمت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

چنانچہ آج کل مجھے عذر ہے اس کی نسبت میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا میرے دل پر کس قدر رحظ ہے کیونکہ میں عرصہ سے یہ چاہتا تھا کہ سفر منقطع کر دوں کیونکہ مجھے سفر سے کلفت ہوتی تھی اور میں اس کے لئے بہانہ تلاش کرتا تھا لیکن مجھے خبر نہ تھی کہ میرے جسم میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو میری اس کلفت کے رفع کا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی مجھے آنت اتنے کامت سے مرض تھا لیکن اس میں کوئی تکلیف نہ تھی۔ اب کچھ عرصہ سے اس میں خاص تکلیف شروع ہو گئی کہ اپنے موقع پر سے اس کا ہٹنا تکلیف کا سبب ہوتا ہے اور ادنیٰ سبب سے وہ ہٹ جاتی ہے جس سے تحریز خصوص سفر میں مشکل ہے لہذا اب میں نے سفر منقطع کر دیا۔ خدا نے مجھے یہ عذر ایسا دیا جس سے میری تکالیف کا انسداد ہو گیا۔

اس طرح ہر وقت کوئی نہ کوئی مصلحت اور فائدہ ہر واقعہ میں سمجھ میں آ جاتا ہے حتیٰ کہ کسی عزیز کی موت میں بھی اور مصیبت و رنج کے واقعات میں بھی اور کم از کم یہ فائدہ تو ہر واقعہ میں مشاہدہ ہے کہ اس سے اخلاق کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اپنی حقیقت و جزو کا مشاہدہ ہو جاتا ہے اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔

تو صاحبو! اگر غم بھی ہو مگر غم کی حکمت سمجھ میں آجائے تو غم ہلکا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کو غم سے پریشانی کم ہوتی ہے۔ پس انسان کو جو مصیبت پیش آئے اس وقت یہ سمجھ لے کہ مجھے اس میں نفع ضرور ہو گا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ گودنیوی نفع ابھی سمجھ میں نہ آئے مگر غور کرتے کرتے وہ بھی سمجھ میں آنے لگے گا اور نہ سمجھ میں آئے تو آخرت کا نفع تو ہے ہی۔ اور وہی ہمارا اصلی گھر ہے۔ اس کے نفع کو مقدم سمجھنا چاہئے گو دنیا کا نفع بھی من وجہ مطلوب ہے مگر آخرت کے برابر نہیں اور یوں تو آدمی سفر میں، ریل میں، اور سڑائے میں بھی اپنی راحت کا اہتمام کرتا ہے کہ جگہ اچھی اور گرمی سردی کا آرام ہو تو اسی درجہ میں دنیا کی راحت کا بھی بقدر ضرورت اہتمام کرنے کا مصالحہ نہیں کیونکہ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے سڑائے جیسی ہے اس لئے دنیا کی نہیں کیونکہ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے سڑائے جیسی ہے اس لئے دنیا کی مصلحت و منفعت بھی ایک درجہ میں مطلوب ہے اور شریعت نے بھی اجازت دی ہے۔

### شریعت کا خلاصہ

یہاں سے ایک شبہ کا جواب بھی ہو گیا کہ وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء شریعت دنیا کا نے سے اور دنیا کی راحت و منفعت سے روکتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔

فتوج میں ایک صاحب نے مجھ سے خود کہا کہ میں نے تو تمام شریعت کا خلاصہ یہ سمجھا ہے کہ نہ غم میں روؤ، نہ خوشی میں ہنسو۔ بس پھر بن کر رہا اور مر جاؤ۔ میں نے کہا بخان اللہ! آپ نے خوب خلاصہ نہ کالا۔ بلکہ شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی حال میں پریشان نہ رہو۔ بلکہ راحت سے رہو گم میں بھی اور خوشی میں بھی۔ کیونکہ شریعت غم کے ہلکا کرنے کا طریقہ بتاتی ہے اور راحت کے متعلق ایسے امور کی تعلیم دیتی ہے جس میں اسباب راحت میں ترقی ہو زوال نہ ہو۔ واللہ الوگوں نے شریعت کو سمجھا نہیں۔ اس لئے یہ نیا خلاصہ نہ کالا ہے۔

یہ خلاصہ ویسا ہی ہے جیسے مولانا جامیؒ نے قصہ یوسف و زین الخلق کا خلاصہ نہ کالا تھا۔ وہ سفر میں ایک شخص کے رفیق تھے روٹی تھوڑی تھی اس نے مولانا جامیؒ کو باقوں میں لگانا چاہتا کہ خود روٹی زیادہ کھا جائے اور کہا مولانا آپ نے یوسف و زین الخلق کا قصہ لکھا ہے۔ ذرا وہ قصہ بیان تو کچھ مولانا جامیؒ سمجھ گئے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے فرمایا جی ہاں قصہ تو بہت لمبا ہے مگر خلاصہ اس کا یہ ہے ”پیرے بود پرے داشت گم کر دہ باز یافت“ (ایک بڑے میاں تھے ان کا ایک لڑکا تھا وہ گم ہو گیا پھر مل گیا۔) یہ کہہ کر کھانے لگے۔

نیز یہ ایسا خلاصہ تھا جیسے ایک صاحب نے یہاں خانقاہ میں رہ کر تصوف کا خلاصہ نہ کالا تھا کہ

مجھے تو یہاں کی تمام تر تعلیم کا خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ پیر کی تعظیم خوب کرتے رہو۔  
میں نے کہا سبحان اللہ! اچھا خلاصہ نکالا ہے گویا مشائخ مخلوق کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں نعوذ باللہ!  
اور نہ معلوم یہ خلاصہ انہوں نے کس تعلیم سے سمجھا۔ حالانکہ یہاں تو تعظیم کی ممانعت ہے ہاں اطاعت کا  
حکم ہے کیونکہ اس طریق میں بدoul تقليد و انتیاد کے کام نہیں چل سکتا۔ ان حضرات کا نام بدرجہ میں نے  
ان کو بذر کر دیا۔ یعنی ان کو سکون سے حرکت میں لے آیا (اس کی لطافت اہل ذوق لسان سے مخفی نہیں  
کیونکہ رقبت سکون ہے اخراج تحریک ہے اسی طرح بذر میں وال کا سکون ہے اور بذر میں حرکت ہے)

### ترقی کی حقیقت

میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے شریعت کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ دنیا میں پھر بن کر رہو۔  
انہوں نے شریعت کو اور علماء کے مطلب کو نہیں سمجھا۔

ایک مولوی صاحب جو مالدار بھی تھے ان سے ترقی مال کے متعلق میری گفتگو ہوئی مگر وہ  
سمجھتے نہ تھے۔ بالآخر میں نے کہا کہ میاں تم تو مولوی ہو۔ میں تم کو علمی اصطلاح سمجھتا ہوں کہ علماء  
کی تعلیم کا حاصل اس باب میں یہ ہے کہ مال مقصود بالذات نہ بناؤ۔ ورنہ بذات ہو جاؤ گے بلکہ  
مقصود بالغیر تو بالغیر ہو گے ورنہ مطلقاً جمع مال سے علماء منع نہیں کرتے۔

وہ کیسے منع کر سکتے ہیں جب کہ حدیث میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ مصروف ہے کہ  
ایک مرتبہ وہ غسل فرمائے تھے کہ سونے کی مٹیاں ان پر برنسے لگیں اور وہ ان کو جمع کرنے لگے  
وہی آئی اے ایوب! کیا میں نے تم کو اس سے مستغفی نہیں کر دیا ہے (کیونکہ ایوب علیہ السلام بہت  
مالدار تھے) تو آپ نے عرض کیا۔ بلی یا رب ولکن لا غنی بی عن برکتک

کہ بے شکاے پروگار آپ نے مجھاں سے غنی کر دیا ہے لیکن میں آپ کی نعمت کی ترقی سے مستغفی نہیں ہوں۔

اگر مال جمع کرنا مطلقاً موم ہوتا تو ایوب علیہ السلام کا یہ جواب مقبول نہ ہوتا۔ نیز حضرت  
کعب بن مالک نے ایک دفعہ اپنا تمام مال صدقہ کرنا چاہا تو حضور نے ارشاد فرمایا:

امسک علیک بعض مال کو خیر لک (الصحیح للبخاری ۱۳۹: ۲)

الصحیح لمسلم: التوبۃ: ۵۳، سنن الترمذی: ۳۱۰۲، مسند احمد ۳: ۳۵۳)

”کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اپنے واسطے بھی رکھ لو یہ بہتر ہو گا۔“

چنانچہ انہوں نے خیر کا حصہ روک لیا۔

نیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنے ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ دے دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک گونہ جمع مال ہے۔

حضرت سفیان ثوریؓ کا مقولہ ہے کہ حلال مال کی قدر کرو۔ اس کو فضول ضائع نہ کرو۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ جس میں مال کا جمع کرنا دین کے واسطے مضر تھا اور اب وہ زمانہ ہے کہ مال کا جمع نہ کرنا دین کے واسطے مضر ہے پھر فرمایا کہ اگر ہمارے پاس یہ چند درہم و دینار نہ ہوتے تو یہ اہل دولت تو ہم کو اپنارو مال بنایتے یعنی ہم کو پامال کر دیتے۔

اب کس کا منہ ہے جو علاماً کو بد نام کرے کہ یہ دنیا کمانے اور مال جمع کرنے سے روکتے اور ترقی کے مخالف ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ آج کل جن اہل ترقی کو ترقی کی فکر ہے ان کو صرف آمدی کی فکر ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی وہ خرچ بھی بہت کرتے ہیں پھر اس طرح ترقی کیسے ہوگی۔

### ترقی کی صورت

ترقی کی صورت تو یہ ہے کہ ترقی آمدی کے ساتھ خرچ کو بھی کم کیا جائے۔ پس ان لوگوں کو اپنے حامی ترقی کہنا غلط ہے جو دعویٰ بلا دلیل سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔

شیخ الہی بخش صاحب رئیس میرٹھ کا مقولہ ہے کہ آمدی کی فکر سے زیادہ خرچ کی فکر لازم ہے اگر خرچ کی فکر ہو تو تھوڑی بھی کافی ہو جاتی ہے اور خرچ کا انتظام نہ ہو تو بہت آمدی بھی کافی نہیں۔ آج کل لوگوں کی زیادہ پریشانی کا سبب یہی ہے کہ وہ اپنے خرچ کا انتظام نہیں کرتے۔ اسلئے پچاس اور ساٹھ کی تنوہ بھی ان کو قلیل معلوم ہوتی ہے۔

مجھے خوب یاد ہے کہ مدرسے سے پہلے میں نے ذہن میں اپنے لئے دس روپے تنوہ تجویز کی تھی کہ بس ہم دو میال بیوی کے لئے اتنا بہت ہے۔ مگر آج کل تو پندرہ روپے کی تنوہ کا نام بھی لینا عار ہے۔

چنانچہ ہمارے ہی قریب ایک قصبہ میں چند مستورات نے جمع ہو کر اپنے اپنے شوہروں کی تنوہ ہوں کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے ایک عورت کے خاوند کی تنوہ اٹھایا میں روپے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو وہ یہ کہتی ہوئی شرمائی کہ میں روپے تنوہ ہے اس لئے وہ بیوی کہتی ہے کہ تنوہ تو ان کی بیس ہی روپے ہے مگر ماشاء اللہ اوپر کی آمدی کافی ہے۔ ایک عورت نے کہا۔ کم بخت تو بہ کہ حرام مال پر ماشاء اللہ کہتی ہے۔

غرض شریعت تو دنیا میں راحت کے ساتھ رہنے کی بھی اجازت بلکہ تعلیم دیتی ہے لیکن اس کو مقصود

بالذات بنانے کو روکتی ہے۔ پس اگر دنیا کا کچھ نقصان ہو جاوے اور اس میں دین یا آخرت کا نفع ہو جاوے تو وہ نقصان حقیقت میں کچھ نقصان نہیں وہ ایک تجارت ہے اپنے دل کو سمجھالینا چاہئے میں نے اوپر کہا تھا کہ دنیوی نقصان سے خود دنیا میں نفع ہوتا ہے جو غور میں سمجھ میں آتا ہے مجھ کو اس پر ایک حکایت یاد آگئی۔

بریلی میں ایک صاحب تیم خانہ کے مہتمم تھے انہوں نے میرے نام ایک فتوے کے لئے خط لکھا اور پتہ میں اپنا نام کے ساتھ گورنر تیم خانہ لکھا آج کل ایک آفت یہ بھی ہو گئی کہ جاہ مقصود بالذات ہو گیا جاہ کے لئے اپنے لئے خانہ ساز عہدے پھر ان عہدوں کے نام انگریزی نام تجویز کرتے ہیں تو ان صاحب نے اپنے کو گورنر لکھا مگر وہ ایسے گورنر تھے کہ جواب کے لئے آپ نے نیک تک نہ بھیجا تھا۔ میں اس وقت تک ایسے خطوط کا جواب بیرنگ دے دیا کرتا تھا اس کا جواب بھی میں نے بیرنگ بھیج دیا تو گورنر صاحب نے واپس کر دیا اور مجھے ایک آنے دینا پڑا کیونکہ اس وقت ایک ہی آنے مخصوص تھا۔ اتفاق سے اسی زمانہ میں میرا جانا بریلی ہو گیا۔ میں نے بھائی سے یہ قصہ بیان کیا کہ میں ان گورنر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے ان سے ایک آنے مخصوص کرتا ہے۔ یہ کیسے گورنر ہیں کہ استفتاء بھیجیں اور جواب کے لئے نیک نہ رکھیں اور بیرنگ جواب دیا جائے تو مخصوص بھی ہمارے ذمہ ڈالیں۔ اس وقت بعض لوگ اور بھی بیٹھے تھے جب وہ چلے گئے تو بھائی نے کہا کہ تم نے غصب کیا۔ اس وقت ان گورنر صاحب کے صاحبزادے بھی موجود تھے میں نے کہا یہ اچھا ہوا کہ میرا مدعا حاصل ہو گیا کیونکہ میں تو ان کو اس تہذیب پر تنبیہ کرنے کے لئے ہی ملنا چاہتا تھا۔ اب مجھے ان سے ملنے کی ضرورت نہیں صاحبزادے ضرور مطلع کر دیں گے۔

دیکھئے ان گورنر صاحب کی حرکت سے میرا ایک آنے کا نقصان تو ہوا۔ مگر اس میں بھی حکمت تھی وہ یہ کہ میں نے آئندہ کے لئے قانون مقرر کر لیا کہ ایسے خطوط کا جواب ہی نہیں دیتا جن میں نیک نہ ہو یہ مجبو کو نفع ہوا۔ صاحبو! میرے پاس کوئی چھ مہینے رہے تو میں ان واقعات الہیہ کی اسرار و حکم اس کو برابر بتلاتا رہوں گا جو روزانہ مجھے پیش آتے رہتے ہیں۔ ہاں البتہ ان کے واقعات کا میں ذمہ دار نہیں کیونکہ اپنے واقعات کا علم انہی کو ہو سکتا ہے اور وہی اس کے منافع و حکم کو سمجھ سکتے ہیں۔

### تفاخر و تکبر

گورنر کے قصہ پر ایک مضمون ذہن میں آگیا کہ آج کل تفاخر و تکبر کا مرض ایسا عام ہوا ہے کہ علماء میں بھی یہ مرض سراہیت کر گیا ہے چنانچہ بعض نوجوان اہل علم اپنے ناموں کے ساتھ فاضل دیوبند لکھنے لگے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ ہاں تم فاضل ہو مگر فضیلت سے نہیں بلکہ فضول سے کیونکہ جو لوگ واقعی صاحب فضیلت تھے ان کی تو یہ حالت تھی کہ اپنا نام بھی پورا نہ لکھتے تھے۔

حضرت شیخ العلاماء مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ نے ہمیشہ اپنے دستخط میں بنده محمود ہی لکھا۔ نام بھی پورا نہ لکھنا۔ فاضل یا عالم تو وہ اپنے کو کب لکھتے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے کو عالم ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ خود فرمایا کہ ساری عمر کے علمی مشغله سے ہم کو تو یہ حاصل ہوا کہ جہل مرکت سے جہل بسیط میں آگئے یعنی اپنے جہل کا علم ہو گیا۔

اسی تفاخر کا یہ اثر ہے کہ اپنے ناموں کے ساتھ نسبتیں لکھتے ہیں کوئی سبحانی بتا ہے کوئی یزدانی۔ آج کل چھوٹی قوموں کو ابھی انصاری بننے کی فکر ہو رہی ہے۔ ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ اسلام میں مساوات ہے اس لئے چھوٹی قوموں کو ذلیل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے لہذا مناسب ہے کہ ان کو بڑے بڑے القاب سے یاد کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تنا بز و بالا لقاب۔ سبحان اللہ آیت کا مطلب آپ نے خوب سمجھا۔ آیت کا مطلب تو ہے کہ اس کو بڑے لقب سے یاد نہ کرو یہ تو مطلب نہیں کہ غیر واقعی بڑے بڑے القاب سے یاد کیا کرو) پھر آپ نے لکھا کہ چھوٹی قوموں کو اعظمی، حنفی، نعمانی وغیرہ القاب دیئے جائیں۔

میں نے لکھا کہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ شریعت وغیرہ میں جو کفارت کے احکام مقرر کئے ہیں وہ مصائب ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انتساب الی غیر الاباء حرام ہے تو اگر ان لوگوں کو بڑے بڑے القاب مذکورہ دیئے گئے تو چند روز میں لوگ انکو حضرت امام اعظمؒ کی اولاد سمجھنے لگیں گے جیسا کہ ایک صاحب نے اپنے نام کے ساتھ نعمانی لکھنا شروع کیا تھا۔ اور عام لوگ ان کو امام صاحب کی اولاد سمجھنے لگے۔ پھر اس تفاخر کے یہاں تک ترقی کی کہ بعض لوگ انسان سے حیوان بننے لگے۔ کوئی اپنے نام کے ساتھ طویل ہند لکھتا ہے کوئی بلبل ہند۔ میں نے کہا کہ اب چند روز میں لوگ خرہند اور زاغ ہند بھی بننے لگیں گے۔

### حدود کی تمیز

اب میں اصل مضمون کی طرف عود کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ اسبب دنیوی نقصان پریشان ہونے کا یہ بھی ہے کہ مال و جاہ کو مقصود بالذات سمجھنے لگے۔ اس لئے اس کے فوت کے وقت اس کے لئے البدل پر نظر نہیں جاتی۔ کیونکہ مقصود بالذات کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ اگر ان کو مقصود بالذات نہ سمجھا جاوے تو اس کے بدل ملنے

پر ناقعہ ہو جاوے اس مرتبہ میں علماء اس کو مطلوب بنانے سے منع کرتے ہیں۔ ورنہ علماء کسب حلال اور حرام  
مال سے مطلقاً منع نہیں کرتے۔ بلکہ کسب حلال کو تو فرض کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں اس کا امر ہے۔

چنانچہ میں نے ایک دفعہ ایک بیان میں کہا تھا کہ ترقی کے ہم مخالف نہیں البتہ بعض ترقی کے  
مخالف ہیں اور اس کو آپ بھی تسلیم کریں گے کیونکہ اگر ہر ترقی مطلوب ہے تو ورم بھی ایک ترقی ہے  
اس کا علاج کیوں کیا جاتا ہے۔ پس جو درجہ آپ کے یہاں ترقی ورم کا ہے وہی درجہ ہمارے  
یہاں بعض ترقی کا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مال کے درپے نہ ہو کہ دین بر باد ہو جائے۔

مہادا دل آل فرو مایہ شاد کہ از بہر دنیا وہد دین بہاد  
”اس فرومایہ کا دل کبھی خوش نہ ہو جو دنیا کی خاطر اپنے دین کو کھو دیتا ہے۔“

اگر مال کے ساتھ دین پوری طرح محفوظ رہے تو پھر تم ترقی دنیا سے کون روکتا ہے جتنی چاہو  
ترقی کرو۔ خواہ بادشاہ ہو جاؤ خواہ وزیر ہو جاؤ۔ خواہ فتح القلم کو فتح کرو۔ مگر حدود کے اندر رہو لیں  
تجربہ سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے حدود کی تینیز آپ کو خود نہ ہوگی۔ بلکہ اس کے لئے آپ کو اول کسی  
عالم کے پاس رہنے کی ضرورت ہوگی جو مسائل و احکام سے آپ کو واقف کرے پھر محقق شیخ کے  
پاس رہنے کی ضرورت ہوگی۔ وہ آپ کو صدر ائمہ بازغۂ نہ پڑھائے گا۔ بلکہ اس کی صحبت و تقریر  
ہی سے آپ کو حدود کا امتیاز ہو جائے گا۔ اکبر حسین صاحب نجح مرحوم فرماتے ہیں

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

اور صحبت علماء و مشائخ کے لئے اس کی ضرورت نہیں کہ آپ اپنی ملازمت وغیرہ کو ترک کر کے  
ان کے پاس رہیں۔ بلکہ اسکی آسان صورت یہ ہے کہ اپنی تعطیلات کا کچھ حصہ ان کی خدمت میں  
گزارو۔ چھوٹی چھوٹ تعطیلوں کو تو اپنی تفریح وغیرہ میں صرف کرو۔ وہاں بڑی چھٹی کی تنصیف کر کے  
نصف حصہ ان کے پاس رہو اور نصف حصہ اپنے وطن وغیرہ میں رہو۔ اتنا بھی اگر آپ کرتے رہیں تو  
کافی ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو یوں کہا جائے گا کہ آپ کو دین کی طلب ہی نہیں۔

ابھی کچھ دن گزرے ہیں ایک صاحب عہدہ دار میرے پاس آئے تھے وہ کچھ شہہات بیان کرنے  
لگے۔ میں نے کہا کہ آپ کے شہہات کے جوابات تو حاضر ہیں مگر ممکن ہے کہ ان کے جوابات سے آپ  
کی تسلی نہ ہو کیونکہ آپ کے شہہات تو برسوں کے پرانے ہیں اور آپ تشفی چاہتے ہیں۔ ایک جلسہ میں یہ  
ٹھیک نہیں بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ آپ چھ مہینے یہاں رہیں تو امید ہے کہ آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ اگر

کسی کو یہ ذرہ کہ تم مقی بن جائیں گے تو دنیا کے مزے جاتے رہیں گے تو میں کہتا ہوں کہ تم یہ نیت ارلو کہ مقی نہ بنیں گے۔ مگر خدا کے لئے علماء و مشائخ کی صحبت میں رہ کر ایک دفعہ دین کو بھجو تو لو۔ اس کا یہ اثر ہو گا کہ تم مقی بننے کے لئے کوئی وقت پیش نہ آئے گی۔ بلکہ تم خود بخوبی عمل کے مشاق ہو جاؤ گے اور تم۔ اس وقت اعمال دیدیہ میں وہ حظ اور لذت آئے گی کہ دنیا کی تمام لذتوں کو بھول جاؤ گے۔

## دین میں تصرف

علی گڑھ کے ایک طالب علم ایم اے میرے پاس آتے جاتے ہیں۔ پہلے وہ آزاد تھے۔ مگر ان کی یہ حالت ہے کہ دین کا انکو عشق ہو گیا ہے اور ان کی حالت یہاں کے صلحاء کی برکت سے اس کا مصدقہ ہوئی  
 بگفتا من گل ناجیز بودم      ولیکن مدتے بالکل نہستم  
 جمال ہمنشین درمن اثر کرو      و گرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم  
 ”اس نے کہا میں ناجیز مٹی تھی مگر ایک مدت تک پھول کے ساتھ رہی تو ہمنشینی کا یہ اثر سے  
 کہ میں بھی خوشپور رکھتی ہوں ورنہ حقیقتاً میں وہی ناجیز مٹی ہوں۔“

اب وہ دنیا سے اس قدر تنفر ہیں کہ ان کے چجانے ایک دفعہ ان سے فرمائش کی کہ ایک بُن کا نام سودی قرض کار قعہ لکھ دوانہوں نے صاف انکار کر دیا چچا کو ناگوار ہوا۔ ان کے والد کو اطلاع ہوئی ان کو بھی ناگوار ہوا اور کہا تم نے چچا کے حکم کی مخالفت کیوں کی۔ کہا وہ مجھ سے خدا کے حکم کی مخالفت کرتے تھے اور مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں میری ذات میں وہ کوئی تصرف کریں اس کے لئے میں جان و دل سے حاضر ہوں۔ مگر دین میں تصرف کریں تو یہ مجھ کو ناگوار نہیں۔ پھر خدا نے غیب سے یہ سامان کیا کہ ان کے چچا کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ان کو اس حرکت پر تنبیہ کی اور بھتیجے کی تائید کی۔ چچا نے خواب سے بیدار ہو کر تو یہ استغفار کیا اور بھتیجے کو خواب میں یہ سب واقعہ لکھ کر ان سے معافی طلب کی۔ اور سب راضی ہو گئے۔

وَقَعَى اللَّهُ تَعَالَى أَبْنَيَ خَاصَّ بَنِدُونَ كَمْ سَبَبَ كَامِ غَيْبَ سَبَبَ خَوْدَرَسْتَ كَرْدَيْتَ هِيَنَ۔ اَبْ آپ کی یہ حالت ہو گی کہ اگر پہلے میں روپے کافی نہ ہوتے تھے تو اب دس روپے کافی ہوں گے اور دین برباد کر کے دنیا کمانے کی ہوں نہ ہو گی۔

## دنیا کی ہوں

ہوں نہ ہونے پر قصہ یاد آگیا ایک سب بچ جتھے ان کے پاس دو تعلقداروں کا مقدمہ آیا۔ ان

میں ایک نے ایک لاکھ روپے رشوت میں پیش کئے۔ سب بحث صاحب نے اپنے نوکر کو حکم دیا اس تالاق کو باہر نکال دو۔ ہر چند کہ تعلقدار کے سامنے ایک سب بحث کی کوئی حیثیت نہیں مگر ایسے وقت وہ بھی کچھ نہیں بول سکتا جو خوشامد میں رشوت دیتا ہو۔ اور دوسرا اس سے استغنا بر تھا ہو۔ دوسرے فریق کو خبر ہوئی کہ ایک لاکھ روپیہ واپس کر دیا گیا وہ سوال لاکھ روپیہ لے کر آیا۔ سب بحث نے اس کو بھی نوکروں سے نکلوادیا۔ بتلائیے وہ کیا بات تھی کہ ایک شخص نے سوا دو لاکھ روپے پالات مار دی۔ یقیناً اس کو رشوت لینے میں تکلیف تھی اور اس پر لات مارنے میں راحت تھی۔ مگر چونکہ وہ عالم نہ تھے اس لئے ایک حرکت انہوں نے خلاف بھی کی۔ وہ یہ کہ غصہ میں فرمایا کہ پہلے میرا خیال اس مقدمہ میں انصاف کرنے کا تھا۔ مگر چونکہ ان دونوں نے میرا دل بہت دکھایا ہے اس لئے اب ایسا فیصلہ کروں گا کہ دونوں سر پکڑ کر روئیں گے چنانچہ ایسا ہی فیصلہ کیا اور لطیفہ یہ ہوا کہ فیصلہ سنانے سے پہلے ان کی بدلتی بھی ہو گئی۔ مگر انہوں نے دو چار دن خوب مخت کر کے رات اور دن کا سارا وقت فیصلہ لکھنے میں صرف کیا اور جانے سے ایک دن پہلے فیصلہ سنائیں کہ مقدمہ ختم کر کے چلے گئے۔ پھر دونوں نے ہر چند ہائی کورٹ وغیرہ میں اپیل کی مگر ظالم نے ایسا مدلل فیصلہ لکھا تھا کہ کہیں نہ ثبوت سکا۔

صاحبو! اب ایسے شخص کو دنیا کی ہوس کیونکر ہو سکتی ہے۔ بلکہ اب اسکو تھوڑی آمدی کافی ہو گی اور تھوڑی سی عزت کافی ہو گی۔ اور تمام افکار سے آزاد ہو کر صرف ایک کی فکر میں گرفتار ہے گا۔

اور اس آزادی پر خوش ہو کر یوں کہے گا

”نہ برا شتر سوارم نہ چوں اشتہ زیر بارم  
نہ خداوند رعیت نہ غلام شہر یارم“

”نہ اونٹ پر سوار ہوں اور نہ اونٹ کی طرح زیر بار ہو۔ نہ رعیت کا مالک ہوں اور نہ بادشاہ کا غلام“

اور یوں کہے گا

”گرد و صد زنجیر آرے بکسلم غیر زلف آں نگارے مقبلم  
”اگر دو سوزنجیریں بھی لائے گا تو میں توڑ دوں گا۔ سوائے اس محظوظ مقبول کی زلفوں کی زنجیر کے۔“ کیونکہ وہ زنجیر تو ایسی ہے کہ

اسیرت خواہد رہائی زبند شکارت بجويه خلاص ازکمند

”تیرا اسیر قید سے رہائی نہیں چاہتا۔ تیرا شکار کمند سے نکلنائیں چاہتا۔“

## انسان کی محبت

وہ تو ایسی قید ہے جیسے کسی عاشق کو اس کا محبوب جو کہ متوں کے بعد ترس ترس کر ملا ہو۔ پچھے سے آکر اس طور سے کہ اسکو خبر بھی نہ ہواں کو بغل میں دبائے اور اتنا زور سے دبائے کہ اسکو طبعاً ناگوار بھی ہو مگر پچھے مڑک کر دیکھا تو محبوب کے چہرہ پر نظر پڑی تو گویہ قید ہے کہ جاتے ہوئے کو روک لیا۔ ایک جگہ محبوس کر دیا۔ قید بھی با مشقت ہے زور سے دبایا کیونکہ معشوق تو تازہ موٹا تھا۔ اس کو کوئی فکر و غم تھوڑا ہی تھا جو دبلا ہوتا۔ اور عشق اکثر بوجہ غم عشق کے لا غر و نحیف ہوتے ہیں۔ جیسا مولا نافرماتے ہیں۔

عشق معشوقاں نہاں ست دستیر	عشق عاشق باد و صد طبل و نفیر
ایک عشق عاشقاں تن زہ کند	عشق معشوقاں خوش و فربہ کند

معشوق کا عشق چھپا ہوا ہوتا ہے اور عاشق کا عشق بجھتے ہوئے با جوں کے ساتھ نکلتا ہے لیکن عاشقوں کا عشق زہ کی طرح تن ٹھیخ رکھتا ہے اور معشوقوں کا عشق موٹا کرتا ہے۔

اب اگر محبوب اس سے یوں کہے کہ تجھ کو تکلیف ہوتی ہو تو چھوڑ دوں اور ساتھ ہی یہ چڑ کر بھی لگاؤے کہ تجھے چھوڑ کر اسی طرح رقیب کو بغل میں لے لوں کہ وہ بھی اسکو مت سے مشتاق ہے تو یقیناً عاشق یوں کہے گا۔

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت	سر دوستاں سلامت کہ تو خیز آزمائی
”تیری تلوار سے ہلاک ہونا دشمنوں کے نصیب میں نہ ہو۔ تیرے خیز کی آزمائش کے لئے	دوستوں کے سر سلامت رہیں۔“ اور کہے گا۔

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے	یہی دل کی حرمت یہی آرزو ہے
توجب ایک انسان کی محبت کا یہ حال ہے جو آپ ہی جیسا آدمی ہے مگر ذرا چھرے کارنگ کھلا ہوا ہے تو حق تعالیٰ کی محبت کا کیا حال ہونا چاہئے جس کی نظر کوئی بھی نہیں۔ شیخ فرماتے ہیں۔	شیخ فرماتے ہیں۔

ترا عشق ہچھو خودے ز آب و گل	ربايد ہمہ صبر و آرام دل
عجب داری از سالakan طریق	کہ باشند بحر معنی غریق
دما دم شراب الہم درکشند	وگر تلخ بیند دم درکشند

”اپنے ہی جیسے انسان سے تمہارا عشق صبر و آرام کھو دیتا ہے تمہیں سالakan طریق پر تجب ہوتا ہے جب کہ وہ بحر معانی میں غرق ہوتے ہیں۔ ہر وقت وہ رنج کی شراب پیتے ہیں اور اگر تلخ ہو تو

دم نہیں مارتے۔“ اور مولانا فرماتے ہیں۔

گوئے گشتن بہرہ داولے بود  
عشق مولیٰ کے کم از لیلے بود

”مولیٰ کا عشق لیلیٰ کے عشق سے کیا کم ہو گا۔ اس کے لئے گیند بن کر لڑھکنا ضروری ہے۔“  
مولانا نے مجنوں کے واقعہ پر یہ شعر لکھا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ مجنوں ایک دفعہ لیلیٰ کی زیارت کو  
اوٹنی پر سوار ہو کر چلا۔ اوٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا جو پیچھے رہ جاتا تھا اور اوٹنی بار بار اس کو مڑ کر  
دیکھتی اور جس وقت مجنوں اپنے خیال میں مستغرق ہو جاتا اور بھاگ ڈھیلی ہو جاتی اور اوٹنی پیچھے کو  
لوٹ جاتی پھر اسکو ہوش آتا اور یہ اسکو آگے بڑھاتا پھر مستغرق ہو جاتا۔ اور اوٹنی پیچھے لوٹ جاتی۔  
جب بار بار ایسا ہوتا اور راستہ کچھ طے نہ ہوا تو بے قرار ہو کر کہا

ہوی ناقتنی خلفی وقدامی الہوی      فانی وايا ها لمختلفان  
میری اوٹنی کی محبت پیچھے ہے یعنی پیچھے چلنے والے بچے سے اور میری محبت آگے ہے یعنی  
لیلیٰ سے۔ اسلئے میں اوروہ دونوں مختلف و متفاہد ہیں۔“

اور اوپر سے فوراً کوڈ پڑا۔ اوٹنی کو بھلا کر اترنے کا بھی انتظار نہ کیا اور پر سے کو دا تو میاں کا پیر  
بے کار ہو گیا چلنے کے قابل بھی نہ رہا تو اب آپ نے لڑھکنا شروع کیا اور کہا:

فان قطعت رجلی مشیت علی العصا      و ان قطعت اخیری حبوت رحبلیت  
”اگر میرا ایک پیر کٹ جائے تو لاٹھی کے سہارے آؤں گا اگر دوسرا کٹ جائے تو گھٹ  
کر آؤں گا۔“ مولانا اس پر فرماتے ہیں کہ

گوئے گشتن بہر او اوی بود  
عشق مولیٰ کے کم از لیلے بود

چونکہ وہ لڑھک رہا تھا اس لئے گوئے گشتن فرمایا۔ جب لیلیٰ کی محبت میں یہ حال ہو گیا تو محبوب  
حقیقی کی عشاقد پر کیا تعجب کرتے ہو۔ اب اس کونہ کسی کا مرننا معلوم ہو گا نہ جینا۔ ہر حال میں خوش رہے  
گا۔ اب اس کو مال وزر خدا تعالیٰ سے مانع ہو گانے فاقد اور تنگ دستی۔ کیونکہ بعض لوگ مال وزر کے ساتھ بھی  
خدا سے علاقہ رکھتے ہیں اور بعض لوگ خالی ہاتھ ہو کر بھی خدا تعالیٰ سے دور ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ

چوہر ساعت از تو بجائے رو دوں      بہ تہائی اندر صفائی نہ بینی  
”جب ہر وقت تمہارے ہاتھ سے دل جاتا رہے تو تہائی میں صفائی نہ دیکھو گے،“

اور اگر سلطنت ہو۔ زمینداری ہو مگر دل خدا تعالیٰ سے لگا ہوا ہے تو پھر یہ حال ہو گا۔

گرت مال وزرہست وزرع تجارت      چو دل با خدا ایت خلوت نشین  
 ”اگر چہ مال و دولت ہے کھیتی ہے تجارت ہے جب دل خدا کے ساتھ ہے تو تم خلوت نشین  
 ہو۔“ مگر ابتداء میں ایسی قوت نہیں ہوتی۔ بلکہ چند روز اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ  
 قال را بگذار و مرد حال شو      پیش مرد کامل پامال شو  
 ”کہنے کی باتیں چھوڑ مرد حال بن جا۔ اور کسی کامل کے آگے گھٹنے نیک کر پامال ہوتا ہو تب کام بنے گا۔“

### محبت بزرگاں

اگر کسی میں فطری قوت ہو کہ ما رزا دوں ہو ابتداء ہی سے خدا کے ساتھ تعلق ہو تو مبارک ہو ورنہ اگر کسی  
 میں یہ قوت فطری نہ ہو تو جس طرح درش سے جسم میں قوت آجائی ہے واللہ! اسی طرح یہاں بھی بزرگوں کی  
 صحبت سے اور ان کی تعلیم پر عمل کرنے سے دل میں قوت آجائی ہے مگر محبت کا نام سن کر ذرمت جانا وہ تم  
 سے چکنی نہیں پسوا میں گے بے فکر ہو۔ بلکہ آسان اور بہل طریق سے دل میں خدا کی محبت پیدا کر دیں گے  
 پھر دل میں ایسی قوت ہو گی کہ نہ یماری سے گھبرائے گانہ فقر و فاقہ سے نہ کسی عزز کے مر نے جینے سے۔  
 چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام یماری میں بھی خوش تھے حالانکہ یماری ایسی سخت تھی کہ تمام جسم میں کیڑے  
 پڑ گئے تھے۔ اعزہ و اقارب سب نے چھوڑ دیا تھا صرف آپ کی بی بی رحمت علیہا السلام خدمت گزار تھیں اور اسی  
 حالت میں تمام اولاد مر گئی۔ مولیٰ اور غلام بھی مر گئے پہلے بڑے مالدار تھے اب مفلس ہو گئے تو حضرت رحمت  
 نے عرض کیا کہ اے حضرت! یہ تو بتاؤ کہ ہم راحت و آرام میں کتنی مدت رہے فرمایا اسی سال۔ فرمایا اسی سال تو کم  
 از کم کلفت برداشت کر لیں۔ پھر حق تعالیٰ سے عرض کریں گے ورنہ یہ کیا کہ بس خدا تعالیٰ کی نعمتیں اسی سال  
 کھائیں۔ چاروں کے لئے اگر وہ آزمائے تو اس سے گھبرا جائیں اور اس کی آزمائش کا تحمل نہ کریں۔

بتایئے پھر اس سے بڑھ کر کیا راحت ہو گی کہ کلفت نہ رہے راحت ہو جائے۔

خلاصہ یہ کہ دنیا میں مومن کو جس قدر تکالیف پہنچتی ہیں سب کا نعم البدل اس کو دونوں جہان  
 میں ملتا ہے پس درحقیقت یہ ایک تجارت ہے کہ ایک چیز دی گئی اور ایک چیز لی گئی۔ اس حقیقت کو  
 پیش نظر کھا جائے تو ان شاء اللہ رنج و غم کو ترقی نہ ہو گی۔

اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فہم سلیم عطا فرمائیں اور عمل صالح کی صبر کی توفیق ہو۔ چونکہ  
 طبیعت مضمحل ہے اس لئے زیادہ بیان کی ہمت نہیں۔ قدر ضرورت پر اکتفا کرتا ہو۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ واصحابہ اجمعین۔  
 وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين۔

## الامتحان

آفات سماوی کے متعلق یہ وعظ جامع مسجد کانپور میں کم  
ربع الاول ۱۳۳۴ھ بروز جمعہ منبر پر بیٹھ کر بیان فرمایا۔  
احمد عبد الحلیم صاحب لکھنؤی نے قلمبند کیا۔ حاضرین  
کی تعداد ایک ہزار تھی یہ بیان اڑھائی گھنٹے میں ختم ہوا۔

## خطبہ ماثورہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ  
وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا  
مُضِلٌّ لَهُ، وَمِنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، لَا  
شَرِيكَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدَ عَبْدَهُ، وَرَسُولَهُ، وَصَلَى  
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

أَمَا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔  
أَحَسِبَ النَّاسُ أَنَّ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمْنًا وَهُمْ لَا يُفَتَّنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذَّابِينَ (پ ۲۰)

الم (بعضے مسلمان جو کفار کی ایذہ اوس سے شرما جاتے ہیں کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا)

## العام وابتلاء

یہ تین آیتیں ہیں سورہ عنکبوت کی جن میں ایک نہایت ضروری مضمون مذکور ہے۔ گواں کی ضرورت تو ہر وقت ہے مگر بعض اوقات کے ساتھ اس کو زیادہ خصوصیت ہے اور حاصل اس کا ایک غلطی کو رفع کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ جس مضمون سے کسی غلطی کا رفع ہو وہ مضمون نہایت ضروری ہو گا خصوص جب کہ وہ غلطی بہت سے مفاسد کی جڑ ہوتا اس کا رفع اور بھی ضروری ہو گا کیونکہ غلطی کا رفع کرنا گویا مرض کا علاج کرنا ہے اور ہر عاقل جانتا ہے کہ امراض کا علاج نہایت ضروری ہے۔ یہی شان ہے اس مضمون کی کہ اس میں ایسی غلطی کا رفع ہے جو بہت سی غلطیوں کا سبب ہے اور اس

کا دھن یہ ہے کہ بندہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کے متعلق کبھی غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ معاملات و قسم کے ہیں ایک موافق طبیعت اور ایک خلاف طبیعت یہ جو موافق طبیعت ہو وہ نعمت ہے اور جو خلاف طبیعت ہوا سے ابتلاء کہنا چاہئے۔

گے میں اسی عنوان سے گفتگو کروں گا۔ یعنی موافق طبیعت کو نعمت اور خلاف طبیعت تو ابتلاء کہوں گا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے ساتھ دو قسم کا معاملہ ہوتا ہے کبھی صحت کی حالت ہے کبھی مرض کی۔ صحت انعام ہے اور مرض ابتلاء اسی طرح کبھی ارزانی ہے کبھی نقطہ توارز انی نعمت ہے اور نقطہ ابتلاء۔ اسی طرح کبھی امن ہے کہ راحت اور اطمینان سے بسر ہوتی ہے۔ بے فکری اور چین سے گزرتی ہے اور کبھی خوف ہے جس میں ہر وقت اندیشہ رہتا ہے جیسے مخالفین کی کثرت یا اعداء کا تسلط و نیغہ ظاہر ہے کہ ہر حالت یا تو موافق طبیعت ہو گی یا خلاف طبیعت۔

ان کے متعلق انسان سے دو قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو حالت انعام کی ہے اس کے متعلق تو یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ اسے منفعت محضہ خیال کرنے لگتا ہے اور مضرت کا احتمال ہی نہیں ہوتا۔ جس سے یہ نعمت غفلت و عجلت و کبر اور حق تعالیٰ سے بے فکری اور ناز و معصیت اور لوگوں کی تحقیر اور ظلم کی طرف منجر ہو جاتی ہے۔ اور ان میں بعض صریح معاصی ہیں بعض غیر صریح۔ گویا یہ حالت سبب ہے بہت سے گناہوں کا۔ مثلاً کسی کو اولاد مل گئی یا بہت سامال مل گیا اور اس کو محض نعمت سمجھ کر بے کفر ہو گیا اور جو مضرتیں اس میں ہیں ان کا احتمال ہی نہیں ہوا۔

### کثرتِ مال کا اثر

مثلاً مال میں یہ مضرت ہے کہ اس سے غفلت عن اللہ پیدا ہوتی ہے ہم نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو فراغت نصیب ہو پھر بھی توجہ الی اللہ کی فکر ہوا لاما شاء اللہ۔ مال کے ساتھ تو زیادہ تر خدا سے غفلت بے پرواں، غرباء کی تحقیر، بے رحمی اور ظلم ہی کی زیادت ہوتی ہے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِيَطْغَىٰ أَنْ رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ (پ ۳۰)

انسان اس لئے سرکشی کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنىٰ دیکھتا ہے اب وہ حد سے ہی نکل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر عقل اور تہذیب میں بھی کمی ہو تو بندوں کا مقابلہ کرتے کرتے خدا کا مقابلہ کرنے لگتا ہے۔ فرعون کی سرکشی کی یہی وجہ تھی اس نے کبھی مصیبت اور بلا کی صورت نہ دیکھی تھی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو اپنی مناجات میں ظاہر بھی فرمایا ہے

إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضْلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ (ب ۱)

”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الٰہی آپ نے فرعون اور اس کے امراء اور وزراء اور ساتھیوں کو دنیا دی۔ زندگی میں کثرت مال اور زیبائش کا سامان عطا کیا ہوا ہے کہ وہ اس کے غرور نشہ میں آپ کے پسندیدہ راستے سے بھٹک گئے اور سرکشی میں بیٹلا ہو گئے۔“

لیضلوا میں لام عاقبت کا ہے یعنی مال و دولت اور ساز و سامان کی کثرت کا انجام یہ ہوا کہ وہ سرکشی اور طغیانی میں بیٹلا ہو گئے اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی گراہ کیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے۔ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہے کہ فرعون کے پاس جائیے وہ حد سے نکل گیا ہے۔ فرعون کے پاس ملک تھا۔ مال تھا، لشکر تھا۔ یہ سب نعمتیں ہیں مگر عقل نہ تھی۔ اس سے اس کو یہ نقصان پہنچا کہ اس نے خدا سے بھی سرکشی کی فرعون عاقل نہ تھا محض آکل تھا۔ یعنی کھانے پینے عیش اڑانے کے سامان اس کے پاس تھے۔

اگر اسی کا نام عقل ہے تو سب سے زیادہ عقل ہاتھی کو ہوتا چاہئے۔ اسے جنگل میں دیکھئے کسی مار دھاڑ کر کے اپنی خوراک بہم پہنچاتا ہے اور خوب کھاتا ہے کوئی جانور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سوائے شیر کے کہ بھی وہ بھی غالب آتا ہے بھی یہ۔ جہاں یہ چڑنے جاتا ہے سب جانور ڈر کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تمام جنگل سمار کر دیتا ہے۔ کسی کو اس کے پاس پھٹکنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو اگر کھانے پینے مار دھاڑ کرنے ہی کا نام عقل ہے تو سب سے عاقل ہاتھی ہو۔ حالانکہ وہ جانور ہے عاقل نہیں ہے۔

پس معلوم ہوا کہ عقل اور ہی کسی چیز کا نام ہے۔ عقل کے معنی لغت میں روکنے والا ہیں۔ اسی سے عقال رسی کو کہتے ہیں کہ وہ جانور کو بھاگنے سے روکتی ہے تو عقل کا حاصل یہ ہوا کہ وہ ایک ایسی قوت مدرک ہے جو مضرت سے روکتی ہے۔

### مضرت میں منفعت

اب یہ یہ لکھنا چاہئے کہ مضرت کیا چیز ہے لہو منفعت کیا چیز ہے۔ سو اصل میں مضرت کی بھی مختلف قسمیں ہیں لہو منفعت کی بھی کیونکہ ہر منفعت میں کچھ نہ کچھ مضرت بھی ہے لہو ہر مضرت میں کچھ نہ کچھ منفعت بھی ہے اب عقل کا یہ کام ہے کہ وہ یہ بتاویتی ہے کہ کہاں منفعت کا پہلو غالب ہے لہو کہاں مضرت کا۔

مثلاً ایک شخص کو بہت شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے حلق خشک ہوا جاتا ہے، دم نکلا جاتا ہے۔

ایے وقت اس کے پاس صرف دودھ ہے جس میں سے کچھ سانپ بھی پی گیا ہے جس کی وجہ سے زہر بیٹا ہو گیا ہے۔ اب بعض دوست تو یہ کہتے ہیں کہ میاں دودھ پی بھی لو تمہارا حلق تو تر ہو جائے گا اور پیاس تو بجھ جائے گی اور بعض کہتے ہیں کہ اسے ہرگز نہ پینا کیونکہ اس میں زہر ہے اس وقت تو حلق تر ہو جائے گا۔ مگر پھر حیات ہی منقطع ہو جائے گی۔

تو دیکھئے یہاں پر دو باتیں جمع ہیں۔ منفعت بھی ہے کہ پیاس بجھ جائے گی اور مضرت بھی ہے کہ حیات منقطع ہو جائے گی۔ اس وقت عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ گودودھ پی لینے میں قدرے منفعت بھی ہے۔ مگر یہ منفعت معنده بہا نہیں اسلئے نہیں پینا چاہئے۔

الغرض امنفعت قابل اعتبار وہ ہے جو ضرر پر غالب ہو۔ اسی طرح ضرر قابل اعتبار وہ ہے جو نفع پر غالب ہو۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مقدمہ اس کے ساتھ اور ملائیے کہ دنیا کی منفعت سے آخرت کی منفعت بڑھی ہوئی ہے اور دنیا کی مضرت سے آخرت کی مضرت بڑھی ہوئی ہے دنیا کی منفعت و مضرت آخرت کی منفعت و مضرت کے آگے کوئی چیز نہیں۔ ان دونوں مقدموں کے ملانے کے بعد عقل یہی فتویٰ دیگی کہ جس کام میں دنیا کی منفعت ہو مگر آخرت کی مضرت ہو ایسی منفعت کو چھوڑ کر آخرت کی مضرت سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اسی طرح کسی کام میں دنیا کی مضرت ہو اور آخرت کی منفعت ہو تو عقل یہ کہے گی کہ اسی چھوٹی سی مضرت کو بڑی منفعت کے لئے گوارا کرنا چاہئے۔ بس یہ ہے اصلی عقل۔ مگر آج کل لوگوں نے دنیا کمانے کا نام عقل رکھ لیا ہے۔ اگر اسی کا نام عقل ہے تو فرعون سب سے زیادہ بڑا عاقل ہو گا مگر اس کا جاہل اور حمق ہونا تمام مسلمانوں کو مسلم ہے بس نعمت کے اندر صرف منفعت کا اعتقاد رکھنا غلطی ہے۔ جب نعمت کے ساتھ خدا سے غفلت ہوئی تو اس کے ساتھ اس سے زیادہ مضرت ٹلی ہوئی ہے۔

الغرض! کوئی مضرت زیادہ نہ ہو تو منفعت نہ ہو اور کوئی منفعت ایسی نہیں جس میں مضرت نہ ہو لیکن اگر مضرت زیادہ نہ ہو تو منفعت گوارا کر لی جائے گی اور اگر مضرت کا حصہ زیادہ ہو منفعت سے تو منفعت کو ترک کر دیا جائے گا چنانچہ نافع سے نافع دوا اور عمدہ غذا مضرت سے خالی نہیں اور مضر سے مضر دوا اور بدتر سے بدتر غذا منفعت سے خالی نہیں۔

پس تمام ادویہ و اغذیہ میں وجہ نافع ہوئیں اور میں وجہ مضر۔ مگر تمام عقلاً ادویہ و اغذیہ کے بارے میں غالب کو دیکھتے ہیں۔ جس میں غالب نفع کو ہواں کونافع اور جس میں غالب ضرر کو ہواں کو مضر سمجھتے ہیں۔

اسی طرح اعمال و افعال و احوال کو سمجھنا چاہئے کہ وہ بھی من وجہ نافع ہیں اور من وجہ مضر۔ لہذا عقل کا مقتضایہ ہے کہ دونوں پر نظر کرے یعنی جس کا نافع ہونا ظاہر ہو وہاں مضرت میں غور کرنا چاہئے کہ اس میں کوئی نقصان تو نہیں اور جہاں مضرت ظاہر ہو وہاں معمولی منفعت پر نظر نہ کرنا چاہئے۔

مثلاً سکھیا ظاہر ہے کہ مہلک ہے اس لئے کوئی عقلمند اس ضرر کو دیکھ کر اس پر نظر نہ کرے گا کہ اس میں یہ نفع بھی ہے کہ خاص تر کیب سے استعمال کرنے سے حرارت غریز یہ کو مشتعل کرتا ہے اور مٹھائی کے منافع ظاہر ہیں کہ کھا کے جی خوش ہوتا ہے خوش ذائقہ اور مرغوب طبائع ہے۔ سو یہاں اس تحقیق کی ضرورت ہے کہ اس میں کچھ ضرر تو نہیں۔

### نعمت میں مضرت

چنانچہ تحقیق کے بعد معلوم ہو گا کہ اس میں بعض کے لئے مضرت بھی ہے کہ صفر اپیدا کرتی ہے اور معدہ کو خراب کرتی ہے۔ اسی طرح صحت ایک نعمت ہے جس کی منفعت ظاہر ہے کہ اس سے دل خوش ہوتا ہے قوت درست رہتی ہے۔ طبیعت میں فرحت و انبساط ہوتا ہے۔ کام میں جی گلتا ہے۔ نیز فراغت و تمول بھی نعمت ہے اور اس کی منفعتیں بھی ظاہر ہیں۔ ان میں اس بات کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ منفعت کیسا تھا کوئی مضرت تو نہیں۔ چنانچہ تحقیق سے معلوم ہو گا کہ ان میں ایک مضرت بھی ہے اور بہت بڑی ہے وہ یہ کہ کبر، ناز، عجب، غرور، غفلت، غریبوں کی تحریر، کمزوروں پر ظلم، یہ انہی دنعمتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر ان مضرتوں کا مقتضایہ نہیں ہے کہ ان کو نعمت ہی نہ سمجھے اور ناشکری کرے کیونکہ یہ مضرتیں غنا اور صحت کے لئے لازم بالذات نہیں ہیں بلکہ ہماری کم عقلی کی وجہ سے انکو لازم ہو گئی ہیں پس وہ نعمت تو ضرور ہیں تو اب ضرورت اس کی ہے کہ ان نعمتوں کی منفعت سے مستفید ہو اور مضرت سے بچنے کی کوشش کرے۔

اسی طرح مثلاً مرغ کا گوشت کھانا ظاہر میں نافع ہے کہ اس میں لذت بھی ہے فرحت بھی ہے۔ یہ منفعت بھی ہے کہ حرارت غریز یہ بڑھاتا ہے مگر اس کے ساتھ مضرت پر نظر کرنا چاہئے۔ وہ یہ کہ کثرت سے اس کا گوشت کھانا مورث بو اسیر ہے کیونکہ اس میں حرارت زیادہ ہے اس ضرر کا مدارک یہ ہے کہ دھنیا وغیرہ ڈال کر حرارت کی تعدل کر لی جاوے اور کثرت سے نہ کھایا جائے۔

الغرض! نعمتوں میں مضرتوں کی تحقیق سے مقصود یہ ہے کہ ان مضرتوں کا انسداد کیا جاوے۔ نہ یہ کہ نعمتوں کی تحریر کر کے منعم کی ناشکری کی جاوے۔ مثلاً خدا نے کسی کو بے فکری سے کھانے کو دیا تو

یہ نعمت ہے اور اس میں مضرت عجب و نازکی ہے۔ اس کا علاج اور تدارک یہ ہے کہ تم برا اور تنفس سے کام لے اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر محض اپنا فضل فرمایا ہے ورنہ میں بالکل تا اہل تھا مجھ میں کوئی کمال بھی نہ تھا۔ بلکہ اپنے گناہوں پر نظر کر کے سوچے کہ میں تو سزا کا مستحق تھا اور اگر بالفرض مجھ میں کوئی کمال بھی تھا تو مجھ سے بہت زیادہ کمال رکھنے والے پریشان حال پھرتے ہیں پھر اس کا فضل ہی تو ہے جو اس نے مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اب میں نازکس بات پر کروں ۔

اگر روزی بد انش بر فزوں دے                      زتا داں تیک تر روزی تر نبودے

”اگر روزی عقل کے ساتھ بڑھتی تو بے عقل سے زیادہ تیک دست کوئی نہ ہوتا۔“

بہت لوگ جاہل ہیں مگر تعلیم یافتہ لوگوں سے زیادہ متمول ہیں۔

## جهالت اور دولت

چنانچہ ایک صاحب بڑے امیر کیمیرے پاس آئے بڑی دور سے آئے تھے مگر عقل خاک نہ تھی۔ نہایت سادہ لوح تھے وہ میرے پاس اپنی بیوی کو زندہ کرانے آئے تھے۔ ان کے ساتھ نوکر چاکر یار دوست سب ہی تھے۔ مگر امراء کے مصاحب بڑے خود غرض ہوتے ہیں۔ ایک نے بھی توان سے یہ نہ کہا کہ کس خط میں پڑے ہو کہیں مردہ بھی کسی کے ارادہ سے زندہ ہو سکتا ہے وہ بھی یہ سوچ کر ساتھ آگئے کہ اچھا ہے مزے سے سیر ہی کریں گے۔ یہاں آکر کمیں صاحب نے مجھ سے اپنی غرض ظاہر کی مجھے نہیں آئی اور ان کو بہت سمجھایا مگر کسی طرح نہ سمجھے اور کہنے لگے کہ اولیاء اپنی کرامت سے زندہ کر سکتے ہیں۔ میں نے قسم کھائی اور کہ اول تو میں ولی نہیں دوسراے اولیاء کی کرامت اختیار میں نہیں ہوتی۔ بیچارے میرے سامنے ساکت تو ہو گئے مگر علیحدہ جا کر اپنے مصاحب سے کہنے لگے کہ مولا نازندہ تو کر سکتے ہیں مگر مصلحت کے خلاف ہو گا اس لئے نہیں کرتے۔

اس کے بعد ان کی ایک حکایت اس سے بھی عجیب معلوم ہوئی کہ ایک مرتبہ سالی سے کچھ تکرار ہو گئی اور باہم نزاع ہو گیا۔ مقدمہ بازی کی نوبت آئی تو آپ ناراض ہو کر اپنی بیوی کی قبر پر اس قصہ کی اطلاع کرنے پہنچے کہ تمہاری بہن نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ قبر پر پہنچ کر نوکر کے ذریعہ سے پیغام دلوایا کہ ان سے کہو کہ شیخ صاحب کا تم کو یہ حکم ہے کہ چونکہ تمہاری بہن نے ہمیں ناراض کر دیا ہے۔ اگر وہ کچھ ثواب بھیجیں تو تم ہرگز ہرگز نہ لینا۔ اگر تم نے ان کا ثواب بھیجا ہوا بھی چھین لیں گے ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ پھر آئندہ اور کچھ بھیجننا تو درکنار پچھلا بھیجا ہوا بھی چھین لیں گے

پھر تم بھوکوں مرجاہ گی (معلوم نہیں اب دوبارہ کیوں کرمے گی خدا بچائے جہالت سے) نوکر کہتا تھا کہ مجھے شرم آئی کہ قبر پر کھڑا ہو کر یہ خرافات کیسے کہوں۔ مگر پیٹ کی ضرورت سے کہا۔

اب تیسری عقلمندی یہ دیکھئے کہ جب پیغام دلو اچکے تو نوکر سے پوچھتے ہیں کہ کچھ جواب آیا کہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں تو آپ نے حکم دیا کان لگا کر اچھی طرح ستواس نے پھرنا اور کہا اب تک جواب نہیں آیا۔ اچھا تم قبر کے برابر لیٹ جاؤ اور پھر کان لگاؤ۔ بیچارہ مجبور ہو کر قبر کے برابر لیٹا۔ پوچھا! کچھ جواب آیا کہا نہیں (وہاں کچھ ہو تو جواب آئے) کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ادھر متوجہ نہیں ہیں۔ شاید کسی کام میں ہوں۔ نوکر کہتا تھا کہ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ اب ان کے ساتھ قبرستان نہیں جاؤں گا۔ کون ان کے ساتھ یہ مجنونانہ حرکات کرے تو ان امیر صاحب کی عقل کا تو یہ حال تھا مگر مال و دولت بہت کچھ تھا۔ سچ ہے

کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ      وجاهل جاهل تلقاہ مرزا وقا

”بہت سے عقل مند ایسے ہیں جو کہیں جا آئیں سکتے اور بہت سے جاہل ایسے ہیں جن کے بے شمار رزق ہے۔“

هذا الذي ترك الاوهام حائرة      وصيرا العالم النحرير زنديقا

”اس نے اوہام کو حیران کر چھوڑا اور بڑے بڑے عالموں کو ملحد بنا چھوڑا،“

## رزق اور عقل

مولانا رومیؒ نے ایک عاقل کی حکایت تحریر فرمائی ہے کہ پا پیادہ جنگل میں چلا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک بدھی اونٹ پر سوار ملا۔ اس سے پوچھا کہ میاں اس اونٹ پر کیا لا در کھا ہے کہا ایک طرف گیہوں اور ایک طرف بالو۔ پوچھا یہ کیوں؟ کہا ایک طرف گیہوں بھردیئے تھے دوسری طرف کی بوری خالی تھیں وزن برابر کرنے کو اس میں بالو بھر دی۔ عاقل نے کہا اس کی کیا ضرورت تھی۔ ہم تمہیں آسان تر کیب بتاویں۔ میاں بالو کو تو..... پھینک دو اور گیہوں کے دو حصے کر کے آؤ ہے ایک بوری میں بھر دو آؤ ہے دوسری بوری میں۔ اس میں اونٹ بھی ہلکا رہے گا اور وزن بھی برابر ہو جائے گا۔ سوچ کے کہنے لگا واقعی بات تو بہت ثہیک بتائی۔ پھتا نچہ اونٹ کو بٹھایا اور بالو پھینک کر دونوں طرف آؤ ہے آدھے گیہوں بھردیئے۔ اب اونٹ بھی ہلکا ہونے کی وجہ سے زیادہ رفتار سے چلنے لگا۔ تو بدھی اس عاقل کا بہت شکر گذار ہوا اور اسکو پیادہ پا پریشان دیکھ کر کہا آؤ۔ ہم تم

کو بھی سوار کر لیں چنانچہ اس کو سوار کر کے آگے چلا۔ پھر دل میں سوچا کہ جس کی اتنی بڑی عقل ہے یہ تو بڑا مالدار ہو گا (وہ یقیناً عقل پر رزق کا مالدار سمجھتا تھا) کیونکہ جب میرے پاس باوجود بے وقوف ہونے کے ایک اونٹ ہے تو نامعلوم اس کے پاس کتنے ہوں گے۔

غرض! نہ رہا گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ کہا ایک بھی نہیں۔ پوچھا بکریاں کتنی ہیں کہا ایک بھی نہیں پھر پوچھا آخر پچھے ہے بھی کہا کچھ نہیں (وہاں تو ایک گدھا بھی نہ تھا اونٹ، گائیں اور بکریاں کھاں سے آتیں) کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری عقل بڑی منحوس ہے۔ میں ایسے منحوس کو اپنے اونٹ پر بھی نہیں بھلاتا۔ یہ کہہ کر اسے اتار دیا۔ پھر کہنے لگا بھائی سنو! میں تمہاری رائے کو بھی قبول نہیں کرتا کہیں تمہاری رائے کی خوبست سے میں بھی تم جیسا نہ ہو جاؤں۔ ایک بوری میں گیہوں اور ایک میں بالو بھر کے چل دیا۔ عقل کی برکت تو ظاہر ہو گئی کہ اونٹ سے بھی اتارے گئے۔ اب سمجھ لیجئے کہ رزق کا مالدار عقل پر نہیں ورنہ زیادہ عقل والے کم عقولوں سے زیادہ مالدار ہوتے۔ حالانکہ زیادہ عقل والے آپ کے سامنے موجود ہیں اور بہت پریشان ہیں لیاقت سے رزق ملتا قارون کا عقیدہ ہے۔

چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب اس سے کہا کہ أَخْيُونْ كَمَا أَخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ یعنی زکوٰۃ دے خدا کی اطاعت کر۔ بندگان خدا کے کے ساتھ احسان کر۔ جس طرح خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو اس کے جواب میں وہ کہتا ہے إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِنِی

”کہ مجھے (خدا نے نہیں دیا) بلکہ ایک ہنر کی دولت مجھے یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے۔“

بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وہ ہنر کیمیا تھا۔ بعض نے کہا تجارت میں مہارت تھی۔ بعض نے کہا امور سایہ میں کامل تھا اور دوبار فرعون کا مشیر تھا۔

غرض! کسی نہ کسی ہنر میں وہ ماہر تھا وہ اس زمانہ کے اعتبار سے بہت بڑی لیاقت رکھتا تھا۔ اس پر اسے ناز تھا کہ اپنے تمول کو اسی کی طرف منسوب کیا اور اسی کی طرف منسوب کرنے کا مفسدہ یہ ہوا کہ اسے کسی کی پرواہ نہ رہی جہاں تک کہ خدا کی بھی پرواہ نہ رہی فرعون نے بھی یہی کہا تھا۔

## دولت اور غفلت

اس زمانہ میں بھی بہت سے لوگ فرعون اور قارون کے ہم خیال ہیں۔ میرے وطن ہی کا قصہ ہے کہ وہاں ایک مسلمان خوش حال ہے اور نماز و روزہ کا بہت پابند ہے۔ اس کے عزیزوں

میں اور ایک بوڑھا نہایت جاہل ہے (اس کا نام لے) کہنے لگا کہ فلاں کی عقل ماری گئی ہے جو پانچوں وقت ہاتھ پسار پسار کر دعا کرتا ہے۔ ارے سرے سرے تجھے ہاتھ پسار نے کی کیا ضرورت ہے کیا تیرے پاس کھانے کو نہیں پہنچنے کو نہیں (معاذ اللہ) گویا دعا کرنے کی ضرورت روٹی کپڑے ہی کے واسطے تو ہے کہ جس کو روٹی کپڑا مل جائے وہ دعا نہ کیا کرے اور اگر دعا اسی کے لئے ہوت بھی مالدار کو دعا کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا دیا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے وہ رزق دے کر مجبور نہیں ہو گیا کہ دے چکا تواب چھین نہیں سکتا۔ اللہ کی توبوی شان ہے ایک چور کو بھی یہ قدرت ہے کہ اسکے گھر میں نقاب لگا کر ابھی سارا مال ختم کر دے۔

غرض! ذرا سے تغیر میں مال ختم ہو جاتا ہے مثلاً کوئی مقدمہ قائم ہو جائے یا کوئی بیماری ایسی آجائے کہ سارا روپیہ حکیم اور ڈاکٹر کی فیس ہی میں خرچ ہو جائے۔ مال کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ یہ تو ذرا سے بہانہ میں نکل جاتا ہے اسی لئے عربی میں مثل مشہور ہے:

### مال غادور ایج

ان باتوں کو سوچ کر سمجھنا چاہئے کہ یہ جو کچھ مال و دولت میرے پاس ہے اس میں میرا کچھ بھی دخل نہیں محض خدا تعالیٰ کا عطا یہ ہے خالص اسی کا فضل ہے کہ مجھے اپنے اچھے میرے تابع اور دست نگر ہیں یہ ہے علاج غفلت کا اسی طرح تکبر کہ غرباء سے بات نہیں کرتے۔ امراء نہیں ڈلیل صحیح ہیں الا ما شاء اللہ! بعض سمجھدار ایسی بھی ہوتے ہیں جو

نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین ”میوہ سے بھری شاخ زمین پر سر رکھ دیتی ہے“

کا مصدق ہیں کہ باوجود امارات اور دولت کے نہایت متواضع ہیں مگر غالب حالت اس کے خلاف ہی ہے ان متكبروں کو سمجھنا چاہئے کہ تم کس پر تکبر کرتے ہو۔ حقیقت میں تم ایسی چیز پر تکبر کرتے ہو جس کا حصول تمہارے اختیار میں نہیں اور حصول تو کیا اختیار میں ہوتا اس کا ابقاء بھی تو اختیار میں نہیں۔

### تکبر کا عملی علاج

پھر ایسی چیز پر تکبر کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ تو تکبر کا علمی علاج ہے اور عملی علاج یہ ہے کہ غرباء کی تعظیم و تواضع کریں خوشی سے نہ ہو سکے تو بے تکلف ہی کریں۔ انسے خوش خلقی اور ترمی اور شیریں کلامی سے پیش آئیں وہ جب ملنے آئیں تو کھڑے ہو جایا کریں ان کی دل جوئی کریں۔ علی ہذا القیاس۔ ہر مرض کا ایک خاص علاج اسی کے مناسب ہوتا ہے اور اس کی بہت سی کتابیں ہیں مثلاً

احیاء العلوم اور اربعین عربی میں، کیمیائے سعادت فارسی میں اور مذاق العارفین اردو میں موجود ہے۔ اربعین اور کیمیائے سعادت کا اردو ترجمہ تبلیغ دین اور اکیرہ ہدایت ہے انکا مطالعہ کرنا چاہئے۔ ان کے دیکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہر مرض کی شرح اور اس کا اعلان معلوم ہو جائے گا اور اس سے یہ نفع ہوگا کہ بہت سے مفاسد سے آپ بچ سکیں گے۔

اسی طرح نعمت میں بھی مضرت کی تحقیق سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس مضرت سے حفاظت ہو سکے گی۔ ابتلاء کی مضرت تو ظاہر ہے۔ مثلاً قحط ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ بہت غریب بھوکوں مر جاتے ہیں اچھے اچھے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور بڑے بڑے امیر مقروظ ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح خوف میں پریشانی اور دھڑکا ہے کہ جنگ کا نہ معلوم کیا اثر ہو شمن ہم پر غالب آجائیں تو ہلاکت اور بے آبروئی کا سامنا ہے۔ اسی طرح بیماری کہ جو بیمار ہے وہ تو تکلیف میں ہے ہی اور جو بیمار نہیں تو اگر مرض خاص ہے تو اپر والوں کو تمارداری کی تکلیف ہے اور امراض عامہ میں وحشت و دہشت بھی ہے۔ وباء طاعون، بخمار، انفلوئزا میں ایک ایک محلہ کے پانچ پانچ چھ چھ گھرویران ہو گئے۔ ان میں تالے پڑ گئے تو ایسے واقعات میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ ان کی مضرت تو ظاہر ہے ہی۔

مگر ہماری غلطی یہ ہے کہ ان واقعات کی منفعت پر نظر نہیں کرتے مضرت تو کھلی ہوتی ہے مگر ہم کو ان کی منفعت پر اصلاً اتفاقات نہیں تو خوب سمجھ لججے کہ ان میں نفع بھی ہے اور اتنا بڑا نفع ہے کہ نعمت میں بھی نہیں مگر ہماری غفلت ملاحظہ ہو کہ ادھر توجہ ہی ہیں۔

## خدا سے بے تعلقی

سبب اس کا یہ ہے کہ خدا سے بے تعلقی ہے اس سے محبت نہیں ہے نہ ان کی محبت کا علم ہے جو ان کو بندہ کے ساتھ ہے نہ اجمالاً نہ تفصیل۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور دل میں ان کی عظمت ہو اور اس کا بھی علم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے وہ بندوں کے خیر خواہ ہیں۔ اگر یہ علم تفصیلی نہ بھی ہو صرف اجمالاً ہی ہو تو بندہ اتنا ہی سمجھے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے کریم خیر خواہ اور رحیم ہیں اور حکیم بھی ہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہوگا بہتر ہی کیا ہوگا۔

دیکھنے والوں سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی براہی نہیں کرتی۔ اگر وہ کسی وقت بچہ کو کوئی تکلیف دیتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماں اپنے بچہ کو کوئی منفعت پہنچانا چاہتی ہے جو بندوں تکلیف کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو خدا تعالیٰ تو ماں سے زیادہ رحیم ہیں۔ وہ بھلا بغیر آپ کی منفعت کے

آپ کو تکلیف کیوں دیں گے۔ بلکہ ماں کی تکلیف میں تو شبہ ہے کہ شاید اس نے غلطی کی ہو اور جس نفع کے لئے وہ تکلیف دے رہی ہے وہ نفع مرتبہ نہ ہو یا ویسے ہی غصہ میں بے قصور، بلا وجہ تکلیف دے رہی ہو۔ مگر خدا کی جتاب میں تو یہ شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ رحیم بھی ہیں اور ماں رحیم تو ہے مگر حکیم نہیں۔

رحمت عامہ اور نافرمان

ایک غزہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک عورت کو آگ سلگاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا بچہ بھی پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کو آگ سے بچاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر صحابہ سے فرمایا تمہارے خیال میں یہ بات آسکتی ہے کہ یہ عورت اپنے بچہ کو آگ میں ڈال سکتی ہے صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ سے ماں سے بھی زیادہ محبت ہے۔

بھلا سنے! جو لوگ اطاعت کرنے والے ہیں ان سے تو خدا کو محبت کیوں نہ ہو۔ خدا کی رحمت تو نافرمان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہے۔ کیا خدا کو یہ قدرت نہیں کہ بھلی گرا کے سب نافرمانوں کو ایک دم سے ہلاک کر دے مگر ہلاک کرتا تو کیسا اکثر کوئی ظاہری تکلیف بھی تو طالموں کو نہیں ہوتی۔

فرعون، قارون، سامری ان سب کو دیکھنے کیسے نافرمان تھے۔ مخلوق کو تکلیفیں ان سے پہنچیں انبیاء کے دل ان سے دکھانے کے سر میں کبھی درد بھی نہ ہوا۔ اور دنیا کی دولت سے اخیر تک مالا مال رہے۔ شیخ سعدیؒ نے یہ کہا ہے اور خوب کہا ہے

اے کریے کہ از خزانہ غیب      گبرو تر سا وظیفہ خور داری  
دوستاں را کجا کنی محروم      تو کہ باو شمیاں نظر داری  
”اے بخشش کرنے والے تو اپنا خزانہ غیب سے یہودی اور آتش پرست تک کوروزی دیتا ہے۔

پھر تو اپنے دوستوں کو اپنے الطاف سے کیونکر محروم کرے گا جب کہ تو وہ منوں پر بھی نظر رکھتا ہے۔“  
اگر کوئی نوکر ہماری تافرمانی کرے تو ہمارا بس چلے تو بدلوں خون پئے نہ رہیں اور اسی پر اکتفا کریں۔ بلکہ اس کے ساتھ اس کے خاندان بھر سے انتقام لیں پھر بھی دل شہنشاہ ہو۔ تو کیا خدا تعالیٰ اپنے تافرمانوں کو بر باد نہیں کر سکتے ان کو کون چیز مانع ہے مگر باوجود وہ اس قدرت و عظمت کے انکی تو یہ شان ہے گئے بیند و پردہ پوشید بحکم ”ہمارے گناہ دیکھتے ہیں مگر پردہ پوشی کرتے ہیں کیونکہ وہ حلیم ہیں۔“

یعنی نافرمان پرسزادینی کیسی۔ فضیحت بھی تو نہیں کرتے۔ بلکہ وہی سواریاں ہیں وہی آرام و عیش ہے بلکہ نافرمانوں کو مال و دولت اتنا دیتے ہیں کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکو زیادہ چاہتے ہیں اللہ اللہ کیا مٹھکانہ ہے حلم کا دشمنوں کو بھی روزی دیتے ہیں کہ خوب کھاؤ اور اسی واسطے دیتے ہیں کہ شاید توبہ کر لیں۔ یہ ہے رحمت عامہ۔ مگر باوجود یکہ لوگ تو بُنہیں کرتے اس پر بھی رحمت کم نہیں ہوتی۔ بلکہ برابر روزی اور مال و دولت دیتے رہتے ہیں کہ شاید بازاً آ جائیں۔

### مصادب اور فرمانبردار

جب نافرمانوں کے ساتھ یہ رحمت ہے تو فرمائیں برداروں کے ساتھ کس قدر ہوگی۔ اب اگر کسی وقت ان کو کچھ تکلیف پیش آتی ہے تو وہ ضرور کسی ایسے نفع کے لئے ہے جو سلسلہ اسباب میں بدلوں اس تکلیف کے حاصل نہیں ہو سکتا اور اس کا حاصل ہونا ہے بہت ضروری۔ اسلئے بندہ کو تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ دیکھنے کسی بچہ کے دنبل نکل آئے تو ماں کیا کرے گی۔ یقیناً اس میں نشرتِ لاوائے گی۔ گو بچہ کو کتنی ہی تکلیف ہو اور وہ کتنا ہی روئے اور آپ بھی اس وقت دیکھ کر یہی کہیں گے کہ ماں کی خیر خواہی کا مقتضاء یہ ہے کہ وہ اس وقت بچے کے رونے کی پرواہ کرے اور دنبل کا اپریشن کراوے مگر بچے سے پوچھئے تو وہ کہے گا کہ ماں سے زیادہ میرا بد خواہ اور دشمن کوئی نہیں ہے کہ اپنے سامنے میرا بدن لہو لہان کر رہی ہے مگر عاقل سمجھتا ہے کہ ماں کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے بلکہ رفع تکلیف مقصود ہے اور اس لیے تھوڑی سی تکلیف ضروری تھی۔ راحت اس کے بعد ہوگی۔ اسی کو مولانا نافرماتے ہیں۔

### طفل میں لرزد ز نیش احتجام مادر مشقق ازال شد شاد کام

خون نکالنے والے کے نشرت سے بچہ کا نپ جاتا ہے اور مہریاں ماں اسی سے خوش ہوتی ہے۔ بھلانشتر لگانا تو بڑی بات ہے۔ بچہ تو سر منڈاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں چنانچہ کوئی بچہ شرارت کرتا ہوا اور اس سے یہ کہئے کہ اچھا ہم ناٹی کوئی بلا تے ہیں وہ تمہارے سر پر استراچلانے گا۔ بس مارے ڈر کے ساری شرات بھول جاتے ہیں مگر وہی نشرت لگانے والا جس کے فعل کو بچے بد خواہی پر گھمول کرتے ہیں اور اس کے نام سے سہتے ہیں ان کے باپ سے کہتا ہے کہ لا یے حضور انعام دلوائی۔

دیکھنے میں نے کس صفائی سے کام کیا ہے باپ کہتا ہے اچھا لوپا نج روپے لے لو۔ وہ کہتا ہے نہیں حضور یہ تو تھوڑے ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا دس روپے لے لو۔ پھر نشرت کے بعد غسل صحیت ہوتا ہے تو اسے

جوڑ اور خلعت ملتا ہے۔ مگر لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ سب نے مل کر مجھے ذنبح کرایا اور خود خوشیاں منارے ہے ہیں۔ اب بتائیے اس بچے کے متعلق آپ کیا فتویٰ دیں گے یقیناً یہی کہیں گے کہ لڑکا احمق ہے اسکا یہ گمان غلط ہے کیونکہ جسے ذنبح کرانا سمجھتا ہے اسی کی بدولت آج یہ خوشی نصیب ہوئی۔ اگر وہ ذنبح نہ کرایا جاتا تو شاید یہ دن نصیب نہ ہوتا۔ بلکہ قبر میں پہنچ چکا ہوتا۔

اب خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو برداشت ہے اس کو دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ معاذ اللہ، ہم لوگوں کا بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ اس احمق لڑکے کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ہمیں بلا وجہ بلا ضرورت خواہ مخواہ تکلیف دی ہے اس تکلیف میں ہماری کوئی منفعت نہ تھی۔ حالانکہ یہ بھی اپریشن ہی ہے والدین بچے کے دنبیل کا اپریشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قلوب کا اپریشن کرتے ہیں جب کہ دلوں میں غفلت بڑھ جاتی ہے۔ اور گناہوں کی ظلمت سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں تو مصیبت اور بلا کے نشتر سے دلوں کا خراب مادہ نکالا جاتا ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ پس یہاں بھی با فعل تکلیف ہے اور وہاں بھی مگر ان جام و نون کا راحت ہے۔

## قرب قیامت

فرق اتنا ہے کہ وہاں راحت قریب ہے کہ پندرہ میں ہی دن میں دنبیل میں نشتر دینے کے بعد صحت ہو جاتی ہے اور یہاں بعید ہے کہ قیامت میں اس کا ظہور ہو گا جب کہ مصائب کا ثواب ملے گا مگر قیامت کو ہم لوگ دور سمجھتے ہیں ورنہ حقیقت میں وہ بہت ہی قریب ہے۔

انهم یرونہ بعيداً و نره قریباً۔ (پ ۲۹)

”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں اور ہم نزدیک سمجھتے ہیں۔“

تو آپ چاہے اس کو بعید ہی سمجھئے مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک تو قریب ہے اور اس میں کچھ تعجب کی بات نہیں کہ ایک چیز آپ کے نزدیک دور ہو اور خدا کے نزدیک قریب ہو۔

دیکھئے چیزوں کے نزدیک ایک فرلانگ اتنا دور ہے جتنا آپ کے نزدیک یہاں سے امریکہ اور آپ کے نزدیک ایک فرلانگ بہت ہی قریب ہے اسی طرح خدا کے نزدیک وہ میعاد بہت قریب ہے۔ اگر اس مثال کے بعد کسی کی سمجھی میں قیامت کا قریب نہ آوے تو وہ یوں سمجھ لے کہ قیامت کیڑے گو دور ہی مگر قیامت صفری یعنی موت تو قریب ہے کیونکہ زندگی کا ایک لمحہ کے لئے بھی بھروسہ نہیں کوئی آج مراتا تو بس اسی وقت سے سزاوجزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کے لئے تو

قیامت آگئی قیامت کبریٰ ہی میں کیا ہوگا۔ یہی سزا و جزا تو ہوگی۔ بس قیامت کے دن اسی سزا و جزا میں ذرا و سعت ہو جائے گی۔

یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ لو کہ یہ جو بد دین لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر آواگون (تاخ) نہ ہو تو یہ اشکال لازم آتا ہے کہ مجرم نے جرم تو کیا اب اور سزا ملے گی ہزاروں برس کے بعد۔

تو اول تو اس تقریر کے بعد یہ اشکال لازم نہیں آتا کیونکہ موت بھی..... قیامت کا مقدمہ ہے۔ سزا و جزا کا سلسہ اس کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے اور اگر مان لیا جائے کہ جزا و سزا اہر روں برس کے بعد ہوگی تو کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ باوجود جرم ثابت ہو جانے کے پھر بھی مجرم کو مہلت دی جاتی ہے کہ ہم تو برابر ایسے واقعات دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخص نے آج قتل کیا اور چار ماہ بلکہ چار سال کے بعد پھانسی ہوئی اور اس تاخیر کی وجہ سے صرف عدم ثبوت جرم نہیں بلکہ ثبوت جرم کے بعد بھی مہلت دی جاتی ہے ثبوت کے بعد بھی اپیل اور پیروی کی اجازت دی جاتی ہے۔

جب دنیا کے حکام ایسا کرتے ہیں اور ان کا یہ فعل نظر احسان دیکھا جاتا ہے تو خدا کے یہاں ایسا ہونے میں کیوں تعجب ہوتا ہے۔ ہاں جرم موجب سزا کی پاداش میں سزا لیا چھکے کام کے صد میں جزانہ ملنابہتہ موجب اشکال اور اعتراض کے قابل ہے (جس کا وہاں وہم بھی نہیں ہو سکتا) لیکن سزا و جزا کی تاخیر میں عقلاء و عادتاً کوئی اشکال یا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ الغرض منے کے بعد ہی سلسہ جزا و سزا شروع ہو جاتا ہے۔

## اعمال کی لذت و کلفت

برنخ کی لذت یا کلفت بھی کامل ہوتی ہے گو قیامت کی لذت و کلفت سے کم ہو تو قیامت کی لذت کلفت اکمل ہوگی۔ کیونکہ سزا و جزا میں ترقی قیامت ہی کو ہوگی۔ پس آخرت کو دور نہ سمجھو کیونکہ موت ہی آخرت کا پیش خیمه ہے اور اگر موت بھی کسی کو دور معلوم ہوتی ہو تو میں ترقی کر کے یہ کہتا ہوں کہ موت سے بھی پہلے اعمال کی لذت یا کلفت حاصل ہو جاتی ہے مگر اس دعوے کے بھختے کے لئے ایک مقدمہ کی ضرورت ہے۔ مقدمہ یہ ہے کہ یہ تو ساری دنیا کو مسلم ہے کہ یہم کی پتلی تلخ ہوتی ہے اور مٹھائی شیریں۔ لیکن اگر یہم کی پتی مار گزیدہ کو کھلائیئے اور اس سے پوچھئے کہ مزہ کیسا ہے تو وہ کہے گا میٹھی ہے۔ کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ مار گزیدہ کو زہر کے اثر سے یہم کی پتی میٹھی معلوم ہوتی ہے۔

اگر کسی کو سائب کے کامنے کا شہر ہو گیا ہو تو یہم کی پتی چبا کر دیکھئے اگر میٹھی معلوم ہو تو شبہ صحیح ہے اور اگر کڑوی معلوم ہو تو شبہ غلط۔ تو کیا؟ اس کے میٹھا کہنے سے تلخی کا عام حکم غلط ہو گیا ہرگز

نہیں۔ وہ حکم تو صحیح ہے بلکہ اسکی قوت مدرکہ سانپ کے زہر سے خراب ہو گئی ہے اس لئے یہی کہا جائے گا کہ اس کا ذائقہ درست نہیں ہے۔

اسی طرح اگر کسی پر صفر اغلب ہو تو اسکو مٹھائی کڑوی معلوم ہو گی۔ یہاں بھی مٹھائی کی شیریٰ کا عالم حکم صحیح ہے مگر غلبہ صفر اکی وجہ سے اس کے ذائقہ کی غلطی ہے کہ ایک شے کے مزے کا واقع کے خلاف ادراک کر رہا ہے۔ الغرض! ذوق صحیح ہو تو یقیناً نہم کی پتی کڑوی و مٹھائی شیریں معلوم ہو گی۔ اب دعویٰ کرتا ہوں اور نقصم کہتا ہوں کہ کوئی طاعت فوراً جزا سے خالی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی معصیت فوراً سزا سے خالی نہیں ہوتی۔ مگر اس کے لئے ذوق کے صحیح ہونے کی ضرورت ہے۔ اہل ذوق کو طاعت سے اس قدر انبساط اور فرح ہوتا ہے جیسا انبساط قریب قریب جنت میں ہو گا اور اس وقت دنیا کی سلطنت کی بھی ان کی نظروں میں کچھ حقیقت نہیں ہوتی مگر، میں یہ انبساط اور فرح کیسے ہو۔

ہم کو تو دنیا کے سانپ نے ڈس لیا ہے جس سے مذاق ہی بگڑا گیا ہے ہم بھی ذوق پیدا کر لیں تو اس کی لذت محسوس ہو۔ اسی طرح معصیت سے قلب میں اس قدر تنگی اور پریشانی ہوتی ہے کہ سر پر ہزاروں تکواریں پڑیں تب بھی ایسی کلفت نہ ہو۔ مولانا اسی کو فرماتے ہیں

بر دل سالک ہزاراں غم بود گر ز باغ دخلاء کم بود

”سالک کے دل پر ہزاروں غم ہوتے ہیں اگر دل کے باغ سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے۔“  
یہ تو اس کلفت کا بیان تھا جو معصیت و غفلت کی وجہ سے قلبی کیفیت کے گھنٹے سے پیدا ہوتی ہے اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کا نور کم..... ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ اطاعت کی لذت کو ایک عارف کہتے ہیں۔  
بفراغ دل زمانے نظرے بمہاروئے بازاں کہ چتر شاہی ہمہ روز ہاؤ ہوئے

”دل کی فرصت کے ساتھ ایک لمحہ محبوب پر نظر کرنا چتر شاہی اور ہر روز کی بک بک سے بہتر ہے۔“  
یعنی ایک ساعت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اطمینان سے توجہ میسر ہو جائے تو اس کے آگے سلطنت بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اس کو خاقانی یوں کہتے ہیں  
پس از سال ایں معنی محقق شد بخاقانی کہ یک دم با خدا بودن بے از ملک سلیمانی  
تمس سال کے بعد یہ حقیقت خاقانی پر ظاہر ہوئی کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لمحہ بھی ملک سلیمانی سے بہتر ہے۔

## اہل اللہ کا استغنا

یہ مت سمجھو کر طاعت کی لذت آخرت ہی میں ملتی ہے آخر اہل اللہ جو ساری دنیا کو چھوڑ کے خوش خوش اور مگن پھرتے ہیں تو کیا سب پاگل ہو گئے ہیں کہ ملتا ملاتا کچھ نہیں اور خواہ مخواہ خوش ہیں۔ صاحبو! جس کے پاس کچھ دولت نہ ہو وہ اتنا خوش نہیں رہ سکتا۔ بلکہ دنیوی دولت والے بھی انکے برابر خوش نہیں ہو سکتے۔ اگر کہو کہ یہ خوشی نہیں بناوٹ ہے تو اول تو بناوٹ کب تک بناوٹ رہ سکتی ہے بھریہ بناوٹ کس فائدہ کیلئے دھرم وہ خوشی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ بناوٹ سے لاکھ خوشی پیدا کیجئے کبھی وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت! جوستی شراب میں ہے وہ بناوٹ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ شراب نہ پینے والا لاکھ جھوٹے وہ بات پیدا نہیں کر سکتا۔ شراب پینے والے کی طرف وہ بے خود نہیں بن سکتا۔ اس کی بناوٹ فوراً ظاہر ہو جاتی ہے۔ پس سمجھو کوہ اہل اللہ کا یہ استغنا ان کی یہ آزادی اور یہ بے پرواٹی کہ نہ امیر کی پرواد ہے نہ وزیر کی بناوٹ سے نہیں ہو سکتی۔ اہل اللہ کے استغنا کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔

ایک واقعہ مجھے اس وقت بھی یاد آگیا کہ جہانگیر بادشاہ ایک مرتبہ حضرت سلیم چشتیؒ کی زیارت کو آئے۔ حضرت سلیم چشتیؒ اپنی گدڑی جو میں دیکھنے کے لئے خادم کے پردہ کر کے اسی وقت حجرے میں تشریف لے گئے تھے۔ خادم نے جو شاہی ترک و احتشام دیکھا گھبرا گیا۔ اور گھبرا کر شیخ کو پکارا کہ حضرت ذرا بابا ہر آئیے۔ شیخ باہر تشریف لائے پوچھا کیوں کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت آرہے ہیں۔ فرمایا کیا کروں اگر آرہے ہیں کوئی میں نے ان کی دعوت کی تھی۔ وہ تو اپنی خوشی سے آرہے ہیں آنے دے۔ میں تو تیری اس گھبراہٹ کی آواز سے یہ سمجھا کہ کوئی بڑی سی جوں نکل آئی ہے۔

اس کے دکھانے کو بلا رہا ہے۔ اسلئے باہر آگیا بادشاہ کے لئے تو نے خواہ مخواہ مجھے پکارا۔ اللہ اکبر! ان حضرت کی نگاہ میں جہانگیر کی اتنی بھی قدر نہیں جتنی ایک جوں کی ہے۔ صاحبو! کیا یہ استغنا اور یہ آزادی یوں ہی خالی خولی تھی یہ تو ناممکن ہے اور اگر خالی ہی تھی تو کوئی اور تو کر کے دکھاوے۔

## تعلق مع اللہ

شاید اب کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر خالی خولی استغنا نہ تھا تو پھر کس وجہ سے تھا۔ ان کے پاس کون سی دولت تھی جس نے بادشاہوں سے بھی ان کو بے پروادہ کر دیا تھا۔ تو سن لیجئے کہ ان کے پاس تعلق مع اللہ اور توحید کامل کی دولت تھی جس کی بابت شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں۔

موحد چہ برقائے ریزی زرش      چہ شمشیر ہندی نبی بر سرش  
 امید ہرا سش نباشد زکس      بریں است بنیاد توحید و بس  
 ”موحد کے سر پر تکوار چلاویا اس کے پاؤں میں سونا ڈال دوبرا برد ہے۔ اس کو کسی سے نہ  
 امید ہوگی نہ خوف ہوگا۔ بس یہی توحید کی بنیاد ہے۔“

ان کے دل میں سوائے حق تعالیٰ کے نہ کسی کی عظمت تھی نہ خوف نہ منفعت کی امید تھی نہ  
 مضرت کا اندر یشان کی تو حالت ہوتی ہے کہ

نہ براشرٹ بر سوارم نہ چواشتہ زیر بارم      نہ خداوند رعیت نہ غلام شہر یارم  
 ”ناونٹ پر سوار ہوں نہ اونٹ کی طرح زیر بار ہو۔ نہ رعیت کا حاکم ہوں اور نہ حاکم کا غلام ہوں۔“  
 انہیں کسی کا بھی خوف نہیں ہوتا سوا خدا کے کیونکہ کہ سب سے بڑی بلا موت سمجھی جاتی ہے  
 اسی کے خوف سے ذرا ذرا سی بات میں احتیاط کی جاتی ہے تاکہ حیات نہ جاتی رہے مگر وہ اسے بھی  
 ہنسی دل گلی سمجھتے ہیں۔ بلکہ اس کے آنے کی متفق نہ مانتے ہیں ہیں اور یہاں ہماری یہ حالت ہے  
 کہ موت سے بچنے کے لئے متفق نہ مانتے ہیں۔ کہ اب نمونیا سے بچ گیا تو بس بزرگوں کا نمونہ ہی  
 بن جاؤں گا مگر وہاں مرنے کی تمنا ہے چنانچہ عارف شیرازی فرماتے ہیں۔

خرم آں روز کزیں منزل ویران بروم      راحت جاں طلمم وزپے جاناں بروم  
 نذر کر دکم کہ گر آید بسر ایں غم روزے      تادر میکدہ شاداں وغزل خواں بروم  
 ”کتنا اچھا دن ہوگا کہ اس ویران دنیا سے جائیں گے۔ جان کی راحت طلب کرتا ہوں اور  
 محبوب کے لئے جاتا ہوں۔ میں نے منت مانی ہے کہ اگر یہ دن نصیب ہوا تو میکدہ (جنت) کے  
 دروزے تک خوش خوش اور غزل خواں جاؤں گا۔“

یعنی مر جائیں گے تو شاداں شاداں خوش خوش میکدہ میں جائیں گے یعنی جنت میں۔ کیونکہ وہاں  
 شراب بہت ہے اور حلال بھی ہے اور اہل اللہ کی توبات ہی کیا ہے وہ تو موت سے خوش ہوتے ہی ہیں۔

### مشابہ جمال الہی

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہر مسلمان خوش ہوتا ہے کیونکہ دنیا کے جیل  
 خانہ سے رہائی پا جاتا ہے۔ ایک اور بزرگ مرتے وقت فرماتے تھے۔

وقت آں آمد کہ من عریاں شوم جنم بگذارم سرجاں شوم  
یعنی اب وقت آگیا ہے کہ قفس نوئے گا اور مشاہدہ جمال الہی سے مشرف ہوں گے۔ غزل  
خوانی سے مراد ذکر اللہ ہے۔ مومن مرنے کے بعد بھی ذاکر رہتا ہے بلکہ اس وقت ذکر اور بڑھ جائے  
گا کیونکہ یہاں تو تعلقات میں غفلت بھی ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد ذکر ذکر اللہ ہی غذا ہو گا۔

ہمارے حضرت حاجی صاحب قبلہ نے انتقال کے وقت مولوی اسمعیل صاحب سے فرمایا  
تھا کہ میر امی چاہتا ہے کہ میرے جنازے کے ساتھ ذکر بالجھر کیا جائے انہوں نے کہا حضرت یہ تو  
نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک نئی بات ہے جس کو فقہاء نے اس خیال سے کہ عوام سنت نہ سمجھ لیں  
پسند نہیں کیا فرمایا بہت اچھا جو مرضی ہو۔

خیر بات آئی گئی ہوئی۔ اور کسی کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی کیونکہ خلوت میں گفتگو ہوئی تھی۔ مگر  
جب جنازہ اٹھا تو ایک عرب کی زبان سے نکلا اذکرواللہ۔ بس پھر کیا تھا بے ساختہ سب لوگ  
ذکر کرنے لگے اور لا اله الا الله کی صدائیں برابر قبرستان تک بلند رہیں۔ بعد میں مولوی  
اسمعیل صاحب اس گفتگو کو قتل کر کے کہتے تھے کہ ہم نے حضرت کو تو منوادیا مگر اللہ تعالیٰ کو کیونکر  
منوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی تمنا پوری کر دی۔ حق ہے

تو چنیں خواہی خدا خواہ چنیں مید ہد یزاد مرا متنقین  
اللہ تعالیٰ متنقین کی مراد پوری کرتا ہے انہیں اللہ کا نام سننے سے زندگی میں بھی لذت آتی ہے اور مرنے  
کے بعد بھی اور موت کے بعد غفلت کا کوئی سبب نہیں تو پھر غالب کیونکر ہو سکتے ہیں۔ الغرض یہ معنی ہے  
تادر میکدہ شاداں و غزل خواں بروم (تاکہ میکدہ کی جانب خوش و خرم اور غزل پڑھتا ہوا چلا جاؤں)  
کہ ان کی شان ذکر اللہ اور خدا کی محبت ہے اور مرنے کے بعد وہ خدا کی رحمت و محبت کا  
پوری طرح مشاہدہ کریں گے تو ان کے ذکر و محبت میں ترقی ہوگی۔

## مومن کی شان

الغرض! جب ایسا ذوق صحیح ہو تو ہر چیز کا اثر غوراً محسوس ہو گا۔ طاعت میں شکنستگی اور معصیت  
میں قلق ہو گا۔ بلکہ خلاف اولیٰ میں بھی۔ چنانچہ ایک بزرگ کسی کے یہاں تشریف لے گئے دروازہ  
پر پہنچ کر پکارا۔ اندر سے جواب آیا کہ نہیں ہیں پوچھا کہاں ہیں جواب ملا خبر نہیں۔ تو یہ بزرگ  
صرف اتنی بات پر تیس برس تک روتے رہے کہ میں نے ایسا فضول سوال کیوں کیا کہ کہاں ہیں

میرے نامہ اعمال میں ایک فضول بات درج ہو گئی۔ حالانکہ مومن کی شان یہ ہے کہ:

**وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُغْرِضُونَ**

اور مومنوں کی شان یہ ہے کہ لغو با توال سے اعراض کرتے ہیں۔“

اب اندازہ کیجئے کہ جسکو ایک لغو بات سے اس قدر تکلیف ہوئی اسکو گناہ کی لکفت کا کس درجہ احساس ہو گا۔ صاحبو! گناہ تو گناہ وہ ان مباحثات سے بھی پر ہیز کرتے ہیں جن میں معتد بہ نفع نہ ہوا اور کیوں نہ کریں۔ حدیث شریف میں ہے

من حسن اسلام المرء تو کہ مالا یعنیہ (الکامل لابن عدنی ۳:۷، ۵۸۸۳، ۳۰۰:۶) (۲۳۳۱)

یعنی بیکار باتوں کا چھوڑنا آدمی کے حسن اسلام سے ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھا قاعدہ بتا دیا کہ وہ کام ہی نہ کرے جس میں فائدہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے وہ بزرگ اس پر رونے کہ میں نے یوں کیوں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ اللہ اکبر! جس کو اتنی سی بات سے اتنا تلقق ہو کہ تمیں برس گریہ وزاری میں کائے اسے گناہ سے کس قدر صدمہ ہو گا۔ بہر حال اعمال کی سزاوجزا دنیا میں فوراً مل جاتی ہے لیکن اگر کسی کا ذوق صحیح نہ ہو تو وہ یہی سمجھ لے کہ آخرت میں تو ضرور ہی ہو گی اور اس تاخیر میں کچھ مضاائقہ نہیں جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آخر اس میں کیا حرج ہے کہ قتل اب کیا، پھنسی چھ ماہ یا چند سال بعد ہوئی یا ایک نے بی اے (اور رسول سرسوں) اب پاس کیا اور چھ ماہ کے بعد ڈپٹی ہوا۔ سزاوجزا کی تاخیر سے دنیا میں کوئی مضاائقہ نہیں سمجھا جاتا۔ پھر اگر خدا تعالیٰ کے یہاں بھی ایسا ہوا تو کیا حرج ہے۔ خدا کے یہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ چٹ روٹی پٹ وال۔ تو خوب سمجھ لو کہ ایسے مہمل اعتراضات سے خدا تعالیٰ کے اصول نہیں بدلتے۔

**لَنْ تَجِدَ لِسْنَةَ اللَّهِ تَبَدِّي لَا**

تم اللہ تعالیٰ کے قانون میں کسی قسم کا فرق اور تبدیلی ہرگز نہ پاؤ گے۔ اس کا دستور ہر زمانے میں یکساں ہے۔ اور کفار کے بارہ میں اس تاخیر کی حکمت وہ خود ارشاد فرماتے ہیں

**سَنَسْتَدِرِ جَهَنْمَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ**  
کہ ہم کفار کو ڈھیل دے کر بے خبری میں پکڑنا چاہتے ہیں۔

**تَحِي تَدَازَالْ كَاهِنَ وَتَعَالَى أَكْرَدْ دِيرْ كِيرَدْ سَخَتْ كِيرَدْ**

اور فرماتے ہیں : **وَمَانُؤْ خَرُوَةَ إِلَّا لَاجِلِ مَعْذُودِ**

کہ ہم قیامت کے دن کو بعض مصلحتوں کی وجہ سے کچھ مدت کیلئے ملتوی کئے ہوئے ہیں۔ مگر اس کا آنا یقینی ہے اس وقت ہر شخص کو جزا اہم رکھ لے گی۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اہل بلا کو قیامت میں ان لی تکلیف اور مصیبیت پر اتنا جر ملے گا کہ اہل تعمیم تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں ہماری کھال مقر اخوضوں سے کافی جاتی تا کہ مصائب کا اجر حاصل کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر کلفت میں منفعت بھی ہے۔

## اخباری مذاق

مگر جو لوگ ناواقف ہیں وہ اس کو مضرتِ محضہ سمجھ کر بگزرنے لگتے ہیں بلکہ بعض توحد سے بڑھ جاتے ہیں چنانچہ ایک جاہل نے رمضان میں روزہ رکھا۔ اتفاق سے اسی دن اس کی بھیس مرگی یہ کھیت پر کام کر رہا تھا۔ بیٹھنے نے جا کر خبر دی تو سنتے ہی آپ کو بہت غصہ آیا فوراً لوٹا اٹھا کر پانی پی لیا اور کھالے اور کھوالے روزہ۔ معاذ اللہ! خدا کے ساتھ یہ بر تاؤ۔ خیر وہ شخص تو بد تہذیب تھا زیادہ افسوس تو ان کے حال پر ہے جو تہذیب کے پیرا یوں میں اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتے ہیں صاحبو! اگر انہی پیرا یوں میں کوئی آپ کی شکایت کرے تو کیا آپ کو ناگوار نہ ہو گا چنانچہ ایسے پیرائے اخباروں میں بھی اختیار کئے جاتے ہیں مثلاً اموات کا عدد بیان کرتا کہ آج اتنے آدمی مر گئے۔ اس سے بجز خدا تعالیٰ کی شکایت اور اعتراض اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کو پریشان کرنے کے اور کچھ بھی غرض نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی غرض ہوتی تو اس کو بیان بھی کیا جاتا۔ مگر آج کل اس سے بے حد و لچکی ہے اور یہ اخباری مذاق کہلاتا ہے۔ اس زمانہ میں یہ مذاق عموماً غالب ہو گیا ہے۔ مگر نہایت ہی لغو ہے۔

ان اخبار والوں کی یہ حالت ہے کہ عوام میں جن مضاہیں سے زیادہ وچکپی ہوتی ہے۔ ان ہی کوشائی کرتے ہیں خواہ کوئی نفع ہو یا نہ ہو بلکہ خواہ ضرر ہی ہو۔ خیر یہ بے چارے تو معدود ہیں کیونکہ اصل میں یہ لوگ تاجر ہیں۔ انہیں تو اپنا پیٹ بھرنا مقصود ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ آج کل طاعون بہت ہے۔ لوگوں کو اس کی خبروں کا انتظار ہے۔ ان کے چھاپنے سے اخبار خوب نکلنے گا وہی چھاپنے لگے۔ انہیں اس سے کچھ بھی غرض نہیں کہ اس سے خدا کی شکایت ہوتی ہے یا لوگوں کی پریشانی برہستی ہے۔ جس چیز کا چرچا زیادہ دیکھتے ہیں اسی کے متعلق مضاہیں بھی لکھتے ہیں اگر دینداری کا چرچا غالب ہو جائے تو دینداری کے مضاہیں لکھنے لگتے ہیں۔ کفر کا مذاق بڑھ جائے تو کفر کے مضاہیں لکھنے لگتے ہیں۔ انہیں تو اپنی تجارت سے غرض ہے۔ مردہ چاہے دوزخ میں جائے یا بہشت میں یاروں کو اپنے حلوے مانڈے سے کام۔

انہوں نے دیکھا کہ لوگ طاعون کی خبروں کے منتظر ہیں اور کچھ نہیں تو یہی چھاپنا شروع کر دیا کہ طاعون میں اتنے بتلا ہوئے اور اتنے فوت ہوئے کہ واس سے کیا نفع؟

### عوام کا مذاق

اور عام لوگوں کا آج کل عجیب مذاق ہو گیا ہے کہ محض خبر ہی کو مقصود بالذات سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اصل یہ ہے کہ خبر کی غایت ہمیشہ انشا ہوتی ہے اور جس کی غایت انشاء نہ ہو وہ محض فضول ہے وجہ فضول ہونے کی یہ ہے کہ خبر کا نشاء انشاء تھا اور اس سے یہ خالی ہے۔ غرض! یہ کلیہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خبر خود مقصود نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کی غایت انشاء ہوتی ہے۔

مثلاً ایک شخص حکیم صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے بخار ہے تو مقصود اس کا اس خبر سے جملہ انشائی ہے یعنی مجھے نہ لکھ دیجئے یادوادے دیجئے یا مثلاً ایک جاسوس حاکم کو خبر دیتا ہے کہ سرحد تک غصیم آگیا۔ مقصود اس سے بھی جملہ انشائی ہے کہ مدافعت کا انتظام کیجئے یا مثلاً ایک خفیہ پولیس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ فلاں شخص باغی ہے اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ انسداد بغاوت کا انتظام کیجئے یا ایک نوکرنے آتا کو خبر دی کہ مکان کا قفل ٹوٹا ہوا ہے اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ چوری کا مدارت کیجئے۔ یا ایک بزرگ کے پاس کسی نے آکر عرض کیا کہ میرے اوپر مقدمہ قائم ہو گیا ہے اس کا بھی مقصود یہ ہے کہ دعا کیجئے۔ الغرض بے شمار مثالیں کہاں تک عرض کروں۔

ای طرح شرعی اخبار میں قاعدة ہے مثلاً **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ كَمَا دَبَّرَ اللَّهُ أَيْكَ** ہے۔

جملہ خبر یہ ہے مقصود اس سے یہ ہے کہ اس کا اعتقاد رکھو مثلاً

**لَنْ يُصِنَّا إِلَّا مَا كَبَّ اللَّهُ لَا هُوَ مَوْلَنَا اللَّهُ تَعَالَى نَعْلَمْ بِمَا يَعْلَمْ** ہمارے لئے مقدر فرمادیا ہے اس کے علاوہ اور کچھ ہم کو نہیں پہنچ سکتا۔ (پ ۱۰)

یہ جملہ خبر یہ ہیں۔ ان کا مقصود وہی جملہ انشائی ہے جو اس کے متصل مذکور ہے یعنی:

**عَلَى اللَّهِ فَلِيَسْوَى كُلُّ الْمُؤْمِنُونَ** مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔

بس اس قاعدہ پر غور کر لیجئے اور جس خبر میں انشاء نہ ہو سمجھ لیجئے کہ محض عبث ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ ان خبروں سے کلکتہ میں آج ایک ہزار مرے اور کل سبھی میں ڈیڑھ ہزار مرے کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی مرے تو ہم کیا کریں؟ اسکا کچھ بھی جواب نہیں۔ تو یہ خبر چھاپنا یا اس کا تذکرہ کرنا فضول ہی ہے اور اگر کوئی غرض ہے تو بتائے۔ اگر کسی نے یہ سوچ ساچ کریے کہ مقصود یہ ہے کہ دعا کیجئے تو یہ

اس موقع پر ان خبروں کی غایت نہیں کہی جا سکتی۔ غایت تودہ ہے جو پہلے سے متكلم کے ذہن میں ہو۔ یہ کیا جب جرح قدر کی گئی تو سوچ سارج کر کہہ دیا دعا کیجئے۔ اگر یہ غایت تھی تو کبھی کسی وقت تو زبان پر آئی ہوتی۔ غرض! یہ سب باتیں محض نکالت بعد الوقوع ہیں ورنہ دراصل یہاں کوئی بھی غایت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ عقلاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ افعال اختیار یہ کا صدور بلا تصور غایت نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غایت تو یہاں بھی ہے مگر معتقد نہیں۔ ہاں اخبار والوں کی غایت تو محض تجارت ہے کہ اخبار خوب کئے گا۔ اور اخبار دیکھنے والوں کی غایت محض تذکرہ اور مشغله، تفریح اور تبادلہ خیالات ہے کہ تم ہم سے اپنا حال کہوا اور ہم تم سے کہیں پھر دونوں مل کر ماتم کریں گے فائدہ کیا ہے۔ کچھ نہیں۔

### خبروں کا اثر

شاید کوئی سمجھے کہ ان کو مسلمانوں سے کچھ ہمدردی ہے۔ سو یہ بھی نہیں۔ اگر ہمدردی ہوتی تو ایک دکان دواؤں کی غریبوں کے لئے محلوں تے۔ مگر یہ کبھی نہیں ہوتا۔ صرف چرچا ہی مقصود ہے۔ خیر اگر ان میں کوئی ضرر نہ ہوتا۔ بھی اس قدر روک نوک نہ کی جاتی۔ مگر ان میں تودین کا بھی ضرر ہے اور دنیا کی بھی مضرتیں ہیں کیونکہ بہت سے آدمی محض خبریں ہی سننے سے ڈر کر مر گئے۔ ہم نے ایسے واقعات آنکھ سے دیکھے ہیں۔ بالخصوص عورتوں کے دل تو بہت ہی کمزور ہوتے ہیں۔ ان پر ایسی خبروں کا زیادہ اثر ہوتا ہے وہ پرده دار ہیں۔ خود تو شہر کی حالت سے آگاہ نہیں ہو سکتیں۔ ان کے پاس یہ باہر کی نکلنے والیاں خبریں لاتی ہیں۔ کہ یوں آج شہر میں یہ ہو رہا ہے کل وہ ہو رہا تھا آج اتنے مر گئے۔ کل اتنے مرے تھے اور یوں صاحب ہیں کہ گھر کا دھندا چھوڑ کر ان خبروں کے سننے میں منہمک ہیں۔ اگر باہر سے آنے والیاں کبھی کوئی بات بیان نہ کریں تو یہ خود تقاضا کرتی ہیں کہ کہاں شہر میں کیا حالت ہے۔ اس پر وہ یوں صاحب کو خوش کرنے کو اگر کچھ بھی نہ ہو تو تب بھی کچھ نہ کچھ مبالغہ کے ساتھ بیان کر دیتی ہیں۔ اب یہ ہول اور دہشت سے پریشان ہوتی ہیں اور اکثر یہاں کہیں ہو جاتی ہیں۔

چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ میرے یہاں آج کل ہوا کہ ایک یوں پہلے ہول سے یہاں پڑیں اس کے بعد اسی میں انتقال ہو گیا۔ ایک جگہ طاعون کے زمانہ میں ایک حاملہ کو خبریں سن سن کر بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ یہاں کی شہر میں بڑی شدت سے تھی۔ مردوں نے مصلحت پر نظر کر کے انہیں یہ سمجھا دیا کہ یہاں اب نہیں ہے اور شہر میں سکون ہے کہ ایک دن شام کو ایک دم بہت سی آذانوں کی آواز جوان کے کان میں پڑی جس کو طاعون کے رفع کے لئے ایجاد کیا ہے پھر ہول بڑھا اور سمجھی کہ شہر

میں ابھی تک بیماری ہے جب ہی اتنی اذا نیس ہو رہی ہیں بس اسی ہول میں اسقاط ہو گیا۔

بعض جگہ وبا کے زمانے میں بہت سی اذا نوں کاررواج ہو گیا ہے حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں اور ایسی بے اصل تدبیروں سے بجائے نفع کے ضرر ہوتا ہے۔

چنانچہ دیکھئے اسی سے اس عورت کا حمل ساقط ہو گیا۔ حضرت اصل تدبیر وہ ہے جو شریعت نے تعلیم دی ہے کہ گناہوں سے بچو۔ توبہ استغفار کرو۔ اور نیک کاموں کی پابندی کرو۔ فرائض و واجبات میں کوتاہی نہ کرو۔ حقوق ادا کرو۔ مگر لوگوں سے یہ کام تو ہوتے نہیں کیونکہ اس میں نفس کے خلاف کچھ کرنا پڑتا ہے انہوں نے اذا نیس دینا یا چندہ کر کے دیگر پکانا سیکھ لیا ہے کیونکہ اس میں مشقت زیادہ نہیں بلکہ اس میں ایک گونہ حظ نفس ہے۔ بس یہ علاج وبا کا ایسا اس ہے جس کے متعلق مولانا فرماتے ہیں۔

ہر چہ کردند از علاج و ازدوا رنج افزون گشت و حاجت ناروا

بے خبر بودنداز حال دروں استعید اللہ مما یفترون

(جو کچھ انہوں نے علاج اور دوا کیا اس سے مرض میں ترقی اور اضافہ ہوا اور مقصد پورا نہ ہوا تو وہ باطنی حال سے بے خبر ہیں اور جو کچھ افترا کرتے ہیں اس سے اللہ کی پناہ)

گفت ہردار و کہ ایشان کردہ اند آں عمرات نیست ویراں کردہ اند

(اس نے کہا کہ انہوں نے ہر دوا کو استعمال کیا مگر کوئی دوا کار آمد نہ ہوئی)

اس علاج سے مرض نہیں جاتا اور بیماری کا تذکرہ کرنا، اموات کی شمار معلوم کرنا۔ اور گھروں میں اس کا جچہ چا کرنا یہ تو کسی درجہ میں بھی علاج نہیں۔ بلکہ اس سے تو اور مرض کو ترقی ہوتی ہے لوگوں کے دل کمزور ہوتے ہیں یہ تو دنیوی مضرات کا بیان تھا اور اس میں دین کا بھی ضرر ہے جس کے سمجھنے کے لئے ایک مقدمہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔

## عظمیم گستاخیاں

پہلے یہ سوچو کہ یہ سب کرتا کون ہے یعنی یہ مصیبت کون ڈالتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور وبا اور بیماری کا اللہ کے حکم سے آناسب کو معلوم ہے قتل وغیرہ میں تو گوجان اس کی خدا ہی نے لی مگر اس میں بظاہر ایک بندہ کا دخل ہو گیا اس لئے وہ بندہ کا فعل کہلاتا ہے اور تمام ترشکایات اسی کی طرف عائد ہوتی ہیں۔ لیکن وبا اور بیماری سے جو کوئی مرتا ہے تو اس میں براہ راست خدا کا فعل سمجھا جاتا ہے اس میں جس قدر ترشکایت یا ناگواری ہو گی تو چونکہ یہ افعال

بلا واسطہ خدا کے ہیں اسلئے وہ شکایت خدا کی ہوگی۔

ایک مثال سے اس کو سمجھنے کے مثلاً ایک حاکم کے یہاں مقدمہ پیش ہوا۔ اس نے روپیہ اور پر نظر کر کے ایک کو مظلوم سمجھا اور دوسرا کو ظالم سمجھ کر حکم دیدیا کہ اسے چھانی دیو۔ چنانچہ اس کو چھانی ہوگئی۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ ہائے فلاں شخص کو چھانی دیدی گئی۔ افسوس! بڑے صدمہ کی بات ہے بہت ہی بے جا واقعہ ہوا۔ اب یہ شکایت کس کی ہے یقیناً اس نجح کی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اسی وجہ سے ان حضرت کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ نجح کے اجلاس پر افسوس ظاہر کریں اور اس قسم کا ایک لفظ کہیں گو پیچھے جو کچھ چاہیں کہہ لیں کیونکہ اسے خبر نہیں۔

اسی طرح ایک شخص کے بیٹے پر مقدمہ قائم ہو گیا۔ حاکم کے اجلاس پر باپ بھی پیروی کے لئے حاضر ہوا۔ آخر میں حاکم نے سزا کا حکم نادیا اور اس کو باپ کے سامنے ہتھکڑیاں پہنا کر جیل بھیج دیا گیا۔ گو باپ کو یہ فیصلہ بے انتہاناً گوار ہو گا۔ مگر یہ مجال نہیں کہ اجلاس پر کچھ بھی منہ سے کہہ سکیں۔ تجھ بہے کہ ایک حاکم پر تو اعتراض کرنے کی بلکہ ایہام اعتراض کی بھی کسی کو جرأت نہیں۔ مگر خدا تعالیٰ پر اعتراض کرنے کی کیسے ہمت ہوتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ ہم تو خدا پر اعتراض نہیں کرتے صرف یکاری کا تذکرہ کرتے ہیں تو حضرت ذرا ان الفاظ کو دیکھئے جو اس تذکرہ میں استعمال کئے جاتے ہیں پھر ذرا اپنے دلوں کو ڈالنے کے ان الفاظ کو منہ سے نکالتے ہوئے واقعات حادثہ کے متعلق شکایت ہوتی ہے یا نہیں؟ چنانچہ سننے آج کل ان وباً امراض کے متعلق اس قسم کے کلمات استعمال کئے جاتے ہیں کہ ہائے سارا کا پورخالی ہوا جاتا ہے۔ محلے کے محلے ویران ہوتے جاتے ہیں گھروں میں قفل لگتے جاتے ہیں۔ قبر کھونے والے نہیں ملتے سینکڑوں بچے یتیم ہو گئے ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ گھر گھر مردے ہی مردے ہیں مردوں کا دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں وغیرہ وغیرہ۔

یہ سب اعتراض کے کلمات ہیں یا نہیں۔ کیوں صاحب کیا کبھی صاحب نجح کے سامنے بھی اس طرح کہہ دو گے۔ کہ اگر یہی فیصلے رہے کہ چھانی دے دی، کسی کو قید کر دیا تو تھوڑے دنوں میں بستی ہی ختم ہو جائے گی۔ یقیناً کبھی ہمت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس میں نجح پر اعتراض ہے یا کم از کم ایہام تو ضرور ہے۔ افسوس صد افسوس! جو بات ایک حاکم دنیا کے سامنے گستاخی کے خیال سے نہیں کہہ سکتے وہی بے باک ہو کر خدا کے سامنے کیونکر کبھی جاتی ہے؟ آخر ان جملوں کا کیا مطلب ہے کہ اگر یہی یکاری رہی تو بہت جلد شہر خالی ہو جائے گا تمہیں خبر بھی ہے کہ یہ تم کے ناتے ہو؟ اگر مجھے ناتے

ہو تو میں کیا کروں؟ کسی دوسرے کو سنا تے ہو تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے۔ بس یوں کہو تو اک خدا کو سنا تے ہو۔ خیال تو کرو کتنی بڑی گستاخی ہے پھر گستاخی سے تو اور زیادہ قہر نازل ہونے کا اندر یہ ہے۔

ہر چہ آید بر تو از ظلمات و غم آں زیبا کی و گستاخی ست ہم  
از خدا جوئیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب  
بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہم آفاق زد  
ہر کے گستاخی کند اندر طریق باشد اندر لجہ حیرت غریق

”جو کچھ تم پر مصیبتیں آرہی ہیں وہ گستاخی کی بناء پر ہیں۔ خدا سے ہم ادب کی توفیق چاہتے ہیں۔“  
بے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے بے ادب صرف خود ہی خراب نہیں ہوتا۔ بلکہ ساری دنیا میں آگ لگا دیتا ہے۔ جو شخص طریقت میں گستاخی کرتا ہے وہ حیرانی کے دریا میں غرق ہو جاتا ہے۔“

### گستاخیوں کی سزا

عجیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ کو علم محیط ہے کہ لوگ کس قدر گستاخیاں کرتے ہیں مگر پھر بھی رحمت کنم نہیں ہوتی کیا انتہا ہے اس حلم کی۔ یہ بھی تو نہیں کہ اس گستاخ کو یہاں کر دیں۔ نہیں اچھا خاصا ہٹا کرنا اور تند رست رہتا ہے۔ مگر یہاں کی مہلت سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ گستاخی کی سزا سے بری ہو گیا۔ سنگین مقدموں کی مہلت زیادہ دی جاتی ہے پہلے تحقیقات کے لئے نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ شاید سزا ہو جائے۔

یہی حالت خدا تعالیٰ کے یہاں بھی ہے دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں اکثر نمونہ ہیں واقعات آخرت کے لئے۔ دنیا کے واقعات وہاں کے واقعات کے نظر ہیں مگر اسی اصل کے نہ جانے سے اکثر دھوکا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک ملحد جو خدا ہستی سے انکار کرتا ہے وہ اپنے انکار کو اس خیال فاسد سے مضبوط کرتا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی مالک اور صانع ہے تو اسی وقت بھلی گرا کے منکر کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا۔ اگر کوئی صانع ہے تم ہم پر بھلی گراؤ۔ اس کے بعد بھلی نہیں گرتی اور صحیح و سالم رہتا ہے تو یہ خیال کرتا ہے کہ صانع عالم کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ کیونکہ یہ برتاب تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ صانع عالم حکیم نہ ہوتے۔ غصہ اسے جلدی آتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید پھر قابو نہ ہو۔

ویکھو ایک کاشیبل کو کس قدر جلد غصہ آ جاتا ہے۔ مگر واسرائے کو باوجود آزار رسانی کے کبھی غصہ نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ کاشیبل تو اسی وقت کچھ کر سکتا ہے جبکہ مقابلہ ہے اور واسرائے کا قابو

سلطانی وجہ سے ہر وقت ہے اور بہت زیادہ ہے اس لئے وہ ایسی باتوں پر توجہ کرنا چاہیجہ پھورا پن سمجھتے ہیں حالانکہ واسرائے کا سلطان سارے علم پر نہیں صرف ایک ملک پر ہے اور وہاں تو سارے علم پر سلطان ہے وہ اس بد تہذیب کے کہنے سے تمام حکمتوں سے قطع نظر کر کے قواعد سلطنت نہیں بدل دیتے۔

کوئی جارج پنجم سے کہنے لگے کہ اگر آپ بادشاہ ہیں تو سارا اللدن گلوں سے اڑا دیجئے یا تمام قیدیوں کو چھوڑ دیجئے وہ اس بیوقوف کے کہنے سے دونوں باتوں میں سے ایک بھی نہ کریں گے وہ وہی کریں گے جو ان کی سلطنت کے قواعد ہیں یا جو ان کی حکمت و مصلحت ہے۔

اسی نمونہ کے موافق حق تعالیٰ کا بھی معاملہ ہے کہ مجرم کو مهلت دیتے ہیں۔ اور اس میں اسرار ہوتے ہیں جن کو ہر شخص جان نہیں سکتا اور وہ ایسی غامض اور باریک باتیں ہیں کہ آپ کا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ بھلا ان کے علم اور ان کی عظمت شان کے آگے آپ کی بساط ہی کیا ہے اور آپ کا علم ہی کتنا ہے وہ معبد ہیں اور آپ عبد۔ ان کا اور آپ کا مقابلہ ہی کیا۔

### علم اسرار الہی

آپ صرف اسی کو دیکھتے کہ آپ ہو آپ کا نوکر دنوں ہم چنیں لورہم نہیں ہیں اور اضاف کثیرہ میں متقارب بھی ہیں اگر آپ عاقل ہیں تو وہ بھی عاقل ہے جس طرح آپ بولتے سنتے ہیں وہ بھی بلتا اور سنتا ہے الغرض! آپ کے اس کے افعال و خواص تقریباً یکساں ہی ہیں۔ اگر کچھ فرق ہے تو صرف مال کا اور اسی فرق سے آپ کی اور اس کی حیثیت اتنی بدل گئی کہ آپ آقا ہیں۔ اور اس فرق کا یہ اثر ہے کہ وہ نوکر آپ کے خانگی اسرار سے واقف نہیں ہو سکتا۔

پھر حق تعالیٰ میں اور آپ میں توبون بعید ہے وہاں تو کسی صحیح اعتبار سے تشارک بھی نہیں اور آپ کی وہاں وہ حیثیت بھی نہیں جو نوکر کی آپ کے یہاں ہے۔ پھر اس کے بعد کس منہ سے ان کے حکم و اسرار سے واقف ہونے کی جرأت کرتے ہیں۔ اگر آپ کا نوکر جو آپ کے خاص اوقات اور خانگی اسرار سے ناواقف ہے واقف ہونے کے لئے وہ اسرار آپ سے پوچھئے یا خود کھو جائے۔ آپ کس قدر ناراض ہوں گے اور کتنا گستاخ سمجھیں گے؟ پھر خدا کے ساتھ تو آپ کو وہ نسبت بھی نہیں۔ آپ کون ہیں کہ خدائی اسرار پر مطلع ہونا چاہتے ہیں کوئی ان کی پاریمیٹ ہے جس کے آپ ممبر ہیں یا ان سے آپ کی رشتہ داری ہے۔ جو آپ ان کے معاملات میں دخل اور معقولات دیتے ہیں ہم تو اونی سے غلام کی بھی ان کے سامنے حیثیت نہیں رکھتے۔

جب آب و ہوا خراب ہوتی ہے تو پانی کے قطرہ میں کتنے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا دعویٰ ہے کہ ایک قطرہ میں لاکھوں ہوتے ہیں اس سے اندازہ کیجئے کہ ان میں کا ایک کیڑا اکتنا ذرا سا ہوگا۔ اگر وہ کیڑا آپ کے مسکن کے اسرار معلوم کرے اور اس پر رائے زنی کرنے لگے کہ اتنا بڑا میدان اور اتنا بڑا سامان اس کی کیا ضرورت تھی۔ صرف اک رائی کا دان کافی تھا اور وہ لاکھ برس عمر پائے تو کبھی انسانی تمدن اور رموز سلطنت کا احاطہ تو درکنار اس کے ایک جزو کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کو تو خدا سے وہ نسبت بھی نہیں جو ایک وباٰ کیڑے کو آپ کے ساتھ ہے۔ پھر کیا آپ خدا کے اسرار جان سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ عارف شیرازی نے خوب فرمایا ہے۔

حدیث مطرب و میے گورا زدہ رک्त رجو کے کس نکشوں نکشایہ حکمت ایں معمارا ”شراب اور گانے کی بات کر دینا کے راز نہ ڈھونڈھ کہ دنیا کا معہ عقل سے حل نہیں ہوتا۔“

### تقاضاً محبت

صاحب! جو آپ کا کام ہے اسے کچھے اس قصہ میں نہ پڑیے۔ اول تو اسرار کا علم ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہو بھی سکتا تب بھی ایسی کاوش، محبت و عظمت کے خلاف ہے۔ قلب میں اگر خدا کی عظمت و محبت ہو تو اس سوال کی نوبت ہی ہرگز نہیں آسکتی کہ امراض و بلاؤں میں ملا کیا حکمت ہے۔ محبت میں کبھی اس کا وسوسہ ہی نہیں آ سکتا۔

دیکھو! اگر کوئی کسی پر عاشق ہو اور معشوق صاحب کبھی منہ نہ لگاتے ہوں۔ ایک روز اتفاق سے کہیں راستہ میں آمنا سامنا ہو جائے اور معشوق صاحب ان کے سر پر ایک چپت رسید کر کے چل دیں۔ اب بتاؤ یہ عاشق کیا کرے گا۔ اگر تم اس سے یہ کہو کہ میاں اس سے پوچھو تو چیت لگانے میں کیا حکمت تھی تو وہ کہے گا پوچھنے سے کیا فائدہ؟ میرے دل کو اس کی چیت سے ایسی لذت حاصل ہوئی ہے کہ وہی تمام سوالات کا جواب ہے میری ایسی قسمت کہاں کہ اس کا ہاتھ میرے بدن کو لگے۔ خدا کا شکر ہے اس نے چھیڑا تو۔ بہت دنوں میں قسمت جا گی کہ ادھر توجہ تو ہوئی۔

چنانچہ ایک عورت کا خاوند نہایت بد مزاج تھا۔ کبھی بیوی کی طرف التفات نہیں کرتا تھا۔ ایک روز گا جریں لایا اور ایک گا جر کھا کر اس کی پیندی اس غریب کے کھینچ ماری۔ وہ اس سے اتنی خوش ہوئی کہ ایک عورت کو اپنے میکے بھیجا کہ اماں سے سلام کہنا اور یہ کہنا کہ کھائی تھی گا جر۔ ماری تھی پیندی کچھ کچھ سہاگ بہوزا ہے (یعنی لوٹنے لگا ہے) خدا جانے اس کم بخت کو شوہر سے کتنی محبت

تھی کہ اس کے پیندی مارنے سے ہی اس قدر خوشی ہوئی..... محبت ہے عجیب چیز۔

اسی طرح ایک عورت اپنے شوہر سے بے پرواہ تھی وہ اسے پسند نہیں تھا۔ اس سے الگ الگ رہتی تھی۔ ایک روز چور جو آئے اور کھڑکا ہوا تو مارے ڈر کے شوہر سے لپٹ گئی۔ اسی وقت شوہر بزبان حال یہ کہتا ہے۔

ایس کی می ششم بدیداری ست یارب یا بخواب (یا اللہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بدیداری ہے یا بخواب)  
چور کچھ آہٹ جانے والوں کی پا کر بھانگے لگے تو وہ کہتا ہے ارے بھی تمہارا آنا تو ایسا  
مبارک ہے کہ سارا گھر تم پر ثار ہے۔ جو کچھ ہے تم سب لے جاؤ اور ہر روز آیا کرو۔ کسی طرح یوں  
صاحب میری طرف متوجہ تو ہوں۔ دیکھئے اس نے مجھ سب یوں کے لئے سارا گھر لٹوادیا  
عشق مولیٰ کے کم از لیلے بود گوئے گشتن او وا اولی بود  
(محبوب حقیقی کا عشق لیلی سے کیا کم ہو، اسکی گلیوں میں پھرنا اولی اور بہتر ہے)

اللہ اکبر! لوگ محبت مجازی میں تو مضرتوں کو بھی منفعت سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں  
بلاوں اور وباوں میں منفعت نہیں سمجھتے جن کو علاقہ محبوب حقیقی سے ہوتا ہے وہ اس سے بھی یہی  
درخواست کرتے ہیں

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت  
(دشمن کا یہ نصیب نہ ہو کہ تیری تکوار سے ہلاک ہو جائے دوستوں کا سر تیری خبر آزمائی کیلئے کافی ہے)

### محبت اور ایمان

ایک بزرگ نے لوگوں کو دیکھا کہ بھاگ رہے ہیں پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کسی نے کہا طاعون  
سے بھاگ رہے ہیں فرمایا طاعون خذ نی الیک۔ (اے طاعون مجھے لیلے) چنانچہ اسی میں انقال ہو  
گیا۔ انہوں نے طاعون کی درخواست کی۔ صرف اس واسطے کہ وہ برائے حدیث مومن کیلئے رحمت ہے۔  
بہر حال انہیں اس میں بھی لذت آتی ہے کہ فاقہ ہو یا بیماری آجائے کیونکہ یہ سب کچھ محبوب

ہی کی طرف سے تو ہے

بجم عشق تو ام مے کشنہ و غوغائے است تو نیز بر سر بام آکہ خوش تماشے است  
(تیرے عشق کے جنم میں مجھے قتل کرتے ہیں اور اس کا شور و غل ہے تو ذرا چھٹ پر کھڑا ہو  
کر دیکھ کہ کتنا اچھا تماشہ ہے)

صرف اتنی تمنا ہے کہ محبوب مجھے قتل ہوتے دیکھ لے بس پھر سب آسان ہو جائے گا جب اور کے  
ہاتھ سے قتل ہونے میں اس قدر خوش ہیں تو اگر ان کے ہاتھ سے قتل ہوں تو کیا کہنا۔ پھر تو یہ حال ہو گل  
ناخوش تو خوش یود بر جان من      دل فدائے یار دل رنجان من

(تیرا رنجیدہ کرنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے، دل فدائے یار پر جو مجھ کو رنجیدہ کرے)  
میں بقسم کہتا ہوں کہ یہ نزی شاعری ہی نہیں بلکہ واقعی اہل اللہ مصائب کو اسی قدر لذیذ سمجھتے  
ہیں کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اے حضرات یہ مضمون آپ کی سمجھ میں نہیں آتا اور کیوں  
نہیں آتا۔ محض اس لئے کہ محبت نہیں پس سب شکایتوں اور وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے  
محبت پیدا کی جائے واللہ اگر محبت ہوتی تو بدگمانی اور شکایت تو کیا ہوتی کبھی شبہ بھی نہ ہوتی

ہر کراجمہ از عشق چاک شد      او ز حرص و عیب کلی پاک شد  
شاد باش اے عشق خوش سودائے ما      اے طبیب جملہ علت ہائے ما  
اے دوائے نخوت و ناموس ما      اے تو افلاطون و جالینوس ما  
”جس کے کپڑے عشق میں پھٹ گئے وہ لاچ اور ہر عیب سے پاک ہو گیا اے ہمارے عشق تو  
خوش رہ تو ہماری سب یہاں کا علاج ہے تو ہمارے غرور کی دوا ہے اور تو ہی ہمارے لئے افلاطون اور  
جالینوس! اس کی تحصیل کی طرف توجہ نہیں حالانکہ حق تعالیٰ نے محبت کو ایمان کا لازم گردانا ہے فرماتے ہیں۔

**وَالَّذِينَ امْنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ (۲)**

”اہل ایمان کو خدا تعالیٰ سے بہت شدید محبت ہوتی ہے۔“

خدا تعالیٰ کا یہ فرمان غلط نہیں۔ اگر آپ میں محبت کم ہے تو ضرور ایمان میں کمی ہے۔ اور علاوہ  
ایمان کی کمی کے بغیر محبت کے زندگی کا بھی تو مزہ نہیں۔

بے دوست زندگانی لطفے چنان ندارد      لطفے چنان ندارد بے دوست زندگانی

”بغیر دوست کے زندگی کا کچھ لطف ہی نہیں۔“

**اہل اللہ کا مذاق**

اے صاحبو! جن کی بیویاں یا جن کے خاوند مر جاتے ہیں ان کی زندگی کس قدر بے اطف ہو  
جاتی ہے کیونکہ انہیں محبت کا چسکہ پڑ گیا ہے اب بغیر اس کے شفقتگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ افسوس کہ  
آپ کو خدا تعالیٰ کی محبت کے بغیر کس طرح چیزیں آتا ہے۔

اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن      صبر چوں داری زرب ذو المتن  
 ”لوگوں کو بیوی اور بچے کے چھوٹنے سے قرآنیں آتا۔ مگر نہ معلوم خدا تعالیٰ سے جدا ہو کر  
 کسے چین آگیا۔“ ایک عزیز کے چھوٹنے سے اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ سے  
 علاقہ نہ ہو تو کس قدر پریشانی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دنیا کے مصائب کے وقت سخت بے چین  
 ہو جاتے ہیں اور اللہ والے ہر حال میں خوش ہیں۔ ان کا تونہ اقیمہ ہے کہ

ہر چہ آں خسر و کند شیر میں بود (جو کچھ محبوب کی جانب سے ہوا سی میں لذت ہے)  
 خواہ کسی ہی سخت بالا نازل ہو جاوے۔ مگر انہیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ سے تعلق ہے۔  
 حزن طبعی تو ان کو بھی ہوتا ہے مگر پریشانی نہیں ہوتی کہ انہیں بیوی بچوں سے تعلق اور ہمدردی نہیں ہے  
 اس لئے کسی کے مرنے کی پرواہ نہیں کرتے ان کی اولاد وغیرہ سے تعلق تو اتنا ہوتا ہے کہ ایک عزیز  
 حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے سات لڑکے تھے اور ساتوں حافظ تھے تجارت کرتے تھے۔  
 رمضان شریف میں ایک قرآن سناتا تھا اور سب باپ میٹے اس کے پیچے سنتے تھے۔ ایک  
 سال طاعون بہت شدت سے تھا سننے والوں میں سے ایک لڑکے نے کہا کہ ابا مثیلی ہوتی ہے۔ کہا  
 بیٹا گھر میں آرام کرو۔ تھوڑی دری کے بعد دوسرے نے پھر تیرے نے۔ غرض سب نے مثیلی کی  
 شکایت کر کے باپ سے گھر آنے کی اجازت لی۔ اسے بھی گھر میں لائے۔ ان سب کو ایسا سخت  
 طاعون ہوا کہ صبح تک سب ختم ہو گئے اور باپ نے نہایت شکر کے ساتھ تجهیز و تکفین کا انتظام کیا۔  
 تھوڑی دری کے بات ایک ہی گھر سے اکٹھے سات جنازے نکلے۔ مگر باپ نہایت خاموشی کے  
 ساتھ جنازوں کے ہمراہ تھا آہ و بکا اور گریز اری کچھ نہیں۔

ایک شخص نے کہا کیا سندل باپ ہے کہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہیں نکلتا۔ اتفاق  
 سے ان مرد خدا نے بھی یہ جملہ سن لیا اسی وقت کھنکار کے تھوکا تو کھنکار میں جما ہوا خون نکلا اور کہا  
 رونے سے کیا فائدہ! میرا تو کلیجہ کٹ کٹ کر نکل رہا ہے۔

اے ترا خلے بیانشکستہ کے دلی کچیت      حال شیرانے کہ شمشیر بلا بر سر خور ند  
 اے وہ شخص کہ تیرے پاؤں میں کبھی کا نا بھی نہیں چھا اور اس تکلیف سے بھی آشنا نہیں تھجھ کو شیروں  
 کے حال کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے وہ شیر جو سروں پر مصائب کی تکواریں سہتے ہیں مگر اف تک نہیں کرتے۔  
 بکنے والوں کو بکنے سے کام ہے۔ انہیں کیا خبر کہ کسی کے دل پر کیا گزرتی ہے جب وہ تجهیز و تکفین

سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو کلیجہ پھٹ گیا اور خود بھی داعیِ اجل کو لبیک کہا۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا واقعہ ہے۔  
مگر حضرت اللہ والے سب گوارا کر لیتے ہیں۔ زبان پر اختیار تھا تو زبان سے بجز صبر و رضا کے کوئی  
بات نہ کلی کلیجہ پر اختیار نہ تھا وہ طبعی غم سے پھٹ گیا تو خود بھی ختم ہو گئے۔ مگر شکایت کا الفاظ زبان پر نہ لائے۔

## عشق رسول مقبول

انسان ہر مصیبت کو برداشت کر سکتا ہے بشرطیکہ محبت ہو پھر کسی چیز کی بھی اس کو پرواہ نہیں  
ہوتی جان و مال کی آبرو! غرض محبوب کے مقابلہ میں کسی کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ حضرت حسان  
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

فَانْ أَبِي وَ وَالدَّتِي وَ عَرَضِي لِعَرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَ قَاءِ  
لِعَنِي مِنْهُ مَا مَنْ باَبَ وَ آبَرَ وَ سَبَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پَرِفَادِيْسِ۔

سبحان اللہ! کیا سچی محبت ہے۔ حضرات صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت  
تھی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لارہے تھے۔ تمام عورتیں حضور صلی اللہ  
علیہ وسلم کے اور اپنے اعزہ مجاہدین کے انتظار و اشتیاق میں مدینہ سے باہر نکل آئی تھیں کسی نے ایک عورت  
سے کہا کہ اس غزوہ میں تیر ایثنا، بآپ، خاوند اور بھائی سب شہید ہو گئے۔ تو وہ کہتی ہے پہلے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلامت ہیں اس نے کہا! حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بحمد اللہ سلامت ہیں۔ کہا جب  
آپ زندہ ہیں تو ہزار ماں باآپ اور اولاد آپ پر قربان ہیں۔ حقیقت میں یہ تھے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔

مگر آج یہ حالت ہے کہ محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جوش اٹھا تو سال بھر کے  
بعد کچھ غزلیں پڑھ لیتے ہیں اور مٹھائی بائٹ دیتے ہیں جس میں سراسرا پناہی حظ و نفس ہے۔ دین  
کے لئے جان دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بجالانا آج کل کی محبت میں داخل ہی نہیں۔

ان لوگوں کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے مشہور ہے کہ ایک قصائی کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی  
اپنی برا دری کے لوگوں میں بیٹھی رورہی تھی کہ ہائے یہ تو مر گیا بآس کی چھریاں کون لے گا۔ ایک  
بولماں لوں گا میں۔ پھر وہ روکر کہنے لگی ہائے اس کے کپڑے کون لے گا۔ وہ بولماں لوں گا میں۔  
آخر میں اس نے یہ کہا ہائے اس کا قرض کون ادا کرے گا۔ آپ کہتے ہیں بولو بھی کس کی  
باری ہے اب تک تو میں بولتا رہا۔ لینے کے لئے تو یہ اور دینے کے لئے کوئی اور۔

یہی ہماری حالت ہے کہ غزل اور نعمت اور مٹھائی کے وقت تو ہم عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں اور احکام کی اطاعت اور شریعت کی پابندی اور بدعت سے اجتناب کے موقع پر کہتے ہیں بولوکس کی باری ہے۔

### محبت اور عمل

اس جگہ کا (یعنی کانپور کا) ذکر ہے کہ ایک عورت کو جس کی بیٹی جوان تھی اور یہ وہ ہو گئی تھی میرے گھر میں نصیحت کی کہ اس کا نکاح کر دو اور معیوب مت سمجھو اور اگر یہ عیب ہوتا تو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے۔ اس نے صاف کہا کہ (معاف اللہ) آپ ہمارے نکاح بیاہ کے پیغمبر نہیں۔ بس نماز روزہ کے پیغمبر ہیں کیا اسی کا نام محبت ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

لو کان حبک صادقا لا طعنه ان المحب لم يحب مطيع

”اگر تیری محبت اپنے محبوب سے بچی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتا اس لئے عاشق متعلق کا تابع دار ہوتا ہے۔“

ہمارے وطن میں ایک شخص اشفاق احمد تھے وہ مولود شریف بہت پڑھا کرتے تھے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ خوش نہیں جو ہماری بہت تعریف کرے ہم اس سے زیادہ خوش ہیں جو ہماری اطاعت کرتا ہے یعنی محبوب وہ ہے جو ہمارے قانون پر عمل کرتا ہے اور وہ محبوب نہیں جو صرف قصیدے پڑھتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔

تو جناب محبت تو ایسی ہونی چاہئے کہ محبوب پرسب کچھ فدا کروے یہ کیا کہ جہاں خیال آگیا کہ برادری میں بیٹی ہو گی۔ بس محبت ختم ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو برادری سے زیادہ محبت ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ (۲) کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اس کا مقتضناً تو یہ تھا کہ کسی برادری اور کہاں کا کہنا آپ کی شان تو یہ ہونی چاہئے تھی کہ

نشود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت کہ تو خبیر آزمائی

خدا نہ کرے کہ آپ کی تکوار آپ کے دشمن پر چلے اور وہ اس سے ہلاک ہو۔ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ ہم پر خبیر آزمائی کیجئے کہ ہم کو یہ شرف حاصل ہو کہ محبوب کی تکوار سے مرے۔“ جو فرمائیں اس کی تعییل میں لگ جائیئے یہ نہ پوچھئے کہ اس میں حکمت کیا ہے۔

## حکمتوں کی تحقیق

صاحب! اگر کوئی کسی کبی پر عاشق ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں جب ملوں گی کہ تم جبہ اور قبا اتار کر فقط ایک پا جامہ پہن کر بلکہ لگوٹی باندھ کر دس دفعہ بازار میں ادھر سے ادھراً اور ادھر سے ادھر کو دتے ہوئے پھر تو یہ ایسا ہی کرے گا اور ہر گز نہ پوچھے گا کہ بی تیرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی کہے بھی کہ اس میں کیا فائدہ تو کہے گا کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ اس کے بعد ایک وہ دن آئے گا کہ مجبوب مجھے مل جائے گی۔ اس سے زیادہ مجھ کو کسی فائدہ سے بحث نہیں۔

ہمارے وطن میں ایک بے ہودہ تھا اس سے کہا گیا کہ تم پا جامہ اتار کر فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک ننگے چلے جاؤ تو سیر بھر مُر مُرے دیں گے وہ فوراً پا جامہ اتار کر منظر عام پر چلا گیا اور یہ بھی نہ پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے جب مُر مُروں کی محبت میں کچھ نہیں پوچھا تو جنمیں خدا تعالیٰ کی محبت ہو گی انہیں تو حکمتوں کی تحقیق کا وسوسہ بھی نہ ہو گا۔

اسف! خدا کے ساتھ قانونی برداشت کرتے ہیں۔ احکام الہی کے اندر حکمتیں تلاش کرتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے اور اس میں لم کیا ہے مجھے تو ایسی باتوں سے اور ایسے واقعات سے حیرت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے دعا کی کسی کی صحت کیلئے مگر اس کا وقت آگیا تھا۔ انتقال ہو گیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے خدا ہتھی نہیں (معاذ اللہ) اگر خدا ہوتا تو کیا ہماری دعا قبول نہ کرتا۔ صاحبو! محبت نہ ہونے سے یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں اگر اس شخص کو محبت ہوتی تو اس قسم کا وسوسہ بھی دل میں نہ آتا۔ محبت والے کو دعا کے قبول نہ ہونے سے سب سے پہلے اپنی نالائقی کا تصور ہوتا ہے کہ میں کیا اور میری دعا ہی کیا۔

میرے ناپاک منہ سے نکلی ہوئی دعا قابل قبول ہی کب تھی جو قبول کی جاتی۔ اس بات کے بعد پھر شریعت کی نصوص سے دوسرے طریقے پر اس کی تسلی ہو جاتی ہے کہ دعا تو ضرور قبول ہوئی۔ مگر یہ ضرور نہیں کہ جو مانگا تھا، ہی ملے بلکہ اس سے اچھی چیز مل جاوے گی۔ اور جس کو محبت نہیں وہ کبھی دعا کے قبول نہ ہونے سے خدا کے وجود، ہی میں شک کرنے لگے گا۔

اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی یوں کہے کہ جارج چشم کچھ نہیں اگر ہیں تو مجھے امتحان سے مستثنی کر کے یوں ہی ڈپٹی کلکٹری دلا دیں۔ مگر جب اس نے درخواست پیش کی تو امتحان لیا گیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جارج چشم ہیں ہی نہیں ورنہ مجھے امتحان سے ضرور مستثنی کر دیتے

ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ استدلال بالکل بیہودہ ہے اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ ضابطہ یہی ہے کہ امتحان لیا جائے اور تمہارے لئے استثناء کو نامناسب سمجھا اس لئے رعایت نہیں کی گئی۔

## حکمت مصائب

جب یہ مثال سمجھ میں آگئی تو اب سمجھئے کہ بلا میں بھی یہی حکمت ہے کہ امتحان لینا مقصود ہے کہ دیکھیں کون کیسا ہے کون کیسا ہے تمہاری دعا اسی لئے قبول نہیں ہوتی کہ ضابطہ وہی ہے اور تم اپنے کو ضابطہ سے مستثنی کرنا چاہتے ہو۔ اور یہ استثناء حکمت و مصلحت کے خلاف ہے اور امتحان اس لئے لیا جاتا ہے تاکہ تمہیں خود اپنی حالت کا علم ہو جائے ورنہ خدا کو تو بغیر امتحان کے علم ہے اسی کو آیت میں فرماتے ہیں جسے میں نے ابتداء میں تلاوت کیا ہے احسب الناس ان یصر کوا الایہ میں اس امتحان کے علاوہ جو کہ ایک حکمت جلی ہے بلا کی ایک خفیٰ حکمت بھی بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی بلا آتی ہے تو اخلاق پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے جن میں نفسانی امراض کا بڑے بڑے مجاہدوں سے علاج ہونا چاہئے تھا ان کا علاج مصائب اور رنج و غم سے بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مجاہد ہے کیونکہ مجاہدہ دو قسم پر ہے۔

### ۱: اختیاری      ۲: ایک اضطراری

اختیاری مجاہدہ تو یہ ہے کہ تقلیل الکلام (کم بولنا) تقلیل الاختلاط مع الاتام (اوگوں سے کم ملننا) تقلیل المنام (کم سونا) تقلیل الطعام (کم کھانا) جس سے اس زمانہ کے لئے صرف اول کے دو جز کافی ہیں مگر یہ مجاہدہ بعض امراض کے لئے کافی نہیں ہوتا۔ اس کے لئے مجاہدہ اضطراری کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بدلوں امداد غذی کے قصد و اختیار سے نہی شرعی کے سبب ناممکن ہے مثلاً اگر کوئی سکھیا کھائے اور کسی طرح اپنے کو بیمارڈا لے یا ہلاک کرے تو ناجائز ہے اس لئے وہ خدا کی طرف سے بیمار کیا جاتا ہے اس کی بیوی بچوں کو موت دیدی جاتی ہے اگر یہ خود مارے تو ناجائز ہے پس یہ رحمت ہے کہ تمہارا کام ادھر ہی کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہی سے نشتر دلوایا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کوئی نہیں دیتا۔ اور اگر ڈاکٹر مشورہ دے کہ نشتر نہ دو تو بس علاج ہو چکا۔ خیر خواہ ڈاکٹر مریض کی رائے پر کبھی عمل نہیں کرتا۔

دیکھئے بچے کو ماں باپ پچھاڑ کے چمچے سے دوا پلاتے ہیں پھر حلق سہلاتے ہیں کہ اندر اتر جائے اور بچہ مجلتا ہے غل مچلتا ہے ہائے رے ہائے رے کرتا ہے مگر اس کے شور و غل کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ سنئے والے بھی ماں باپ کو ظالم نہیں سمجھتے بلکہ خیر خواہ سمجھتے ہیں۔

افسوس! آپ کو ماں باپ پر اعتماد ہے خدا پر بھروسہ نہیں وہاں آپ اپنی عقل سے حکمت دریافت کرتے ہیں اور جب سمجھ میں نہیں آتی تو یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ اس میں کوئی حکمت نہیں۔

## عقل اور حکمت

تعجب ہے صاحبو! جس طرح اور قوائے مدرکہ ہیں اسی طرح عقل بھی تو صرف ایک قوت مدرکہ ہے اور جس طرح وہ سب محدود ہیں اسی طرح عقل بھی محدود ہے۔ مثلاً کان ایک حد تک سنتے ہیں اس کے آگے نہیں سنتے ان کے آگے نہ سنتے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آواز نہیں ہے۔ مثلاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلکتہ میں روز بارہ بجے تو پہلی چلتی ہے اگر اس کی آواز یہاں سنائی نہ دے تو اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔

اس طرح کرنیل گنج میں عطر کی شیشی کھلی اور یہاں خوشبو نہیں آتی تو اس کے کھلنے کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح آنکھ ایک حد تک دیکھتی ہے اس سے آگے کام نہیں کرتی۔ مگر کیا حد سے نظر آگے کچھ ہے نہیں؟ یقیناً اس کا کوئی قابل نہیں۔

جب ہر قوت کے لئے ایک حد ہے تو اس کا کالیہ کا مقتضایہ ہے کہ عقل کے ادراک کے لئے بھی ایک حد ہونا چاہئے۔ مگر آج کل دماغوں میں یہ قوی یہ سماں گئی ہے کہ کوئی چیز عقل سے مخفی نہ رہنا چاہئے۔ ہر چیز عقل میں آجائی چاہئے کیوں صاحب کیوں آنی چاہئے۔ کان آنکھ کی طرح وہ بھی ایک قوت مدرکہ اور دل کی آنکھ ہے جتنی اس کی قوت اور حد ہے اسی کے موافق ادراک سے عاجز رہے گی تم یہ سمجھتے ہو کہ جو تم نہ سمجھو وہ عقل کے خلاف ہے حالانکہ وہ عقل کے خلاف نہیں۔ بلکہ اس کی حد سے باہر ہے اور ہے صحیح۔

کسی مجدوب سے پوچھا گیا کہ عقل کیا ہے؟ کہا جو خدا کو پاوے پوچھا خدا کون ہے؟ کہا جو عقل میں نہ آوے مطلب یہ ہے کہ عقل وہ ہے جو ہمیشہ اس کی حستجو میں لگی رہے اور اس سے کبھی غافل نہ ہو۔ گواں کی کہنا اس کی ادراک سے غرض یہ بات ماننا پڑے گی کہ عقل کے لئے بھی ایک حد ہے جس سے آگے وہ نہیں چل سکتے۔

## حکمت جلی و خفی

آپ روح ہی کو نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہے۔ جس طرح یہ سمجھ میں نہیں آتی اسی طرح احکام الہی کی بعض حکمتیں بھی سمجھ میں نہیں آتیں۔ ہاں نظائر سے تسلی ہونا اور بات ہے۔ اسی طرح بلا میں ایک حکمت امتحان بھی ہے جو حکمت جلی ہے۔ جس کا بیان اول ہوا ہے دو حکمتیں اور بھی ہیں۔ ایک خفی اور ایک اخفی۔ سو حکمت خفی تو یہ ہے کہ بیماری اور مرض سے انسان میں شکستگی اور بعجز پیدا ہوتا ہے اور یہ علاج

بے غرور، ناز، اینٹھ، مژوڑ کا، مثلا جب تک کوئی نہ مرے اپنی دولت و قوت کا غرور نہیں جاتا۔ اس سے شکستگی پیدا ہوتی ہے اور یہ بڑی اعلیٰ درجہ کی چیز ہے یہ تو خفی حکمت تھی جس کا بیان ابھی..... ہوا ہے۔ حکمت اخفی یہ ہے کہ بلا میں مشاہدہ ہے یہ ذرا باریک بات ہے۔ یہ اہل اللہ کے لئے ہے۔ عاشق کی شان یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ محظوظ کا ایک عضو بھی اس سے چھپا نہ رہے۔ عاشق کو چیز نہیں آتا۔ وہ ہاتھ اور انگلیاں تو دیکھنا چاہتا ہی ہے محظوظ کے دستانہ پر نظر ڈالتا ہے زفرق تابقدم ہر کجا کہ می نگرم کرشمہ دامن دل میکشد کہ جا اینجاست سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک جہاں دیکھتا ہوں کرشمہ میرے دامن دل کو ہمیختا ہے کہ اصل جگہ یہ ہے۔ اس سے بڑھ کر خسار ہے اگر محظوظ ایک چھپا لے اور ایک کھول دے تو بے چین ہو گا کہ کسی طرح دونوں دیکھوں۔

## شان جلال و جمال

جس طرح محظوظ کے دور خسارے ہیں یہاں حق تعالیٰ کی دو شانیں ہیں ایک جلال ایک جمال۔ جمال لطف و رحمت وغیرہ ہے اور جلال وہ جسے آپ پختی و قہر سمجھتے ہیں۔ عاشق یہ چاہے گا کہ دونوں کو پیچا نہیں بغیر اس کے اسے صبر نہیں آتا۔ کیونکہ ایک رخ کی معرفت تھی دوسرے کی نہ تھی۔ یہی راز ہے آدم علیہ السلام کے جنت سے اخراج میں۔ یعنی جب وہ جنت میں تھے انہیں صفت محسن منعم و کریم کی بدرجہ عین الیقین معرفت تھی اور عادل منتقم عفو، تو اب، رحیم، رؤوف کی معرفت بدرجہ علم الیقین تو تھی مگر بدرجہ عین الیقین نہ تھی۔ حق تعالیٰ کو ان کی معرفت کو مکمل کرنا مقصود تھا۔ اس کے لئے سامان یہ ہوا کہ ممانعت کے بعد بوسوسہ شیطان گیہوں کا دانہ کھالیا۔ گو اس کا بھی انہیں ثواب ملا۔ کیونکہ یہ ان کی اجتہادی خطأ تھی۔ ارشاد ہوا جنت سے باہر ہو جاؤ اس وقت انہیں عادل منتقم کی معرفت ہوئی اس کے بعد توبہ کرنے سے توبہ قبول ہوئی تو توبہ کی معرفت ہوئی پھر معاف ہو گیا تو عفو کی معرفت ہوئی پھر رحمت خاصہ متوجہ ہوئی تو رؤوف رحیم کی معرفت ہوئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کی معرفت اور ان کا عین الیقین کے درجہ تک مکمل نہ ہوتا۔

انبیاء علیہم السلام کی لغزشوں سے ان کے معارف اور کمالات بڑھائے جاتے ہیں۔ یہی راز ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا۔ ابن مسعود سے فرمایا مجھ کو بہ نسبت تم لوگوں کے دو گناہ بخار ہوتا ہے اور اجر بھی دو گناہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو معرفت کا مکمل بلکہ اکمل عطا ہوتی ہے

اسئے ان کے لئے بیماری بھی سب سے بڑھ کر ہوئی چاہے۔ صحت بھی اور وہ سے بڑھ کر بیماری بھی اور وہ سے بڑھ کر۔ یہی شان ہے انبیاء و صلحاء کی اور اسی مشاہدہ کی بدولت انہیں بلا میں اس قدر صرفت ہوتی ہے کہ آپ کو انعام میں بھی نہیں ہوتی۔

حضرت رابعہ کے ہاں جب عرصہ تک فاقہ نہ ہوتا تو فرماتیں کہ اللہ میاں خفا معلوم ہوتے ہیں کیونکہ بہت دن سے فاقہ نہیں ہوا جو چھیٹر چھاڑ کی دلیل ہے لغرض ایہ حکمتیں تھیں جن میں بعض کا حاصل مجاہدہ تھا اور بعض کا حاصل مشاہدہ اور جو بالکل جلی یعنی کھلی ہوئی حکمت ہے وہ اس آیت میں مذکور ہے۔

فرماتے ہیں کہ اللہ ایک نکتہ اس میں اس وقت سمجھ میں آیا کہ اسے شروع کیا حروف مقطعات سے۔ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ ہمارے چند حروف کی حکمت تو معلوم نہیں۔ بڑا دعویٰ اور بڑے حکمت جانے والے ہیں تو انہی کی حکمت بتا دو۔ جب حروف کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے تو ہمارے افعال کی حکمت کیا سمجھو گے یہ تحریز کے لئے ہے آگے مقصود ارشاد فرماتے ہیں۔

### دعویٰ اور دلیل

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمْنًا كَيْلَوْكُوْنَ كَامَانَ ہے کہا امنا کہنے سے چھوڑ دیئے جائیں گے وہم لا یفتون اور امتحان نہ ہوگا۔ کیونکہ امنا (ہم ایمان لائے) ایک دعوے ہے اور اس کی دلیل امتحان میں کامیاب ہے وَلَقَدْ فَتَّاَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ پہلے بھی ہم نے لوگوں کا امتحان لیا ہے اور اس امتحان کا شرہ کیا ہے۔

فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذَّابُونَ (پ ۲۰)

کہ اللہ تعالیٰ جان لیں گے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے لیعلم من میں ایک علمی تحقیق ہے مگر اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ دوسروں پر ظاہر کردیں کون سچا ہے اور کون جھوٹا اور نہ انہیں تو سچے اور جھوٹے کا پہلے سے علم ہے اس امتحان کے متعلق ایک شعر یاد آیا۔

وَجَائزَةُ دُعَوَى الْمُحْجَةُ فِي الْهُوَى      وَلَكِنْ لَا يَخْفَى كَلَامُ الْمُنَافِقِ  
محبت کا دعویٰ عشق میں جائز ہے لیکن منافق کی بات چیپی نہیں رہتی۔

ایک حکایت یاد آئی ہے کہ ایک نوجوان سے ایک شخص نے کہا۔ میں تم پر عاشق ہوں۔ اس نے التفات نہ کیا جب بہت مرتبہ کہا تو ایک دن اس نے کہا اگر تم عاشق ہو تو سیر بھر چونا بے بجھا

کھالو۔ اب تو گا سوچنے کہ چونا کھاؤں گا تو منہ اور آنتیں سب کٹ جائیں گی۔ اس کے سوچنے پر محبوب نے ایک جوتا رسید کیا کہ بس یہی عشق ہے۔ واقعی اگر عاشق ہوتا تو چونا پیش کرنے پر چوں نہ کرتا اور کھالیتا۔ بس اس روز سے پھر عشق کا نام نہیں لیا۔

اختتامِ مشنوی میں ایک حکایت ہے کہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ ہولیا اس نے پچھے مڑ کر دیکھا پوچھا تم کون ہو۔ کہا میں تم پرفیفت اور عاشق ہوں کہا مجھ میں کیا رکھا ہے پچھے میری بہن آرہی ہے وہ مجھ سے ہزار درجہ زیادہ حسین ہے۔ یہ براہ ہوں اس کے دیکھنے کے پچھے پلٹے۔ جیسا کسی نے کہا ہے وفاداری مدار از بلبلان چشم کہ ہر دم بر گلے دیگر سرائیں  
بلبل چشم لوگوں سے وفا کی امید نہ رکھ کیونکہ وہ ہر بار دوسرے پھول پر چپھاتی ہے۔

یہ حضرت جو نبی پچھے پلٹے اس نے ایک دھول رسید کی کہ بس یہی عشق ہے  
گفت اے ابلہ اگر تو عاشقی در بیان دعوئے خود صادقی  
پس چدا بر بغیر افگندی نظر ایں بود دعوی عشق اے بے ہنر  
تو اگر عاشق تھا غیر کی طرف کیوں رخ کیا۔ غرض پچھوٹے مدی امتحان کے وقت معلوم ہو جاتے ہیں۔  
عند الامتحان یکرم الرجل اویہان (امتحان کے وقت انسان کی یا عزت ہوتی ہے یا ذلت)

### امتحان کی حقیقت

اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امنا کے معنی عشقنا کے ہیں اور وہ اس طرح کہ اللذینَ  
امْنُوا أَشَدُّ حُبًا لِّلَّهِ میں ایمان کے لئے محبت الہی کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو اب امنا کے معنی  
عشقنا واحببنا ہوئے۔ جب تم نے امنا کہہ کر خدا کی محبت کا دعوی کیا تو اس کے لئے امتحان  
ضروری ہوا۔ اس لئے کبھی آپ کی اولاد کو بیمار کر دیتے ہیں کبھی کسی اور عزیز کو۔

اب یہ کہنا کہ بیٹے کو بیمار کیوں کیا اس کے معنی یہ ہوئے کہ مجھے امتحان سے بری کیوں نہ کیا  
اور جب بری نہ ہوئے تو اب شبہ اور وسوسہ ہونے لگا۔ ایک شبہ یہ ہے کہ خدا کو تو خبر ہے کہ کون کیسا  
ہے اور کون کیسا ہے۔ امتحان لینے کی کیا ضرورت۔ امتحان تو وہاں لپا جاتا ہے جہاں حالتِ مخفی  
ہوتی ہے اس کا جواب جیسا اور پچھی مذکور ہوا ہے کہ یہ امتحان ظہور علی امتحن کی غرض سے نہیں لیا  
جاتا۔ بلکہ ظہور علی الناس کی غرض سے لیا جاتا ہے یعنی امتحان اس لئے لیا جاتا ہے کہ لوگ اس کی

حالت سے واقف ہو جائیں کہ سچا مسلمان ہے یا جھوٹا اور یہ اپنی حالت خود بھی جان لے اور جہل مرکب میں بیٹلانہ رہے بعض اوقات آدمی لاائق سمجھا جاتا ہے اور خود بھی اپنے کو لاائق سمجھتا ہے مگر امتحان کے وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہ تھا۔

یہی راز ہے خدا تعالیٰ کے امتحان کا۔ پل صراط اور میزان کی بھی یہی حکمت ہے مقصود یہ ہے کہ کوئی جھگڑا بھی نہ کر سکے اور جہل مرکب میں بیٹلانہ رہے اور جنت تمام ہو جائے۔ معتزلہ نے میزان کا اسی اشکال کی بنا پر انکار کر دیا کہ خدا کو تو معلوم ہے کتنے عمل اچھے ہیں کتنے بُرے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ خدا نے اپنے علم کے لئے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ بندوں کی آگاہی کے لئے کیا تاکہ خدا پر کسی کو ازالہ رکھنے کا حق نہ رہے و سوسہ کی گنجائش ہی نہ رہے ورنہ اگر کسی جگہ جنت، کج بھی، اور جہل مرکب کا استعمال نہ ہو تو بندوں امتحان کے صرف اپنے علم کے موافق عمل درآمد کرنے میں بھی کچھ مدد و عقلی نہیں۔

چنانچہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ اپنے شاگردوں کا ماہواری امتحان نہیں لیتے تھے کیونکہ استعداد ہر ایک کی مخصوص تھی جب موقع آتا بلہ امتحان لئے نمبر بھر دیتے اور فرماتے تھے کہ مجھے سب معلوم ہے کہ کون کیسا ہے اور کون کیسا ہے اور یہ بھی فرمادیتے تھے کہ اگر کسی کو یہ احتمال ہو کہ مجھے کم نمبر دیئے ہیں تو لا امتحان لے لوں۔ مگر کسی کو یہ کہنے کی ہمت نہ تھی کہ ہاں لے لیا جاوے۔

امتحان سے مدعی کی زبان بند کرنا مقصود ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اس لئے امتحان لیتا ہے کہ لوگوں پر اور خود اس پر بھی یہ ظاہر ہو جاوے کہ محبت کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا۔ اگر یہ اس امتحان میں فیل ہو گیا تو اسے یہ بھی نفع ہو گا کہ آگے پھر کوشش کرے گا اور کوشش کر کے اعلیٰ لیاقت پیدا کر کے پھر امتحان میں ضرور پاس ہو جاوے گا تو جو کچھ بلا اور مصیبت آتی واللہ سب رحمت ہے اس میں ذرا بھی حرج نہیں البتہ ایسے شخص کے لئے ضرور پریشانی ہے جس کا تعلق خدا تعالیٰ سے ضعیف ہے ورنہ سراسر رحمت ہی رحمت ہے چونکہ اس وقت بہت سی ..... پریشانیوں کا ہجوم ہے جن سے خیالات متزلزل ہو رہے ہیں اس لئے میں نے عمر بھر کے لئے علاج بتا دیا جو شخص اس علاج سے کام لے گا وہ تھوڑے ..... دنوں تک صبر کرتے کرتے پھر بجائے صبر کے شکر کرنے لگے گا۔

### خلاصہ بیان

اجمالاً خلاصہ بیان کا پھر اعادہ کرتا ہوں۔ اگر سارے مضمون کو یاد نہ رکھ سکو تو اتنا جزو تو ضرور یاد رکھو کہ خدا سے محبت پیدا کرلو تو کبھی حکمت کا سوال ہی پیدا نہ ہو گا اور نہ شبہ کا وسوسہ آئے گا۔ پھر

پاکی حکمتوں کے جانے ہی کی ضرورت نہ رہے گی۔

حضرت امام احمد بن حبیلؓ با وجود یکہ جلیل القدر مجتهدین میں سے ہیں حضرت حافیؓ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت بشر حافیؓ علوم ظاہری میں کوئی معتقد بہ درجہ نہ رکھتے تھے۔ مگر خدا کی محبت میں سرشار تھا۔ ایک طالب علم نے امام احمد بن حبیلؓ سے پوچھا کہ انکو علوم میں کچھ بھی دسترس نہیں پھر آپ ان کی اس قدر تعظیم کیوں کرتے ہیں۔؟

فرمایا میں ان کی تعظیم اس لئے کرتا ہوں کہ میں کتاب کا علم رکھتا ہوں اور یہ کتاب والے کا علم رکھتے ہیں۔ طالب علم نے کہا میں ان سے کوئی مسئلہ پوچھوں؟ فرمایا ان سے مسئلہ نہ پوچھنا۔ طالب علم نے نہ مانا اور جا کے پوچھا کہ حضرت نماز میں سہو ہو جائے تو کیا کرنا چاہئے۔ فرمایا ایسے غافل قلب کو سزا دینی چاہئے جو خدا کے سامنے سہو کرے۔ پوچھا کسی کے پاس مال ہو تو زکوٰۃ کس حساب سے دے؟ فرمایا تمہاری زکوٰۃ تو یہ ہے کہ جب بقدر نصاب مال جمع ہو جائے اور سال گذر جائے تو چالیسوائی حصہ مساکین کو دیدو اور ہماری زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ سب بھی دیں اور اوپر سے نفس کو اس کی سزا دیں کہ اتنا جمع ہی کیوں کیا وہ طالب علم گھبرائے کہ ان سے سوال کرنے سے تو دل پر کچھ اور ہی اثر پڑتا ہے۔ یہ تو اپنی طرف کھینچتے ہیں پھر فقة کون حاصل کرے گا۔

یا اس کی محبت کا اس لئے کہتا ہوں تم اپنے اندر محبت پیدا کرو۔ جس کے بعد پھر پریشانی کی حکمت کے سوال ہی کی حاجت نہ ہے اگر محبت ہو جائے تو پریشانی کی صورت بھی نہ نظر آئے ہر حال میں خوش رہے ہے حضرت خبیثؓ کو کفار مکہ نے قتل کرنا چاہا۔ فرمایا اچھا اتنی مهلت دے دو کہ میں رکعتیں پڑھ لوں۔ مهلت ملی۔ اچھی طرح وضو کیا۔ اور نماز پڑھی اور جوش میں آکر یہ شعر پڑھے

ولست ابالي حین اقتل مسلماً      علی ای شق کان لله مصروعی  
لیعنی خدا کی راہ میں کسی کروٹ بھی قتل کیا جاؤں کچھ حرج نہیں

وَذِلْكَ فِي ذَاتِ إِلَاهٍ وَانِ يَشَاءُ      يَارَكَ وَعَلَى اوصالِ ضَلُوعِ مَسْرَعٍ  
حضرت سعد بن جبیرؓ کو جمیع بن یوسف نے قتل کیا۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے فرمایا:  
إِنَّ وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا  
وَمَا انَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (پ ۷)

”میں نے اپنا منہ اس ذات پاک کی طرف کیا۔ اس کی طرف میں متوجہ ہوا جس نے

آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اور میں مشرک نہیں ہوں۔“

حجاج کو غصہ آیا۔ اس نے کہا۔ ان کامنہ قبلہ کی طرف پھیر دو۔ پھیر دیا گیا تو انہوں نے فرمایا:

**فَإِنَّمَا تُولُوْا فَشَمَ وَجْهَ اللَّهِ** جس طرف بھی منہ کرو اللہ تعالیٰ ادھر موجود ہے

اسے اور غصہ آیا اس کامنہ زمین کی طرف کرو۔ زمین کی طرف کر دیا گیا تو فرمایا۔

**مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نَعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَى**

اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں واپس بھیج رہے ہیں اور اسی مٹی سے دوسری مرتبہ قیامت کے بعد پھر نکال کھرا کریں گے۔“

بہت غصے ہوا اور حکم دیا جلدی قتل کرو اسے تو سارا قرآن یاد ہے۔ غرض قتل ہو رہے ہیں اور کچھ پرواہ نہیں۔ حضرت یہ کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ ان کی رگ رگ میں محبت رپھی ہوئی تھی۔ یہ اثر تھا کہ پریشانی پاس نہ تھی۔

دیکھ لجئے یہ ہیں آپ کے بزرگ اور ایک آپ ہیں کہ ایک دو مہینے کا لوٹا امر گیا اور لگے ہائے وائے کرنے۔ کیا یہی محبت ہے۔

**تو بیک زخے گر یزانی رعش** تو بجز نامے چہ میدانی رعش

یہ محبت نہیں کہ ذرا سا چہ کہ لگا اور بھاگ نکلے۔ اب صرف یہ بات رہ گئی کہ محبت کیونکر پیدا ہو۔ اس کا مختصر ساطر یہ ہے کہ ایک وقت معین کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ محبت پیدا ہو جائے گی اور خود بخود حکمتیں کھلنے لگیں گی۔ دوسرے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اہل محبت کے تذکرے دیکھا کرو میں نے ایک کتاب روض الریاض میں کا جس میں پانچ سو بزرگوں کی حکایتیں ہیں اردو میں ترجمہ کر دیا ہے پانچ سو وہ اور پانچ سو دوسری معتبر حکایتوں کا اضافہ کر کے اس کا لقب ہزار داستان رکھا ہے۔ وہ عنقریب چھپ جائے گی۔

میرا یقین ہے کہ جو شخص ساری کتاب اچھی طرح سمجھ کر کے دیکھنے گا ضرور عاشق ہو جائے گا۔

آخر ایک ہزار عاشق کے تذکرے دیکھنے سے کہاں تک اثر نہ ہوگا۔ اور بھی کتاب میں اس قسم کی ہیں مثلاً

احیاء العلوم، مقاصد الصالحین وغیرہ! الغرض! یہ مجموع اجزاء محبت پیدا کرنے کی تدبیر ہے پھر سب قصے

کھل ہو جائیں گے اب دعا کرو کہ حق تعالیٰ اپنی محبت دے آمین۔ (اشرف علی۔ ۲۵ ذی القعڈہ ۱۳۵۲ھ)

## آداب المصا拜

فضیلت صبر کے متعلق یہ وعظ کیم رمضان المبارک ۱۳۵۳ھ  
 بروز پنجشنبہ بوقت صبح سائز ہے آٹھ بجے تھانہ بھون میں  
 منشی اکبر علی صاحب کے مکان پر کرسی پر بیٹھ کر فرمایا جو  
 اڑھائی گھنٹہ میں ختم ہوا۔ ۶۰ مرد تھے اور عورتیں علاوہ  
 پرده میں تھیں۔ مولانا ناظر احمد صاحب تھانوی نے قلمبند کیا۔

## خطبہ ما ثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ  
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا  
مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا  
شَرِيكَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدَ عَبْدَهُ، وَرَسُولَهُ، وَصَلَى  
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.  
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ  
رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوةُ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُهَتَّدُونَ (ابقرہ آیت نمبر ۱۵۵ تا ۱۵۶)

(ترجمہ: اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صابرین کو بشارت سنادیجھے جن کی یہ عادت ہے کہ ان پر  
جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم (تو مع مال واولاد حقیقتہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں اور ہم سب  
دنیا سے) اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں ان لوگوں پر (جادا جادا) خاص خاص حمتیں بھی ان کے  
پروگار کی طرف سے ہوں گی اور عام رحمت بھی اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال تک رسائی ہوگی)

### مصابِ تکوینیہ و تشریعیہ

یہ ایک بڑی آیت کا مکڑا ہے جس میں مصاب و بلیات کا تذکرہ ہے یعنی ..... مسلمانوں کو متذکر کیا  
گیا ہے کہ ہم تم کو مختلف مصاب و بلیات سے آزمائیں گے یعنی تمہارا امتحان لیں گے۔ یہ عنوان اس

لئے اختیار فرمایا تا کہ بندوں کو مصائب و بلیات سے توحش نہ ہو۔ بلکہ وہ اس کے لئے پہلے سے آمادہ رہیں اور ظاہر ہے کہ انسان جس چیز کے لئے پہلے سے آمادہ رہتا ہے وہ زیادہ پریشانی کا سبب نہیں بنتی۔ پھر اس کو امتحان و آزمائش قرار دینے سے ہر شخص کو اس بات کی بھی فکر ہو گی کہ اس امتحان میں کامیابی حاصل ہونا کامی کا سامنا ہو۔ اور کامیابی کا طریقہ آگے صبر بتالا یا ہے۔ تو پہلے ہی سے صبر کی تیاری کرے گا اور اس کی تکمیل کی کوشش کرے گا تو یقیناً وقت پر مصیب کا اثر بہت ہی معمولی رہ جائے گا۔

اب یہ سمجھنا چاہئے کہ جن مصائب و بلیات کا اس مقام پر ذکر ہے ان کی تفسیر مختلف ہے۔ بعض تفاسیر پر ان سے مراد تکوینی مصائب ہیں یعنی مصائب غیر اختیاریہ۔ چنانچہ خوف سے ناگہانی خوف مراد لیا ہے جیسے ڈاکو، چور، درندہ وغیرہ کا خوف اور جوع سے فاقہ جس کا سبب عمرت افلas ہوا اور نقص اموال سے ناگہانی نقصان مال جیسے تجارت میں نقصان ہو گیا یا مال چوری ہو گیا اور نقص نفس سے عزیزوں کی موت جو کسی مرض یا وبا کی وجہ سے ہو جائے اور نقص شمرات سے باغات کا نقصان جیسے بجلی یا پائلے یا آندھی سے پھل گر جائیں یا خراب ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔

بعض تفاسیر پر ان کا محل تکالیف تشریعیہ ہیں یعنی وہ امور اختیاریہ جن کا شریعت نے انسان کو مکلف کیا ہے۔ چنانچہ امام شافعی سے جوع کی تفسیر روزہ سے اور نقص اموال و شمرات کی تفسیر زکوٰۃ سے اور خوف اور نقص نفس کی تفسیر جہاد سے منقول ہے۔

میں نے ان آیات کو اسلئے بھی اختیار کیا ہے تا کہ مصائب تکوینیہ کے آداب کیسا تھا جن کو وقت اور مقام مقتضی ہے وقت تکالیف تشریعیہ یعنی روزہ کے آداب و احکام بھی کچھ بیان کر دوں جن کو زبان بیان مقتضی ہے کیونکہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے اگر یاد رہا تو ان شاء اللہ اکو بیان کروں گا اور چونکہ کسی نے کسی تفسیر کو خلط نہیں کہا اسلئے یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں مصائب تکوینیہ بھی تشریعیہ بھی۔ اور جو ثواب مصیبت پر صبر کرنے کا اس جگہ مذکور ہے وہ دونوں پر متفرع و مرتب ہو گا اور چونکہ امت نے دونوں تفسیروں کو قبول کر لیا ہے اسلئے تلقی است با تقبوں کے بعد کسی کو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال کہنے کا موقع نہیں رہا۔

یہ میں نے اس لئے کہہ دیا کہ شاید کوئی ذہین طالب علم یا اشکال کرے کہ جب آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے تو اس سے کچھ بھی ثابت نہ ہوا۔ جواب یہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال اس مقام کے ۔ جہاں دونوں شقوں کے حکم میں اجماع نہ ہو سکے اور جہاں دونوں شقیں حکم میں جمع ہو سکتیں اور امت نے دونوں کو قبول کر لیا ہو۔ وہاں اس قول کی گنجائش نہیں ہے۔

## غذائے روحانی

سبحان اللہ! حق تعالیٰ کی کس قدر رحمت ہے کہ امور اختیاریہ پر تو اجر ملتا ہی ہے مصائب غیر اختیاریہ پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں جو مشقت انسان اپنے اختیار سے اٹھائے اس پر تو عقلانی استحقاق اجر ہو سکتا ہے مگر جو مصیبۃ بلا اختیار وارادہ کے وارد ہواں پر اجر دینا رحمت ہی رحمت ہے اور اگر زیادہ غور کیا جائے تو ترقی کر کے کہتا ہوں کہ طاعات اختیاریہ پر اجر مانا بھی رحمت ہی رحمت ہے کیونکہ طاعات تو غذائے روحانی ہیں جن سے ہم کو ہی نفع ہوتا اور ہمارے باطن کو غذا ملتی ہے تو ان طاعات کے بعد اجر عطا فرمانا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو دعوت کھلا کر دانت گھسانی کے روپ پر بھی دیئے جائیں۔ اسی طرح مجاہدات غیر اختیاریہ کی ایسی مثال ہے، جیسے طبیب مسہل دیا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی طبیب مسہل دیکھ مریض کو دور روپے بھی دے تو یہ سراسر عنایت ہے یا نہیں؟

## خالق کا ادب

پھر یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی قرابت اور رشتہ داری تو ہے نہیں اور جن لوگوں نے قرابت جتلائی تھی ان کو بہت سختی کے ساتھ زجر کیا گیا ہے اور ایسا سخت خطاب کیا گیا ہے کہ دم بخود رہ گئے ہوں گے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنُؤُ اللَّهِ وَأَحْبَاؤُهُ طَبَّلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ  
بِذُنُوبِكُمْ طَبَّلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ (پ ۶)

(اور یہود و نصاری دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ پوچھیے کہ پھر تم کو تمہارے گناہوں کے عوض عذاب کیوں دیں گے بلکہ تم بھی منجملہ اور مخلوقات کے ایک معمولی آدمی ہو)

یہ تو ان کے متعلق ارشاد ہے جنہوں نے اپنے کو حق تعالیٰ کا قرابت دار بتلایا تھا اور جنہوں نے دوسرے مقبولین کو اللہ کا قرابت دار نہیں کیا تھا ان پر تو بہت مقامات میں انکار و وعید مذکور ہے۔

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ طَبَّلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَكُلُ لَهُ قِبْلُونَ

(حق تعالیٰ موجود ہیں آسمان اور زمین کے اور جب کسی کام کو پورا کرنا چاہئے ہیں تو بس اس کام کی تسبیت اتنا فرمادیتے ہیں کہ ہو جا بس وہ اسی طرح ہو جاتا ہے)

بَدِينُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوَادًا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (پ ۱)

(اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ (کیا اہل بات ہے) بلکہ خاص اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں (موجودات) ہیں اور سب اسکے مکوم بھی ہیں) اسی طرح جا بجا مختلف طریقوں سے ابیت کا ابطال فرمایا ہے اور گویہ والا ابیت حقیقت کی نفی کرتے ہیں اور یہود و نصاری ابیت حقیقت کے قائل نہ تھے صرف ابیت مجاز یہ کے قائل تھے۔ مگر حق تعالیٰ نے ابیت حقیقت کے ابطال سے اس بات پر ہم کو متذہب فرمایا ہے کہ جس بات سے اللہ تعالیٰ منزہ ہیں اور اس کا ثبوت حقیقت اللہ تعالیٰ کے لئے محال اور خلاف شان ہے اس کے ایہام سے بھی بچنا واجب ولازم ہے کیونکہ موہام الفاظ کا استعمال کرنا خلاف ادب ہے۔

آخرت یہ کیا غصب ہے کہ سب کا تواوب ہو اور اللہ تعالیٰ کا ادب نہ ہو آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے استاد کا ادب ہے۔ باپ کا ادب ہے۔ پیر کا بھی ادب ہے پھر خدا تعالیٰ کا ادب کیوں نہ ہو۔

مشائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَذُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضاً (پ ۱۸)

کہ آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح نہ لیا کرو جس طرح ایک دوسرے کا نام لیتے ہو۔ نیز ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادِونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجَّرَاتِ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (پ ۲۶)

(جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پکارتے ہیں ان میں اکثر وہ عقول نہیں ہے) ”یعنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے ہوں تو باہر کھڑے ہو کر آپ کو نہ بلا و بلکہ اس کا انتظار کرو کہ آپ خود باہر تشریف لا میں تو اس وقت ملوا اور بات چیت کرو۔“

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (پ ۲۶)

(اور اگر یہ لوگ ذرا صبر اور انتظار کرتے یہاں تک کہ آیا خود باہر ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا)

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے اپنے اساتذہ کا ایسا ہی ادب کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ کسی حدیث کے لئے کسی النصاری صحابی کے گھر پر دوپہر کے وقت پہنچا اور دروازہ بند دیکھا تو وہیں بیٹھ گیا اور ان کو آواز نہیں دی۔ سارا وقت دوپہر کا دروازے پر گزار دیا۔ جب وہ خود ہی نماز

کے لئے باہر نکلے اس وقت ان سے ملے اور حدیث سنی۔ حالانکہ عبد اللہ بن عباسؓ اہل بیت نبوت سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اگر کسی کو باہر سے آواز دے لیا کرتے تو ان کو گراں نہ گزرتا۔ بلکہ وہ خوشی کے ساتھ باہر آتے مگر استاد کا ادب یہی ہے کہ اس کو دروازہ پر کھڑے ہو کرنہ پکارا جائے بلکہ اس کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے۔ علم اسی طرح آتا ہے۔ (اور جن لوگوں نے استادوں کا ادب نہیں کیا ان کو علم نہیں آیا۔ گوکتابیں ختم ہو گئی ہوں مگر کیا کتابیں ختم کر لینے ہی کا نام علم ہے؟ ہرگز نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو جاہل نہ قرار دیتے اور ان کے لئے

**مَثُلُ الدِّينِ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ ارشاد نہ فرماتے۔**

(مثال ان لوگوں کی جو تورات کا علم رکھتے ہیں پھر اس پر عمل نہیں کرتے ایسے ہے جیسے گدھے کے سر پر بوجھلا داجائے)

جب استاد کا بھی ادب لازم ہے اور اس سے زیادہ باپ کا اور اس سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے تو اب خود سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا ادب کس درجہ کا ہونا چاہیے لیکن آج کل عام طور پر لوگ مخلوق کا تواجد بہت کرتے ہیں مگر خالق کا ادب نہیں کرتے اور اس مرض میں بعض اہل علم بھی بجا ہیں۔

### ادب کا مدار

حق تعالیٰ کی شان میں بعض علماء بھی ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں جو حضورؐ کی شان میں وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ البته صیغہ واحد کا استعمال حق تعالیٰ کے لئے خلاف ادب نہیں کیونکہ اول تو یہ عرف عام ہو گیا ہے اور ادب کا مدار عرف ہی پر ہے۔ ورنہ مولانا محمد اسمعیل صاحب کے لطیفہ سے سب کو خاموش ہونا پڑے گا۔ جیسا ایک عالم کو آپ نے خاموش کر دیا تھا۔

آپ نے اس سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص فرش پر بیٹھا ہو اور قرآن کور حل پر رکھے ہوئے پڑھ رہا ہو اور دوسرا آدمی پنگ پر پیر لٹکا کر بیٹھ جاوے یہ جائز ہے یا نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا جائز نہیں کیونکہ اس میں قرآن کی بے ادبی ہے۔ مولانا اسمعیل صاحب نے فرمایا کہ اگر قرآن کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ کیسا؟ کہا یہ جائز ہے مولانا نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے۔ چار پائی پر بیٹھنے میں اگر بے ادبی پیروں کی ہے تو پیر تو پنگ پر بیٹھنے والے کے بھی نیچے ہیں اور اگر بے ادبی سرین کے اوپر نیچے ہونے سے ہے تو سرین کھڑے ہونے والے کے

بھی اونچے ہیں۔ وہ مولوی صاحب حیران ہو کر خاموش ہو گئے۔ اگر تھیہ ہوتے تو کہہ دیتے کہ ادب کا مدار عرف پر ہے اور عرف میں پہلی صورت کو بے ادبی اور دوسرا کو ادب شمار کیا جاتا ہے مولا نا اس عیل شہید کے مزاج میں شوخی یعنی زندہ دلی بہت تھی اس لئے ان کے یہاں ایسے ایسے لطیفے اکثر ہوتے رہتے تھے جن کا جواب کوئی ان ہی جیسا دے سکتا تھا۔ ہر شخص نہ دے سکتا تھا۔ اور ہمارے ماموں امداد علی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شوخی مزاج کی دلیل ہے نفس کے مردہ ہونے اور روح کے زندہ ہونے کی اور ممتاز دلیل ہے روح کے مردہ ہونے اور نفس کے زندہ ہونے کی۔ اکثر اہل اللہ شوخ مزاج یعنی زندہ دل ہوتے ہیں۔

بہر حال ادب کا مدار عرف پر ہے فقہاء نے اس کو خوب سمجھا ہے چنانچہ لا تقل لهما اُف کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ حقیقت اس نبی کی ایذا والین سے منع کرنا ہے یہاں تافیف موجب ایذا، وہاں حرام ہے اور اگر کسی وقت عرف بدل جائے اور تافیف موجب ایذا نہ ہو تو حرام نہیں اور فقہاء نے جو بعض احکام میں تغیر عرف کی وجہ سے بد لئے کا حکم فرمایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام حقائق کے متعلق ہوتے ہیں۔ اور عرف کے بد لئے سے وہ حقیقت نہیں بدلتی جس سے تعلق حکم کا تھا صرف عرف سے اس حقیقت کی صورت تحقق بدل جاتی ہے۔ سو صورت مار حکم نہیں۔ مثلاً جس حکم کا مدار ایذا پر تھا وہ ایذا ہی پر مرتب ہوگا۔ بدلوں ایذا کے حکم ثابت نہ ہو گا پس اگر ایک لفظ کسی قوم کے عرف میں موجب ایذا ہے وہاں وہ تلفظ حرام ہو گا اور دوسرا قوم کے نزدیک موجب ایذا نہیں وہاں تلفظ حرام نہ ہو گا۔

جیسے سر کا ہلانا ہمارے یہاں ایک ہیئت سے یعنی فوق وتحت کو اقرار کے لئے ہے اور ایک ہیئت سے یعنی بیمین و شمال کو انکار کے لئے مگر حیدر آباد میں ہمارے یہاں کی انکاری ہیئت بہت لطیف فرق سے اقرار کے لئے بھی ہے تو وہاں اس فرق کے جانے والے کی نظر میں اس سے اقرار ہی مفہوم ہو گا انکار مفہوم نہ ہو گا اور جو شخص وہاں کے عرف سے ناواقف ہو گا وہ بڑا پریشان ہو گا۔

چنانچہ ایک مدرس ہمارے اطراف کے وہاں پہنچ گئے۔ طلباء کے سامنے کتاب کی تقریر کر کے پوچھا سمجھ گئے انہوں نے اپنے قاعدہ کے موافق سر ہلا دیا جس کو انہوں نے انکار پر محمل کر کے دوبارہ تقریر کی اور پوچھا سمجھ گئے تو انہوں نے پھر اس طرح سر ہلا دیا۔ اب تو یہ بالکل مالیوس ہو گئے اور ایک شخص سے شکایت کی کہ یہاں کے طلباء بڑے غبی ہیں۔ میں نے تم دفعہ ایک مقام کی تقریر کی اور میرے پوچھنے پر یہی کہتے رہے ہم نہیں سمجھے۔

وہ شخص عاقل تھا۔ دنوں مقامات کے عرف سے واقف تھا اس نے کہا کہ انہوں نے زبان سے کہا تھا کہ ہم نہیں سمجھے؟ کہا زبان سے تو نہیں بلکہ انکار کی بیت سر ہلا یا تھا جب انہوں نے بتلایا کہ یہاں کا عرف دوسرا ہے یہاں اقرار کے لئے بھی اسی طرح سر ہلاتے ہیں۔

میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادب کا مدار عرف پر ہے اور اس کو فقہاء نے سمجھا ہے اور اس لئے جہاں حقوق نہیں بدے اصراف عرف بدلنا ہے وہاں تبدل عرف سے احکام بدل جانے کا حکم فرمادیا ہے۔

مگر آج کل جہاں حقوق کو بدلنا چاہتے ہیں اور دقاحت یہ ہے کہ ایسے لوگ باوجود جاہل ہونے کے علماء کے سامنے احکام شرعیہ میں گفتگو کرتے ہیں بس وہ حال ہے کہ

گربہ میر و سگ وزیر و موش رادیوان کنند ایں چنیں ارکان دولت ملک راویراں کنند ملی باوشاہ، کتاب وزیر، چوہا ہید کفر ک ہے اس طرح کے سلطنت کے ارکان ہی ملک کو ویران کرتے ہیں۔“

پچھلے دنوں سن تھا کہ ایک غیر مسلم بڑا لیڈر جیل میں قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے اور اس سے احکام کا استنباط کر رہا ہے۔ میں نے کہا واقعی یہ اجتہاد و استنباط سب سے بڑھ کر ہو گا کیونکہ امام ابوحنیفہؓ کے معتقد ہیں تو کبھی کسی مسئلہ میں امام صاحب کی خطا کا بھی اقرار کر لیتے ہیں مگر اس لیڈر کے مسلمان معتقد بھی کبھی اس کی خطا کا انکار نہیں کرتے اس کا استنباط سب سے بڑھ کر ہو گا (جس کی ایک ادنیٰ مثال یہ ہے کہ جیل سے نکل کر اس نے ایک تقریر میں یہ کہا کہ میں نے قرآن کا مطالعہ بڑے غور سے کیا مگر مجھے اس میں ذبح حیوانات کا حکم کہیں نہیں ملا۔ آپ کے غور کی توبیہ حالت ہے کہ پہلے سارہ میں ان الله یا مروکم ان تلبحوں بقرہ نظر نہ آیا۔ نہ معلوم بے غوری سے مطالعہ کرتے ہیں اور کس کس چیز کا انکار کرو یتے۔

یہ تقریر ادب پر چلی تھی کہ حق تعالیٰ کا ادب سب سے زیادہ ضروری ہے مگر پھر بھی صیغہ واحد کا استعمال حق تعالیٰ کی جناب میں خلاف ادب نہیں کیونکہ عرف عام ہو گیا ہے اور عرف میں اللہ تعالیٰ کے لئے صیغہ واحد غالب اس لئے اختیار کیا گیا کہ اس میں توحید پر زیادہ دلالت ہے اور صیغہ جمع میں توحید کی صراحت نہیں۔

مگر مجھے اپنے استاد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے صیغہ جمع کے استعمال کی عادت ہو گئی ہے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یونہی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ صیغہ جمع میں تعظیم زیادہ ہے۔

رہایہ کہ اس میں توحید کی رعایت نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ توحید اس میں بھی محفوظ ہے کیونکہ علماء بلا غلت نے لکھا ہے موحد ابتدی الربيع البقل کہے تو اسناد مجازی ہو گی۔ اسی طرح یہاں سمجھو لو۔

ربا یہ کہ قرآن میں بھی کہیں اس کی اصل موجود ہے یا نہیں۔ سو صیغہ تکمیل میں تو بکثرت صیغہ جمع اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے اختیار فرمایا ہے اور خطاب کی صورت میں بھی ایک جگہ صیغہ جمع آیا ہے قال رب ارجعون (پ ۱۸) اس میں اللہ کو صیغہ جمع کے ساتھ خطاب ہے اور گواں میں دوسرا احتمال بھی بیان کیا گیا ہے کہ جمع سے مراد تکرار فعل ہے رب ارجع رب ارجع۔ مگر تکرار فعل کے لئے صیغہ جمع کا لانا خلاف ظاہر ہے۔ اس لئے یہ احتمال بعید ہے اور اگر بعد بھی نہ ہو تو دوسرا احتمال بھی امت کے نزدیک متعلقی بالقبول ہے اس لئے اس کا اعتبار و اتباع بھی جائز ہے۔

بہر حال اس کی اصل بھی موجود ہے اور اس لئے یہ بھی جائز ہے۔ مگر پھر بھی میں کسی ایک شق کو دوسری پر ترجیح نہیں دیتا کیونکہ ممکن ہے کہ اپنے استاد کی محبت کی وجہ سے اس شق کو پسند کرتا ہوں۔

### رحمت بلا علت

اس جملہ معتبر صد کے بعد میں پھر اصل مضمون کی طرف عود کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ سے ہماری کوئی قرابت نہیں اور اسی سلسلہ میں قرابت کے موہم الفاظ کے استعمال کو خلاف ادب بتلایا تھا۔ مگر باوجود قرابت نہ ہونے کے پھر بھی ان کی شفقت و رحمت ہمارے ساتھ بے انتہا ہے۔ چنانچہ کیا یہ عین شفقت و رحمت نہیں ہے کہ جو مشقت ہم اپنے اختیار سے برداشت کریں اس پر بھی اجر اور جو بلا اختیار وارد ہو جائے اس پر بھی اجر۔ اور گواہ وجود قرابت نہ ہونے کے حق تعالیٰ سے ہمارا ایسا تعلق ہے جس کے مقابلہ میں نہ قرابت کوئی چیز ہے نہ ابوة و بنوۃ۔ اور بعض صوفیا تو اس تعلق کی تفسیر میں بہت آگے پہنچ گئے ہیں جس کا تحمل عقول عامہ کو نہیں ہو سکتا۔

مگر اتنی بات تو سب سمجھ سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو ہمارے ساتھ رحمت بلا علت ہے اس سے بڑھ کر کیا تعلق ہو گا اور اس شدت تعلق کا مقتضای بھی یہی ہے کہ وہ ہم پر خاص توجہ فرمائیں تو پھر ہر حال میں اجر دنیا کیا عجیب ہے۔

سو یہ شدت تعلق اور اس کا مقضیا مسلم مگر اس کے ساتھ استغناء حق پر بھی تو نظر کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے تو اس پر نظر کرنے سے پھر عقل کا فتویٰ یہی ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی نفع نہ پہنچا سکیں کیونکہ جب ان کا کوئی کام ہمارے اوپر انکا ہوا نہیں اور وہ تمام عالم سے مستغثی ہیں تو وہ ہم پر کوئی انعام کیوں کریں؟ کیونکہ سلاطین جو کسی پر انعام کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی رعیت کی احتیاج ہے۔ وزراء و افسران فوج کو خوش رکھنے کی ان کو ضرورت ہے تاکہ رعیت

باغی نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو کسی کے خوش رکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جس پر رحمت فرماتے ہیں بلا سبب اور بلا علت فرماتے ہیں۔ پس عقل کا فتویٰ تو یہ ہو گا کہ بلا علت کے کسی پر کیوں رحمت و شفقت کی جائے؟ بلا وجہ کسی کی کیوں حفاظت کی جائے؟

اس لئے کہا کرتا ہوں کہ عقل انسان کی خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہے اگر اللہ تعالیٰ عقل کے فتوے پر ہمارے ساتھ برتاؤ کرنے لگیں تو حقیقت نظر آجائے۔ اگر اس پر شبہ کیا جائے کہ بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں جن میں بندہ پر رحمت نہیں ہوتی بلکہ زحمت ہوتی ہے پھر رحمت کا دعویٰ کیسا۔

جواب یہ ہے کہ اس کا سبب بھی ہے تو جبکہ نہیں کہ معاذ اللہ حق تعالیٰ کو حفاظت عبد سے ذہول ہو گیا ہو وہاں اس کا احتمال ہی نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندہ پر لطف بصورت قہر بھی فرماتے ہیں۔ آخرت بہت سے مشائخ و مرشدین بھی تو کبھی اصلاح کے لئے یا کسی اعلیٰ مقام کی طرف متوجہ کرنے کے لئے مرید پر بختی کرتے ہیں گو ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو صورۃ بھی رحمت، ہی غالب تھی ایسے شدید واقعات نہیں ہوتے تھے جیسے دمرے مشائخ کے یہاں ہوتے ہیں۔ مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا۔ اگر نشرت نہ ہو تو پلنس تو ضرور ہو گی تاکہ زخم سے مواد نکل جائے پچ کے دل میں جب نشرت لگایا جاتا ہے تو پچہ روتا ہے مگر ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ اب جلدی آرام آجائے گا۔

طفل میں لرزد زنیش ابھام مادر مشق ازاں غم شاد کام پچہ خون لینے کے نشرت سے کانپ رہا ہوتا اور ماں اس کے اس غم سے خوش ہو رہی ہوتی ہے۔

## بشارت با واسطہ

اسی طرح مشائخ کی سختی سے ناواقف رنجیدہ ہوتا ہے مگر اہل فہم خوش ہوتے ہیں کیونکہ مشائخ اپنی تعظیم اور پرستش نہیں کراتے کہ خواہ مخواہ لوگوں پر بختی کریں اور حکومت کا سکھ بھلاکیں بلکہ کبھی تو طالب کی کسی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں اور تجربہ ہے کہ اکثر کامل اصلاح بختی ہی سے ہوتی ہے ہر جگہ نرمی کام نہیں دیتی جس زخم میں مواد بھرا ہوا ہواں پر رہم نہیں رکھا جاتا۔ بلکہ پلنس اور نشرت ہی سے کام لیا جاتا ہے اور بعض دفعہ شان محبوبیت کی وجہ سے طالب علم کا امتحان کرتے ہیں کہ اس کو طریق سے محبت ہے یا نہیں۔ اور اس محبت طریق کا معیار محبت شیخ ہے جس کو شیخ سے جتنی محبت ہو گی اتنی ہی طریق سے ہو گی۔ پس خواہ اس کو شیخ سے محبت کا عنوان کہو یا طریق سے محبت کا عنوان کہو دونوں میں باہم تلازم ہے۔ بخت اگر مدد کند و امنش آورم بکف گریکشندز ہے طرب و رکشم زبے شرف

بخت اگر مری مذکورے اور اس کا دامن میں اپنے ہاتھوں میں لے لوں پھر اگر وہ کھینچ تو مجھے خوشی ہو اور میں کھینچوں تو یہ میرے لئے باعث شرف ہو۔“

سوم شاخ اپنے ساتھ طالب کی محبت کرنے کے بلا وجہ طالب نہیں بلکہ اس لئے طالب ہیں کہ اصل مظلوب کے حصول میں محبت شیخ کو دخل ہے تو جب استاد اور پیر اور والدین کی ختنی کو شاگرد، مرید اور اولاد کے حق میں رحمت مانا جاتا ہے کیونکہ ان کا مقصود اصلاح ہے تو حق تعالیٰ کی طرف سے ایسے واقعات کو رحمت کیوں نہیں مانا جاتا۔

الغرض حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ مشتاق اختیاریہ و غیر اختیاریہ یہ دونوں پر ثواب کی بشارت ہے اور بشارت بھی بلا واسطہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بشارت دلوائی ہے گو بظاہر بشارت بلا واسطہ کو ترجیح معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض مقامات پر اسی وجہ سے بشارت بلا واسطہ بھی وارد ہے۔ مگر عام قاعدہ یہ ہے کہ سلطان عظیم الشان کی بشارت بلا واسطہ سے ہیبت میں اضافہ ہو کر حواسِ گم ہو جاتے ہیں اور بشارت کا لطف حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بشارت دلوائی ہے کہ آپ ہم جنس بھی ہیں ہم نوع بھی ہیں۔ بلکہ مثل عین کے ہیں چنانچہ اسی لئے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ تو منہم فرمایا کسی جگہ مثلکم اور کسی جگہ من انفسکم اور ظاہر ہے کہ نفس ہی کے ایک ہی معنی ہیں اور اس کا معنی کامصدق آپ میں یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو جان سے زیادہ محبوب ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم (پ ۲۱) اور محبت و محبوب میں ایک گو نہ اتحاد ہوتا ہے تفاہ شخص نہیں ہوتا۔ یہی مراد ہے صوفیا کی عین سے لوگوں نے اس سے عین باصطلاح فلسفہ سمجھ لیا ہے اور اعتراض کرنے لگے وہ اس میں اعتراض کی بات کیا ہے۔ محاورات میں دوست کو کہہ دیا کرتے ہیں کہ تم غیر تھوڑا ہی ہو اور جب غیر نہ ہوا تو عین ہو گا۔ بس جو معنی عین کے یہاں ہیں وہی صوفیا کے کلام میں ہیں۔ مگرنا اہلوں کے سامنے ایسے الفاظ نہ بولنے چاہئیں جو ان کی عقول سے بالا

أَقْلَتْ وَيُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّىٰ كَرِيمٌ يَسْتَحِيُ مِنْ عَبْدِهِ فَلَمَّا أَبْلَاهُ بِمَا أَقْلَقَهُ وَاحْزَنَهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ رِبِّهِ تَعَالَى شَانَهُ اسْتِحِيَا مِنْ مُواجِيَهِهِ بِالْبَشَارَةِ لَانَّ الْمَوْلَى الْكَرِيمُ إِذَا امْتَحَنَ عَبْدَهُ بِمَا يُشَاءُ عَلَيْهِ وَيَحْزُنُهُ مِنَ الضُّرِّ وَالْعَزَّى إِسْتِحِيَا مِنْ مُواجِيَهِهِ بِالْأَنْعَامِ بِلَ يُرْسِلُ إِلَيْهِ هَايْسَرَةً مِنَ التَّشْرِيفَاتِ عَلَى يَدِهِ حَدَّ مِنْ خَوَاصِهِ وَفِي التَّبْشِيرِ بِوَاسِطَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيَةً لِلصَّابِرِينَ بَانَ أَفْضَلُ الْخَلْقِ وَأَكْرَمُ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ يَعْلَجُ فِي هَذِهِ الدَّارِ مِنَ الْمَصَابِ وَالْأَلَامِ فَقَدْ ابْلَاهَ اللَّهُ بِالْيَتَيمِ فِي أَوَّلِ عُمْرِهِ وَالْعَلِيَّةُ فِي عَنْفُوِهِ أَنْ شَيَّابَهُ وَفَقَدَ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتَ وَمَوْتُ الْاجْتَهَدِ فِي كَهْوَلِهِ ثُمَّ أَوْذَى فِي اللَّهِ مَا لَمْ يَؤْذِ أَحَدًا بَعْدَ مَابَعَهُ اللَّهُ إِلَى الْخَلْقِ نَبِيًّا وَرَسُولاً فَصَبَرَ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ كَمَا صَبَرَ أَوْلَوَا الْعَزْمَ مِنَ الرَّسُولِ فَكَانَ أَفْضَلُ الصَّابِرِينَ وَأَكْتَمُهُمْ فَلَيَتَغُرَّ الْمَصَابِونَ بِذَكْرِهِ وَلِيَقْتَدُوا فِي أَحْوَالِهِمْ بِهِدِيهِ فَإِنَّمَا الْحَرُومَ مِنْ حَرَمِ التَّوَابِ ۑۖ۝

ہوں۔ کلموا الناس علی قدر عقولهم۔ (لوگوں سے اتنے فہم کے مطابق بات کرو) عرض اللہ تعالیٰ نے اس بشارت میں بھی ہمارے جذبات کی رعایت فرمائی ہے۔ چونکہ بشارت بلا واسطہ سے بوجہ غایت عظمت حق تعالیٰ کے ہیئت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بشارت کا پورا اطف نہ آتا۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے بواسطہ بشارت دلوائی۔ شاعر کہتا ہے یہ سامنے جب وہ شوخ دربا آجائے ہے تھامتا ہوں دل کو پرہاچوں سے نکلا جائے ہے

### درجات صبر

بشارت میں واسطہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں پھر آپ کو بھی یہ نہیں فرمایا کہ اخیر یا نبی یعنی خبر دید تھے بلکہ بشر فرمایا اور بشارت وہ خبر ہے جس سے سننے والے کا چہرہ کھل جائے۔ چہرہ پر خوشی کے آثار نہیں ہو جائیں پس اگر کوئی بشارت بھی نہ ہوتی تو بشر کا لفظ ہی ہمارے خوش ہونے کو کافی تھا۔ مگر اس پر اس نہیں ہے بلکہ آگے بھی دل جوئی کے بہت سے سامان جمع فرمائے گئے۔ ایک یہ کہ ان کو صابرین کا خطاب دیا اور اس معزز جماعت میں داخل کیا جس میں انبیاء علیہم السلام سب سے پیش پیش ہیں یہ صبر تو پہلا درجہ ہے۔

دوسرا درجہ صبر کے بعد یہ ہے **إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيَّةٌ** اخ جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ صابر ایسے ہیں کہ صبر کے بعد اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں۔ پس یہ دوسرا درجہ تسلی کا ہے اور تسلی بھی کس طرح دیتے ہیں اس کا طریقہ بھی خود ہی ارشاد فرمادیا کہ:

**إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيَّةٌ . قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**

کہ جب ان کو مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ (پ ۲)

اس میں لفظ اذا کا اختیار فرمانا مجاہب اللہ تعالیٰ ایک مستقل تسلی ہے کیونکہ لغت عرب میں اذا تیقن کے موقع پر بولا جاتا ہے یعنی جب شرط کا وقوع متفق ہو تو اس میں بتلا دیا گیا کہ اے مخاطبو! دنیا میں تو مصیبت کا پیش آنا یقینی ہے اس کے لئے پہلے ہی سے تیار ہو۔ اور یہ بھی بڑی رحمت ہے کہ پہلے سے انسان لو خبردار کر دیا جائے کہ تجھے ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے علماء نے:

**سَيَقُولُ الْسُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا** (پ ۲)

(اب تو (یہ) بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ ان پر (مسلمانوں) کو ان کے سابق سمت (قبلہ سے

(کہ بیت المقدس تھا) کس (بات) نے بدل دیا) میں یہی نکتہ بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں مصیبت تو ضرور آئے گی کیونکہ انسان دنیا میں مشقت ہی کے واسطے پیدا ہوا ہے یہاں چین کہاں؟

## روح اور جسد کا تعلق

چین تو عالم ارواح میں تھا جہاں نہ مرض کا اندیشہ تھا نہ موت کا خطرہ۔ اس سے بڑھ کر کیا چین ہو گا کہ اپنی بھی خبر نہ تھی۔ سکر ہی سکر تھا کسی نے خوب کہا ہے

کیا ہی چین خواب عدم میں تھا نہ تھا زلف یار کا کچھ خیال  
سو جگا کے شور ظہور نے مجھے کس بلا میں پھسا دیا  
ہمارے حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کے رسالہ "رد نامہ غناک" کے شروع میں بھی اس قسم کے اشعار ہیں  
سنو یارو عجب قصہ ہمارا بیان کرتا ہوں میں جو غم کا مارا  
پڑا سوتا تھا میں خواب عدم میں نہ دیکھا تھا کبھی ہستی کے غم میں  
یکا یک عشق نے آکر جگایا جگا کر سو بلاوں میں پھسایا  
ہر اک کھیل خلقت نے بنایا تماشے کو بھی تو میرے نہ آیا  
مگر چونکہ عالم ارواح میں قرب کی ترقی نہیں ہو سکتی تھی اس لئے روح کو جد کے ساتھ  
متعلق کیا گیا کیونکہ ترقی کا مدار مجاہدہ پر ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيْنَاهُمْ سُبَّلَنَا (ب ۲۱)

(جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے (قرب و ثواب یعنی جنت) کے راستے ضرور دکھائیں گے)

اور مجاہدہ بدلوں جسد کے نہیں ہو سکتا کیونکہ اعمال دو قسم کے ہیں۔

ایک وہ جو حتاج جسد ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ۔ دوسرے وہ جو حتاج جسد نہیں جیسے عقائد و ذکر و غیرہ پہلی قسم کے افعال تو ظاہر ہے کہ بدلوں جسد کے ہوئی نہیں سکتے اور دوسری قسم کے افعال گو بدلوں جسد کے ہو سکتے ہیں مگر ان میں مجاہدہ نہیں کیونکہ جو اعمال محتاج جسد نہیں وہ غذا ہے روح ہیں۔ روح کسی وقت بھی علم اور تفکر سے خالی نہیں رہ سکتی۔ اور جب یہ اعمال غذا ہے روح ہیں تو ان میں مشقت کہاں اور جب مشقت نہیں تو مجاہدہ بھی نہیں کیونکہ مجاہدہ کا مشقت پر موقوف ہونا ظاہر ہے اور صراحتاً

جس سے جس کی نفی علم ارواح میں کی جا رہی ہے۔ جسد نا سوتی ہے کہ مشقت کا محل یہی ہے۔

باقی یہ کہ وہاں جسد ملکوتی بھی تھا یا نہیں۔ یہ دوسری بحث ہے میثاق کے وقت تو ایسا جسد ہوتا حدیشوں میں وارد ہے مگر وہ جسد اعمال شاقہ کا محل نہیں۔ اس لئے مجاہدہ کے لئے کافی نہیں۔ باقی اپنے وجود میں جسد و مادہ کا تھاج ہونا نہ ہونا یہ مختلف فیہ ہے۔

متکلمین تو روح کے تجدود کو محل سمجھتے ہیں مگر صوفیاء کی تحقیق اس تجدود کے بارے میں فلاسفہ کے موافق ہے وہ تجدور روح کے قاتل ہیں مگر فلاسفہ کے اتباع کی وجہ سے قاتل نہیں ہوئے بلکہ ان کا کشف ہے اور وہ اعتقاد قدم میں فلاسفہ کے مخالف بھی ہیں اور باوجود تجدود کے قاتل ہونے کے احوال کو ذاتاً اور مانا حادث مانتے ہیں۔ باقی متکلمین جو روح کو مادی اور اس کے تجدود کو محل کہتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل صحیح نہیں۔

متکلمین نے دلیل یہ بیان کی ہے کہ تجدود صفات خاصہ واجب سے ہے البتہ قدم ضرور صفات خاصہ میں سے ہے اسلئے فلاسفہ کا قول ضرور باطل ہے مگر خود اس کی کوئی دلیل نہیں کہ تجدود صفات خاصہ موصوب ہے صوفیاء کے قول کے بطلان کی کوئی دلیل نہیں اور صوفیاء پر کوئی ..... اشکال باقی نہیں رہتا۔ بہر حال جو اعمال محتاج جسد نہیں وہ بوجہ غذاۓ روح ہونے کے سبب ترقی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے روح کو نا سوت میں لا کر میثاق میں بنتا فرمایا۔

اگر اس پر شبہ ہو کہ جب ترقی مشقت پر موقوف ہے اور مجاہدہ و موانطبت سے اعمال شاقہ مثل غذاۓ روح بن جاتے ہیں تو ان پر اجر اور ترقی کا ترتیب نہ ہونا چاہئے۔ سوان میں یہ ترقی اس واسطے ہے کہ وہ مشقت و مجاہدہ ہی سے تو غذاۓ ہیں گو مشقت اب نہیں رہی مگر حکما اس مشقت کا اثر محمد و مسٹر قرار دیا گیا ہے۔ پس اس تحقیق سے اہل اللہ کے اعمال پر اشکال نہیں ہو سکتا جو ان کے لئے طبیعت ثانیہ ہو کر بمنزلہ غذاۓ کے ہو گئے ہیں۔ البتہ اس تحقیق سے یہ استنباط صحیح ہے کہ انسان کی عبادت ملائکہ کی عبادت سے افضل ہے۔ کیونکہ وہ ثمرہ مشقت ہی کا ہے۔

غرض روحانی اعمال سے ترقی نہیں ہو سکتی تھی اور حق تعالیٰ کو میں ترقی دینا منظور تھی اس لئے روح کو ایک مرکب یعنی جسد عطا کیا گیا۔ اور گو عامل اب بھی روح ہی ہے مگر یہ مرکب جو ملا ہے اسکی فکر بھی اس پر سورا ہے۔ اسکو دانہ بھی دینا ہے اور اس کیلئے دنیا کے ہزار دھنڈے کرنا پڑتے ہیں پھر یہ مرکب بعض دفعہ شو خی بھی کرتا ہے اور کبھی تو ایسی شو خی کرتا ہے کہ انسان اس کے آگے اپنے کو بالکل بے قابو پاتا ہے جیسا حدیث میں ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ (میری آنکھوں کی خندک نماز میں) اور بحمد اللہ اس دولت کا ایک حصہ میری قرۃ العین اختری مرحومہ کو حاصل تھا کہ نماز اسکی غذاۓ روح تھی رفع اللہ در چا تھا و تقبل حستا تھا۔

ہے۔ اس لئے سنبھل کر چلنے کی بھی ضرورت ہے کہ کہیں ہلاکت کے گھر میں نہ ڈال دے غرض دنیا میں ہم کو بھینے کی حکمت ہی مشقت ہے۔

### صبر اور اجر

چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمادیا ہے لقد خلقنا الاتسان فی کبد (ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا) اور ایک اردو کے شاعر نے اس مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے گو شعر تو پھیکا ہے اور اردو کے اشعار فارسی عربی کے سامنے پھیکے ہی ہوتے ہیں۔ مگر مضمون کو خوب ادا کیا ہے۔ ورد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کیلئے کچھ کم نہ تھے کرو بیا جب ہمارے دنیا میں آنے کی حکمت ہی یہ ہے تو مشقت اور درد و غم کا پیش آنا لازم ہے اسی کو لفظ اذا سے بتایا گیا ہے جو تيقن کے لئے موضوع ہے اور ظاہر ہے کہ جس کا پیش آنا ناگزیر ہو اور اس کا علم بھی ہو جائے اس کے قوع سے کچھ زیادہ پریشانی نہیں ہوتی اس لئے اذا اصابتهم میں لفظ اذا۔ بہت کچھ موجب تسلی ہے اور دوسری تسلی مصیبہ کی خوبیں میں ہے کیونکہ توہین آنکھیں واطلاق کیلئے بھی ہوتی ہے۔ سومطلب یہ ہوگا کہ اولیٰ مصیبہ پر بھی صبر کرنے سے اجر ملے گا قرآن میں تو یہ مضمون متحمل تھا۔ مگر ایک حدیث سے اس کی تفسیر ہو گئی اور اب محتمل نہیں رہا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ چراغِ گل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اَنَا لِلّهِ وَ اِنَا لِلّهِ رَجُुونَ پڑھا حضرت عائشہؓ نے کہا یا رسول اللہ! کیا یہ بھی مصیبہ ہے اور اس پر صبر کرنے سے بھی اجر ہے فرمایا ہاں! جس چیز سے مسلمان کو ناگواری پہنچو وہ مصیبہ ہے یہاں تک کہ کائنات لگ جائے یا کوئی چیز رکھ کر بھول جائے اس پر صبر کرنے میں بھی اجر ہے۔

تیری تسلی قالوا میں ہے مگر اسکو صوفیاء تحقیقین ہی سمجھ سکتے ہیں جو اہل ذوق ہیں کیونکہ جو مضمون اس مقام پر قالوا کے بعد ذکور ہے حقیقت میں تو ازالہ حزن و غم میں مؤثر اس مضمون میں شامل و فکر ہی کرنا ہے مغض قول اسی اس کیلئے کافی نہیں معلوم ہوتا۔ مگر حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس طرح باطن ظاہر میں مؤثر ہوتا ہے اسی طرح ظاہر بھی باطن میں مؤثر ہوتا ہے۔ اس لئے گوز یادہ مؤثر قول مع انکر ہی ہے لیکن تھا قول بھی کافی ہے بیکار نہیں اور تجربہ و مشاہدہ ان کی دلیل ہے کہ دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ قول مغض سے بھی نفع ہوتا ہے۔ اسی لئے ذکر اسی بدون حضور کے بھی انکے نزدیک مفید ہے جس کو تحقیق کے درجہ میں تو وہ اس عنوان سے بیان کیا کرتے ہیں کہ زبان و قلب دونوں ذکر کے مکلف ہیں اگر دونوں مشغول نہ ہوں تو ایک کو تو مشغول رکھنا چاہئے اور زبان کا

مشغول رکھنا آسان ہے اسلئے ذکر لسانی کو ترک نہ کرنا چاہئے لیکن اس تحقیق کے علاوہ خود تجربہ بھی ہے کہ محض ذکر لسانی سے بھی قلب پر اثر پہنچتا ہے جب آدمی برابر زبان سے ذکر کئے جائے گا تو دل پر ضرور اثر کرے گا (نیز یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ذکر خفی جس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے زیادہ دریتک نہیں رہتا۔ تھوڑی دریتک دل ذکر اللہ میں رہتا ہے پھر نہ معلوم کہاں کہاں چلتا رہتا ہے تو اس صورت میں زبان اور دل دونوں کے ذکر سے محروم ہوئے اور ذکر لسانی میں اگر قلب غافل ہو گیا تب بھی زبان تو مشغول ذکر رہتی ہی ہے اور کسی قدر دل کو بھی ذکر اور مذکور کی طرف توجہ رہتی ہے گو حضور کامل نہ ہو تو اس میں اکثر دونوں ذکر مجتمع رہتے ہیں) غرض یہاں قول کو اسلئے اختیار کیا گیا ہے کہ وہ آسان اور کافی بھی ہے دوسرے مصیبت کا وقت قول ہی کا وقت ہو سکتا ہے۔ تأمل و تفکر کا وقت نہیں کہ وہ اطمینان پر موقوف ہے۔ سواں وقت اسکو تامل کا مکلف کرنا مصیبت زدہ پر گرانی ڈالتا ہے۔

اس کے بعد بیان ہے اس قول کا جس کو وہ مصیبت کے وقت اسلی اور تقلیل غم کے لئے اختیار کرتے ہیں وہ کیا ہے اَنَا لِلَّهِ وَ اَنَا لِلَّهِ رَجُعُونَ اس میں صیغہ جمع انا اللہ بھی ایک گونہ اسلی بخش ہے کیونکہ اس میں دلالت ہے کہ میں تنہا میصیبت میں نہیں اور لوگ بھی میرے ساتھ شریک ہیں جیسے علمائے نے آیت عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُحِبَ عَلَى الَّدِينِ مِنْ قَبْلِكُمْ (ایے ایمان والو تم پر روزے (رمضان المبارک کے) فرض کے گئے جیسا ثم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے) (پ ۲) میں یہی نکتہ اشتراک کا بیان فرمایا ہے اسی کے قریب نکتہ ہے ایک نعبد کے جمع لانے میں۔ اسی لیے ایہاں تعظیم عابد کی پرواہ نہیں کی گئی۔ مگر اللہ بچاوے جہل سے۔ ایک جاہل ایک نعبد کی جگہ ایک عبد پڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ نعبد (ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ) میں اپنی تعظیم ہے۔ اس لئے عبد کہنا چاہئے شاید یہ جاہل یہاں بھی انی اللہ پڑھنے کی رائے دیتا۔ مگر اس جاہل نے یہ نہ سوچا کہ اگر اس میں کوئی نکتہ بھی نہ ہوتا تب بھی سب سے بڑی عبدیت تو امثال امر ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرمائیں کہ تم اپنے کو صیغہ جمع سے تعبیر کرو تو ہم کو ایسی لفظی تواضع کی کیا ضرورت ہے چوں طمع خواہد زم سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعد از اس جب دین کا بادشاہ مجھ سے حرص کی خواہش کرے تو اسکے بعد قناعت کی چوٹی پر مٹی ڈال دوں گا۔“

## امثال امر

ایک بار میں حضرت مولانا نارفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت مولانا

چارپائی کی پائیں طرف تھے مجھے سرہانے کی طرف بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ میں نے عذر کیا کہ حضرت سرہانے بیٹھنا بادبی ہے فرمایا جب ہم خود کہتے ہیں تو اب بادبی نہیں۔ چنانچہ بھر میں نے انکار نہیں کیا۔

اس پر مجھے ایک حکایت یاد آگئی۔ دارالشکوہ اور عالم گیر رحمۃ اللہ علیہ کی کہ دونوں کوتاج و تخت کی آرزو تھی۔ گوایک کو دنیا کیلئے اور ایک کوتراقی دین کیلئے۔ کیونکہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے ان کو طمع دنیا کے لئے سلطنت کی خواہش نہ ہوگی۔ بہر حال دونوں کو بزرگوں سے دعا کرانے کا خیال دامنگیر تھا۔ اور دارالشکوہ کو تو ہر طرح کے فقیروں سے بہت ہی اعتقاد تھا۔ مگر ایسا ہی جیسا آج کل کے بدعتیوں کو ہوتا ہے کہ بھنگڑوں سنگدوں کو ہی بزرگ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ خبر ملی کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں اور وہ واقعی بزرگ تھے۔ دارالشکوہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بزرگ نے شہزادہ کی خاطر کی اور اس کے لئے اپنی مند چھوڑ دی اور فرمایا شہزادے یہاں بیٹھو۔

دارالشکوہ نے تو اخعاذر کیا۔ انہوں نے دوبارہ فرمایا۔ جب بھی عذر کیا کہ میری کیا مجال ہے جو بزرگوں کی جگہ قدم رکھوں فرمایا بہت اچھا۔ اور وہ اپنی مند پر بیٹھ گئے۔ چلتے ہوئے دعا کی درخواست کی۔ مجھے گدی مل جائے فرمایا شہزادے ہم تو آپ کو گدی دے رہے تھے مگر افسوس! کتم نے اس کو رد کر دیا۔ اب تو دارالشکوہ کو بڑا رنج ہوا کہ میں نے بڑی غلطی کی جوان کے اصرار کے بعد بھی مند پر نہ بیٹھا۔ اب فکر یہ ہوئی کہ کسی طرح عالمگیر کو اس واقعہ کی خبر نہ ہو اور وہ ان کے پاس نہ آئے۔

مگر عالمگیر بھی حاضر خدمت ہوئے۔ بزرگ نے ان کے واسطے بھی مند چھوڑ دی اول تو انہوں نے بھی عذر کیا۔ مگر جب انہوں نے دوبارہ کہا تو چونکہ صاحب علم تھے اس لئے الامر فوق الادب کہہ کر اتنا امر کیا اور مند پر جا بیٹھے۔ چلتے ہوئے انہوں نے بھی تاج و تخت کے لئے دعا کی درخواست کی۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ تخت تو آپ کوں گیا مبارک ہو۔ بھی مند تخت ہے باقی تاج میرے قبضہ میں نہیں ہے۔ پوچھا۔ حضرت وہ کس کے قبضہ میں ہے کہا کہ وہ آپ کے ایک ملازم کے قبضہ میں ہے جو آپ کو وضو کرتا ہے اگر وہ اپنے ہاتھ سے آپ کے سر پر عمامہ یا ٹوپی رکھ دے تو تاج بھی آپ کوں جائے گا۔

عالمگیر نے سوچا کہ یہ کیا مشکل ہے وہ تو ملازم ہے اور بزرگ و متغیر آدمی عقد اجارہ کے لوازم سے انکار نہیں کر سکتا۔ جب ان کے سپردہ یہ کام ہے کہ وضو کرائیں اور کپڑے پہنائیں تو میرے کہنے سے وہ ضرور سر پر بھی ٹوپی یا دستار رکھ دیں گے (چنانچہ انہوں نے رکھ بھی دی جیسا آگے آتا ہے)

دوسرے خدا کو منظور ہی یہ تھا کہ عالم گیر کو تخت و تاج دونوں مل جائیں ورنہ ویسے کسی بادشاہ

کی کیا مجال جوان حضرات پر زبردستی کر سکے۔ دیکھئے ظاہر میں تو یہ شخص عالمگیر کا نوکر تھا۔ مگر باطن میں اتنا زبردست کہ عالمگیر حصول تاج میں انکی نظر عنایت کم تھا جو دوست نگرت تھے میں حقیر گدایاں عشق رائیں قوم شہاب بے کمر و خسروان بے کلہ اند عشق کے فقیروں کو حقیر خیال نہ کرو۔ یہ لوگ بے کمر بادشاہ اور بے تاج کے سلطان ہیں۔“ غرض! عالمگیر اپنے مکان پر پہنچے اور تھوڑی دیر پھر اٹھے اور اسی ملازم کو آواز دی جو وضو کرتا تھا۔ وہ وضول کا پانی لے کر حاضر ہوا۔ عالمگیر نے عمامہ اتار کر وضو کرنا شروع گیا اور وضو کر کے حکم دیا کہ یہ عمامہ ہمارے سر پر رکھ دو اس نے عذر کیا کہ میری مجال جو آپ کے سرتک ہاتھ لے جاؤں کہا نہیں ہمارے سر پر رکھنا ہو گا۔ مجبور ہو کر ان کے سر پر عمامہ رکھ دیا۔ اور اس فقیر کا نام لے کر بہت کوسا کہ اس کمخت نے میرا پرده فاش کیا۔ اس کے بعد وہ دہلی ہی سے غائب ہو گئے۔

یہ حکایت میں نے اس پر بیان کی ہے کہ امثال امر سب سے بڑا ادب ہے جیسا عالمگیر نے امثال امر کیا اور اس کی برکت سے بادشاہ ہو گئے اور راز اس میں یہ ہے کہ ادب بھی تو اسی واسطے مطلوب ہے تاکہ محبوب کو یا اپنے معظم کو راحت ہو یا اس کا حق ادا ہو اور بعض وقت اس کو امثال امر ہی میں خوشی ہوتی ہے گو بظاہر خلاف ادب ہو تو اس وقت امثال امر ہی لازم ہے۔

## القاء نسبت و سلب نشاط

دیکھئے! شادی میں ہم ناٹی کو اپنے سے بھی اچھا جوڑا دیتے ہیں اور وہ اس کو پہن کر کھلاتا پھرتا ہے کیوں؟ صرف اس لئے کہ آپ کی اسی میں خوشی ہے کہ وہ آپ کے جوڑا سے بھی بڑھیا جوڑا پہنے اور لوگوں کو کھلانے۔ اسی پر ایک اور حکایت یاد آگئی کہ حضرت مرزا مظہر جان جاتاں رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جس وقت جامع مسجد میں نماز پڑھ کر واپس ہوتے وہاں ایک بزرگ برا آمدہ میں بیٹھے ملتے۔ مرزا صاحب ان کے پاس جا کر ان کی جانماز الگ پھینک دیتے، تسبیح کو ادھر ادھر کر دیتے، عمامہ سر سے اتار دیتے، ایک دھول لگادیتے اور وہ بے چارے سب چیزوں کو سمیٹ سماٹ کر پھر بیٹھ جاتے۔ لوگوں کو یہ قصہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی کہ حضرت مرزا صاحب کی بزرگی اور ایک بزرگ کے ساتھ یہ حرکت۔

بالآخر بعض لوگوں نے جرأت کر کے اس کا سبب دریافت کیا تو مرزا صاحب نے فرمایا کہ جب ہم جوان تھے اور ہماری صورت شکل بھی اچھی تھی تو ہمارے چاہنے والے بہت تھے ان ہی میں یہ بزرگ بھی تھے اور اس زمانہ میں ہمارا ان کے ساتھ یہی معمول تھا جس سے یہ خوش ہوتے

تھے جب ہمارے دارہ میں آگئی تو سب عشق ایک ایک کر کے رخصت ہوتے گئے کیونکہ  
عشق ہائے کمزور پئے رنگے بود عشق نہود عاقبت ننگے بود  
جو عشق کردہ رنگ کی خاطر ہو گا۔ وہ عشق نہیں ننگ ثابت ہو گا۔

مگر یہ شخص محبت میں ثابت قدم رہے۔ ہمارے پاس اسی طرح آتے جاتے رہے۔ پھر  
جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو نسبت باطنیہ سے نواز ا تو ہمارے دل میں یہ آیا کہ یہ شخص وفادار ہے۔ لا ادا!  
ہم بھی اس کے ساتھ کچھ احسان کریں کہ جو دولت باطنیہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی اس میں  
سے اس کو بھی حصہ دیں۔ چنانچہ یہ ارادہ کر کے میں ایک دن ان کی طرف متوجہ ہوا تا کہ ان کے  
دل میں القاء نسبت کروں تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کا تو بڑا بلند مقام ہے۔

نقشبندیہ کے یہاں تصرفات بہت ہیں۔ القاء نسبت بھی ان ہی میں سے ایک تصرف ہے  
جس کی حقیقت استعداد نسبت کا القاء ہے جس سے دوسرے کے دل میں ایک قسم کا نشاط اور یکسوئی پیدا  
ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عمل کی ضرورت ہوتی ہے مگر عمل میں سہولت ہو جاتی ہے اور کسی وقت نسبت  
حقیقہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس تصرف کے بعد کسی نے عمل نہ کیا تو القاء سے خاک بھی نہ ہو گا۔ اور  
یہی حقیقت ہے سلب نسبت کی کہ وہ بھی دراصل نشاط عمل کا سلب ہے اور جب عمل میں نشاط نہیں رہتا تو  
عادۃ عمل میں کمی ہو جاتی ہے حتیٰ کہ کبھی فرائض و واجبات میں کمی آ کر نسبت باطنیہ سلب ہو جاتی لیکن  
اگر کوئی شخص سلب نشاط کے بعد عمل میں کوتاہی نہ کرے تو اس سلب سے کچھ ضرر نہ ہو گا۔ اس لئے یہ  
صرف اسی مقام پر جائز ہے جہاں سلب نشاط سے رک عمل کا اندیشہ نہ ہو بلکہ کسی کو غلبہ میں حقوق واجبہ کا  
بھی اہتمام نہ رہا تھا۔ اس غلبہ کو سلب کر لیا گیا یہ جائز ہے اور جہاں اس کا اندیشہ ہو وہاں حرام ہے۔

غرض مرزا صاحب نے فرمایا کہ ہم اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ تو بڑے عالی مقام  
بزرگ ہیں اسی وقت ہم ان کا ادب کرنے لگا اور بے تکلفی برتاب و بدل دیا جو پہلے سے معمول تھا۔ اس پر یہ کہنے لگے  
کہ مرزا اپنی خیر چاہتا ہے تو اسی طرح رہو جس طرح اب تک رہے تھے۔ اور اگر تم نے اپنا طرز بدل لای تو یاد رکھنا سب  
دولت سلب کروں گا۔ جو پوٹھہ کی طرح بغل میں دبائے پھرتا ہے تو اب اپنی دولت کا سلب کوں چاہتا ہے  
گواں کی حقیقت سلب نشاط ہی ہے جیسا اور بیان ہوا اور حقیقت نسبت سلب نہیں ہوتی۔

مگر وہ نشاط معین تو ہوتا ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ

بر دل سالک ہزاراں غم بود      گرز باغ دل خلا لے کم بود

سالک کے دل پر ہزاروں غم ہوتے ہی۔ اگر دل کے باغ سے ایک خلاں کم ہو جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ اس کے سبب کے بعد ہر وقت صبر و مقاومت کرنا بڑی ہمت کا کام ہے اس لئے مجبوری ان بزرگ کی مرضی کے لئے سب کچھ کرتا ہوں وہ اسی میں خوش ہیں غرض امثال امر بڑی چیز ہے چوں طمع خواہد زمِن سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد از اس جب سلطان دین مجھ سے طمع کی خواہش کرے تو قناعت کے سر پر خاک ڈالو۔

ضرورت اعتدال

مگر امثال امر میں بھی بعض کو غلو ہو جاتا ہے چنانچہ اہل ظاہر نے اس غلو سے ضروری اجتناب کو بھی ترک کر دیا۔ یہ بھی نہ چاہئے۔ افراط و تفریط تو ہر چیز میں مذموم ہے ضرورت ہر امر میں اعتدال کی ہے۔ غرض ایا ک نعبد کو کسی تنقیح احکام نے ایا ک اعبد نہیں پڑھا۔ اسی طرح انا للہ (ہم اللہ ہی کے ہیں) کو انی للہ (میں اللہ ہی کافی ہوں) نہیں پڑھا۔ باقی آج کل کے مدعوں ذوق جو حقیقت میں بد ذوق ہیں۔ اگر نعبد (ہم عبادت کرتے ہیں) کو اعبد (میں عبات کرتا ہوں) اور انا للہ کو انبیے للہ کرنے لگیں تو اس کا کچھ علاج نہیں۔

میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تلاوت قرآن مجید میں بھی اللہ الصمد (اللہ تعالیٰ پر نیاز ہیں) نہیں پڑھتا تھا اس کو چھوڑ جاتا تھا اور کم بخوبی کہتا کہ پناہ اس نام سے اس نے ہی بہت لوگوں کو تباہ کر دیا ہے اس میں بڑا جلال ہے (نحوذ بالله من هذه الهدى ياتا) (ان بکواسوں سے اللہ پناہ میں رکھے) یہ سب خراپی سے ذوق کو نصوص پر ترجیح دینے کی اسی لئے مجدد صاحب فرماتے ہیں۔

مارا نصوص در کارست فصوص در کار نیست (ہمیں نصوص کی ضرورت ہے فصوص کی ضرورت نہیں) اس میں صاحب فصوص کی عظمت سے انکار نہیں۔ ان کی نسبت تو خود مجدد صاحب کا ارشاد ہے کہ از مقبولاں نظری آید بلکہ نصوص کا انکار ہے یعنی ان ذوقیات کا جواں کتاب میں مذکور ہیں (اور یہ انکار بھی اس لئے ہے کہ نصوص میں یہودی و سببہ کاری سے بعض مضمایں خلاف نصوص ملا دیئے گئے ہیں ورنہ کتاب کا صحیح نسخہ مخالفت نصوص سے بالکل پاک ہے ذکرہ القطب الشعراً فی الیواقیت) غرض یہاں دنیا میں بھی پل صرات کی طرح چاروں طرف کلائیب ہیں کائنے ہیں۔ سیدھے چلے چلو۔ اوہر ادھر کونہ بھٹکو۔ ورنہ گمراہی کے گڑھے میں گرو گے۔

**وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔** (اور دوسری راہوں پر ملت چلو کے وہ

راہیں تمیں اللہ تعالیٰ سے جدا کر دیں گی) اور سید ہے چلتے ہوئے بھی رب سلم رب سلم کا ورد رکھو جو حضرات انبیاء علیہم السلام کا وظیفہ ہو گا پل صراط پر (اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا پل صراط اگر خوبی سے طے ہو گیا اور یہاں اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمادی تو آخرت کا پل بھی آسانی سے طے ہو جائے گا۔ فان الدنیا مزرعة الآخرة۔ (پس دنیا آخرت کی بھیتی ہے)

### ازالہ حزن و غم

میں نے یہ کہا تھا کہ ان اللہ میں صیغہ جمع بھی موجب تسلی ہے کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بتلائے مصائب میں تنہائیں ہوں بلکہ اور بھی بہت ہیں اور قاعدہ ہے کہ مرگ انبوہ بخشے دارو۔ چنانچہ جب بہت آدمی جیل میں جا رہے ہوں تو وہ بھی نگر سامع معلوم ہونے لگتا ہے بلکہ پچھلے دنوں تو بعض لوگ تمنا کیا کرتے تھے کہ حکومت ان کو جیل میں بھیج دے کیونکہ اس جیل کے بعد قوم میں عزت ہوتی تھی تو وہ جیل ہی معلوم نہ ہوتا تھا۔ دوسرے پہلے تو کوئی معمولی آدمی جیل میں جاتا تھا۔ اب بڑے بڑے آدمی جانے لگے اور بہت جانے لگے تو جیل خانہ مصیبت نہ رہا۔ اور دیکھنے روزہ رکھنا بہت دشوار ہے مگر رمضان میں آسان ہے کیونکہ سب کا ایک ہی حال ہوتا ہے۔

ممکن ہے کوئی مصیبت زدہ اس طریق تسلی کی نسبت شہر کرے اور یہ کہے کہ گو بتلائے مصیبت دوسرے بھی ہیں۔ مگر میرے اوپر سب سے زیادہ مصیبت ہے۔ مگر یہ تو تفتیش کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ تفتیش کرو تو یقیناً بعضے تم سے بھی زیادہ مصیبت میں گرفتار میں گے۔

اب یہاں ایک یہ بات قابل غور ہے کہ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُуْنَا (کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں) کی تعلیم میں مقصود تو اہل مصائب کی تسلی اور ازالہ حزن و غم ہے لیکن ظاہر اس مقصود اور اس کے طریق میں ربط نہیں معلوم ہوتا۔ یعنی مصیبت کے بیان میں دفع مصیبت کا طریقہ بتایا نہیں بلکہ صرف یہ بتا دیا کہ وہ یوں کہتے ہیں تو اس کہنے کو مقصود سے کیا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم بے ربط نہیں ہو سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ کسی جگہ آپ کی سمجھ میں ربط نہ آئے۔

اور گو تکلف سے تو ربط گھر نانہ چاہئے لیکن بے تکلف سمجھ میں آجائے اور نصوص سے موید ہو تو کچھ حرج نہیں بلکہ مستحسن ہے کیونکہ تعلیم الہی میں بے ربطی نہیں ہو سکتی۔ سو أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ (پس جب ان پر مصیبت آتی ہے) اور قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ (تو وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ کے لئے ہیں) میں گو ظاہر ربط نہیں معلوم ہوتا۔ مگر غور کیا جائے تو اس قول ہی میں دفع مصیبت کا طریقہ بتایا گیا ہے کیونکہ تمام ترشیش کا مدار اس پر ہے کہ آدمی اپنے کو اپنا سمجھتا ہے دوسرے کا نہیں سمجھتا۔

## راحت تفویض

جو شخص اپنے کو دوسرے کا سمجھتا ہے وہ بڑی راحت میں رہتا ہے چنانچہ ابن عطاءؑ نے بغداد کے ایک غلام کا قصہ لکھا ہے کہ زمانہ قحط میں تمام لوگ پریشان تھے۔ مگر وہ خوش پھرتا ہے کسی نے اس سے کہا کہ تجھے نقطے تشویش نہیں۔ کہنے لگا مجھے کیا غم۔ میں توفلاں رئیس کا غلام ہوں۔ جس کے کئی گاؤں ہیں اور وہ میرے کھانے پینے پہنچنے کا ذمہ دار ہے۔

تو دیکھئے تفویض میں کس قدر راحت ہے۔ اسی طرح عورتیں اپنے آپ کو اپنا نہیں سمجھتیں بلکہ مردوں کا سمجھتی ہیں۔ تو مردوں کی نسبت سے ان کو فکر و تشویش کم ہے۔ غرض تفویض راحت کی بنیاد ہے۔ اس میں خاصیت ہے راحت بخشی کی۔

پس انا اللہ میں اسی کی تعلیم ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے پھر ہم کو کسی چیز کے جانے یا نہ ہنے کا کیا غم؟ جس کی چیز تھی وہی اس کا محافظ ہے اور وہی لینے والا ہے۔ اب شرط و جزا میں ربط کامل ہو گیا اور یہی ربط اَنَا إِلَيْهِ رَجُعُونَ میں بھی ہے کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں یعنی اور جو وہاں پہنچ جائے گا اس کو ہر طرح کا چیز ہے تو اس میں تعلیم ہے کہ اپنے نفس کو یہ کہہ کر تسلی دو کہ دنیا چند روزہ ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر ہی راحت نصیب ہو گی اور قاعدہ طبعیہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جو وعدہ کر لیتا ہے اس سے نفس کو راحت ملتی ہے جیسے مزدور اپنے نفس سے وعدہ کر لیتا ہے کہ شام تک محنت کریگا تو چار آنے یا پانچ آنے ملیں گے۔ اس وعدہ سے نفس کو دن بھر کی محنت آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اَنَا إِلَيْهِ رَجُعُونَ (ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں) میں بھی نفس سے ایک وعدہ ہے۔

مگر یہاں یہ تفصیل مذکور نہیں کہ جوع الی رب کے بعد کیا ہوگا کیونکہ قرآن میں ہر طبقہ کے جذبات کی رعایت ہے، عشق کی بھی اور مزدوروں کی بھی۔ عشق کی تسلی کے لئے تو اتنا ہی بس ہے کہ ہم بھی ایک دن اللہ کے پاس پہنچیں گے اور وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان کے لقاء سے تمام کلفتیں ختم ہو جائیں گی۔

## راحت دنیا و آخرت

دوسراندیق ہم جیسے مزدور کا ہے کہ وہ مزدوری ملنے سے خوش ہوتا ہے ان کے لئے دوسرے مقامات پر تفصیل کر دی گئی ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی جس میں ہر قسم کی نعمتیں اور راحیں

ہیں۔ رہایہ سوال کہ مرنے کے بعد ہم کو راحت ہی ہوگی اس کا کیا بھروسہ؟ ممکن ہے کہ جنت کے بجائے دوزخ میں بھیج دیا جائے تو اس سے تو دنیا ہی اچھی تھی۔

اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہئے کہ ان شاء اللہ ہم کو جنت ہی ملے گی۔ اور ان کا وعدہ ہے اتنا عند طن عبدی لی۔ جب یہ امید قائم کرو گے تو ان شاء اللہ تم کو جنت ہی ملے گی۔ دوسرے فرض کر لو کہ دوزخ ہی میں جانا ہوا تب بھی مسلمان کو موت سے نہ ڈرنا چاہئے کیونکہ مسلم کی ایک حدیث ہے جس کو میں بیان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تاکہ کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ میں لوگوں کو بے فکر کرنا چاہتا ہوں۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چھپایا تو میں کیوں چھپاؤں اور کوئی شبہ کرے تو کیا کرے۔ میرا مقصود عصا کو جری کرنا نہیں ہے بلکہ اس امیدوں کو امیدوار بنانا ہے۔

تو مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں عصا مسلمین کے متعلق ارشاد ہے اما تهم اللہ فی النار اماتہ یعنی جن کنہگار مسلمانوں کو جہنم میں داخل کیا جائیگا انکو ایک قسم کی موت دے دی جائیگی جس سے جسم پر تو عذاب کا اثر ہو گا مگر روح کو شدید احساس نہ ہوگا۔ اور بعض اہل کشف کا کشف یہ ہے کہ کنہگار مسلمانوں پر دوزخ میں گہری نیند مسلط کی جائیگی جس میں وہ خواب ایسا دیکھتے رہیں گے کویا جنت میں ہیں وہاں کی نعمتوں سے متعتم ہو رہے ہیں تو روح اس خواب راحت میں مشغول ہوگی اور جسم عذاب میں ہو گا۔

اگر اس کشف کو حدیث کی تفسیر کہا جائے تو کچھ بعید نہیں۔ پس عشق کے نزدیک تو یہاں کی راحت سے وہاں کی مصیبت بھی بہر حال اچھی ہے کیونکہ وہاں کی مصیبت کا خطرہ ہے۔ نیز محبوب کے پاس پہنچ کر راحت ہو یا مصیبت۔ مگر اس حدیث کے بعد تو عشق وغیر عشق سب یہی کہیں گے کہ دنیا سے بہر حال آخرت اچھی ہے کیونکہ وہاں کی جنت تو راحت ہے ہی دوزخ میں بھی مسلمان کے لئے راحت ہی ہے۔ پس إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُعُونَ میں ایک وجہ تسلی تو یہ ہوئی کہ موت سے مصالب دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور آخرت کی راحت شروع ہو جائے گی۔ دوسری وجہ یہ کہ انا صیغہ جمع میں وہ میت بھی داخل ہے جس کی موت پر نفس کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم سب وہیں جانے والے ہیں۔ جہاں وہ گیا ہے وہاں پہنچ کر اس سے ملنا ہو جائے گا اور ایسا ملتا ہو گا کہ پھر کبھی جدائی نہ ہوگی۔ ان مضامین کے سوچنے سے ان شاء اللہ نفس کو تسلی ہو جائے گی۔

### مصیبت کے آداب

میں یہ نہیں کہتا کہ غم نہ رہے گا بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت غم رہنا چاہئے اور اگر

موقع ملائکتی جلسہ میں اس کی مصلحت بھی ان شاء اللہ بتلا دوں گا۔ مگر یہ ضرور ہے کہ ان مضمایں کے استحضار سے غم ہلاکا ہو جائے گا تو مصیبت کے یہ آداب ہیں جو اس آیت میں بتائے گئے ہیں۔ ادب کا لفظ بہت عام ہے احکام کو جھی آداب کہتے ہیں تو مصیبت کا ادب یہ ہے کہ زبان سے تو اُن لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں) کی کثرت کرے اور دل سے ان باتوں کو سوچے اور ان کے ذریعے سے اپنے نفس کو تسلی دے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے حال پر کس قدر رحمت و شفقت ہے کہ ان کو ہمارا زیادہ غم گوار نہیں گویا فرماتے ہیں کہ گوہم نے حکمت کی وجہ سے تم کو نج دیا ہے مگر تمہارا زیادہ خیزیدہ ہونا، پریشان ہونا، ہم کو گوار نہیں۔ اس لئے مصیبت کے موقع پر تم اس طرح اپنے آپ کو تسلی دیا کرو اور دل بہلایا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ کے غم کے ناگوار ہونے کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

ما ترددت في شيء تردد في قبض نفس عبدى اريد لقاءه وهو يكره الموت

ولن يلقاني حتى يموت (الحاف السادة المتقين ۵: ۲۹۵). او كما قال

يعنى اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کام میں ایسا ترد نہیں ہوتا جیسا اپنے بندے کی جان قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے (اس کی تفسیر ہم نہیں کر سکتے بلکہ اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ساتھ کس قدر تعلق ہے کہ موت سے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی ان کو گوار نہیں حالانکہ موت ضروری اور لا بدی ہے) جس طرح مصیبت زده کو خود تسلی کا مضمون سکھایا گیا ہے اسی طرح رسول کو بھی حکم ہے کہ مصیبت زده کو تسلی دیں چنانچہ تسلی دینے کی فضیلت حدیث میں بہت آئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت و رحمت کی دلیل ہے کہ خود بھی اپنے بندے کو تسلی دیتے ہیں اور کوئی دوسرا تسلی دے تو اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں حدیث میں ہے:

من عزى ثقلی كسى بدا فى الجنة (سنن الترمذی: ۶۰۷، ۱)

مشکوحة المصابيح : ۱۳۸) او كما قال

جو ایسی عورت کو تسلی دے جس کا بچہ مر گیا ہو اس کو جنت میں (بڑھیا) چادریاں بیاس پہنایا جائیگا۔

اور من عنرى مصاببا فله مثل اجره (سنن الترمذی: ۳۰۱، سنن ابن

ماجہ: ۱۶۰۲) او كما قال

جس نے کسی مصیبت زدہ کی تسلی کی اسکو مصیبت زدہ کے برابر ثواب ملے گا۔

یہ تو قول کلی کے طور پر بیان تھا مقصود آیت کا۔

## آدابِ مصیبت کی تفريعات

اب اس کی دو چار تفريعات بیان کرتا ہوں۔

۱: ایک یہ کہ اس آیت میں تسلی کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کی حقیقت مراقبہ ہے پس اس مضمون کو زیادہ سوچنا اور ذہن میں حاضر رکھنا چاہئے خصوصاً جس وقت رنج و غم کا غلبہ ہو اور اگر کسی وقت مراقبہ دشوار ہو تو زبان ہی سے اَنَا لِلَّهِ وَ اَنَا إِلَيْهِ رَجِعُونَ کی کثرت رکھے۔

۲: دوسرے یہ کہ امراض کی فضیلت کو یاد کرے۔ حدیثوں میں مختلف امراض کی مختلف فضیلیتیں وارد ہیں۔ بخار کی فضیلت میں آیا ہے کہ وہ مسلمان کو گناہوں نے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح خاص امراض کے متعلق جدا جد افاضائیں ہیں ان کو یاد کر کے میت کے متعلق امید کی جائے کہ ان شاء اللہ اس کو یہ فضائل حاصل ہوئے ہیں۔

۳: اسی طرح مصیبت کے اجر کو یاد کر کے اپنے آپ کو تسلی دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں یہ ثواب دینا مقصود تھا اس لئے رنج و غم دیا۔ حدیثوں میں ہر ہر مصیبت پر ثواب کا وعدہ ہے حتیٰ کہ کائنات لگ جائے یا جیب میں رکھ کر کوئی چیز بھول جائے تو س ادنیٰ سی تکلیف پر بھی ثواب کا وعدہ ہے۔

بچوں کے مرنے پر شفاعت کا وعدہ ہے کہ بچے اپنے والدین کے لئے حشر میں شفاعت کریں گے اور بہاں بھی بچے ہی ہے اور بہاں بھی ضد کرے گا اور اس کی ضد پسند کی جائے گی۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہوا جمل بھی اللہ تعالیٰ سے ضد باندھے گا جب اسکے ماں باپ دوزخ میں داخل کئے جائیں گے ارشاد ہوگا ایہا السقط المرا غم ربہ ادخل ابویک الجنة (المصنف لابن أبي شيبة: ۳۵۳: ۳) اے ضدی بچے اپنے رب سے ضد کرنے والے لے

۱ روی ابن ابی شيبة فی الصنف عن ابی هریرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه عاد مريضا من وعک کان به فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم البشر ان الله تعالى يقول هي ناری اسلطها على عبدی المؤمن في الدنيا ليكون حظه من النار في الآخرة وعنه مرفوعاً ذكرت الحمى عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فبها رجل فقال له لا تسبها فانها تبقى اللذوب كما تبقى النار حيث الحديد وعن ابی هریرة مولانا قال ما وقع يصيني احبت الى من الحمى انها تدخل في كل مفصل من ابن ادم وان الله ليعطي كل مفصل قسطا من الاجر (صفحة ۷۰) قلت وللموقوف في مثله حكم الرفع وسد الاخير صحيح والا ولین ما بين صحيح وحسن والله تعالى اعلم عن ابی سعید و ابی هریرة مر فوعاً ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم بهمه الا كفر الله عنه من خطایاہ رواہ ابن ابی شيبة بسند حسن صحيح عن ابی حسن صحيح الا اذا ترددت فی کون الا سنا دو حمنا او صحیحاً ۱۲۰ ظ.

اسپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا۔ فیجر هما بسر رہ حتیٰ ید خلہما الجنة۔

## شبان موسیٰ<sup>۱</sup>

پھول کی ضد جو کہ بظاہر گستاخی ہے پسند کئے جانے پر مجھے ایک حکمی مجدوب کا قصہ یاد آگیا۔ یعنی شبان موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ نہ معلوم مولانا نے کہاں سے لکھا ہے۔ مگر قواعد کے خلاف نہیں اس لئے اس کا ذکر بے جائزیں۔ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی ہی باتیں کی تھی۔ جیسے پچ کرتے ہیں کیونکہ پچ اور مجدوب ایک ہی حکم میں ہیں۔ دونوں مرفوع القلم ہیں۔ اس پر یہ اشکال ہو گا کہ پھر وہ کیسے مقبول ہوا کیونکہ جذب مانع اثم تو ہے مگر سبب قبول نہیں۔

جواب یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاص<sup>۲</sup> کی وجہ سے مقبول ہوا جس کی تائید ابو داؤد کی ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک شخص نے ایک مقدمہ میں واللہ الذی لا اله الا ہو کہہ کر جھوٹی قسم کھائی تو حضور نے فرمایا کہ تیری قسم تو جھوٹی ہے مگر خدا کا نام تو نے ایسے اخلاص سے لیا ہے کہ اس نے گناہ سے بھی تجوہ کو پھادیا اور مقبول بنادیا اور کما قال۔

اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص فی الطاعة گناہ کے ساتھ بھی جمع اور نافع ہو سکتا ہے تو جہل کی باتوں کے ساتھ بدرجہ اولیٰ جمع ہو سکتا ہے جو شبان موسیٰ<sup>۳</sup> سے صادر ہوئیں۔

اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ جب اس کی باتیں جہل سے ناشی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام کو امر بالمعروف سے کیوں منع کیا گیا۔ جیسا مشتوی میں مذکور ہے۔ جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو امر بالمعروف<sup>۴</sup> سے منع نہیں کیا گیا بلکہ زیادہ تباہ نے سے منع کیا گیا تھا کہ انہوں نے اسے کافر، ہی بنادیا تھا جس سے وہ سہم ہی گیا تھا۔

مطلوب ممانعت الہیہ کا یہ تھا کہ جیسا اس کا جہل اور تکلم بالجہل امر بالمعروف کو مقتضی تھا۔ اسی طرح اس کی دوسری حالت یعنی محبت و اخلاص دوسرے معاملہ یعنی رعایت کی مقتضی تھی۔ پس امر بالمعروف میں نرمی کی کیا ضرورت تھی۔

۱۔ یعنی الا خلاص المقدم على الجذب فان الا خلاص يستدعي الاختيار وهو نیا في الجذب نعم ان الجذب لا يقطع الا خلاص المقدم كما لا يقطع الایمان عالم بوجدة المنافي ااظ.

۲۔ ولا يخفى انه لا يومر بالمعروف الا العاقل فلا يصح ماصر عن كون هذا الرجل مذوقا قدر فع عنه القلم فليتمالء ااظ ولواريد بالمجنوب الحكمى لا يرد عليه شيء ااظ اشرف وظفني انه لم يكن مجنوبا بابل كان مجا مخلصا لله جاهلا عن مسائل الذات والصفات تفكلم في شأنه بما يقضى تجسمه وعقيدة التجسم لم ينج منها كثير من اهل العلم واعقل فكيف براع جاهل بدوى ااظ.

## حب و بعض

اس پر مجھے ایک قصہ یاد آگیا اور میرا جی چاہتا ہے کہ سب احباب کے کانوں تک یہ واقعہ پہنچ جائے تاکہ افراط و تفریط میں بنتا نہ ہوں۔

واقعہ یہ ہے کہ شیخ محی الدین کو ایک عالم سے اس نے بعض تھا کہ ان عالم کو ان کے شیخ ابو مدین سے بعض تھا جس کی وجہ پر کچھ روایات تھیں۔ شیخ محی الدین فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے اس کی وجہ دریافت فرماتے ہیں کہ تم فلاں عالم سے کیوں بعض رکھتے ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے شیخ سے بعض ہے حضور نے فرمایا لیکن اس کو میرے ساتھ تو محبت ہے۔ بس تم نے اس کے ساتھ اس نے تو بعض کیا کہ اس کو ابو مدین سے بعض ہے مگر اس نے محبت نہ کی کہ اس کو میرے ساتھ محبت ہے۔

اس واقعہ میں بتلا دیا گیا کہ کسی کے ساتھ حب و بعض کے لئے محض اتنا کافی نہیں کہ اس کو ہمارے معتقد فیہ کے ساتھ محبت یا بعض ہے بلکہ دوسرے پہلوؤں پر بھی نظر کرنا چاہئے۔ اگر کسی کو ہمارے محبوب یا ہمارے معتقد فیہ سے محبت ہے تو طبعاً ہم کو اس کے ساتھ محبت ہونا لازمی ہے۔

مگر اس محبت کا اثر یہ ہونا چاہئے کہ دوسرے نظر سے غائب ہو جائیں۔ مثلاً اگر وہ اس حالت محبت میں حقوق اللہ یا حقوق الرسول میں کوتا ہی کرتا ہو تو اس پہلو کا حق ادا کرنے کے لئے اس سے کچھ بعض بھی کرنا چاہئے جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کر لے اسی طرح اگر کسی کو ہمارے استاد یا شیخ سے بعض ہو تو اس کے ساتھ طبعی بعض کسی قدر ضرور ہو گا۔ مگر اس کے ساتھ دوسرے پہلوؤں سے قطع نظر نہ کرنا چاہئے۔ یعنی اگر اسکے اندر دوسری خوبیاں اور بھلاکیاں بھی ہوں تو ان کا حق بھی ادا کرنا چاہئے۔

آگے حکایت کا تتمہ ہے کہ شیخ محی الدین کی ان عالم سے اور ان عالم کی ابو مدین سے صفائی ہو گئی۔ یہ مجھ کو اس پر یاد آگیا کہ اسی طرح موی علیہ السلام کو قصہ شبان میں امر بالمعروف کی ممانعت نہیں کی گئی تھی۔ بلکہ اس کی محبت و اخلاص کے پہلو بھی رعایت کا امر ہوا تھا کہ اس رعایت کے ساتھ امر بالمعروف ہونا چاہئے تھا۔ اور شبان موی علیہ السلام کا قصہ اس پر چلا تھا کہ قیامت کے دن پچھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ضد کریں گے۔ جیسا دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ ضد کیا کرتے ہیں اور ان کی ضد پسند کی جائے گی جیسا شبان کی باتیں پسند کی گئیں۔ حالانکہ درحقیقت وہ باتیں شانِ خداوندی کے خلاف تھیں مگر اس کے اخلاص و محبت کی وجہ سے ان کو پسند کیا گیا۔

## ثواب مصیبت اور تسلی نفس

اب میں پھر اصل مقصود کی طرف عود کرتا ہوں کہ مصیبت کا ثواب یاد کر کے اپنے نفس کو تسلی دینا چاہئے۔ سوا اولاد کے مر نے پر صبر کرنے سے بڑا ثواب ہوتا ہے۔

چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس عورت کے قین پچھے مر گئے ہوں وہ جنت میں داخل ہو گی صحابیہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جس کے دو مرے ہوں فرمایا وہ بھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ دو کے بعد ابی بن کعب نے کہا میرا ایک ہی پچھے مرا ہے فرمایا ایک بھی۔

ایک ایسی ہی حدیث ہے کہ حضرت عائشہؓ نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کسی کا ایک بھی بچہ نہ مرا ہو۔ فرمایا آپؐ نے، اس کے لئے میں ہوں۔

اور ایک ایسی ہی حدیث میں ہے۔ فلیتتعز بی فانهم لن يصابوا بمثلی او كما قال یعنی وہ مجھے یاد کر کے تسلی کر لیا کرے کیونکہ میری امت کو میری فرقہ کے برابر کوئی مصیبت نہ ہو گی۔ (سبحان اللہ! حضور مسیح امتحان کے ساتھ کس قدر محبت تھی بھی تو آپ کو یقین تھا کہ میری امت کو بھی میرے ساتھ بہت محبت ہو گی اور میری وفات کے برابر ان کے لئے کوئی مصیبت نہ ہو گی۔)

ایک روایت میں بچوں میں لم یلغوا الحنت کی بھی قید آتی ہے یعنی جس کے پچھے نابالغ مر گئے ہوں اس کے واسطے جنت ہے۔ اس بلوغ کے متعلق میرا خیال یہ ہے کہ یہاں حقیقی بلوغ مراد ہے یعنی جو خاص علامات ظاہر ہونے کے بعد ہو۔ اور فقہا نے جو پندرہ برس کی عمر پر بلوغ کا حکم کیا ہے اور وہ بھی علی الاختلاف، یہ بلوغ فی الاحکام الدینیا کے لئے ایک معیار ہے حقیقی بلوغ کا معیار نہیں۔ پس جس طرح شہید کی وفات میں ہیں ایک شہید آخرت یعنی شہید فی الاحکام الآخریہ و مسرے شہید فی الاحکام الدینیہ۔

اسی طرح بلوغ کی بھی وفات میں ہیں۔ ایک بلوغ حقیقی یعنی بلوغ فی الاحکام الآخریہ۔ وہ تو خاص علامات کے ظہور پر ہو گا۔ دوسرے بلوغ فی الاحکام الدینیہ یہ پندرہ برس کی عمر سے ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بچہ عمر کے لحاظ سے پندرہ برس کا ہو گیا ہو مگر اس میں علامت بلوغ نہ پائی گئی ہوں۔

جیسی حالت وعظ کی موضوع مرحومہ کی تھی میرے خیال میں عند اللہ وہ نابالغ ہے۔ اور لم یلغوا الحنت لے کا مصدقہ ہے اور یہ سب اجر و فضیلت اس سے متعلق ہو گی اور چونکہ قطعی دلیل اس خیال

لے برخورداری اختری مرحومہ کی عمر تو پندرہ برس پندرہ دن کی ہوئی مگر جو شے دس برس سے زیادہ معلوم نہ ہوتی تھی۔ اور کوئی علامت بلوغ کی اس میں موجود نہ تھا۔ اس لئے حضرت کے خیال میں احکام آخرت میں وہ نابالغ ہی تھی۔ ۱۲۔

کی نفی پر نہیں ہے اسلئے انا عنده طن عبدی بی کی بنا پر یہ مگان قائم کرنے کی گنجائش ہے خصوص جب کہ بعض فقہاء نے بدلوں ظہور علامات پندرہ برس کی عمر میں احکام دینیویہ میں بھی نابالغ قرار دیا ہے تو احکام آخرت میں تو اور بھی وسعت ہے ان کے باب میں اگر کوئی اس قول عدم۔ بلوغ کو لے کر انا عنده طن عبدی بی کی توقع رکھئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسی کے موافق معاملہ فرمائے کی امید ہے۔

ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایصال ثواب کے بارہ میں بھی جس کی تقسیم و عدم تقسیم کے باب میں کوئی نص قطعی نہیں اور اسی وجہ سے اس میں اختلاف ہوا ہے۔ یہی فرمایا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے امید ہی ہے کہ جب ہم چند آدمیوں کو ایک عمل کا ثواب پہنچاتے ہیں تو سب کو برابر ہی پہنچتا ہے تقسیم ہو کر نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ کمی تھوڑا ہی ہے۔

### مراقبہ راحت

غرض! یہ صورتیں ہیں تسلی حاصل کرنے کی۔ ان سے کام لینا چاہئے۔ کیونکہ انسان دنیا میں اپنی راحت ہی کے لئے سب کچھ کرتا ہے۔

بعض دفعہ حصول راحت کے لئے مصائب کو بھی برداشت کرتا ہے۔ دو ایں، اپریشن میں، سفر میں، نوکری میں تکلیف ضرور ہوتی مگر اسی لئے سب کو کیا جاتا ہے کہ بعد میں آرام ملے گا۔

سفر میں گھر سے دور رہتے ہوئے دل کو یہی تسلی دیتے ہیں چند روز کے بعد وطن واپس پہنچ کر آرام سے کھائیں گے۔ اور اصلی وطن تو ہمارا دوسرا ہے.....

یعنی آخرت اور وہ اب بھی موجود ہے۔ اس طرح سے کہ آخرت کے دو حصے ہیں۔

ایک تو زمان آخرت۔ ایک مکان آخرت۔ سوزمان آخرت تو بعد قیامت کے شروع ہو گا۔ مگر مکان آخرت تواب موجود ہے وہ کہاں ہے؟ وہ حچمت کے اوپر ہے۔ یہ آسمان ہماری حچمت ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا اور جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ پس ہماری حچمت پر جنت موجود ہے جو ان شاء اللہ ہمارا اصلی گھر ہے۔ سوا سراقبہ میں کوئی تکلف بھی نہیں کہ ہماری حچمت کے اوپر جنت ہے اور اس وقت موجود ہے چند روز کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہاں پہنچیں گے۔ اور بڑی راحت و فرحت کے ساتھ وہاں رہیں گے اس سے بڑی تسلی ہو گی۔

یہ صورت تسلی کی اہل سنت ہی کے عقیدہ پر ہو سکتی ہے جو وجود جنت و ناری الحال کے قابل ہیں۔ معذلہ کو مبارک ہو کہ انہوں نے وجود جنت کی نفع کر دی۔ باوجود یہ کہ ان کے پاس نفی کی کوئی ولیل نہیں

بجز اس کے کہ پہلے سے پیدا ہونا... فضول اور بضرورت ہے۔ مگر ان عقولاء نے یہ سمجھا کہ فضول و عبث کے اگر یہ معنی ہیں کہ ہم کو اس میں حکمت نہ معلوم ہو تو نہ معلوم کتنی چیزوں کو فضول کہنا پڑے گا۔ حالانکہ ان کا وجود مشاہدہ ہے مگر ہم کو ان کی حکمت کا علم نہیں۔ اور اگر یہ معنی ہیں کہ واقع میں فائدہ و حکمت سے خالی ہو تو تمہارے نہ جانتے سے یہ کیوں کر لازم آگیا کہ واقع میں بھی اس میں حکمت نہیں۔ اور ایک حکمت تو ابھی میری تقریر سے معلوم ہو گئی۔ کہ جنت کے وجود سے اس کا مراقبہ ہل اور مفید تر ہو گیا اور اس سے اہل ایمان کو بڑی تسلی ہوتی ہے۔ اور معدوم کا مراقبہ نہ ہل ہے نہ اس قدر مفید۔ اور تسلی بہت بڑی چیز ہے جس کا شریعت نے خاص اهتمام کیا ہے۔ جیسا میں اور پر بیان کر چکا ہوں۔

بس اب ان لوگوں کا انکار جنت ویسا ہی ہوا جیسا کہ کسی شخص نے روپیہ قرض لے کر مکان بنایا تھا۔ قرض خواہ نے رقم کا تقاضا کیا تو آپ نے غصہ میں آکر اس گھر ہی کوڈھا دیا کہ جاؤ ہم نے تمہارے روپیہ کا گھر ڈھا دیا۔ اب لے لو قرض کس سے لو گے۔ بھلا اس سے کوئی پوچھے کہ گھر ڈھا کرتونے کس کا نقصان کیا؟ قرض خواہ کا قرضہ تواب بھی بدستور رہا تیراہی نقصان ہوا۔

اسی طرح معزلہ انکار وجود جنت سے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں ہمارا کچھ نقصان نہیں کرتے نہ ہمیں ان کے ساتھ بحث کی ضرورت بلکہ ہم تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ایسی جنت آپ ہی کو مبارک ہو جو اس وقت معدوم ہے۔

ہماری جنت تو اسی وقت موجود ہے اور ہم مرتے ہی ان شاء اللہ اس کو دیکھ لیں گے۔ اس کی ہوا کھائیں گے۔ خوب سو نگھیں گے، پھل بھی کھائیں گے، پانی بھی پینیں گے (اور اگر شہادت کا درجہ نصیب ہو گیا تو جنت کی سیر بھی مرنے کے بعد ہی شروع کر دیں گے)۔

بہر حال جنت اب بھی موجود ہے مگر وہاں تک پہنچنے کا رستہ آپ کو معلوم نہیں۔ مرنج تک تو ممکن ہے آپ پہنچ جائیں۔ مگر جنت تک بدون اذن الہی کے کون پہنچ سکتا ہے؟

غرض آپ کا وطن اور گھروہی جنت ہے وہاں ہر قسم کا سامان راحت موجود ہے اور عنقریب آپ وہاں پہنچنے والے ہیں۔ شاید ہمیں نفس نفس واپسیں بود

اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ دنیا کے بہت سے جھگڑوں سے چھوٹ جاتا ہے گو طبعاً اس کے مرنے والے کی مفارقت پر رنج ہو گر عقلاء تو یہ سوچ کر تسلی دے لینا چاہئے کہ وہ خوش قسمت اپنے اصلی گھر میں اور چین و آرام کی زندگی میں پہنچ گیا اور دنیا کی مصالیب سے چھوٹ

گیا۔ کیونکہ یہاں راحت تھوڑا ہی ہے۔ راحت تو مرکرہی نصیب ہو گی۔

**نفی الحديث اللهم لا عيش الا عيش الآخرة (الصحح للبغاري: ۱: ۱۷)**

ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص روتا ہوا آیا اور کہنے لگا حضرت میری بیوی مردی ہے حضرت نے فرمایا عجیب بات ہے کہ ایک شخص تو قید سے چھوٹ دہا ہے اور یہ دفاتا ہے کہ تو قید سے کیوں چھوٹ دہا ہے سبحان اللہ! عارفین کی ہربات میں معرفت کی شان ہوتی ہے کہنے لگا حضرت! وہ میری روٹی پکاتی تھی فرمایا کہ ہاں بھائی! جب تم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے اس وقت بھی وہ روٹیاں پکاتی ہوئی تمہارے ساتھ آئی تھی۔

ان باتوں پر تو حضرت کو تکدر نہیں ہوا۔ بلکہ ہربات کا نہس کر جواب دیتے رہے اس کے بعد اس نے ایک اور بات کہی جو ظاہر بیویوں کے نزدیک دین کی بات تھی مگر حضرت بگز گئے۔ کہنے لگا حضرت ایک شخص نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھ کو مدینہ اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اب وہ اس وعدہ سے پھر گیا ہے۔ دعا فرمادیجئے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے بظاہر اس بات سے حب رسول کاظمہ پر ہوتا تھا۔ مگر حضرت نے برہم ہو کر فرمایا کہ ہمارے سامنے شرک کی باتیں نہ کرو غیر اللہ پر اتنی نظر!

یہاں تک میں نے اس آیت کے متعلق جس کی شروع میں تلاوت کی گئی تھی۔ اختصار کے ساتھ جتنا بیان کیا ہے اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مضمون عقلی طور پر بھی اسباب تسلی سے ہے پس اس سے کام لینا چاہئے۔ ان شاء اللہ یہ مراقبہ مفید ہو گا۔

## اسباب تسلی

دو باتیں اس وقت اور ذہن میں ہیں جن کا آیت سے تو تعلق نہیں مگر میرے نزدیک وہ بھی اسباب تسلی سے ہیں۔ اس لئے ان کو بھی فی الجملہ مناسبت ہے اور ممکن ہے کہ بہت سے اہل علم بھی ان کو اسباب تسلی سے نہ سمجھتے ہوں گے۔ اسلئے ان کے بیان کی بھی ضرورت ہے۔

۱..... یہ کہ اسباب تسلی سے ایک امر یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی کچھ تذکرہ میت کا کر لیا جائے اس سے بھی تسلی ہوتی ہے (اور جب وہ یاد آئے یا اس کا تذکرہ کیا جائے تو انا لله و انا الی راجعون۔ بھی پڑھ لیا جائے تو ہمیشہ وہی ثواب ملے گا جو پہلی مرتبہ صبر کرنے سے ملا تھا۔ کما ورد)

۲..... یہ کہ کچھ آنسو بھی بھائیے جائیں اس سے بھی تسلی ہوتی ہے صبر کے یہ معنی نہیں ہیں کہ میت کے تذکرہ سے زبان کو روک لیا جائے اور آنسو بھی نہ بھائیے جائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے ابراہیم علیہ وعلیٰ ابیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات پر آنسو بھی

بھائے ہیں اور زبان سے بھی انا بفرانک یا ابراہیم لمحزونون (الْمَصْفُ لِابْنِ أَبِی  
شہیۃ: ۲۹۳: ۳) فرمایا ہے کہ اے ابراہیم! تمہاری مفارقت سے ہم کو رنج ہے۔

اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مفارقت پر رنج کا اظہار فرمایا ہے  
**وَتَوْلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفْرِي عَلَىٰ يُوسُفَ**. مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا  
**إِنَّمَا أَشْكُوا بَشَّيْ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ** (ب ۱۳)

کہ میں اپنے رنج و غم کا اظہار اللہ ہی سے کرتا ہوں دوسروں سے نہیں کرتا۔

بہر حال جب ہمارے حضور نے گریہ فرمایا اور اس کو رحمت فرمایا ہے اور آپ کا قول فعل  
تشريع ہے تو آنسو بھانے اور میت کا کچھ تذکرہ کرنے میں سنت سے تجاوز نہیں ہے۔

### انبیاء اور غلبہ حال

ممکن ہے کوئی یہ احتمال نکالے کہ حضور کا فعل غلبہ حال پر محمول ہے کیونکہ محققین نے فرمایا ہے  
کہ کاملین پر بھی غلبہ حال ہو سکتا ہے حتیٰ کہ ملائکہ پر بھی بعض دفعہ غلبہ حال ہوتا ہے چنانچہ ترمذی کی  
ایک حدیث میں حضرت جبریلؐ کا یہ ارشاد وارد ہے۔

لو رايتنی يا رسول الله وانا ادس الطين في فرعون لثلا یتشهد  
فتدركه الرحمة. او كما قال

حالانکہ وہ جانتے تھے کہ بعد معاشرہ عذاب کے ایمان مقبول نہیں ہو سکتا پھر بھی ذوبتے  
ہوئے فرعون کے منہ میں کچھ رہو نتے تھے تاکہ کلمہ نہ پڑھ لے اور رحمت کا مستحق نہ ہو جائے آخریہ  
کیا تھا وہی غلبہ حال یعنی غلبہ بعض فی اللہ!

اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام پر بھی غلبہ حال ہو سکتا ہے لس اتنا فرق ہے کہ انبیاء پر  
غلبہ حال گاہ ہوتا ہے دوسروں پر زیادہ ہوتا ہے واقعہ بدرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا  
اللهم ان تهلك هذه العصابة لم تعبد بعد اليوم (الصحیح لمسلم:

(۳۲: ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، مسند احمد ۱: ۳۲)

اے اللہ! اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو آج کے بعد زمین میں آپ کی بندگی نہ کی جائیگی۔

غلبہ حال ہی تھا (جس کو سن کر حضرت صدیقؓ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ! اس آپ نے اللہ  
تعالیٰ سے خوب عرض و معرض کر لی ہے۔ وہ ضرور آپ کی مدد کر دے گا۔ پس اس کلیہ کا تو انکار نہیں کیا جا

سلکتا کہ آپ پر غلبہ حال ہو سکتا ہے۔ اسلئے ممکن ہے کوئی صاحب اس واقعہ جزئی یعنی وفات ابراہیم وعلیہ ولی ابیہ الصلوٰۃ والسلام) آپ کے گریہ کو غلبہ حال پر محمول ہے کرے مگر اول توال اس کو قبول نہیں کرتا۔

## آنسوں بہانا

دوسرے یہ کہ بعد تسلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ حال بھی بارادہ حق ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر جو حال بھی وارد فرمائیں۔ وہ قابل تائی ہے کیونکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (پ ۲۱) میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں بڑھائی کہ جو غلبہ حال سے ہو وہ اسوہ نہیں بلکہ حضورؐ کی ذات کو مطلق اسوہ فرمایا ہے۔

پس آپ کا ہر فعل و قول و حال ہمارے واسطے اسوہ حسنہ ہے بجز اس کے جس کا آپ کی ذات کے لئے مخصوص ہونا حق تعالیٰ کے یا آپ کے ارشاد سے معلوم ہو گیا ہے پس رونا مطلقاً خلاف سنت نہیں بلکہ وہ رونا خلاف سنت ہے جس میں نوحہ ہو یعنی بیان اور بین ہو۔ باقی آنسو بہا لینا رولینا اچھا ہے اس سے دل کا غبار نکل کر تسلی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ تحریک ہے۔

ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی موت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ عورتیں رورہی ہیں۔ فرمایا منع کر دو۔ مگر حضورؐ نے خود منع نہیں فرمایا۔ حالانکہ آپ کو اطلاع تھی بلکہ اس شخص نے دو تین بار آکر اطلاع دی کہ میں نے منع کیا مگر وہ نہیں رکتیں۔ تو اخیر میں آپؐ نے صرف اتنا فرمایا کہ ان کے منه پر خاک ڈالو یعنی جانے دو۔ آپؐ نے خود اسی واسطے نہیں منع فرمایا کہ اس حکمت پر نظر تھی کہ اس سے تسلی ہو جاتی ہے۔

أَبَلْ يرده اللوق السليم لا سيما وقدوره عند ابن أبي شيبة بسنيد حسين عن جابر قال أحد النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فخرج به الى النخل فاتى بابراهيم وهو يوجد بنفسه فوضع فى حجره فقال يا بني لا املك لك من الله شيئاً وذرفت عينه فقال له عبد الرحمن تبكي يا رسول الله اولم تنه عن البكاء؟ قال انما نهيت عن البكاء عن صوتين احمررين فاجريت صوت عند نفمة لهر ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة خمشق وجوه وشق حيوب ورننة شيطان وانما هذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم (ففيه دليل ظاهر على ان بكاء ه صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن لغبة الحال بل لا ظهار الرحمة لقوله ومن لا يرحم لا يرحم ثم قال يا ابراهيم لا لا انه امر حرق ووعده صدق وسبيل ما تيه وان اخرنا لتحق اولا نا لحزنا عليك حزنا اشد من هذا وابك لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا

## آنسوں نہ بہانے کا اثر

اور تجربہ کیا گیا ہے کہ بالکل آنسو نہ بہانے اور دل کو گھونٹ لینے سے بعد میں صحت کو نقصان پہنچتا ہے اور صحت کی حفاظت بھی مطلوب ہے اور تجربہ سے رونے کو اس میں بڑا خلل ہے تو اس سے ضرور کام لیا جاوے۔

حضرت مولانا گنگوہی قدس اللہ سرہ نے ایک خط میں نواسہ کے انتقال پر مجھے خود لکھا تھا۔  
شدت ضبط سے قلب و دماغ دونوں ماوف ہو گئے جب شدت ضبط سے حضرت کا یہ حال ہوا جو علم و معرفت و قوت میں ہم سے بدر جہاز یادہ تھے تو ہم جیسوں کا تو کہاں ٹھکانہ ہے گا۔

ای لئے میری یہ رائے ہے کہ جب واقع غم بالکل تازہ ہو تو غیر محقق کا وعظ نہ کہلا یا جائے کیونکہ واعظ صاحب تو صبر و ضبط کی ہی تعلیم دیں گے اور لوگوں کا دل گھونٹ دیں گے ان کے نزدیک تو صبرا ہی کا نام ہے کہ آنسو نہ تکمیل ہے۔ آواز بھی نہ لکے۔ بلکہ ہر وقت انا لله و انا الیہ واجعون پڑھتا رہے یا تسبیح چلتی رہے۔ مگر صبر کی تعلیم ویسی ہی ہے جیسی واعظوں کے یہاں تو کل کی تعلیم اور بالکل حلال کی تعلیم غلو کے ساتھ دی جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا تو کل والکل حلال مطلوب نہیں بلکہ مہرب عذر ہے تو کل کی تعلیم میں تو یہ کہیں گے کہ صحیح کو جب کھانا کھالیا تو شام کی فکر ہونا خلاف تو کل ہے۔ شام کو کھالیا تو صحیح کی فکر ہونا خلاف تو کل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ توجو لوگ رزق کی فکر میں رہتے ہیں گویا ان کو اللہ کے وعدہ پر بھروسہ اور

۱۔ و اخرج ابن ابي شيبة بسنده حسن صحيح عن عائشة أم المؤمنين قالت لما حضر رسول الله عليه وسلم وأبوبكر و عمر يعني سعد بن معاذ فو الذي نفسي بيده اني لا اعرف بكاء عمر من بكاء ابي بكر و اني لففي حجرتى الحديث وبسنده حسن عن ابي عثمان (هو المنهدي) قال اتيت عمر بن عبّي النعمان بن مقرن فوضع يده على راسه وجعل يكى وبسنده صحيح عن ابن عمر انه كان في السوق فتحى اليه حجر (هو ابي عدى من اصحاب علي كرم الله وجهه) فاطلق صوته وقام وغلبه النجيب وبسنده حسن صحيح عن ابي مسعود و ثابت بن زيد وقرۃ بن کعب قالوا رخص لنا في البكاء على الميت في غير نوح وبسنده صحيح عن ابي هريرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يكى عليها وانا معه و عمر بن الخطاب فاتحہ عمر اللاتى يكين مع الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعہن يا ابن الخطاب فان النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب ص ۱۶۹)

۲۔ قلت وقد وفقى الله للعمل بذلك قبل هذا الوعظ بستين عديدة حين توفي ولد الرئيس حسين على خان المرحوم الذين كان قد متبناه فمات بخطمة البابور ورأيته صابر اصابطا باشد ضبط لم تدعع عيناً بدموعة وسائلى الوعظ لنفسه ولا هل بيته فذکرت في اثناء الوعظ اموراً اغليه لا جلهها البكاء والنحيب وكذا على اهل بيته وانتفعوا بذلك ور آوافى انفسهم خفة من الغم والحزن الذي كان قبل ذلك مستوليا عليهم والله الموفق والمعين.

یقین نہیں۔ اور یہ مثال بھی دیں گے کہ اگر کوئی دوستِ دعوت کر دے تو فوراً بے فکر ہو کر چولہا ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دعوت پر بے فکری نہیں ہوتی۔

## رزق حلال

رزق حلال کے متعلق ایسی ایسی حکایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ایک بزرگ رزق حلال کی تلاش میں پھرتے تھے تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایک شخص کے بیہاں رزق حلال تھا۔ مگر آج نہیں رہا کیونکہ میرے بیل ایک کھیت میں گزر گئے تھے۔ اس کے کھیت کی مٹی ان کے پیروں میں لگ گئی اور وہ مٹی میرے کھیت میں مل گئی تو میرا کھیت سارا مشتبہ ہو گیا۔

سو ایسا تقویٰ خشک تقویٰ ہے ایسے متوكل اور ایسے طالب حلال کوفقہاء نے قابل تعزیر قرار دیا ہے کیونکہ یہ تقویٰ نہیں بلکہ تقوے کا ہیغہ ہے جو درحقیقت شریعت پر اعتراض ہے کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ توکل اور اکل حلال محال ہے اس لئے کہ ایسا توکل اور ایسا اکل حلال کس کی دسعت میں ہے؟ اور یہ خلاف ہے لا یکلِفُ اللہُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کے۔ اس لئے ایسے متقیوں کو اور ایسے واعظوں کو جو غلط تقویٰ کی تعلیم و عظوں میں بیان کریں۔ فقہاء لا اُن تعزیر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اس جزوی کی تصریح ہے کہ اگر کوئی ایک دانہ گندم کو لقطہ سمجھ کر مالک کو تلاش کرتا پھرے اس کو تعزیر دی جائے۔ بس امت میں فقہاء اور صوفیاء دو ہی جماعتیں حکماء امت ہیں مگر باوجود اس کے ان میں جو کبھی جنگ ہوتی ہے تو وہ نقصان علم یا نقصان تصوف کی وجہ سے ہوتی ہے۔

اب اس اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں جوان واعظوں نے عام مسلمانوں پر کیا ہے کہ دوست کی دعوت سے تو چولہا ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر چولہا ٹھنڈا نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اہتمام رزق بدرجہ ضرورت ہرگز توکل علی اللہ کے خلاف نہیں رہا۔ یہ کہ باوجود الہیہ کے تشویش کیوں ہے؟ سوبات یہ ہے کہ اسباب تشویش مختلف ہیں کبھی تو اسلئے تشویش ہوتی کہ وعدہ کرنے والے پر اعتماد نہیں۔ سو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے بعد اس سبب سے تو تشویش ہرگز نہیں ہو سکتی یہ تشویش صرف کفار کے ساتھ مخصوص ہے اور ایک سبب تشویش کا یہ ہے کہ وعدہ مبہم اور غیر معلوم الوقت اور غیر معلوم السبب ہو۔ سو ایسی تشویش اللہ تعالیٰ کے وعدہ میں ہو سکتی ہے اور مسلمانوں کے رزق کے معاملہ میں جو تشویش ہے وہ اسی سبب سے ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کا تو وعدہ فرمایا ہے مگر اس کا وقت اور سبب معین نہیں فرمایا کہ روزانہ دونوں وقت ملا کرے گایا

تین دن کے بعد یا ایک ہفتہ کے بعد۔ اور تجارت سے ملے گایا زراعت سے یا نوکری سے۔ سو ایسا مہم و عدہ تو اگر کوئی دوست بھی کرے تب بھی تشویش ضرور باقی رہے گا۔ مثلاً دوست یوں کہہ جائے کہ اس مہینہ میں آپ کی دعوت ہے اور وقت اور دن نہ بتلانے تو ہرگز آپ شام کو چولہا ٹھنڈا نہ کریں گے۔ پس ایسی ایسی باتوں سے مسلمانوں کی ہمتیں نہ توڑو اور غلط سلط حکایات سے رزق حلال کو دشوار نہ کرو۔ بلکہ اس باب میں میری رائے تو یہ ہے کہ اگر معاملات میں کسی وقت اپنے مذہب میں تنگی ہو اور دوسرے ائمہ مجتہدین کے اقوال میں گنجائش ہو تو عوام میں تنگی میں نہ ڈالا جائے۔ بلکہ دوسرے ائمہ کے قول پر فتویٰ دے دیا جائے۔ میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اس رائے کی صریح تائید حاصل کر چکا ہوں۔

اسی طرح صبر کو دشوار نہ کرو۔ اہل مصیبت کا دل نہ گھونٹوں۔ ان کو مت کے تذکرہ کی اور آنسو بھا لینے اور کسی قدر رو لینے کی اجازت دو کہ اس سے تسلی ہو جاتی ہے۔

### حزن اور مجاہدہ

تیسرا بات یہ ہے کہ یہ سوچے کہ حزن کو قطع راہ باطن میں بڑا دخل ہے۔ حزن سے تصفیہ باطن بہت جلد اور زیادہ ہوتا ہے اور اس باب میں صوفیاء کا قول جحت ہے کہ طریق باطن کے امام وہی ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ حزن سے اتنی جلدی یہ راستہ طے ہوتا ہے کہ مجاہدات سے برسوں میں بھی طے نہیں ہو سکتا۔ اور مولانا رومی فرماتے ہیں۔

فہم و خاطر تیز کر دن نیست راہ	جز شکستہ می نگیر و فضل شاہ
ہر کجا پستی ست آب آنجارود	ہر کجا مشکل جواب آنجارود
ہر کجا درد مے دوا آنجارود	ہر جانجے شفا آنجارود

صرف عقل و فہم کو تیز کرنا کچھ نہیں۔ فضل خداوندی شکستہ لوں پر ہوتا ہے۔ جہاں پستی ہو پانی وہیں جاتا ہے۔ جہاں مشکل ہو جواب وہیں دیا جاتا ہے۔ جہاں درد و گاہ و اوہیں کی جائیگی۔ جہاں رنج ہو گا شفا وہیں جائیگی۔

اس قول کی تائید قرآن شریف سے بھی ہوتی ہے۔ واقعہ احمد میں بعض حضرات صحابہ سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تھی۔ اس پر چند آیات نازل ہوئیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے:

إِذْ تُضْعِدُونَ وَلَا تَلُوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَ كُمْ فَاثَابُكُمْ  
غَمَّامٌ بِغَمٍ لَكُيْلَاتٌ حَزَنٌ وَأَعْلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمُ الْآيَة (ب ۲)

اس میں مشہور تفسیر یہی ہے کہ لازم دہ ہے امر مطلب یہ ہے کہ فَاثَابُكُمْ عَمَامٌ بِغَمٍ کہ تم کو غم پر غم اسلئے دیتا کہ تم کو رنج ہوا اور رنج کیوں دیا اسکی وجہ تھوڑی دور آگے مذکور ہے وَلَيَسْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحْصَّنَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ (پ ۲)

جس کا حاصل وہی تسفیہ و تجلیہ باطن ہے اور تصفیہ و تجلیہ باطن سے مقصود رفع درجات ہے اور یہی اصل مقصود ہے۔ حق تعالیٰ نے اسی کے اسباب قصد اصحابہ پر وارد کئے اور اسی طرح مسلمانوں پر ہر زمانہ میں رفع درجات کے اسباب وارد کئے جاتے ہیں اور یہی بہت بڑی دولت ہے جس کی قدر کرنا چاہئے۔ پس اہل مصیبت کو چاہئے کہ ان منافع کو سوچ کر تسلی حاصل کریں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی چاہئے کہ جب خدا تعالیٰ کی توفیق سے مصیبت کی وجہ سے ان کے اندر شکستگی اور تواضع پیدا ہو گئی ہو۔ اور باطن کا تصفیہ ہو چکا ہو تو اب اس کی حفاظت کریں۔ غفلت سے اس دولت کو بر بادنہ کریں کہ یہ دولت بڑے بڑے مجاہدات اختیار یہ سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔

### محبت اور حجت

چونکی بات تسلی کی یہ ہے کہ مصیبت سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے حدیث شریف میں ہے اذا احب الله عبداً ابتلاه وليس معه تضرعه (إتحاف السادة المتقين ۵: ۳۸، کنز العمال: ۹۳۰-۳۰۷) رواہ البیهقی عن ابن مسعود وهو حسن لغیره وروی البیهقی والضیاء عن انس بلفظ اذا احب الله قوماً ابتلاهم وهو حدیث صحیح کذا فی العزیزی۔ (صفحہ نمبر ۹۷ ج ۱) یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت فرماتے ہیں کہ تو اس کو کسی بلا میں بتلا کر دیتے ہیں کسی نے اسی باب میں کہا ہے

ما پروریم دشمن و ما می کشمیم دوست      کس را رسدا نہ چون وچرا در قضاۓ ما  
ہم دشمن کو پالتے ہیں اور دوست کو قتل کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے فیصلے میں چون وچرا کر سکتا ہے؟  
ای لئے بھین نے تو مصیبت کی تمنا کی ہے۔ ہم کو خود تو تمنا نہ کرنا چاہئے کہ ہم اس درجہ کے  
نہیں۔ مگر جب یہ مراقبہ پختہ ہو جاتا ہے تو تمنا خود ہی پیدا ہو جاتی ہے۔

حضرت رابعہ بصریہ بعض دفعہ فرمایا کرتی تھیں۔ کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے سے ناراضی ہیں کیونکہ بہت دنوں سے مجھے بیمار نہیں کیا۔ اور جن کو یہاں مصائب کی تمنا نہیں ہے وہ قیامت کے دن

جب ویکھیں گے کہ اہل مصیبت کو بڑے بڑے درجات دیئے جا رہے ہیں اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش! ہماری کھالیں دنیا میں قینچیوں سے کافی جاتیں۔

نیز حدیث میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ بلا حضرات انبیاء علیہم السلام پر آتی ہے پھر ان پر جو ان کے بعد افضل ہوں۔

(اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالا مثل اخترجه ابن ابى شيبة فى المصنف ص ۲۷ بسند حسن) (کنزالعمال: ۲۷۸۲، إتحاف السادة المتقين: ۸: ۵۲۰)

غرض یہ فوائد ہیں مصائب ہیں۔ اور یہ سب اسباب تسلی میں سے ہیں ان کو سوچنا اور متحضر رکھنا چاہئے۔ اور دو باتیں جو میں نے بعد میں اپنی طرف سے بتائی ہیں۔ ان پر بھی عمل کرنا چاہئے ان شاء اللہ تعالیٰ تسلی ہو جائے گی۔

بس اب میں بیان ختم کرتا ہوں کیونکہ مضمون کی آمد بھی اب نہیں رہی اور بیان بھی کافی ہو گیا ہے۔  
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و على آله  
واصحابه اجمعين. واخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين.  
والحمد لله الذين بنعمته وعزته وجلاله تتم الصلت.

**تنبیہ:** بعد وعظ کے حضرت نے فرمایا کہ اسکا نام آداب المصاب رکھ دیا جائے مولانا سید مرتضی حسن صاحبؒ نے عرض کیا کہ اس نام میں تسلیۃ الاحباب کا الفاظ بھی آجائے تو اچھا ہے۔ فرمایا تو اس کا نام ”آداب المصاب تسلیۃ الاحباب“ رکھ دیا جائے۔ پھر مکان وعظ سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ میں نے اس بیان کا ثواب اختری مرحومہ کو بخش دیا ہے۔ پھر جامع وعظ سے فرمایا کہ تم بھی اس وعظ کو صاف کر کے اس کا ثواب مرحومہ کو بخش دینا۔ چنانچہ احتقر نے یہ وعظ حسبتاً لله ہی لکھا اور حسباً للہ ہی اس کو صاف کیا اور اس کا ثواب مرحومہ کو بخش دیا ہے۔ اور ناظرین و مشفعین وعظ سے درخواست ہے کہ وہ بھی مرحومہ کے لئے دعائے مغفرت ورفع درجات فرمائیں۔ اور یہ مسودہ وعظ مجلس خیر تھانہ بھون پر اس لئے وقف کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس کو طبع کرنا چاہے تو اس کی نقل دے دی جایا کرے۔ مصارف نقل حسب قاعدہ مجلس خیر لے لے گی۔ اس مسودہ کا کچھ معاوضہ نہ لے لے گی اور اگر کسی وقت یہ احترقا میرے متعلقین میں

سے کوئی اس کا طبع کرنا چاہے تو اس کی درخواست کو دوسروں پر ترجیح ہوگی۔ ربنا تقبل منا  
انک انت السمع العلیم۔ کتبہ، بقلم ظفر احمد عفۃ اللہ عنہ، ۲۹ رمضان المبارک ۱۴۵۷ھ

**الحاقد:** اس الحاقد کے دو حصے ہیں ایک تتمہ سے ملقب ہے دوسرا ضمیمہ سے۔ حصہ دوم وعظ  
سے پہلے ذہن میں تھا۔ مگر وعظ کے وقت یاد نہ آیا۔ اور حصہ اول وعظ کے بعد ذہن میں آیا۔ ان  
دونوں حصوں کو وعظ کے ساتھ ملحت کیا جاتا ہے مگر حصہ اول چونکہ بمنزلہ جزو وعظ کے ہے۔ اسلئے اس  
کو ترتیب میں مقدم کیا جاتا ہے اور اسی لئے اس کا لقب تتمہ ہے۔ اور دوسرے حصہ میں صبر کی ایک  
جزئی کے متعلق بیان ہے اور اسی لئے اس کا لقب ضمیمہ ہے۔ اب دونوں کو مختصر عبارت میں پیش کرتا  
ہوں۔ عبارت مختصر اس لئے ہے کہ تحریر کا وقت وعظ کا وقت نہیں۔ جس کا خلاصہ بسط ہوتا ہے مضمون  
کا۔ البتہ اگر کوئی صاحب اس مضمون کو بطور وعظ کے بیان فرمادیں۔ وہ مبسوط کر سکتے ہیں۔

## تتمہ

# غم اور شغل

ایک ادب مصیبت کا کوہ بھی اسبابِ تسلی میں سے ہے یہ ہے (اور میں اکثر متعلقین کو اس کی تعلیم کیا کرتا ہوں کہ ایسے غم کے واقعہ میں بریکار نہ رہے۔ بلکہ کسی نہ کسی کام میں مشغول رہے تاکہ اس کی طرف توجہ ہونے سے واقعہ غم کی طرف توجہ کم ہو جائے۔ افضل تو یہ ہے کہ وہ شغل طاعت ہو۔ مثلاً ذکر ہو۔ تلاوت ہو، نوافل ہوں، مطالعہ کتب ہو، شغلِ تصنیف ہو، صحبت اختیار ہو، اگر اس کی ہمت نہ ہو تو شغل مباح بھی کافی ہے۔ جیسے سیر و سیاحت، دیندار دوستوں کی ملاقات و مکالمت، یوں بچوں سے ہنسنا بولنا۔

تسلی کی اس تدبیر کا مأخذ بھی کلامِ الہی ہے قال اللہ تعالیٰ (فِي سُورَةِ الْبَقْرَةِ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (پ ۲)

اے ایمان والو (طبعیوں میں غم ہلکا کرنے کے بازے میں) صبر اور نماز سے سہارا (اور مدد) حاصل کرو۔ بلاشبہ حق تعالیٰ (ہر طرح سے) صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔  
(اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بدرجہ اولیٰ۔)

**فائدہ:** وجہ یہ کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے جب صبر میں یہ وعدہ ہے کہ تو نماز جو اس سے بڑھ کر ہے اس میں تو بدرجہ اولیٰ یہ بشارت ہوگی اور صبر کو تخفیفِ حزن میں دخل اور اثر ہونا تو ظاہر و مشاہد ہے۔ رہایہ کہ نماز کو اس میں کیا دخل ہے۔

سو اول تو جیسے بعض ادویہ فاعل بالخاصہ ہوتی ہیں اور تجربہ سے اس خاصیت کا حکم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بعض اعمال بھی فاعل بالخاصہ ہوں تو اس میں تعجب کیا ہے۔ چنانچہ نماز جو حضور قلب کے ساتھ ہو جس کے بدلوں نماز مشل دوائے کہنے کے ہے۔ اس میں جس کا جی چاہے اس

خاصیت کا تجربہ کر کے دیکھ لے کہ مشاہدہ کے بعد سوال ہی کی تجویز نہ رہے گی۔ اگر مثل ادویہ فاعلہ بالکلیفیت کے نماز میں اس اثر کی لم اور علمت ہی کی تحقیق کرنے کا شوق ہو تو اس کی توجیہ بھی سمجھ میں آسکتی ہے کہ مدار تخفیف حزن کا قلب کو دوسرا شے کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں پر ہے۔ اس سے جی بہل جاتا ہے۔

پس جب نماز میں حضور قلب کے ساتھ مشغول ہوگی۔ اس سے عبادت و معبد کی طرف یکسوئی اور توجہ ہوگی اور اس عمل کے حکمران سے وہ واقعہ غم انگیز مبتلا سے غائب اور اس کا اثر ضعیف ہونا شروع ہو گا اھ..... (بیان القرآن) و قال اللہ تعالیٰ (فِي سُورَةِ قَنْ) .

**فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ  
وَقَبْلَ الْغَرْوَبِ. وَمِنَ اللَّيلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ السَّجْدَهِ.** (پ ۲۶)

سو ان کی باتوں پر صبر کیجئے (یعنی رنج نہ کیجئے) اور (چونکہ بدون اس کے کہ کسی طرف دل کو مشغول کیا جائے وہ غم کی بات دل سے نہیں نکلتی اور بار بار یاد آ کر دل کو محروم کرتی ہے اس لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہئے (اس میں بھی نماز داخل ہے) آفتاب نکلنے سے پہلے (مثلاً صبح کی نماز) اور اس کے چھپنے سے پہلے (مثلاً نظہر و عصر) اور رات میں بھی اس کی تسبیح (و تحمید) کیجئے (اس میں مغرب اور عشا آگئی) اور (فرض) نمازوں کے بعد بھی (اس میں نوافل و اور ادا آگئے حاصل یہ ہوا کہ ذکر اللہ میں اور اس کی فکر میں لگے رہئے۔ تا کہ ان کے اقوال کفری کی طرف توجہ نہ ہو) اھ۔

مسائل السلوک میں ہے کہ اس آیت میں صاف اشارہ ہے کہ شدائد میں تسلیہ کا قویٰ درجہ توجہ الی اللہ ہے (برحاشیہ مکمل بیان القرآن صفحہ ۱۱۵ ج ۱۱)

تجویز الاطاعت کا مؤثر ہونا تو آیت اور تفسیر میں نصانعہ کور ہے۔ باقی دوسرے اشغال مباحثہ کے نافع ہونے کی تقریر یہ ہے کہ اطاعت اس اثر تسلیہ میں علاوہ مؤثر بالخاصہ ہونے کے مؤثر بالکلیفیہ بھی ہے جس کی تقریر آیت اولیٰ کی تفسیر میں گزر چکی ہے اس قول میں کہ اس کی توجیہ بھی سمجھ میں آسکتی ہے۔ اخ اور یہ علمت مشترک ہے کہ طاعات و مباحثات میں۔ پس حکم بھی مشترک ہے۔ اور تجربہ و مشاہدہ کے بعد تو اسکیں کوئی شبہ نہیں رہتا۔

**ضمیمه**

وعظ کا گواصل اور زیادہ مقصود صبر کی ایک خاص جزوی یعنی صبر علیٰ موت الحبوب کے متعلق

بیان کرنا تھا۔ مگر صبر کی اور بھی جزئیات ہیں جن میں ایک خاص جزئی اس وقت کے مناسب قابل ذکر ہے اور وہ صوم ہے۔ جس کا زمانہ کل کے روز (یعنی آج کی شب) سے شروع ہو گیا ہے۔ اس کے متعلق بھی کچھ ضروری بیان مقتضائے وقت ہے۔ زیادہ گنجائش نہ ہونے کے سبب بیان القرآن سے صرف تین آیتوں کے ترجمہ و تفسیر کی لفظ پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

### حکم سوم صوم

**يَأَيُّهَا الَّذِينَ آتُوا أُكُبَّ عَلَيْكُمُ الصَّيْلُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.** (ب ۲)

ایے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے (امتوں کے) لوگوں پر فرض کیا تھا۔ اس موقع پر کہ تم (روزہ کی بدولت رفتہ رفتہ) متین بن جاؤ (کیونکہ روزہ رکھنے سے عادت پڑے گی۔ نفس کو اس کے متعدد تقاضوں سے روکنے کی۔ اور اسی عادت کی پختگی بیان ہے تقویٰ کی سو) تھوڑے دنوں روزہ رکھ لیا کرو (اور ان تھوڑے دنوں سے مراد رمضان ہے جیسا اگلی آیت میں آتا ہے) پھر اس میں بھی اتنی آسانی ہے کہ جو شخص تم میں (ایسا) بیمار ہو (جس کو روزہ رکھنا مشکل ہو یا مضر ہو) یا (شری) سفر میں ہو تو (اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور بجائے ایام رمضان کے) دوسرے ایام کا (اتا ہی) شمار (کر کے ان میں روزہ رکھنا) (اس پر واجب ہے) اور (دوسری آسانی جو بعد میں منسوخ ہو گئی یہ ہے کہ) (جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں (اور پھر بھی روزہ رکھنے کو دل نہ چاہے تو) ان کے ذمہ (صرف روزے کا) فدیہ (یعنی بدلہ) ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا (کھلا دینا یاد پیدا کرنا) ہے اور جو شخص خوشی سے (زیادہ) خیر (خیرات) کرے (کہ زیادہ فدیہ دیدے) تو یہ اس شخص کے لئے اور بھی بہتر ہے اور (گوہم نے آسانی کے لئے ان حالتوں میں روزہ رکھنا (اس حال میں بھی) زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم (کچھ روزے کی فضیلت کی) خبر رکھتے ہو۔

فائدہ: پہلی امتوں میں سے نصاریٰ پر روزہ فرض ہونے کا بیان ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ نصاریٰ پر ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تھا۔ ان کا کوئی باادشاہ بیمار ہوا تو اس کی قوم نے نذر مانی کہ اگر باادشاہ کو شفا ہو جائے تو ہم دس روزے اور اضافہ کر دیں گے پھر اور کوئی باادشاہ بیمار ہوا تو اس کی صحیت پر سات کا اضافہ ہوا۔ پھر تیسرا باادشاہ بیمار ہوا۔ سواں نے تجویز کیا کہ پچاس میں تین ہی کی کسر رہ گئی ہے لا و تین اور بڑھا لیں۔ اور ایام ربیع میں سب رکھ لیا کریں۔ (ذکر فی

اور لعلکم تتفون میں روزہ کی ایک حکمت کا بیان ہے جس کی تقریر اشنا ترجمہ میں کردی گئی۔ لیکن حکمت کا اسی میں انحصار نہیں ہو گیا۔ خدا جانے اور کیا کیا ہزاروں حکمتیں ہوں گی۔ پس کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں کہ جب مقصود روزہ کا معلوم ہو گیا تو یہ مقصود دوسرے طریق سے حاصل کر لیں تو روزہ کی یا قیدِ رمضان کی کیا ضرورت ہے۔

وہ گنجائش نہ ہونے کی یہ ہے کہ ممکن ہے کہ روزہ میں کچھ خاص حکمتیں اور ثمرات ایسے ہوں کہ وہ بدلوں ان خاص قیود مقررہ شرعیہ کے حاصل نہ ہو سکیں۔ خوب سمجھ لو۔ اور اس مقام پر چند مسائل ہیں۔

## چند مسائل

۱: جس بیماری میں روزہ رکھنا نہایت شاق ہواں میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔

۲: سفر شرعی حفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اپنی جائے قیام سے تین منزل کے قصد سے سفر کرے تو رستہ میں تو یہ مسافر ہو گیا۔ اب منزل مقصود پر پہنچ کر اگر پندرہ روزہ یا زیادہ قیام کا ارادہ کر لیا تو مسافرنہ رہا۔ اور اگر پندرہ روزے سے کم کے قیام کا ارادہ کیا تو پھر بھی مسافر ہے۔

غرض! جو شخص شرعی مسافر ہواں کو جائز ہے کہ باوجود روزہ رکھ سکنے کے روزہ نہ رکھے لیکن ایسی حالت میں زیادہ افضل یہی ہے کہ رکھے۔

۳: یہ مریض اور مسافر جن کا ذکر کیا گیا اگر اس روز کے روزہ کی نیت نہ کر چکے تھے تو روزہ نہ رکھنا درست ہے اور اگر نیت کر چکے ہوں تو بلا تکلیف شدید روزہ توڑنا جائز نہیں۔

۴: یہ مریض اور مسافر جتنے دن روزہ نہ رکھیں ان دنوں کا شمار یاد رکھیں۔ اور جب مرض اور سفر ختم ہو جاوے بعد رمضان گزر جانے کے اتنے دنوں کا روزہ بہ نیت قضا رکھیں۔ اور یہ قضا کے روزے خواہ ایک دم سے رکھیں اور خواہ ایک ایک دو دو کر کے رکھیں اور بعد ختم ہونے مرض اور سفر کے اگر کچھ رمضان بھی باقی ہے تو بقیہ رمضان کا روزہ ادا کر کے اس کے گزرنے کے بعد یہ قضا روزے رکھ سکتے ہیں۔

۵: شروعِ اسلام میں جب لوگوں کو بتدریج روزہ کا خوگر کرنا۔۔۔ منظور تھا یہ حکم ہو گیا تھا کہ باوجود استطاعت روزے کے فدیہ کی اجازت تھی اب یہ حکم منسوخ ہے البتہ جو شخص بہت بوڑھا ہو یا ایسا بیمار ہو کہ اب صحت کی توقع نہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے یہ حکم اب بھی ہے کہ فی روزہ یا تو ایک مسکین کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں یا خشک جنس دینا چاہیں تو فی روزہ اسی روپے کے سیرے پونے دو سیر دیا کریں۔ اگر اتنے گیہوں دو مسکین کو دیں گے درست نہیں یا ایک مسکین کو ایک تاریخ

میں دو دن کا فدیہ دیں گے تو بھی درست نہیں۔ اور اگر فدیہ دینے کے بعد اس شخص میں طاقت آگئی یا وہ مرض جاتا رہتا تو ان روزوں کو پھر قضا کرنا ہو گا۔ اور اگر کسی کو فدیہ دینے کی بھی وسعت نہ ہو تو بجائے فدیہ کے وہ صرف استغفار کرے اور نیت رکھے کہ جب ہو سکے گا ادا کروں گا۔

### حکم چہارم

**شَعْ بِمُفْطَرَاتِ دِرْ شَبَّ صِيَامٍ - أَجْلٌ لِكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاءٍ كُمْ إِلَى قَوْلِهِ حَسِينَ لِكُمُ الْحَيْطُ الْأَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْأَلَيلِ**

تم لوگوں کے واسطے روزہ کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا (اور پہلے جو اس سے ممانعت تھی وہ موقوف کی گئی) کیونکہ (بوجہ قرب والصال کے) وہ تمہارے (بجائے) اوزھنے پچھونے (کے ہیں) اور تم ان کے (بجائے) اوزھنے پچھونے (کے) ہو۔ خدا تعالیٰ کو اسکی خبر تھی کہ تم (حکم الہی میں) خیانت (کر) کے گناہ میں اپنے کو بتلا کر رہے تھے (مگر) خیر (جب تم معدرات سے پیش آئے) تو اللہ تعالیٰ نے تم پر عنايت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھو دیا۔ سو (اجازت ہو گئی) تواب ان سے ملوطاً اور جو (قانون اجازت) تمہارے لئے تجویز کر دیا ہے (بے تکلف) اس کا سامان کرو اور (جس طرح شب صیام میں بی بی سے ہم بستری کی اجازت ہے اسی طرح یہ بھی اجازت ہے کہ) کھاؤ (بھی) اور پیو (بھی)۔ اس وقت تک کہ تم کو سفید خط (کہ وہ نور ہے) صحیح (صادق) کا (جب کہ وہ بالکل شروع ہی شروع میں طلوع ہوتی ہے) متیز ہو جائے سیاہ خط سے (کہ عبارت ہے تاریکی کی اس حد فاصل سے جو کہ خط نور صحیح سے ملا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مراد متیز ہونے سے یہ کہ صحیح صادق طلوع ہو جائے) پھر (صحیح صادق سے) رات (آنے) تک روزہ کو پورا کر لیا کرو۔

**فائدہ:** شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ رات کو ایک دفعہ نیندا آجائے سے آنکھ کھلنے کے بعد کھانا پینا، بی بی کے پاس جاتا حرام ہو جاتا تھا۔ یعنی صحابہ سے غلبہ میں اس حکم کے امثال میں کوتا ہی ہو گئی پھر نادم ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اطلاع کی۔ ان کی ندامت اور توبہ پر حق تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اور احرقر نے جو خط تاریکی اور خط نور کے ملنے کو محسوس ہونے سے تعبیر کیا ہے۔

وجہ اس تعبیر کی یہ ہے کہ واقع میں وہ دو خط نہیں بلکہ ایک ہی خط ہے جو سطح نور و سطح ظلمت دونوں کا منتها اور دونوں کے درمیان میں مشترک اور فاصل ہے جیسا اہل ریاضتی جانتے ہیں۔

## حکم پنجم اعتکاف

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ اور ان یبیوں (کے بدن) سے اپنا بدن بھی (شہوت کے ساتھ) مت ملنے دو جس زمانہ میں تم لوگ اعتکاف والے ہو (جو کہ مسجدوں میں ہوا کرتا ہے)۔

**فائدہ:** مسئلہ: حالت اعتکاف میں بی بی کے ساتھ صحبت اور اسی طرح بوس و کنار سب حرام ہے۔ پھر اگر بوس و کنار میں ازال بھی ہو گیا تو وہ اعتکاف جاتا رہے گا اور بجائے اس کے دوسرا قضا کرنا ہو گا۔ اور (اگر بلا شہوت اس نے اس کو یا اس نے اس کو ہاتھ لگادیا یا بدن دبادیا تو درست ہے۔ مسئلہ ۲: اعتکاف صرف ایسی مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں پانچوں وقت جماعت سے نماز کا انتظام ہو۔ مسئلہ ۳: جو اعتکاف رمضان میں نہ ہو اس میں روزہ بھی شرط ہے۔

مسئلہ ۴: اعتکاف والے کو مسجد سے کسی وقت باہر نکلنا درست نہیں۔ البتہ جو کام بہت ہی لاچاری کے ہیں جیسے پیشاب، پاخانہ یا کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو گھر سے کھانا لے آنا یا جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کیلئے جانا بس ایسی ضرورت کیلئے باہر جانا درست ہے لیکن گھر میں یا رستہ میں ٹھہرنا درست نہیں۔

مسئلہ ۵: اگر عورت اعتکاف کرنا چاہے تو جو جگہ اس کی نماز پڑھنے کی مقرر ہے اسی جگہ اعتکاف بھی درست ہے۔ اھ

(اشرف علی)

## دوالضيق

ناگواری کے علاج کے متعلق یہ وعظ ایک صدمات کی ماری یوہ کی فرماش پر کانپور میں حاجی محمد سعید صاحب کے متعلق پر ۱۲ محرم ۱۳۲۵ھ بروز یکشنبہ بیٹھ کر فرمایا جو تین گھنٹے ۲۵ منٹ میں ختم ہوا۔ ۲۰۰ زن و مرد تھے۔ مولوی عبد الحلیم صاحب لکھنؤی نے قلمبند فرمایا۔

## خطبہ ما ثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ  
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا  
مُضِلٌّ لَهُ، وَمِنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا  
شَرِيكَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدَ عَبْدَهُ، وَرَسُولَهُ، وَصَلَى  
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔  
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضْيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ  
وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (ب ۱۲)  
(سورہ الحجر آیت نمبر ۹۹ تا نمبر ۷۹)

(ترجمہ: یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) تنگ دل ہوتے  
ہیں پس اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے اور نماز پڑھنے والوں  
میں رہیے اور اپنے رب کی عبادات کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آجائے)

### انسان کا طبعی تقاضا

یہ ایک مختصری آیت ہے سورہ حجر کے اخیر کی۔ اس میں حق تعالیٰ نے ایک حالت ناگوار کا  
علاج بتایا ہے کہ جس کی ضرورت کم و بیش سب ہی کو واقع ہوتی ہے اسی واسطے اس وقت اس کو  
اختیار کیا گیا ہے۔ جی ہمیشہ یہ چاہا کرتا ہے کہ ضروری مضمون جس کا وقوع بکثرت ہو بیان کیا جایا

کرے۔ چنانچہ ان حالات میں سے ایک خاص حالت ہے جو سب حالتوں سے کسی قدر زیادہ پیش آتی ہے۔ اس کا چونکہ اس آیت میں علاج بتایا گیا ہے اس لئے اس آیت کو اختیار کیا گیا۔ تاکہ لوگ اپنے اس مرض کی دوامعلوم کر کے اسکا ازالہ کر لیں اور اپنی حالتوں کو درست بنالیں اور وہ حالت ضيق یعنی تنگی کی حالت ہے اور اس کا پیش آناسب پر ظاہر ہے جس کا سبب خلاف طبیعت امور کا پیش آتا ہے یعنی جو خواہش یا جو مذاق جس کا ہے۔ ہر واقعہ اس کے موافق نہیں ہوتا کثرت سے واقعات خلاف طبیعت پیش آتے ہیں اور ہر شخص کو ایسے امور پیش آتے ہیں کیونکہ انسان بہت سے تقاضوں میں گھرا ہوا ہے کہ ان سے باہر نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ انسان کا طبعی تقاضا ہے کہ میں خوش رہوں۔ ہمیشہ تدرست رہوں مگر اس میں اس کو کامیابی نہیں ہوتی۔ غم میں بھی بمتلا ہوتا ہے مرض میں بھی لاحق ہوتا ہے مرض میں بھی لاحق ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب مجھ سے موافقت کریں۔ مگر بہت سے مخالفت بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کثرت سے مال ہو۔ مگر بعض اوقات بقدر حاجت بھی نہیں ہوتا۔ اور جن کے پاس ہوتا بھی ہے تو ہوں آگے ہوتی ہے کہ اور ہو۔ بہر حال گو خاص حالت یا خاص سبب سب مشترک نہ ہو یہ امر سب میں مشترک ہے کہ خلاف مزاج امور پیش آتے ہیں۔ مثلاً انسان کب یہ چاہتا ہے کہ عزیز گم ہو جاویں مگر کم ہو جاتے ہیں۔ ایسے امور کی حق تعالیٰ نے ایک مختصر فہرست ارشاد فرمائی ہے فرماتے ہیں:

وَ لَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ  
وَ الْأَنْفُسِ وَ الشُّرْمَاتِ الآية (۲)

ترجمہ یہ ہے کہ ہم ضرور امتحان کریں گے خوف سے مثلاً حاکم مخالف کا اندیشہ، دشمن کا دباو وغیرہ وغیرہ اور بھوک سے فقر و فاقہ سے جو نادار ہیں۔ ان کے تو بھوک لگائی کرتی ہے۔ فاقہ کی نوبت آتی ہی ہے۔ مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بھوک کا اثر نہ ہو۔ جو بڑے بڑے مالدار صاحب ریاست ہیں انکو بھی یہ نعمت میسر ہو جاتی ہے۔ مثلاً سفر میں ہوں اور کھانا ختم ہو جاوے اور ملنہیں اور کسی خشک مزاج کو یہ شہر نہ ہو کہ آج کل تو سفر میں کھانے کی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر مقام پر مکان سے زیادہ اسباب راحت موجود ہیں کیونکہ یہاں وہ حالت سفر کی مراد ہے کہ جس میں کھانا میسر نہ آئے عام اس سے کہ ریل کا سفر ہو یا جنگل۔ اور حضرت ریل تو کیا خدا نے کار ساز کی وہ قدرت ہے کہ امراء نے گھر بیٹھے بھوک سے بیتاب ہو کر جان بحق تسلیم کی ہے۔

## دولت کی خاصیت

کسی متمول کی حکایت ہے کہ ایک شخص نے اخبار سے نقل کی تھی کہ اس کے دہانہ میں جو کہ اندر ہی اندر دور دراز تک چلا گیا تھا۔ سونے کے ستون پڑے تھے ہر ہفتہ کو وہاں کے معائنے کو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ حسب معمول گیا اور گھوڑا قریب، ہی باندھ کر اندر گیا کسی وجہ سے گھوڑا بد کا اور تر پھر اکر بھاگ گیا جب خزانچی آیا اور گھوڑے کو نہ پایا تو یہ سمجھ کر کہ امیر صاحب واپس تشریف لے گئے ہوں گے قفل ڈال دیا۔ حالانکہ وہ وہاں سے بہت آگے تھا۔ واپس ہونا چاہا تو قفل بند دروازہ باہر کا بڑی دور جہاں آواز بھی نہ جاسکتی تھی۔ اس وقت وہ حضرت کی نظر وہ سونے کے ستونوں کو دیکھتا تھا کہ کچھ کام نہیں آتے کئی روز بھوکے رہ کر ختم ہو گئے۔ نیز ہمیشہ ہر کوئی ریل ہی میں تھوڑا اسفر کرتا ہے۔

تو مثلاً سفر میں کھانا ختم ہو جائے اور نہ ملے؟

گلتاں کی حکایت مشہور ہے کہ ایک شخص جنگل میں چلا جاتا تھا کسی ایسے مقام پر اس کا تو شہ ختم ہو گیا کہ جہاں سے آبادی بہت دور تھی بے چارہ اور ادھر پھر اکہیں کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی۔ آخر میں آکر پڑ رہا اور زمین پر جو روپے اس کے پاس تھے رکھ کر یہ عضموں انگلی سے لکھا در بیابان غریب سوختہ راہ شلغم پختہ بہ زنقرہ خام جنگل میں دل جلے مسافر کو کپے ہوئے شلغم خالص چاندی سے زیادہ بہتر ہے۔“ تو روپیہ پیسہ تو کھانے کے بھی کام نہیں آتا۔ اس کی عجیب خاصیت ہے کہ جب تک جدانہ ہو کبھی کام نہ آؤ۔ دوستی کا مقتضی یہ تھا کہ اجتماع ہو مگر یہ ساتھ رہ کر کبھی کام نہیں آتا یعنی جب اس کو پاس سے جدا کرو۔ بہر حال ایسی چیز دوستی کے قابل نہیں کہ آپ کی دشمن اور آپ اس کے مشتاق۔ دوست وہ ہے جس کی شان یہ ہے۔ مباہت اج بودھم او بما مشتاق بود۔

بہر حال روپیہ چاہے کتنا ہی ہو مگر جب وقت پر کھانا بھی نہ میسر ہو تو بھوک تو سب کو ہی چکھنا پڑے گی۔ و نقص من الاموال اور مال کے نقصان سے مثلاً تجارت کی تھی اس میں نقصان ہوا۔ برف تھی گل گئی یا چور لے گئے۔ بہر حال نقص عام ہے۔

والنفس بیمار ہو گیا۔ والثمر ت پھلوں کا گھٹنا۔ یا تو یہ کہ باغ میں پھل ہی نہ آیا۔ مگر کسی وجہ سے ہلاک ہو گیا یا اولاد نہ ہوئی یا ہوئی اور مر گئی۔

بہر حال یہ مختصر فہرست ارشاد فرمائی ہے ان واقعات کی جو ناگوار ہیں۔

## مشابہت و مناسبت

گوتا گواری کا پیش آنا بھی رحمت ہے حق تعالیٰ کی کہ اگر نا گواریاں نہ پیش آئیں تو اجر و صبر نہ میسر ہوتا کیونکہ اگر نا گواری نہ پیش آتی تو صبر کی ماہیت جو حبس النفس علیٰ ماتکر ہے کہاں سے متحقق ہوتی اور جب یہ متحقق نہ ہوتی ہم بہت بڑے ثواب سے محروم رہتے۔

یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اولیاء کو یہ مشاہدہ اس رحمت کے، نا گوار طبعی ہوتا ہے نا گوار عقلی نہیں ہوتا۔ ہاں صدمہ ہوتا ہے۔ مگر یہ منافی رضا کے نہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے سے انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ایک صحابیؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ آپ روتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بنوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔

ایک اور حکایت یاد آئی۔ ایک بزرگ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ بُن پڑے اور ایک ایسے بزرگ فرض کئے جائیں کہ وہ اس حالت میں رو نے لگیں دونوں کی بڑی فضیلت ہے مگر یہ کہا جائے گا کہ رو نے والے میں کمال اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ تو بزرگوں کی حالت میں اس قسم کا تفاوت ہوتا ہے کسی شخص نے اپنے پیر سے کہا کہ بزرگوں کی حالت کیسے مختلف ہوتی ہے پیر نے کہا کہ فلاں مسجد میں تین بزرگ بیٹھے ہیں وہاں جا کر ان کے ایک ایک طہانچے مار کر دیکھ لوا۔ چنانچہ سائل مسجد میں گئے۔ ہر ایک کے ایک ایک طہانچے مارا ایک نے تو اٹھ کراتے زور سے اس کو طہانچے مار لیا اور چیکے جائیٹھے ایک نے خیال بھی نہ کیا۔ اور ایک نے اس کے ہاتھ کو دبانا شروع کیا کہ تیرے چوٹ لگی ہوگی۔

غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے صاحبزادے کے انتقال پر آنسو جاری ہو گئے تھے اور یہ کون کہہ سکتا ہے کہ حضور کو رضا حاصل نہ تھی۔ اور یہ حدیث صحیح ہے راوی اس کے سب اثاثہ ہیں۔ تو اس میں کسی طرح کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور بظاہر نظرنا واقف کو یہ حالت کھٹی ہوئی معلوم ہو سکتی ہے۔ مگر وجہ صرف یہ ہے کہ فن سے واقفیت نہیں۔ پس اس فن کے جانشی کی ضرورت ہے۔ نہ جانشی کی وجہ سے جو سنا اور جو چاہا سمجھ لیا۔ اور اسی سے غلطی ہوتی ہے۔ مگر اس فن کے حاصل کرنے کی طرف اصلاً تعجب نہیں۔ طلبہ سے تعجب ہے کہ صرف وجوہ میں تمام تمام عمر میں صرف کر دیتے ہیں مگر اس فن کے لئے تھوڑے دن بھی صرف کرنا ضائع سمجھتے ہیں۔ حالانکہ درسیات سے بھی یہی مقصود ہے فرماتے ہیں۔ در کنز و ہدایہ نتوال یافت خدارا سیپارہ دل میں کہ کتابے بہ ازیں نیست

”کنز اور ہدایہ میں خدا نہیں پایا جاسکتا۔ دل کے سیپارے میں دیکھو کہ اس سے اچھی اور کوئی کتاب نہیں۔“ اور

چند چند از حکمت یونانیاں      حکمت ایمانیاں را ہم خواہ

”یونانیاں کی حکمت کب تک دیکھتے رہو گے۔ ایمان والوں کی حکمت بھی پڑھو۔“

صرف شد عمرت بہ بحث خنود صرف      از کتابے عشق خواہ ہم یک دوہر ف

”تیری عمر صرف خنود بحث میں صرف ہو گئی۔ کتاب عشق کے دو چار حرف بھی پڑھ دیکھ۔“

تو اخلاق کے حقائق ہی نہیں معلوم۔ اخیر! اگر تفصیل نہیں معلوم ہے تو اتنا تو معلوم ہے کہ حضور سب سے افضل ہیں۔ اور ہر حالت آپؐ کی افضل تھی تو جس کی حالت حضورؐ کے مشابہ ہو گئی وہ ضرور افضل ہو گا کیونکہ اس نے داں اقتداء کو مضبوط پکڑ لیا۔ مگر مساوات نہ سمجھتے گا۔ تو وہ حالت مشابہ ہو گئی نہ کہ مساوی۔

پس اہل کمال کے فیوض و احوال حضورؐ کے فیوض سے صرف مشابہت و مناسبت رکھتے ہیں اور مساوی کہتا جہل اور گمراہی ہے۔ سو جن کو مشابہت کامل ہے ان کا اور اک کامل ہے۔ وہ ہر واقعہ سے پورے متاثر ہوتے ہیں۔

چنانچہ جب حضرت ابراہیم کے انتقال کا وقت ہوا تو آپؐ کے آنسو پک پڑے۔ یہ اثر تھا شفقت پدری کا۔ کیونکہ یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اولاد مرگی اور ایک یہ کہ اس امر کو خدا نے واقع کیا۔ تو یہاں دو حق ہوئے ایک اولاد کا اور ایک خدا تعالیٰ کا۔

پس کمال یہ ہے کہ دونوں کے حقوق ادا کئے۔ بیٹھ کی محبت کی وجہ سے تو آنسو پک پڑے اور متاثر ہوئے مگر نہ اس قدر کہ جزع و فزع کی نوبت پہنچتی جس سے خدا کا حق فوت ہوتا۔ تو حق کی رضا کو بھی ساتھ لئے رہے اور بیٹھ کی محبت کا حق بھی ادا کیا۔ تو دونوں کو جمع کر دکھایا۔

جیسا خدا تعالیٰ نے ایک مخلوق ملائکہ کی پیدا کی ہے جن کی خلقت میں دو چیزوں کو جمع کیا ہے یعنی انکا نصف بدن برف کا ہے اور نصف آگ کا اور انکی یہ تبعیج ہے۔

سبحان الذين جمع بين الشَّجَنَ والنَّارِ

تو یہ شان یہاں بھی موجود ہے کہ غم کی آگ، رضا کی مخندگ نہ وہ غالب نہ یہ زائل اتو پورے حقوق ادا کرنا بڑا کمال ہے۔ غیر کامیں پورے حقوق ادا نہیں کرتے۔

## جدبات کی حکمت

دوسرے صبر کی فضیلت بھی توجہ ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب دل کو لگ جاوے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جذبات پیدا کئے ہیں سب میں حکمت رکھی ہے مثلاً غصب میں یہ حکمت ہے کہ عفو کی فضیلت ہمیں حاصل ہو فرماتے ہیں

**وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (پ ۲)**

(اور وہ غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں)

تو عفو بھی بہت بڑی فضیلت ہے اگر غصب نہ ہوتا اس سے محروم رہتے۔ پس نہ یہ فضیلت ہے کہ بالکل ہی غصہ نہ آوے اور نہ یہ فضیلت ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں میں خفا ہو جائیں تھل و عفو جانتے ہی نہ ہوں فضیلت تو یہ ہے کہ اذا ما غضبوا هم يغفرون (پ ۲۵) (اور جب غصبنا ک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں)۔ مگر یہ واضح ہے کہ عفو اور تھل کے موقع ہیں ہر محل و موقع میں نہ غصب مناسب ہے اور نہ عفو، ہی بلکہ جو محل عفو کا ہے وہاں عفو کرنا چاہئے اور جو موقع غصب کا ہے وہاں غصب نافع ہے اس زمانہ کے صوفیاء، اس میں تمیز نہیں کرتے ایک ملکہ کو نہ بالکل ہی فنا کر دیں اور نہ اس کو امام مطلق ہی بنادیں۔

اگر کسی کے پاس سنکھیا ہوتا ہیر سے وہ بھی کار آمد ہے ساری خرابی یہ ہے کہ فن ناقصوں کے ہاتھ آگیا۔ جیسا ایک بڑھیا کے مکان میں شاہی بازا آگرا تھا اس نے دیکھا کہ اس کی چونچ میزی ہی ہے۔ یہ کھاتا کیسے ہوگا۔ اس کے پنجے مڑے ہیں یہ چلتا کیسے ہوگا۔

غرض اس بڑھیا کو اس باز کی حالت پر بہت رحم آیا اور قینچی لے کر باز کے پنجے اور چونچ بازو وغیرہ کاٹ ڈالے اور اس کو مضغہ گوشت بنادیا۔

اس زمانہ کے رسمی پیر و مرید بھی اس بڑھیا سے کم نہیں کہ تمام عالم کو تھس نہیں اور بر باد کرتے پھرتے ہیں۔ بڑا اولیاء اللہ وہ مرید شمار ہوتا ہے کہ جس کو اپنے یوں بچوں کی خبر اور پرواہ نہ ہو۔ مگر فی الحقیقت یہ شخص بڑا مخالف ہے خدا کا۔ حضور تو یہ کریں کہ خطبہ چھوڑ کر حسن گود میں اٹھا لیں اور یہ منہ بھی نہیں دیکھتے۔ بلکہ دیکھنا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یا تو مسئلہ سے بے خبری ہے یا اس کی حالت ناقص خیال کرتے ہیں ایک جہل ہے ایک کفر۔

بہر حال غصب بھی ضروری ہے اپنے موقع پر اور جمل بھی ضروری ہے مثلاً ایک شخص اس لئے

تم مانگے کہ بھنگ پیوں گا۔ ناج کراؤں گا۔ یہاں جمل کی ضرورت ہے۔ پس بھل بھی جب بے موقع ہو گا تب تو مذموم ہو گا اور نہ محمود خوب سمجھ لجئے مولا نافرماتے ہیں

شہوت دنیا مثال <sup>کلخن</sup> است                          کہ از و حمام تقویٰ روشن است  
دنیا کی خواہش بھٹی کی طرح ہے جس سے تقویٰ کا حمام روشن ہے۔

یہ جو خواہشیں ہیں ایندھن ہیں کہ ان سے تقویٰ کا حمام روشن ہے اگر شہوت کا تقاضا ہے تو تقویٰ کیا۔  
مولانا نے اس شہوت کو بھی کمال بتایا ہے کہ جس کی قوت شہویہ جس قدر بڑھی ہو اور وہ

رکے بس وہ کامل ہے کہ <sup>کھم</sup>

شہوت دنیا مثال <sup>کلخن</sup> است                          کہ از و حمام تقویٰ روشن است  
(دنیا کی خواہش بھٹی کی طرح ہے جس سے تقویٰ کا حمام روشن ہے)

## دین اور عقل

اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کوئی چیز بیکار نہیں۔ لجئے جس کو قسمت کہتے ہیں کہ وہ سب رحمت کا ہوا۔ اسی طرح صبر کی فضیلت ناگواری ہی کی وجہ سے میسر آتی ہے۔ پس موت پر طبعی ناگواری ہونا تو حق اولاد کا ہے اور روحانی ناگواری نہ ہونا رضائے حق کا حق ہے تو حضور نے دونوں حق ادا کئے۔ غالب کا غالب، مغلوب کا مغلوب، یہی عدل ہے تو اولیاء میں بھی کامیں وہی ہیں جو حضور کا وصف لئے ہوئے ہوں۔

اس سے یہ بھی سمجھ لجئے کہ حضور نے نہ کبھی کپڑے پھاڑے نہ جنگل میں بھاگے حضور کے یہاں امور خانہ داری کا بھی پورا پورا انتظام اور سلطنت کا بھی اور انتظام بھی وہ جس کی نظیر نہیں ہو سکتی۔ امور خانہ داری کا وہ انتظام کہ آج ہر شخص اسی کا خوشہ چیز ہے۔ غرض کہ حضور کے یہاں ہر ایک امر کا انتظام تھا۔ آپ نے بول و بر از تک کے لئے قانون بتائے ہیں۔

آج کل پیروں کا بڑا کمال یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں شاہ نے ایک ضرب لگائی اور ہو کہا بس گر پڑے لو صاحب! بس یہ پہنچ ہوئے بزرگ ہیں۔ مگر حقیقت میں اگر اس کا نام بزرگ ہے تو کوئی نبی بزرگ ہی نہیں ہو۔ کیونکہ انبیاء مغلوب الحال نہیں ہوتے تھے ان کو وہ وجد نہیں آتا تھا کہ جس میں کپڑے پھاڑا لیں۔

دنیاوی امور میں وہ بالکل عوام کے مشابہ ہوتے تھے۔۔۔ پس یہ امور لوازم بزرگی سے نہیں۔  
ہاں اگر تضع سے نہ ہوں، تو بزرگی کے منافع بھی نہیں۔

چنانچہ بزرگ دوستم کے ہوتے ہیں ایک ابن الحال اور ایک ابوالحال.....ابوالحال تو اپنے حال پر غالب رہتے ہیں۔ اور ابن الحال مغلوب ہوتے ہیں خلقت سے بھاگتے ہیں کہ کپڑے پھاڑتے ہیں۔ ہاں خلاف شریعت قصد انہیں کرتے اور ان دونوں قسموں میں زیادہ کامل ابوالحال ہوتے ہیں مگر آج کل لوگ غالب الحال بزرگوں کوہی نہیں سمجھتے جیسا کہ انبیاء کو ان کے زمانہ کے لوگ سمجھتے تھے چنانچہ کفار عرب کہا کرتے تھے۔

مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَا مُكْلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلِكٌ فَيُكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تُكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَا مُكْلُ مِنْهَا (ب) ۱۸

” یہ کیسے اللہ کے اور پیارے رسول ہیں کہ کھاتا بھی کھاتے ہیں۔ بازار میں چلتے پھرتے ہیں۔ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتنا راگیا کہ ان کی ضروریات منصبی میں مدد کرتا یا ان کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں دیا گیا یا باغ ان کو کیوں نہ دے دیا گیا جس سے کھاتے پیتے۔ یہ تو ہم سے بھی زیاد محتاج ہیں۔ آج کل بھی جو بزرگ ایسی شان رکھتے ہیں ان کو بزرگ نہیں سمجھتے۔ بلکہ اب تو ایسے شخص کو زیادہ بزرگ سمجھتے ہیں جس کو عقل تک بھی نہ ہو۔ حالانکہ دین میں عقل زیادہ کارامہ و نافع ہے کیونکہ اس کا فعل ہے انجام اندیشی۔ مگر صرف عاجل کی نہیں بلکہ آجل کے لوگ۔ انجام کے معنی یہ بھی نہیں سمجھتے۔

### انجام اندیشی

انجام اندیشی یہ نہیں کہ ایک ہفتہ کا نرخ دیکھ کر کلکتہ سے مال مگالیں بلکہ انجام اندیشی یہ ہے کہ احرق نے ایک بار سہارنپور میں سے گنے لئے۔ اٹیشن پر جا کر بابو سے کہا کہ انہیں وزن کر کے محصول لے لو۔ اس نے کھالے جاؤ ہم گارڈ سے کہہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ گارڈ کہاں تک جاوے گا کہا غازی آباد تک۔ میں نے کہا اس کے آگے کیا ہوگا کہنے لگا وہ دوسرے گارڈ سے کہہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کہاں تک جاوے گا اس نے کہا کانپور تک۔ میں نے کہا اس کے آگے کیا ہوگا اس نے کہا بس کانپور تو جانا ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں بلکہ اس کے آگے پھر ایک جگہ جانا ہے (اللہ کے یہاں) وہاں کون سا گارڈ ہوگا؟ تو وہ ہندو بالوں ناٹے میں آگیا اور اس پر بہت ہی اثر ہوا۔ بس پھر کسی نے کچھ نہیں کہا ایک روپیہ وزن کراکے دے دیا۔ اب ان شاء اللہ وہاں سے بے فکری ہے ہم نے جو حکم تھا کرو دیا۔

غرض یہ ہے انجام اندیشی اور وہ انجام جس کو آپ سمجھے ہوئے ہیں وہ نہیں ہے۔ لوگوں نے انجام میں تعییل کر لی ہے کہ م کو بدل لیاں سے یعنی انجام۔ غرض عقل کا کام ہے انجام اندیشی اور اس کی ضرورت خصوصیت کے ساتھ دین میں جس قدر ہے ظاہر ہے۔

پس کم عقل زیادہ بزرگ ہو گایا عاقل۔ انبیاء کو، ہی دیکھ لو کہ ان کو وہ عقل عطا ہوتی ہے کہ نہ کسی دنیا دار کو نہ کسی دیندار کو ویسی عقل ملی۔ پس جن کے احوال زیادہ مشابہ ہوں گے۔ انبیاء علیہم السلام کے خصوص حضور کے وہی زیادہ بزرگ ہوں گے البتہ بعض بزرگ بھولے بھی ہوتے ہیں۔ مگر بھولا ہونا لوازم بزرگی سے نہیں گو منافی بھی نہیں مگر نفع زیادہ بھولے سے نہیں ہوتا ہاں چاہے بھولا خود مقبول ہو کیونکہ پیا جس کو چاہے وہی سہا گئے ہوئے

بعضی اس مذاق کے بھی ہوئے ہیں کہ نفع سے بحث نہیں چنانچہ احمد جام فرماتے ہیں  
احمد تو عاشقِ بخشیت تراچہ کار دیوانہ باش سلسلہ شد شد نشد نشد  
اے احمد جام! تم عاشق ہو۔ تمہیں شیخ بنے سے کام ہی کیا ہے دیوانے بن جاؤ سلسلہ چلا...  
چلا... نہ چلا... نہ چلا۔

مگر انبیاء نے سلسلہ بڑھانے کی کوشش فرمائی۔ بہر حال واقع میں خواہ یہ حالت بھی کامل ہو مگر نفع وہی ہو گا جو عاقل کامل ہو گا۔ پس انبیاء عاقل تھے اور میں اسی کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء بھولے نہیں تھے۔ سب تعلقات کے حقوق پورے ادا فرماتے تھے۔ اولاد کا بھی، حق تعالیٰ کا بھی، یہی شان مومن کامل کی ہوتی ہے کہ اسکونا گواری ہوتی ہے مگر وہ نا گواری سے مغلوب نہیں ہوتا۔ خلاصہ مقام یہ تھا کہ نا گواری ہر شخص کو پیش آتی ہے اور بیچ میں مضمون بڑھ گیا مگر ہیں سب مفید بائیں۔ مقصود یہ ہے کہ سب کونا گواری پیش آتی ہے اور اس پر صبر کرنے سے ثواب عظیم ملتا ہے تو نا گواری بھی حق تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دیکھئے لوگ کہتے ہیں کہ لا تقطعوا من رحمة الله سے رحمت ثابت ہوتی ہے۔

### شریعت اور رحمت

مجھ کلوہ ہر آیت میں رحمت ہر حکم میں رحمت نظر آتی ہے اگر شریعت کے ہر ایک برتاؤ کو غور سے دیکھیں تو ہر ایک میں رحمت پائی جاوے گی۔ اور یہ میری من گھڑت نہیں بلکہ سلف کے اقوال اسکے مؤید ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی آیت رحمت کی آیت ممانیت ہے کہ آپ میں کالین دین لکھ لیا کرو۔ وجہ دلالت یہ کہ حق تعالیٰ کو جب ہمارا دنیا کا نقصان گوارا نہیں تو اخروی نقصان کو کب گوارا فرمائیں گے لکھنا مشروع فرمایا۔ تا کہ چار پیسے کی بھی بھول نہ ہو کہ نقصان انٹھانا پڑے ایک لمبی آیت روکوں کا رکون اسی قانون میں نازل فرمایا تو ہمارا چار پیسے کا نقصان بھی گوارا نہیں یہ کتنی بڑی رحمت اور محبت ہے۔

جیسے اس باپ کو کتنی محبت ہوگی کہ بیٹے کو تھیکرے جمع کرنے سے نہیں روکتا کہ رونے گا۔ حالانکہ تھیکرے رونے کے قابل نہیں۔ و اللہ دنیاوی متاع تو تھیکروں سے بھی کمتر ہے بلکہ مچھر کے بازو کے برابر بھی اس کی قدر اللہ کے نزدیک نہیں۔ اگر انی بھی قدر ہوتی تو کسی کامل سے بڑھ کر کوئی دوسرا مالدار نہ ہوتا اور نافرمان کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ ملتا کہ محبوب چیز مبغوض کو نہیں دی جاتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ مال دنیا حق تعالیٰ کو فی نفسہ مبغوض ہے اگر معین دین ہونے کے سبب عارضی محبت ہو جیسے محبوبیت سنکھیا کی کہ کسی دوا کا جز ہے لہذا قابل خریداری ہے۔ جب یہ بات ہے تو جب معین دین ہوگا۔ ورنہ مبغوض ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ اپنے محبوبوں کو کم (یعنی حسب ضرورت) دیتے ہیں اور یہ عین رحمت ہے کہ خدا ضرورت کے موافق دے کے عصمت بحالہ رہے اور انہاک فی الدنیا شہ ہو کیونکہ اگر ان کو زیادہ مال و متاع ملے تو آخران کے بھی پیچھے حرص کا جال بچھا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو زیادہ دیتا ہی نہیں تاکہ انہاک فی الدنیا شہ ہو اور جس کا مرتبہ عند اللہ جس قدر بڑھا ہوا ہے اور جو زیادہ محبوب ہے اس کو اسی قدر دنیا سے کم حصہ ملتا ہے چنانچہ اسی سبب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے کم دنیادی گئی۔

### انبیاء اور مججزے

کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ حضرت سیلمانؓ کو ساری دنیا کا مالک اور اتنا بڑا بادشاہ بنایا تھا کہ آج تک کسی کو ان کا نظیر نہیں بنایا کیونکہ وہ ان اموال سے متمول اور ان کے مالک نہ تھے بلکہ ان کے خازن محض تھے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ آپ کا مججزہ تھا کیونکہ مججزہ ہر نبی کو اس زمانے کے موافق عطا ہوتا ہے یعنی جس زمانہ میں جس بات کا ذرہ ہوتا ہے اسی قبیل کا مججزہ اسی قوم کے نبی کو دیا جاتا ہے۔

چنانچہ حضرت موسیؑ کے زمانہ میں سحر کا بڑا ذرہ تھا تو حضرت موسیؑ کو وہ وہ مججزے عطا کئے گئے کہ جس سے اہل سحر متین روغا جز ہو گئے اور ناچار آپ کو رسول برحق مانتا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا بڑا ذرہ تھا اس لئے حضرت عیسیٰ کو دم سے مردہ زندہ کر دینے کا مججزہ عنایت ہوا لاعلاج برص وائے کو دم کے دم اچھا کر دیتے۔

زمانہ بھر کا مسلم ہے کہ مادرزادنا بینا بینا کسی دوائے بھی نہ ہو سکتا۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بھی حکم خداوندی بینا کر دیتے تھے۔

چونکہ حضرت سلیمانؑ کے زمانہ میں حکومت اور سلطنت کا ذریعہ تھا کہ ہر بادشاہ اپنی طاقت و خدا داد قوت پر مغزور تھا اپنے اس ذریعے کو مگر وقوت پر مغزور ہو بیٹھے تھے خدائی اور آسمانی ادکام بالکل نیامنیا ہو چکے تھے۔ اس زمانہ میں جب سلیمانؑ کو نبی برحق بنایا کر بھیجا گیا تو ان کو ایسا زبردست بادشاہ بنایا گیا کہ جس کو دیکھ کر وہ اوگ اپنی طاقت و ذریعہ بھول گئے اور ہر تسلیم ختم کرتے ہیں بن پڑا۔

باقی یہ بات کہ ہر نبی کو وہی مججزہ کیوں دیا جاتا ہے جس میں اسکی قوم کو غلو ہو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جس امر کا جس زمانہ میں غلبہ ہوتا ہے اس کی معرفت ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے اور جس قدر معرفت زیادہ ہوتی ہے اس کی حد مقدوریت زیادہ معلوم ہوتی ہے جب مججزہ اس حد سے آگے ہو گا اس کے اعجاز کو بھی وہ لوگ خوب سمجھیں گے اور جو مصلحت ہے مججزہ کی وہ خوب ظاہر ہوگی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی قوت کی سلطنت دی گئی تاکہ بمقابلہ دوسرے سلاطین کے یہ بات ظاہر ہو جاوے کہ سلاطین کتنے ہی بڑھ جائیں ساری دنیا غرب سے شرق تک کے مالک ہو جائیں کتنے ہی ریلوے انجن موزر کار وغیرہ نکالیں مگر جن اور طیور پر کہاں سے حاکم بنیں گے۔ ان کی زبانیں کیسے معلوم کریں گے۔ ہوا کو کیونکرایا تابع بنائیں گے کہ صرف زبان بلانے سے وہ کام کرنے لگے۔

اور حضرت سلیمانؑ کو ان چیزوں پر حاکم بنایا۔ سب کو ان کے قبضہ میں دیا

پس اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ مججزہ ہے.....  
..... حاصل یہ کہ سلطنت ان کو اس غرض سے دی گئی تھی جو نہ کوہ ہوئی پس وہ خازن محفوظ تھے اس ملک سے متول نہ ہو گئے تھے چنانچہ لکھتے ہیں

زال سلیمان خویش رامسکین بخواند (ای طرح خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسکین سمجھو) قرآن بھی اس تقریر کا مسوید ہے چنانچہ ایک مقام پر فرمایا کہ داؤ دکوہم نے سلطنت دی اور سلطنت بھی چھوٹی نہیں بلکہ ملک عظیم عطا فرمایا چنانچہ ارشاد ہے وشد و نا ملکہ (پ ۲۳) اور با وجود اس کے دوسری جگہ ان کے ہی قصہ میں فرمایا کہ ہم نے ان کو زرہ بنانے کا حکم دیا۔ اگر کہنے کے زرہ بنانا۔ ایک صنعت تھی جن کو انہوں نے سیکھ لیا تھا۔ باقی کھاتے پیتے سلطنت سے تھے تو یہ بھی نہ تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وکان یا کل من عمل یہ یہ کہ اپنی دستکاری سے اپنے حوانج پوری کرتے تھے۔

صاحب! یہ ان کی سلطنت تھی کہ صاحب سلطنت ہو کر ان کی غذا جو کی روٹی ہوتی تھی اور یہ شان سوائے کاملین اور انبیاء کے دوسرے کی نہیں ہو سکتی کہ سلطنت بھی کریں اور جو کی روٹی بھی کھائیں۔ اس لئے ان کی سلطنت سے اپنے لئے ترقی کی ہوں کا سہارا ملت ڈھونڈنا۔

## امور دنیا اور اعتدال

اس سے ایک غلطی اور رفع ہوئی کہ اب جو لوگوں نے بزرگی کے معنی کا حاصل زہد خشک نہ کالا ہے کہ... مررہ، ہو، یہوی پچھے سب چھوڑو۔ گھر سے منہ موزو۔ یہ کوئی بزرگی نہیں۔ زرہ بنا کر اس سے گزارا کرنے سے تو اس کی ممانعت نکلتی ہے۔ ہاں ترقی دنیا و جشن نہیں نکلتا کیونکہ اعمال سابقات کے ساتھ ہی و اعملوا صالحًا بھی ارشاد فرمایا ہے مگر آپ نے خوب عمل کیا اعملوا صالحًا کو اڑاہی دیا جس طرح کسی بسیار خور نے کلاؤ اواشر بوا پر عمل کیا تھا۔ دعا بھی قرآن میں منتخب کی تو صرف رَبَّنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَا إِنَّا مِنَ السُّمَاءِ۔ (پ ۷) غرض یہ کہ مطلب کی سب باتیں لے لیں۔

بہر حال خدا نے دنیا کے کام سے ممانعت نہیں فرمائی۔ ہاں اس میں اعتدال کا حکم ہے کہ منہک اور مشغول نہ ہو۔ اسی استعمال معتدل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائل کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ان الله جميل و يحب الجمال (صحیح مسلم تابع الایمان: ۱۳۲)

سائل نے پوچھا تھا کہ احباب ان یکوں نعلیٰ حستا و ثوبی حستاً ایکوں هدا من الكبر۔ حاصل جواب یہ مطلب نہیں کہ خدا تو دے عمدہ اور پاکیزہ کھانا کپڑا اور تم وہی سڑی ہوئی پوشک اور بھسا ہوا کھانا کھاؤ یہ بے نفسی نہیں بد تیزی ہے۔ ہاں خدا اعتدال سے آگے قدم نہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتدال دیکھئے کہ فرماتے ہیں ان الله يحب الناظفة اور ایک جگہ فرماتے ہیں البدادۃ من الایمان یعنی ..... سادگی رکھونے میلا پن اور نہ تکلف یعنی نہ کرو بغیر صابن میاں کا منہ ہتی نہ دھلے بغیر آئینہ عمما مہ ہی نہ باندھا جائے کہ کہیں ٹیڑھانہ ہو جائے۔ کہ یہ تکلف ہے جس سے بعض وقت اور وہ کو بھی سخت تکلیف ہوتی ہے۔

چنانچہ فقہاء نے بد بودار کپڑے پہن کر یا بد بودار شے مثل پیاز ہسن کے کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے کہایے لوگ جماعت میں نہ شریک ہوں۔ کتابہ احرمان ہے کہ فضیلت جماعت سے بھی محروم ہے۔

صاحبہ! علماء نے حقیقت کو سمجھا ہے جمعہ کو نہانہا۔ بد ن صاف کرنا۔ کپڑے بد نا ضروری قرار دیا لیکن نہیں فرمایا کہ استری ہی کے کپڑے ہوں۔ صابن بھی ضرور ہو اگر دھوپی کے یہاں کے بھی نہ دھلے ہوں تو اپنے ہاتھ سے دھو کر صاف کر لئے جاویں پس حضور نے اعتدال کی تعلیم فرمائی ہے۔

تو خدا نے انبیاء کو مال کا خازن بنایا ہے مالک نہیں بنایا اور اسی کا یہ اثر ہے جو فرمایا گیا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث (البداية والنهاية: ۲: ۱۵۳) یعنی ہم انبیاء کی

جماعت نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہماری وراثت کسی کو ملتی ہے کیونکہ وراثت توجہ ملے کہ ہم پہلے مالک ہوں ہمارے پاس جو ہے وہ وقف ہے اور فقراء و مساکین کا حق ہے بس! حضورؐ کا یہ تموں تھا کہ آپؐ کے خاتمه کے ساتھ ہی مال کا بھی ختم ہو گیا۔

## موت اور مال

اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ یہ ملک اموال دنیا کی ناقص ہے چنانچہ اس کا اثر مرض موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے کہ ملٹ سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ پس عدم ملک کا اثر اسی وقت سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے مگر حالت صحت تک ہمارے ضعف کے سبب ہماری تسلی کی اصل سے عدول کیا گیا۔ چونکہ انبیاء میں یہ عارض نہیں۔ اسی لئے علی الاطلاق ان کے لئے اس اصل کو تجویز کیا گیا۔ نیز اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ انبیاء کے ساتھ محبت فرض ہے اور محبت بغیر ایمان ہے نہیں۔ تو اگر میراث ملا کرتی تو شاید لوگوں کو میراث اور مال کی محبت میں انبیاء کی موت کی تمنا ہوتی جو خلاف محبت ہے اس لئے اس کی جڑ ہی کاٹ دی۔

اسی طرح لانشیمیں بھی یہی حکمت ہے کہ شاید کوئی عزیز واقارب معاملات تقسیم میں ان سے الجھتا۔ اس لئے یہ حکم قرار پایا کہ انبیاء نہ وارث ہوں کسی کے نہ ان کا کوئی وارث ہو اور جو کچھ چھوڑا جائے وہ صدقہ ہے چنانچہ ارشاد ہے ماتو کنا فہر صدقة

غرض خدا تعالیٰ نے اس سے اپنے دوستوں کو بچایا ہے۔ تو باوجود یہ کہ دنیا ایسی مبغوض ہے مگر پھر بھی جب ہمارا چارپیے کا نقصان بھی گوار نہیں کیا کہ لکھ لیا کرو تو کیا رحمت ہے۔ اور یعنی یہ کس قدر رحمت ہے کہ اگر کوئی مالک نصاب مقرض ہو تو حکم ہے کہ قرضہ پہلے ادا کرو۔ بندوں کا حق بندوں کو دو۔ ہم اپنا حق یعنی زکوٰۃ ساقط کرتے ہیں۔ نہیں دو ہمیں نہیں چاہئے۔

اللہ اکبر! اس قدر رحمت کہ بندوں کے سامنے اپنا حق معاف فرمادیا مگر ہر موقع کو اس پر قیاس نہ کیجئے کہ ہر جگہ حق اللہ کو حذف کر دیا جاوے کیونکہ جس موقع پر حق عبد مقدم ہے تو اس حیثیت سے نہیں کہ وہ حق مستقل ہے بلکہ اس حیثیت سے وہاں حق اللہ اس طرح ادا ہوتا ہے کہ اس حکم کو مانو۔ پس خواص اس حق عبد کو حق اللہ سمجھ کر بجالائے اور اس کے ضمن میں مخلوق کا حق بھی ادا کیا۔ پس ان کو تمام حقوق العباد میں اصل مطیع نظر حقوق اللہ ہی ہیں اور یہی شان ہوتی ہے عارفین کی کہ ان کی نظر میں مخلوق مرادہ جمال حق ہوتا ہے۔

## واصل و شاغل کا فرق

اس کی مثال آئینہ کی ہے جو محبوب کے سامنے رکھا ہے کہ وہاں ایک دعاشق بھی کھڑے ہیں اور ایک مشتری بھی ہے۔ یہ سب اس آئینہ کو دیکھ رہے ہیں مگر نظر میں دونوں کی وتفاقوت ہے مشتری آئینہ کو من حیث ہو مقصود دیکھ رہا ہے اور عاشق من حیث اللہ مروأۃ للمقصود دیکھ رہا ہے۔ لوگ ان حضرات کی حالت سن کرتے تجھب کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شاغل۔ مگر مثال مذکور سے خوب سمجھ لو کہ ان کو مخلوق کی طرف نظر کرنا منع نہیں ہوتا مشغولیت بحق سے۔

اس کی دوسری ایسی مثال ہے کہ کسی جماعت نے بادام بہت سے جمع کئے اور وہ روغن کے عاشق ہیں تو محلہ میں مشین ڈھونڈتے پھر میں گئے مگر مشین کے طالب نہیں ہیں۔ اسی طرح عارفین روغن معرفت کے عاشق ہیں اور مخلوق مشین ہے پس وہ اس مصنوع سے صانع کار روغن نکالتے ہیں اس مصنوع میں صانع کے مشاہدہ کی مثال میں ایک حکایت یاد آتی ہے کہ ایران کے شہزادہ نے ایک مصرع کہا کہ درا بلق کے کم دیدہ موجود (چستکبر اموی کسی نے کم دیکھا ہوگا)

دوسراء مصرع نہ موزوں ہو سکا۔ شعراء سے کہا مگر چونکہ مضمون مہمل تھا کسی شاعر سے بھی موزوں نہ ہوا۔ ولی بادشاہ کو لکھا کہ اس کا دوسرا مصرع موزوں کرا کے بھیج دیجئے۔ ولی کے شعراء بھی نہ کر سکے۔ مگر زیب النساء ایک دن سرمد گارہی تھی اتفاقاً آنسو پک پڑے۔ تو دوسرا مصرع آنکھ دیکھ کر موزوں کر دیا کہ

درا بلق کے کم دیدہ موجود      مگر اشک بتان سرمد آلوو

چستکبر اموی کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ صرف سرمد لگانے والے محبوب کے آنسو ایسے ہو سکتے ہیں۔

اور بھیج دیا۔ وہاں سے خط آیا کہ شاعر کو یہاں بھیج دو اس کے جواب میں زیب النساء نے لکھا درخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل      ہر کہ دیدن میں دارو درخن بیند مرا  
میں شعرو خن میں اس طرح مخفی ہوں جیسے بوئے گل برگ گل میں جو مجھے دیکھنا چاہے وہ  
شعر و خن، ہی میں دیکھے۔

مخفی زیب النساء کا تخلص ہے۔ تو کیا آپ یہ تجویز کر سکتے ہیں مخفی کو تو خن میں دیکھو اور ظاہر دیکھنے سکو اور خدا کو ظاہر دیکھو۔ کسی میں طاقت ہے بس سوا اس کے کچھ نہیں۔

ہر کہ دیدن میں دارو درخن بیند مرا  
(جو مجھے دیکھنا چاہے میرے کلام میں تجھے دیکھ لے)

فرماتے ہیں

چیست قرآن اے کلام حق شناس رونمائے رب ناس آمد بہ ناس  
پس قرآن کو دیکھ لو کہ یہ اسی کا دیکھنا ہے اسی طرح مخلوق دیکھ لو مگر دیکھنا اپنے نفس کا نہیں۔  
غرض وہ لوگ بواسطہ مخلوق کے خالق کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ مخلوق کے واسطے سے حق تک  
پہنچتے ہیں وہ یہ سمجھ کر سب کے حقوق ادا کرتے ہیں سوانح دیکھنے پر اپنے دیکھنے کو قیاس مت کرو۔  
آپکی حالت اور ہے اور انگلی حالت اور ہے

کار پاکاں را قیاس از خود مکیر گرچہ مانددر نوشتن شیر و شیر  
پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر (دودھ) ایک جیسے ہیں۔  
یہ رفع تھا شبه متعلق تقدیم حق عبد علی حق اللہ کا اور اصل مضمون رحمت حق کا تھا جس سے حق  
عبد کو حق اللہ پر مقدم کر دیا۔ اور اس سے پہلے مضمون رحمت حق کا کہ ہمارے حقوق کی آیت  
مانیت ہیں کس طرح حفاظت فرمائی اور اس سے پہلے یہ تھا کہ ہر آیت میں رحمت کا مشاہدہ ہوتا  
ہے اور اس سے پہلے یہ تھا کہ ناگواری سب کو پیش آتی ہے اور یہی عماد مضمون تھا۔

### الا هم فالا هم

خلاصہ یہ کہ ناگواریاں سب کو پیش آتی ہیں اور چونکہ اس آیت میں اس کا علاج مذکور ہے جو  
کہ ضروری تھا اس لئے اس وقت بیان کے لئے اس کو اختیار کیا کہ اس کی حقیقت بتلوادوں کیونکہ  
اب عادت ہے کہ جو ضيق پیش آتا ہے تو لوگ بجائے اس کے کہ اس کا علاج کریں اس کا شغل کر  
لیتے ہیں اور علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور شاید بعضے اس کو علاج ہی سمجھتے ہوں۔ حالانکہ  
ضروری اور مفید اس کا حقیقی علاج کرنا ہے نہ کہ اس کو وظیفہ بنایا۔ مثلاً کوئی مدقوق ہے تو اس کو چاہیے  
کہ حکیم کے پاس جا کر نسخ لکھوائے نہ کہ کہتا پھرے۔

انا مدقوق انا مدقوق۔ اگر انامدقوق کی تسبیح پر کفایت کریگا تو میں (۲۰) دن کے بعد  
درجہ ثالثہ میں پہنچ کر سمجھ میں آؤے گا کہ نسخ استعمال کرتا تو کچھ نفع بھی ہوتا۔

اسی طرح ہم پر جو مصیبتوں آتی ہیں تو ان کے ازالہ کی تو فکر کرتے نہیں بس ان کا وظیفہ  
بناتے ہیں اور فضول بکتے پھرتے ہیں۔ سواس سے کیا فائدہ۔ میں کہا کرتا ہوں جتنے جملے ہیں دو

۱۔ یعنی آیت یا ایها الذین امنوا اذا تداينتم بدین الحج (پ ۲)

قصم کے ہیں۔ خبر یہ انسانیہ تو خبر یہ تو اکثر فضول ہوتے ہیں اور انسانیہ اکثر مفید۔ مثلاً یہ کہ میرا لڑکا بیکار ہے یہ خبر یہ ہے اگر اس کے ساتھ انسانیہ نہ ہو مثلاً یہ کہ نسخہ لکھ دیجئے تو یہ محض فضول ہونا۔

پس جب منہ کھولا کرو تو پہلے سوچ لیا کرو کہ ہم کو کیا کہنا چاہتے ہیں مثلاً اگر کہیں کہ طاعون ہوا تو اب کہتے پھریں گے کہ طاعون ہورہا ہے مگر اس کے ازالہ کی فکر نہ کریں گے۔

ایک بزرگ سے ایک شخص نے کہا کہ فلاں جگہ طاعون ہورہا ہے۔ فرمایا کہ یہ کیوں کہتے ہو اس سے مقصود کیا ہے وہ بھی تو کہو۔ سو وہ مقصود جملہ انسانیہ ہو گا۔ تو جملہ خبر یہ اکثر غیر مفید ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک پہچان ہے لغو کلام کی اور لغو کلام سے بچنے کا حکم ظاہر ہے۔

اور مثال لیجئے فرماتے ہیں قل هو اللہ احد۔ اس میں توحید سکھائی جس سے مقصود یہ ہے کہ فاعتقلاہ بزرگوں کے پاس آج کل لوگ جاتے ہیں اس طرح کی فضول باتوں میں اپنا اور ان کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کہیں اخباروں کا ذکر ہے کہ زمیندار میں بڑی ہمدردی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تمہیں کیا۔ اپنا جو کام ہے وہ تو کرتے نہیں۔ ادھرا وھر کی فضول اور لغوباتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں حالانکہ اہم امور کی طرف توجہ تو ہونی چاہئے کہ الا هم فالا هم۔ مگر لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ خود ان کے بدن پر تو سانپ اور پچھو لگے ہیں مگر دوسرے کے بدن کی مکھی کو گاتے پھرتے ہیں یہ لوگ احمد نہیں تو کیا ہیں۔ افسوس ہے کہ میں اسی واسطے کہا کرتا ہوں کے

ما قصہ سکندر و دار الخواندہ ایم ازما بجز حکایت مہر و فا مپرس  
میں نے سکندر اور دارا کا قصہ نہیں پڑھا۔ ہم سے تم مہروفا کے سوا کوئی بات نہ پوچھو۔

## اسلام کی خوبی

فائدہ کیا ان لغو کاموں سے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترک مالا یعنی کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے گو وہ معصیت نہ ہوں کیونکہ یہ مفہومی ای لمحصیت ہو جاتی ہیں۔ مگر ان کو اس کا شہبہ بھی نہیں۔ غرض خوبی اسلام کی یہ ہے کہ لغو کلام سے بچو۔

ایک بزرگ دیوبند میں تھے جن کی نگاہ اور آواز بھی بلا ضرورت نہ اٹھتی تھی اور نہ لکھتی تھی تو وہ ہر فضول سے بچتے خواہ وہ کلام ہو یا نظر۔ حضورؐ نے اوپر کی حدیث میں ہر لغویات سے ممانعت فرمادی ہے۔ عام ہے کہ نظر ہو یا کلام ہو سب کو منوع فرمایا ہے اور نظر بھی بڑی بڑی بلا ہے۔ بعض نظر کی نسبت بزرگوں نے فرمایا ہے النظر سهم من سهام ابلیس۔ (متدرک حاکم ۲۱۳: ۳، الدر المکور ۵: ۳۱) حقیقت

میں نظر ایک ایسا تیر ہے جو نظر ہی نہیں آتا کہ کہاں اور کیسے لگا اور دل شکار ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے  
دروں سینے میں زخم بے نشان زده بھیر تم کہ عجیب تیر بے گماں زده

”میرے سینے میں تو نے بے نشان تیر مارا۔ میں حیران ہوں کہ عجیب بے گماں تیر مارا۔“

تو ایسا کرے ہی کیوں کہ زدہ کہنا پڑے۔ بس نظر ہی ذرا نیچے رکھے اسی نظر کو حق تعالیٰ

فرماتے ہیں یَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ (پ ۲۲) اور ان پر دزدیدہ نظر تو کیا منفی ہوتی۔ اس کی تو یہ

شان ہے کہ آگے فرماتے ہیں وَمَا تُحْفِي الصُّدُورُ کہ وہ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے اور اس

میں باری تعالیٰ کو غیرت بھی آتی ہے کہ ہمارے غیر کو نظر محبت سے کوئی کیوں دیکھے الاباذن۔ واقعی

اس دل میں گنجائش غیر کی ہوتا نہ چاہئے جیسے معبودیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ایسا ہی

مقصودیت میں بھی نہ ہونا چاہئے اور تو حید حقیقی یہی ہے۔

تو وہ بزرگ اتنا بچھے کہ زگاہ فضول نہ اٹھاتے اور کلام تو بہت بڑی چیز ہے غرض اسکو بھی چھوڑنا چاہئے۔

## ناول اور اخبار بنی

اگر کوئی خیر خواہ اس کو منع کرے کہ ناول بنی تو خیر مگر اس میں اخبار بنی بھی داخل ہے۔ اکثر مضمایں ان کے خلاف شروع ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے اسی طرح کامضمون ایک اخبار سے نقل کیا تھا کہ اس میں کسی نے لکھا تھا کہ نماز کو اسلام سے نکال ڈالا جائے تو بہتر ہے کیونکہ یہ مانع ترقی ہے۔ اس لئے جو کوئی سنتا ہے کہ اسلام لا کر پانچ وقت نماز ادا کرتا پڑے گی تو وہ متوضش ہو کر اسلام سے ہٹ جاتا ہے۔

علی ہذا ناول کی صریح اور مضر جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ جیسے بلانا منع ہے ایسا ہی لکھنا اور سننا بھی تو منع ہے۔ میں نے ایک دفعہ چند سطر میں اخبار بنی کے متعلق لکھ دی تھیں اخباروں میں مجھ پر بڑی لتاڑ پڑی۔ ایڈیٹر ہوں نے ہر طرف سے غل مچانا اور چیننا چلانا شروع کیا کہ اخبار بنی کو حرام کہتے ہیں حالانکہ میں نے اسی تحریر میں حلال و حرام اقسام کی تفصیل کر دی تھی۔ میں نے کہا کہ اس سے میری ایک ولیل اور بڑھی کہ اخباروں میں ایسی تہمتیں ہیں۔

ایک صاحب اخبار میں لکھتے ہیں کہ جب سے یہ طاعون ملاعون ہندوستان میں پھیلا ہے۔ یہ ملاعون کو نالغت ہے۔ اس کی بالکل یہ مثال ہے جیسے کسی دہنے تانی گنوار نے کہا تھا کہ جاث رے جاث تیرے سر پر کھاٹ۔ اس نے کہا تیلی رے تیلی تیرے سر پر کوہا۔ اس نے کہا وہ وزن تو ملا ہی نہیں۔ جاث نے کہا کہ بلا سے نہ ملے۔ بوجھ میں تو مرے گا۔

یہ تو اس جاٹ سے بھی گیا کہ یہ مہمل لغت لکھ دیا۔ پھر طاعون کو ملعون کہنا کیا یہ گناہ نہیں۔ یہ کیفیت ہے اخباروں کی۔ مگر آج کل تو عالم وہی ہے جو اخباروں میں مضمون لکھنے تو اس طرح کے مضامین اخباروں میں شائع ہوتے ہیں کہ طاعون کو ملعون کہہ دیا۔ حالانکہ حدیث میں اس کو رحمت فرمایا ہے اور اس میں جو مرے اس کو شہید فرمایا ہے تو خدا کی رحمت کو ملعون کہنا کتنی بڑی گستاخی ہے۔

## طاعون اور شہادت

اگر کوئی کہے کہ صاحب رحمت کیسے ہے تو وہ طرح پر معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شہادت ہے یہ تو آخرت میں مشاہد ہوگی۔ اور دنیا میں یہ مشاہد ہے کہ طاعون کے مرنے والے اور دوسرے مرض میں مرنے والے کو دیکھ لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ آثار خاتمه بالغیر کے کس پر ہوتے ہیں۔ طاعون میں مرنا اکثر ایسا دیکھا گیا ہے جیسا اولیاء کی وفات ہوتی ہے۔

چنانچہ ایک انعامہ سال کا بچہ مولانا فتح محمد صاحب کی خدمت میں پڑھتا تھا۔ دفعہ بخار چڑھا اور تیز ہو گیا۔ لوگوں نے اسی خیال سے کہ شکستہ دل نہ ہواں سے کہا کہ تم کچھ خیال نہ کرنا۔ اچھے ہو جاؤ گے۔ اس نے پیشانی پر بل ڈال کے کہا یوں مت کھواب تو خدا سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔

ایک لڑکا اسد اللہ اس کا ہم سبق تھا۔ اس کا ایک دن پیشتر دوسری بستی میں انتقال ہو چکا تھا۔ لوگوں سے پوچھا وہ کیسا ہے؟ سب نے کہہ دیا اچھا ہے اس نے عین وفات کے وقت کہا تم بڑے جھوٹے ہو اس کا تو انتقال ہو گیا۔ وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ایک یہ کرامت اس کی دنیا میں ہی ظاہر ہوئی کہ عالم آخرت منکشف ہو گیا اور کشف بھی صحیح۔ تو اس کی وفات اولیاء اللہ کی اسی وفات ہونے میں کیا شبہ ہے۔ اسی طرح جتنے طاعونیوں کو دیکھا سب کا خاتمه اچھا ہوا۔ اس کو یہ ملعون لکھیں تو بتلائیے کہ جب اخباروں کی یہی حالت ہو تو کیوں۔ اس سے نہ روکا جائے مگر جو اس سے روکے اس کی کم بخشی۔ اس کی ممانعت میں قرآن کی آیت موجود ہے۔

**وَلَوْرَدُوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلَّمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ**  
(اور اگر یہ لوگ اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کے اور جوان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے اوپر حوالہ رکھتے تو اس کی وہ منافقین کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ منافقین کی عجیب حالت ہے کہ اگر کوئی خبر ان کو پہنچتی ہے اس کو بہت جلد ادھر ادھر شائع کر دیتے ہیں چاہے وہ خبریں پھیلانے کے قابل نہ ہوں۔ بتلائیے اخباروں کی یہی حالت ہے یا کہ نہیں۔ پس جب اس کی ممانعت قرآن مجید سے بھی

ثابت ہو۔ تو ہم کیوں نہ روکیں۔ مگر یہ ان کے لئے ہے جو قرآن کے ماننے والے ہیں۔ اور جو اس کو نہیں مانتے تو اول میں ان سے خدا کی توحید اور رسول کی رسالت مناؤں گا۔ جب وہ اس کو تسلیم کر لے گا اس وقت قرآن میں بھی اس کو ضرور ماننا پڑے گا۔ پھر قرآن سے اس پر احتیاج ہو گا۔

اُنکی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک جماعت باغی ہو جاوے تو اول اس سے بادشاہ کا بادشاہ ہونا تسلیم کرایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ اگر کسی حکم میں چون وچرا کرے گا تو اس سے اتنا کہنا کافی ہو گا کہ جب تم نے بادشاہ کی بادشاہی تسلیم کر لی تو اب سنو کہ بادشاہ کا ہر حکم واجب الاطاعت ہوتا ہے اور یہ حکم بادشاہ کا ہے۔ پس اسکو بھی مانو۔ اسی طرح جو قرآن کا منکر ہو گا۔ اس سے اول تو حید اور رسالت کا ہم اقرار کر لیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ انکار کرے کہ قرآن کلام خدا نہیں تو اس کو ہم دلیل اعجاز سے ثابت کر دیں گے۔ پھر احتیاج کریں گے۔ غرض یوں ہی قصے ہو رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری حالت۔ یہ تو عام خبریں تھیں اور اگر کسی نے اپنی حالت پر نظر کی۔ تو وہ بھی بے قاعدہ ہے کہ کہتے پھرتے ہیں کہ انام قوق مگر علاج نہیں کرتے۔

## طبیب کامل

خلاصہ یہ ہے کہ اگر ناگواری پیش آئے تو بجائے اس کو گاتے پھرنے کے اس کا علاج کرو اور علاج بھی ارزال کچھ گراں نہیں ہے اللہ میاں کا نسخہ حکیم محمود خاں کے نسخے سے بھی گراں نہیں ہے طبیب کامل وہ کہلاتا ہے جو گھاس میں علاج کر دے۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ کے معاملہ میں ہلدی پھٹکری بھی نہیں لگتی بلکہ بہت ہی آسان ہے چنانچہ ارشاد ہے

**وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضْيِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ (پ ۱۳)**

کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل اقوال سے تنگ ہوتا ہے۔

آگے علاج بتاتے ہیں کہ فتح بھر بک یعنی تسبیح یکجھے حمد رب کے ساتھ۔ اللہ کا نام لجھے۔ نفل پڑھئے یا ذکر کجھے سب کو عام ہے وکن من الساجدین۔ بالخصوص سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جیئے اور یہ جو ہم نے بتلایا۔ یہ تودوا بھی۔ چنانچہ فاء تفریعیہ اس کا قرینہ ہے۔

اب آگے فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک غذا ہے کہ اگر پریشانی اور تنگ دلی بھی نہ ہوتی بھی اس کو کرتے رہو یعنی واعبد ربک حتیٰ یا تیک اليقین پس یہ غذا ہے کہ موت آنے تک عبادت کرتے رہو غرض اس آیت سے علاج و غذاؤنوں با تیس معلوم ہو گیں۔ باری تعالیٰ نے یہاں تین صیغے اختیار کئے ہیں اور سب کا حاصل قریب قریب ایک ہے

عباراتنا شتی و حسنک واحد    و کل الی ذلک الجمال یشير  
بس عبارتیں مختلف ہیں اور حاصل سب کا ایک ہے یعنی مشغول بحق۔  
خلاصہ یہ کہ اگر آپ پرستگی آؤے اور آپ کا دل تنگ ہو تو مشغول بحق ہو جیئے یا اسکا علاج ہے۔

### اختلاف خاصیت

اول تو خدا تعالیٰ نے یہ علاج بتایا ہے تو اس کے لم کی تحقیق کی ضرورت نہیں دوسرے ہر چیز میں لم ہونا ضروری بھی نہیں۔ بہت سی چیزیں مؤثر بالکلیفیت ہوتی ہیں مثلاً مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے تو کیوں۔ اس کی خاصیت یہی ہے وہاں لم کوئی نہیں پوچھتا۔ اور اگر شریعت میں اس کو بتایا جائے تو کہتے ہیں علت بتاؤ۔ وہاں کیوں نہیں علت پوچھی جاتی۔

ایک شخص نے مجھ سے پوچھا۔ نماز پانچ وقت کی کیوں فرض ہوئی۔ اس میں کیا مصلحت ہے۔ میں نے کہا تمہارے ناک آگے کیوں ہے پیچھے کیوں نہیں اس میں کیا حکمت ہے انہوں نے کہا اگر پیچھے ہوتی تو بد نام معلوم ہوتی میں نے کہا جب سب کی پیچھے ہوتی ہے تو کیوں بد نام معلوم ہوتی۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ افسوس ہے کہ اگر محمد ابن زکریا کچھ کہہ دے تو مان لیا جائے۔ اور اگر محمد بن عبد اللہ کچھ کہیں تو اس کی تصدیق نہ کی جائے۔ غرض! جب میں نے ثابت کر دیا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر ہمیں ضرورت نہیں کہ ہر ایک حکم کی علت بتائیں۔ بس اتنا کہنا کافی ہے کہ اس میں خاصہ یہی ہے جو خدا تعالیٰ کے ارشاد سے معلوم ہو جاتا ہے۔ بلکہ جو ادویہ مؤثر بالکلیفیت کہلاتی ہیں تو وہ بھی مؤثر بالخاصیت ہی ہیں۔

مثلاً برودت کا علاج اجزاء حارہ سے کرتے ہیں۔ اس سے سمجھہ میں آتا ہے کہ یہ علاج بالکلیفیت ہے مگر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ حرارت نہیں کیونکہ اول تو علاج بالمثل بھی ہوتا ہے تو وہاں علت کہاں گئی اور شفاء وہاں بھی ہوتی ہے معلوم ہوا کہ حرارت علت نہیں۔

دوسرے یہ کہ فانچ زدہ کے لئے جو ادویہ گرم تجویز ہوں ان کا مزاج جس درجہ میں ہوتا ہے دوسری بہت سی ادویہ جو اسی درجہ میں گرم ہیں وہ دوائیں اگر دی جائیں تو وہ کیوں نہیں مفید ہوتیں۔ اس کی وجہ پوچھو تو اختلاف خاصیت بتایا جاتا ہے۔

تو معلوم ہوا کہ وہ ادویہ مفید بھی مؤثر بالخاصیت ہوتی ہیں کیفیت کا نام بدنام کیا جاتا ہے۔ اور اگر تاثیر کیفیت کو مان بھی لیا جائے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس کو بھی دخل سکی مگر اس میں محصور تو نہیں۔

بس اگر اس طرح ہم شرائع میں دعویٰ کریں کہ اس کی خاصیت یہی ہے تو کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا اور اس پر اکتفا کیوں نہیں کیا جاتا کہ قرآن میں ہے اور اس سے یہ سمجھنا کہ علماء کو لم اور علیل کچھ معلوم نہیں۔

ہمیں سب کچھ معلوم ہے مگر اہل زمانہ کی رعایت ہے کہ بتلا یا نہیں جاتا اور صرف اس پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے کیونکہ لم بتلانے سے اتنا نفع نہیں جس قدر مضرت ہے کہ رائے کا دروازہ کھلتا ہے۔ سو ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر بوجہ مذکور بتلانا مصلحت نہیں

مصلحت نیست کہ از پرده بروں افتراز ورنہ مجلس رندہ خبرے نیست کہ نیست  
مصلحت وقت نہیں کہ راز کو پرده سے باہر نکالا جائے ورنہ رندوں کی مجلس میں ایسی کوئی خبر نہیں جو نہ پہنچی ہو۔

### مشغولیت کا اثر

مگر خیر ہم تمہر عاجذ بھی بتلاتے ہیں۔ سو وجہ اس کی یہ ہے کہ مشغولی بحق سے واقعات بھولتے ہیں اور یہ بات تجربہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ واقعات اتنے موثر نہیں ہوتے جتنا کہ مشغولی بواقعات۔  
مثلاً دو شخص فرض کیجئے کہ ان دونوں کے بیٹے مر گئے اب ایک نے تو بیٹھ کر وظیفہ رہا شرع کیا کہ ہائے بیٹے ہائے بیٹے اور ایک نے اتنا خیال نہ کیا۔ چند دنوں کے بعد دیکھئے گئے تو ایک سرخ و پیدا اور ایک کالا زرد حالانکہ واقعہ ایک تھا۔ معلوم ہوا کہ واقعہ موثر مشغولی سے ہوتا ہے اور بدؤں مشغولی کے طبعاً تو حزن ہوتا ہے مگر پریشان کرنے والا نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا زیادہ پریشانی مشغول سے ہوتی ہے۔

بس اس علاج میں اس مشغولی کو دور کیا ہے۔ اس طرح کہ مشغولی بحق ہو جاؤ کیونکہ النفس لا توجه الى شيئاً في ان واحد۔ اور اس کو سائنس والوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ تو عقل اور نقل ایسی بات ثابت ہے کہ جب ہم مشغول بحق ہوں تو اس جانب سے توجہ گھٹے گی۔ پس حزن کم ہو جاوے گا۔ تو عقلی طور پر ثابت ہو گیا کہ دوسری طرف مشغولی علاج ہے ضيق کا۔ آگے یوں سمجھو کہ جس طرف مشغول کیا گیا ہے، جتنا محبوہیت میں قوی ہو گا اسی قدر اثر قوی ہو گا۔

### محبت کی وجہ

اب یہ بات تحقیق کے قابل رہی کہ حق تعالیٰ زیادہ محبوب ہیں یا مخلوق۔ تو دیکھ لیجئے کہ کسی سے جو محبت ہوتی ہے اس کی وجہ یا کمال یا جمال یا نوال ہے تو معلوم ہوا کہ محض ذات سے محبت

نہیں کسی صفت کی وجہ سے ہوتی ہے۔

تو اب دیکھو کہ یہ صفتیں بالذات کس کی ہیں جس میں یہ اوصاف بدرجہ اکمل ہوں گے وہ زیادہ محبوب ہو گا۔ اب یہ رہ گیا کہ یہ اوصاف کس میں زیادہ ہیں تو اس میں مسلمانوں کو تو شبہ نہیں کہ سب سے زیادہ اور کمال کے ساتھ یہ اوصاف خدا، ہی میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ظاہراً دوسرے میں ہیں بھی تو خدا میں بالذات ہیں۔ اور غیر خدا میں بالعرض۔

چنانچہ مخلوق میں بالعرض ہونا ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر شے زوال پذیر ہے جو کل ساری دنیا پر حاکم تھے وہ آج تمام عالم کے محتاج ہیں جو کل حسن میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ ایک زمانہ ان پر وہ بھی آتا ہے کہ ان سے بد صورت دوسرا نہیں ہوتا۔

الحاصل! مخلوق کا اتصاف ان اوصاف کے ساتھ بالعرض ہے جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور خدا میں تمام اوصاف بالذات علی درجہ الکمال ہیں اور بالعرض جو وصف ہوتا ہے وہ محتاج بالذات کا ہوتا ہے پس جب خدا میں یہ اوصاف بالذات ہیں تو ان کی محبوبیت قوی ہو گی۔ پس اگر محبوب جمال کی وجہ سے بنایا جاتا ہے تو خدا سے بڑھ کر کون جیل ہے اور اگر کمال یا نوال کی وجہ سے ہے تو خدا سے بڑھ کر کون صاحب کمال اور ذی نوال ہے۔ بہر حال خدا سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں مگر لوگوں کو خبر نہیں اس لئے دوسری طرف مائل ہو جاتے ہیں۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص دیوار پر دھوپ دیکھ کر عاشق ہو جائے تو واقع میں تو آفتاب کا عاشق ہے لیکن اسکو خبر نہیں کہ نور آفتاب کا ہے۔ اگر خبر ہو جائے تو دیوار کی طرف التفات بھی نہ کرے اسی کو فرماتے ہیں

عشق با مردہ نباشد پائدار                  عشق ربابا حی و با قیوم دار  
”دیکھی مردہ سے عشق پائیدار نہیں ہو سکتا ہمیشہ زندہ پائندہ سے عشق رکھ۔“

اور مخلوق کے ساتھ جو عشق ہوتا ہے انجام اس کا یہ ہوتا ہے  
عشق بائے کز پئے رنگے بود                  عشق نبود عاقبت ننگے بود  
جو عشق کسی رنگ کی خاطر ہو گا وہ ہمیشہ باعث ننگ ہو گا۔

عاشقی با مرد گاں پائندہ نیست                  زانکہ مردہ سوئے ما آئندہ نیست  
مردوں کے ساتھ عشق پائندہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مرنے والے مرکروں پس نہیں آتے۔“

غرق عشقے شوکہ غرق ست اندریں      عشقہائے اولين و آخريں  
تو ایسا عشق اختیار کر جس عشق میں قدیم و جدید سب عشق گم ہوں۔“

آگے فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ وہاں تک ہماری رسائی کہاں تو فرماتے ہیں کہ  
تو مگو مارا بدال شبہ بار نیست      بر کریماں کار ہا دشوار نیست  
”یہ نہ سمجھو کہ اس بادشاہ کے ہاں باریابی نہ ہو گی۔ کریموں پر ایسے کام دشوار نہیں۔“

یعنی تم کو ہر اس ونا امیدی نہ ہوئی چاہئے بہت آسان ہے

یعلم اللہ و قدم را ہست دیگر بیش نیست      یک قدم نفس خون دیگرے بر کوئے دوست (جامع)  
خدا جانتا ہے دو قدموں کی راہ نہیں۔ ایک قدم نفس پر رکھوا اور دوسرا کوئے دوست میں۔  
اور حاصل جواب یہ ہے کہ ہمارے کئے سے کچھ نہ ہو گا مگر وہ تو کریم ہیں وہ خود تم کو کھینچ لیں  
گے اور وصول دونوں طرح ممکن ہے

بخت اگر مدد کند امنش آورم بکف      گر بکشد ز ہے طرب در گشتم ز ہے شرف  
اگر بخت نے مدد کی اور اس کا دامن میں پکڑ کا تو اگر وہ کھینچ گا خوشی ہو گی اور میں کھینچوں گا تو  
میرے لئے باعث شرف ہو گا۔

البته طلب ادھر سے ہونا ضرور ہے پھر کام وہی بناؤں گے اس کی ایسی مثال ہے کہ بچہ چل  
نہیں سکتا اور باپ کی طرف دوڑتا ہے آخر دو ایک قدم چل کر گر پڑتا ہے اور پھر دوڑ کر اس کو اس کا  
باپ گود میں اٹھایتا ہے تو یہ جو مسافت قطع ہوئی لڑکے کے چلنے سے نہیں۔ مگر اس نے کوشش تو کی  
گوگر پڑا۔ تو یہ مسافت در میانی جس کی حالت یہ ہے

نگرو قطع ہرگز جاوہ عشق از دویدن ہا کہ      می بالد بخواویں راہ چوں تاک از بریدن ہا  
عشق کی راہ دوڑنے سے نہیں ختم ہو گی کیونکہ عشق کی راہ انگور کی نیل کی طرح کاٹنے سے بڑھتی ہے۔“

یا ان ہی کے قطع کرانے سے قطع ہو گی اس لئے کہتے ہیں

تو مگو مارا بدال شہ بار نیست      بر کریماں کار ہا دشوار نیست  
غرض! محظوظ حقیقی حضرت جل و علا، ہی ہیں۔ مگر جن کو اطلاع نہیں وہ دیوار پر عاشق ہیں اور  
جب دھوپ گئی تو ہائے کیا ہوا۔ جان نکل گئی  
وہ چلا جاں بھی چلی دونوں برابر کھسکے      اسکور کوں کہ اسے، پاؤں پڑوں کس کس کے

اور جن کی سمجھ میں کہ جمالِ حقیقی اور کچھ ہے۔ یہ تو محض پرتو اور عکس ہے اور مستعار ہے کسی اصل سے وہ یہ پڑھیں گے۔

حسن خوشی از روئے خوبی آشکارہ کر ددہ پس بہ چشم عاشقان خود را تماشا کر دہ  
اپنے حسن کو تو نے محبوبوں کے چہرے سے آشکارا کیا اور عاشقوں کی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھا۔  
پر تو حسن نہ گنجد در زمین و اسمان در حریم سینہ حراثم کو چوں جا کر دہ  
تیرے حسن کی جھلک آسمان وزمین میں سامنہ نہیں سکتی۔ میں حیران ہوں کہ تو  
حریم سینہ میں کس طرح جا گزیں ہو گیا۔

### تصور شیخ

ان لوگوں کو کسی چیز سے پریشانی نہیں ہوتی اور حزن طبعی اور بات ہے۔ اسی مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنچ تو فرمایا ان الله حی لا يموت۔ تو حقیقت میں محبوب حقیقی حق جل و علا کے سوا کوئی نہیں۔ پس اس میں جو جتنا مشغول ہو گیا۔ اتنا ہی زیادہ اس کی تنگی دور ہو گی۔

بس خدا کی مشغولی دافع ہے تمام بلیات و صدمات و مصائب کے لئے اور یہاں سے مسئلہ تصویر شیخ کا بھی حل ہو گیا کہ تصویر شیخ کی ہر ایک کو اجازت نہیں کیونکہ بعضے اس کو مثل مقصود بالذات کے قرار دیکر تصویر کرتے ہیں۔ حقیقت اس کی صرف اتنی ہے کہ ذا کرمبندی کو جو کہ مذکور کا استحضار نہیں کر سکتا۔ جب وساوس ستانے لگیں تو شیخ کا تصویر کر لے کہ اس طرف متوجہ ہو جانے سے دوسرے تصورات دفع ہو جاویں گے۔ مگر یہ تصویر جو ہو تو اس طرح نہ کہا یہاں موجود ہے بلکہ اس طرح کہ فلاں جگہ میں شیخ کو ملا تھا کیونکہ یہ تصویر کرنا کہ یہاں موجود ہے ایک گونہ بے ادبی ہے کہ گویا شیخ اس کے پاس آ کر حاضر ہو۔ دوسرے جو اس سے مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو گا۔ کیونکہ یہ خلاف واقع ہے اور خلاف واقع پر دھیان نہیں جنتا اور بے دھیان جنتے وساوس دفع نہ ہوں گے پھر اس میں عقیدہ حاضروناظرہ کا بھی ہو گا اور اس میں احتمال شرک کا ہے۔

غرض! اس طرح سے تصویر کرے چونکہ شیخ پر نسبت اور لوں کے زیادہ محبوب ہوتا ہے اسلئے حضرات صوفیاء دفع وساوس کے لئے اس کو تجویز فرماتے ہیں۔ پھر جب خطرات دفع ہو جاویں تو اس تصویر کو ترک کر دینا چاہئے خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے تصویر کر لے کیونکہ مشغولی شیخ عارضی ہے اصل مقصود تحقق تعالیٰ کی مشغولی ہے۔

یہاں بعضے قلوب میں یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شیخ کی طرف جتنا ہمارا دل کھینچتا ہے خدا کی طرف نہیں کھینچتا تو اس میں مجھ کو گناہ ہوتا ہو گا تو سمجھ لو کہ یہ محبت طبیعی ہے اور خدا کے ساتھ محبت عقلیہ زیادہ ہونی چاہئے سو وہ حاصل ہے۔ چنانچہ اس شخص سے اگر کوئی اس کا بڑا محبوب یہ کہہ کے اگر خدا سے تعلق رکھو تو ہم سے نہیں رکھ سکتے اور اگر ہم سے رکھنا چاہو تو خدا کو چھوڑواں وقت یہ شخص یہی جواب دے گا کہ ہمیں تم سے تعلق رکھنا منظور نہیں۔

روز ہاگر رفت گورو باک نیست تو بہاں اے آنکہ جز تو پاک نیست  
دن چلے گئے تو کیا غم البتہ تم نہ جاؤ کہ تمہارے سوا اور کوئی پاک نہیں۔

## اطمینان قلب

پس وہ شبہ دفعہ ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تنگی ہو فَسَبَّحُ بِحَمْدِ رَبِّکَ یعنی خدا کے ساتھ مشغول ہو۔ اس مشغولی بحق سے تنگی جاتی رہے گی۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حق تعالیٰ کی یاد سے جمعیت دل ہوتی ہے اور یہاں جمیعت سے وہ مراد نہیں ہے جو ایک دوسری آیت میں مذکور ہے آلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ (پ ۱۳) یہاں پر اس کی تفسیر سیاق و سبق سے اور معلوم ہوتی ہے کہ اطمینان سے وہ اطمینان مراد نہیں جو ضيق کا مقابل ہے یہاں پر دوسرا اطمینان مراد ہے کہ جس کا ایمان نام ہے چنانچہ قرنیہ سیاق بالموحدہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ طَقْلُ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ

يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (پ ۱۳)

(اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں نازل کیا گیا، آپ کہہ کرچے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جو شخص ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسکو بدایت دیتے ہیں) آگے فرماتے ہیں بطور انا ب کے بدال کے

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ طَآلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ

(جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے انکے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے)

جب یہ میں انا ب کا بدال ہے تو اس کے ساتھ متعدد ہے اور میں انا ب بوجہ تقابل خیال کے معنی مہتدی و مومن ہے۔ پس یہ اطمینان متعدد ہوا ایمان کیساتھ۔ اور سینق بالخصوص یہ ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَا بَرَأَ (ب ۱۳)

(جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کے لئے خوش حالی اور نیک انجامی ہے)

اور اصل معنی اطمینان کے سکون کے ہیں اور سکون دو طرح کا ہوتا ہے ایک سکون عقلی و دوسرا سکون طبعی۔ پس یہاں اطمینان سکون عقلی کے معنی میں ہے پس مقابل ضيق کا نہیں کیونکہ ضيق امر طبعی ہے۔ پس یہ تو اطمینان کفر کے مقابل ہے بس طبعی نہیں۔ اور قرآن میں دونوں کا استعمال موجود ہیں چنانچہ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ مِّبِالْإِيمَانِ (ب ۱۲) (اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے) یہاں سکون عقلی ہے اور ایک جگہ طبعی ہے ابراہیم کے قصے دعائے احیاء موتی ہیں۔

- بعضی اس کی تفسیر نہ جاننے سے غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک کورٹ اسپکٹر یہ آیت دیکھ کر کہ اولم توْمِنْ طَقَالَ بَلَى وَلِكِنْ لَيَطْمَئِنَ قَلْبِي (پ ۳) (ارشاد فرمایا کیا تم ایمان نہیں لاتے انہوں نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لاتا لیکن اس غرض سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے) کہنے لگے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو احیاء میں اطمینان نہ تھا شک تھا۔ ان کے اس شبکی وجہ یہ ہوئی کہ وہ اس آیت میں اطمینان کو مقابل بحث کے سمجھے یعنی اطمینان عقلی سمجھ گئے۔ سو یہاں بمعنی اطمینان طبعی مستعمل ہے اور شک کی نفی تو اولم تومن کے جواب میں ان کے بلی کہنے سے ہو گئی۔

حاصل اس بے اطمینانی طبعی کا یہ ہے کہ ان کو یہ تو یقین تھا کہ احیاء ہو گا مگر اس کی کیفیت میں جو کئی احتمال تھے اور کسی کیفیت کا مشاہدہ نہ ہوا تھا اس لیے اس کی تعمیں میں تردود تھا۔ اس کو عدم اطمینان فرمایا کیونکہ یہ اطمینان مشاہدہ ہی سے ہوتا ہے کہ طبعاً سکون ہو جاوے یہ کیفیت واقع ہوئی۔ میں نے ان کو بھی جواب دیا۔ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ واقعی ترجمہ سے قرآن سمجھنا بہت دشوار ہے۔

یہ اثر پیدا ہوتا ہے محققین کے پاس رہنے سے ورنہ کتنا بڑا شبه تھا ابراہیم علیہ السلام کو تو اطمینان نہ تھا تَعَظَمَنَ الْقُلُوبُ (دولوں کو اطمینان ہوتا ہے) سے اور وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ مِّبِالْإِيمَانِ (اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے) سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ادنیٰ موسیٰ کو اطمینان حاصل ہے تو اس کو اتنا بڑا درجہ ملا کہ جو حضرت ابراہیم کو بھی حاصل نہ تھا۔

## اطمینان کے درجات

تو اس تحقیق سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ اطمینان کے دو درجے ہیں پس ان الذين آمنوا میں اطمینان عقلی مراد ہے وَلِكِنْ لَيَطْمَئِنَ قَلْبِي میں اطمینان طبعی۔ اور ضيق کا علاج یہی اطمینان

طبعی ہے جو مشغولی بحق سے پریشانی کے رفع کرنے میں مؤثر ہے گا اور بہت امور میں تردود کو رفع نہ کرے مثلاً احیاء موتی کی کیفیت میں۔

اب ایک اور قوی شبه باقی رہ گیا وہ یہ کہ فرماتے ہیں اللہ تَسْرِخُ لَكَ صَدْرَكَ (پ ۲۰) تو کیا شرح صدر کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگی معلوم ہوئی سو بمحض لوکہ یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضْيِقُ صَدْرَكَ (کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا ہے)

سو ضيق کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ جیسے عوام کو ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ کہ نہایت ضعیف ہو سو یہ ہوا۔ مگر یہ شرح صدر کے منافی نہیں۔

دیکھو آپ کو زکام ہو گیا اور وہ بھی معمولی۔ تو آپ بھی مریض ہیں اور ایک موقت ہے وہ بھی مریض ہے۔ مگر آپ کی بیماری عادت صحت کے منافی نہیں کیونکہ صحت غالب ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضيق بھی خفیف ہوتا تھا جو شرح صدر کے منافی نہیں۔

اب ایک بات اور عجیب قابل تحقیق باقی رہی۔ وہ یہ کہ اطمینان جب حاصل ہو گا تو آیا ضيق زائل ہو جائے گا یا مغلوب ہو جاوے گا۔ تو یہ بات تجربہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ ضيق زائل نہیں ہوتا۔ بلکہ مغلوب ہو جاتا ہے جس طرح انسان کے اندر سب اخلاق م موجود ہیں تو جب صفر ابردھ جاتا ہے مسہل کی ضرورت پڑتی ہے۔ مگر مسہل صفر اکو بالکل نہیں نکال دیتا۔ اور اگر بالکل صفر اوریت نہ ہے تو خیریت نہیں۔

حق تعالیٰ نے جب طبیعت عطا فرمائی ہے تو اس کے خواص لازمہ بھی عطا فرمائے ہیں ورنہ انتفا لازم سے انتہا ملزم ہو جاتا ہے غرض زائل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں مغلوب ہو جاتا ہے اور اس تحقیق سے ایک بڑا تردد سا لکھن کا درفع ہوا وہ یہ کہ بعض اوقات بعد مجاہدہ کے بھی بعض امور طبیعیت مذمومہ کا اثر اپنے اندر پاتے ہیں اور اس مجاہدہ کے بیکار ہونے کا لگان کر کے مایوس ہو جاتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اخلاق ذمیمہ مغلوب ہو جائیں کہ ان کے اقتداء پر عمل کرنے کو آسانی تر کر سکیں یہ کافی ہے۔ زوال کی توقع نہ رکھیں۔ ورنہ پھر ثواب اور فضیلت اسی کیا ہے۔ یہ امور ذوقیہ تھے جو درمیان میں عرض کر دیئے گئے۔

خلاصہ اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ ضيق کا مشغولی بحق سے علاج کیا گیا ہے آپ خود بھی دیکھ لیجئے کہ مشغولی حق سے پہلا واقعہ بھول جائیں گے یا نہیں۔ اور میں یہ بتلا چکا ہوں کہ واقعات و نخزوں پریشان نہیں بناتے بلکہ مشغولی بواقعات پریشان کرتی ہے۔ اور مشغولی بحق سے وہ مشغولی و توجہ نہیں رہتی۔ اس لئے پریشانی نہ رہے گی۔

## جذب سلوک اور استغراق

مگر شاید کوئی کہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مشغولی بحق کے بعد بھی واقعہ کی طرف توجہ رہتی ہے۔ سو جواب یہ ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعہ بالکل ہی یاد نہ رہے گا۔ بلکہ اسکی طرف جو توجہ ہے وہ نصیف اور مغلوب ہو جاوے گی اور اثر مطلوب کے لئے یہ بھی کافی ہے اور کمال بھی انسان کا اسی میں ظاہر ہو گا کہ موجود ذہن میں وہ بھی ہے پھر توجہ بحق کو اس پر غالب کر دیا۔

مثلاً دو پہلوان کشی کرنے کے لئے نکلے آپ پیچ میں آگئے۔ آپ نے ایک کوتواٹے پاؤں بھگا دیا۔ دوسرا رہ گیا تو کچھ کمال نہیں۔ کمال قوت توجہ تھا کہ دونوں لپٹے رہیں اور آپ بیدار ہیں کہ جب ذرا ایک نے دوسرے کو گرانا چاہا آپ نے اس کو مغلوب کر دیا۔

اسی طرح یہاں دو پہلوان ہیں مشغولی بحق۔ مشغولی بواقع۔ ان میں سے ایک پہلوان بھاگ گیا تو پھر آپ کا کیا کمال ہوا۔ کمال تو یہ ہے کہ دونوں مستعد ہیں مگر جہاں ذرا اس نے اپنا اثر کرنا چاہا۔ آپ نے فوراً اس کو مغلوب کر لیا۔ متقین مبصرین کی یہی شان ہوتی ہے کہ جہاں ذرا شیطان نے اپنا اثر کرنا چاہا فاذا هُمْ مُبْصِرُونَ (پ ۹) کہ فوراً ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اہل کمال کی یہی حالت ہوتی ہے۔

اسی سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کتنی ہی توجہ الی اللہ بڑھ جائے مگر پھر بھی میلان الی النساء اور حب جاہ و مال ضرور رہتا ہے اور یہ تو انتہا تک ساتھ رہتا ہے۔ تو توجہ الی اللہ سے توجہ الی الغیر کہاں زائل ہوتی۔ تو یہ سمجھ کی غلطی ہے ہمارے ناقصین کی۔

وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ولی وہ ہیں جو پاخانہ بھی نہیں کرتے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ان کو کسی قسم کی خواہش ہوتی ہے تو یہ ولی کیا ہوئے جما دھض ہوئے۔ نہیں! کاملین میں سب کچھ ہوتا ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔

انما انا بشر اغضب کما یغضبون (بے شک میں انسان ہوں مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے ان کو غصہ آتا ہے) (منڈ احمد ۲۲۳: ۲)

وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں جو رو بھی رکھتے ہیں لیکن یہ سب جذبات ان میں مغلوب ہوتے ہیں کہ ان کو رضاۓ حق سے نہیں نکلنے دیتے مگر جو ناواقف ہیں ان کو رہو کا ہو جاتا ہے اور وہ اسی خط میں رہتا ہے کہ ایسے بزرگ سے مرید ہو کہ صاحب تصرف بھی ہو اور اگر کسی کوشش صاحب

تصرف مل گیا اور اس کی تعلیم سے قدرے محیت کی حالت ہو گئی تو بس وہ بزعم خود نبی سے بڑھ گیا۔ اسی غلطی کے سبب لوگ جذب کو سلوک پر ترجیح دیتے ہیں۔ استغراق کو بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بے عقل و مدد ہوش نہ ہوئے تو کمال ہی کیا۔

صاحبہ اللہ تعالیٰ کا نام تو ہوش بڑھانے کے واسطے لیا جاتا ہے نہ کھونے کے لئے۔ ہاں اس کے دو طریقے ہیں کہ بھی گھٹ کر بڑھ جاتا ہے کبھی بغیر گھٹے اور یہ فرق مزاج کے اختلاف سے ہوتا ہے۔ مثلاً ماء الْحَمْمَ سے قوت بڑھتی ہے مگر ایک شخص کو تو ابتداء ہی سے دے دیا جاتا ہے جس میں مادہ فاسد نہ تھا۔ اور ایک کو سہل کے بعد دیا جاتا ہے جس میں مادہ فاسد ہو۔ مگر مقصود سب کو قوت پہنچانا ہے۔ اسی طرح جن کو ضرورت بے ہوش کر کے ہوش میں لانے کی ہوتی ہے اُنکو اول بے ہوش کیا جاتا ہے۔ پھر ہوش دیا جاتا ہے اور بعض کو اول ہی سے ہوش بڑھانا شروع ہو جاتا ہے۔ بہر حال استغراق خود مقصود نہیں۔

## استغراق اور قرب

خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں کہ استغراق میں قرب نہیں بڑھتا کیونکہ اس میں عمل نہیں ہوتا جو مدار قرب ہے تو حقیقت میں جو ذی استعداد کامل ہیں ان پر نفسانی کیفیات طاری نہیں ہوتیں۔ ہاں روحانی کیفیات کہ جن کا اثر روح پر ہوتا ہے کا مطین پروہ کیفیات طاری ہوتی ہیں جن کا عوام کو پہنچنے بھی نہیں اور ان دونوں میں وہ فرق ہے۔ جیسے گڑ اور فیرینی کی شیرینی میں کہ چمار کسی کی بیگار میں گئے۔ اس نے فیرینی کھلائی۔ تو چماروں نے ناک مار کر کھاتوں۔ مگر چودھری کہتا ہے کہ تھوک سا کیا ہے اس کو مٹھائی مدرک نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس نے کبھی فیرینی کی بو بھی نہ پہنچنی تھی۔ اس کے نزدک تو مٹھائی گز ہے۔

تو واقعی جو سالکیں متنمی کیفیات ہیں وہ دیہاتی گڑ خوار ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ کام میں لگو۔ کیفیات کی ہوں چھوڑو۔ پھر دیکھئے کہ ایک دن وہ کیفیات نظر آئیں گی کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطرت علی قلب احمد۔ (منڈ احمد: ۳۲۸) (نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سانہ کسی کے دل پر اس کا خطرہ ہوا) مگر تفصیلی تنبہ ان پر شیخ کے متنبہ کرنے سے ہوگا۔ البتہ اجمالي تنبہ اس پر اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ابتداء ذکر کے وقت جو کیفیت تھی اس کو نہ بھولنا پھر دو بر س کے بعد دیکھنا کہ اب کیا حالت ہے خود تفاوت معلوم ہوگا۔ تم چاہتے ہو آج ہی سب کچھ ہو جائے۔

ایک بچہ کو دیکھئے کہ جتنا آج اتنا ہی کل۔ دو ایک دن میں کوئی قابل امتیاز تفاوت نہیں ہو جاتا۔ مگر اسی بچہ کو دس بر س کے بعد دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ہاں اس کو نشوونما ہوا ہے۔ غرض کیفیات روحانیہ تو ضرور ہوتی ہیں۔

## کیفیات نفسانیہ

مگر کیفیات نفسانیہ ضرور نہیں۔ کسی کو ہوتی ہیں کسی کو نہیں چنانچہ بعضوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب غلبہ ذکر ہوتا ہے تو بھوک پیاس تک نہیں لگتی۔ نیند نہیں آتی۔ یہ سمجھا کہ یہ تمہرہ ذکر کا ہوا کہ سب چیز کی شہوت جاتی رہی۔ خوش ہوا۔ اس کے بعد جب کیفیت جوش کی گھٹی اور ان امور طبیعیہ نے عود کیا تو مغموم ہے۔ تو یہ نادافتنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جوش و خروش دائم نہیں رہتا۔

حدیث میں ہے کہ ہر جوش میں ضعف ہوتا ہے۔ ان جوشوں کے فرو ہونے کے بعد۔ پھر روحانی کیفیت برہتی ہے وہ البتہ دائم ہوتی ہے

خود قوی تر میشود خمر کہن                    خلاصہ اُل خمرے کہ شدم من لدن  
پرانی شراب زیادہ طاقت ور ہوتی ہے خصوصاً شراب جولدی ہو۔

ان کیفیات نفسانیہ کا غلبہ عروج تھا اور ان کیفیات روحانیہ کا غلبہ نزول ہے عرض! ان کیفیات نفسانیہ کے سکون کے بعد بعض آثار طبیعیہ کا عود موجود اشتباہ نہ ہونا چاہئے کیونکہ مقصود ازالہ طبیعت کا نہیں ہے عدم غلبہ کافی ہے بالکل لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔

ای کو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زائل نہیں ہوتے۔ بلکہ یہ امور طبیعیہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اور آیت میں جو علاج ہے اس کا یہی حاصل ہے کہ گوئنگی رہے مگر مشغولی بحق سے وہ موزی نہ رہے۔ خود مشغولی بحق سے بھی اور اس استحضار سے بھی کہ یہ بھی من الحق ہے۔

اس کو مثال سے سمجھئے آپ کے بدن میں ایک دشمن نے چکلی لی تو جھلا گئے اور محظوظ نے چکلی لی تو آپ اپنے سے زیادہ خوش نصیب کسی کو نہ سمجھیں گے اور یعنی ایک شخص نے آپ کو زور سے دبوچا تو تکلیف کس قدر ہو گی اور فرض کیجئے کہ آپ کا محظوظ اس طرح دبوچے۔ تو بھی اس کا اثر بدن پر تو ضرور ہو گا۔ مگر دل پرسرت کے آثار نہیاں ہوں گے۔ بس ایک وہ تنگی ہے ایک یہ تنگی ہے مگر دونوں میں فرق زمین آسمان کا ہے اسی طرح مشغولی بحق کی حالت میں بھی گو واقعات سے تنگی ہوتی ہے۔ مگر یہ ایسی تنگی ہے جس سے دل مسرو ہے مثلاً اسی حالت میں جب کہ محظوظ نے آپ کو ٹھیک رکھا ہے اور کوئی رقیب کھڑا ہوا اور وہ محظوظ آپ سے کہے کہ اگر تکلیف ہوتی ہو تو بھی کوچھ ہو گز کر اس کو لپٹ جاؤں تو آپ یہی جواب دیں گے

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت                    سر دوستاں سلامت کہ تو خبر آزمائی  
”تمہاری تکوار سے ہلاک ہونا دشمن کے نصیب میں نہ ہو۔ تیری خبر آزمائی کے لئے دوستوں کے سر موجود ہیں۔“ بھی قیامت تک بھی اس پر راضی نہ ہو گے۔

## مكررات قرآن

اس طرح مشغولی بحق کی حالت میں بھی تنگی ہو مگر قلب و روح پر نہیں صرف طبیعت و جسم پر ہوتی ہے اور وہاں راستہ ہی نہیں ملتا کہ قلب تک پہنچے۔ وہ حالت ہوتی ہے کہ

عَدْلُ الْعِوَادْلِ حَوْلَ قَلْبِ النَّانِهِ      وَهُوَ الْأَحْبَهُ مِنْهُ فِي سُودَائِيهِ

یعنی محبت تو قلب کے اندر ہوتی ہے اور ملامت باہر۔ تو بس اس قسم کی تنگی رہے گی۔ یہ حاصل ہے علاج کا۔ اور اس علاج کو حق تعالیٰ نے بہت جگہ بیان فرمایا۔ ہے ایک جگہ فرمایا۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (پ ۲۷)

(اور آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں اور اٹھتے وقت (محلس سے یا سونے سے) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے اور رات میں بھی اسکی تسبیح کیا کیجئے اور ستاروں سے پیچھے)

أَوْ أَيْكَ جَلَّهُ وَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفَرُوضِ (پ ۲۶)

(پس آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے)

کیونکہ یہ علاج بہت نافع تھا اس لئے متعدد جگہ بتلا دیا تاکہ غافل بھی اس سے غافل نہ رہے مگر افسوس اس کی قدر نہ کی اور وہ احمد بن کوتصنیف کا سلیقہ نہیں اس تکرار پر اعتراض کرتے ہیں۔ کہ قرآن مجید میں تکرار ہے۔ صاحبو! مكررات قرآن میں عین شفقت ہے۔

دیکھو ایک تو حاکم کا اعلان ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اعلان کر دیا کہ گھر کے سامنے کوڑا نڈالے اور ایک باب کا کہنا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کہا نہ ما نا پھر تنبیہ کرتا ہے پھر نہ مانے پر پھر کہتا ہے۔ تو ان دونوں کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ باب کا بار بار کہنا شفقت سے ہے اور اعلان حاکم میں شفقت نہیں۔ تو قرآن مجید میں مكررات بوجہ شفقت خداوندی کے ہیں اور کیوں نہ ہو جب کہ اس کو ہم پر والدین سے زیادہ شفقت ہے۔ مگر افسوس! تم نے اس شفقت کی یہ قدر کی اور پھر اپنی خبر نہیں۔ صاحبو! اگر تکرار موجب نقص ہے تو تم اپنے اعتراض کو پچاسوں مرتبہ کیوں دہراتے ہو؟ خیریۃ ولطیفہ ہے غرض یہ ہے کہ تکرار حض شفقت کی وجہ سے ہے تو اس علاج کو شفقت سے حق تعالیٰ نے کئی جگہ بتالیا ہے۔ میرا مقصود مسخورات کے مجمع میں اس قسم کا بیان نہ تھا۔ مگر اتفاق سے دیقق ہو گیا۔

## تینگی کا علاج

خیر! میں اب عورتوں کے متعلق کچھ بیان کرتا ہوں کہ اگر کچھ تینگی ہوا کرے تو اس کا علاج خدا کی یاد سمجھ لوا اور اس کو دستور العمل بنالو کہ مثلاً جب چوری ہو جائے طاعون آجائے جو بھی شکایت ہو اس کا علاج یہ مت کرو کہ گاتے پھر و۔ بلکہ خدا کی یاد سے علاج کرو اور یہ نہ سمجھنا کہ خدا کی یاد کرنے والی وہی ہے جو ذاکر کہلاتا ہو نہیں بلکہ جس طرح ہو سکے ہر طاعت اس میں داخل ہے اور یہ بھی نہ کرو کہ زبان سے صرف سبحان اللہ سبحان اللہ رئیتے رہو اور دل پر اس کا اثر نہ ہو۔ ایسی تسبیح کا معتقد بہ اثر نہیں ہوتا  
 بر زبان تسبیح درد دل گاؤ خر      ایں چنیں تسبیح کے دارو اثر  
 (زبان پر تسبیح اور دل میں گاؤ خر کا خیال، ایسی تسبیح کب اثر رکھتی ہے)

بلکہ زبان سے قلب سے ہاتھ پاؤں سے، سب سے ذکر کرو۔ چنانچہ زبان کا تو ذکر یہ ہے کہ بکثرت تسبیح و تہلیل پڑھو اور قلب کا ذکر یہ ہے کہ اس کی نعمتیں یاد کرو۔ اس سے یعنی تذکرہ نعم سے انفع اور کوئی طریقہ نہیں ہے مولیٰ بات ہے کہ نعمتیں مقدر میں مصیبتوں سے بڑھی ہوئی ہیں۔ دیکھو کہ اگر مرض بھیجا ہے تو اس کی دو ابھی فرمائی ہے

درد از یارست و درماں نیز ہم      دل فدائے اوشد و جاں نیز ہم  
 یعنی درد بھیجا تو درماں بھی بھیجا۔ فرض کرو اگر مرض ہوتا اور علاج نہ ہوتا دوانہ ہوتی۔ طبیب نہ ہوتا۔ یمار دار نہ ہوتے تو کچھ دشواری ہوتی یا نہیں، میں اپنے خدا سے محبت ہے تو ایسی حالت میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ پھر بھی، میں ہر اس اس نہ ہونا چاہئے۔ تھا کیونکہ

درد از یارست و درماں نیز ہم      دل فدائے اوشد و جاں نیز ہم  
 ”درد دوست کی طرف سے ہے اور دو ابھی۔ دل اسی پر فدائے اور جان بھی“

ہر چہ می گویند آں بہتر ز حسن      یار ما ایں دارو و آں نیز ہم  
 ”جو کچھ حسن کے متعلق لوگ کہا کرتے ہیں۔ ہمارا دوست یہ اور وہ سب رکھتا ہے۔“

## قوت قلب

پھر علاج کرنے والے بھی وہ کہ جو آپ کے مزانج شناساً یماردار، ایسے جو دل سے یہ چاہیں کہ میں یمار ہو جاؤں۔ اور یہ اچھا ہو جاوے تو ایسے معانج و خیر خواہ خدا نے پیدا کئے کہ اگر ہزار روپے بھی تխواہ دی جائے تو

یہ ہمدردی ممکن نہیں جو کہیں اس کے بجالانے کو تیار، ہر طرح حاضر کہ جن سے ہر وقت قوت دل برہتی رہے کہ یہ خود بھی علاج ہے۔ چنانچہ بالاتفاق تمام طبیب کہتے ہیں کہ قوت قلب سے مرض و فحشہ ہو جاتا ہے۔  
چنانچہ والد صاحب نے مجھے الہ آباد سے کانپور لکھا کہ میں سخت بیمار ہوں تم چلے آؤ۔ میں گیا تو دفعتاً آنکھیں کھول دیں اور پندرہ منٹ میں مجھ کو اپنے ساتھ بازار لے گئے کہ امر و دیرہاں کے بڑے نفیس ہوتے ہیں اور فرمایا کہ تمہیں دیکھ کر اچھا ہو گیا۔

حدیث میں تاکید ہے کہ جب بیمار کے پاس جاؤ تو نفسوالہ فی اجلہ یعنی اس کو تسلی دو کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے یا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے حضور ایک مریض کی عیادت کو تشریف لے گئے تو فرمایا لاباً س طہور ان شاء اللہ اس حق نے کہا بل جمی تفر راجی خوف کیوں نہیں۔ بدھ آدمی کو بخار چڑھاہی نہیں ضرور اچھانہ ہوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی ہو گا۔ بالآخر وہ مر گیا۔ فال بد ایک قسم کی نا امید ہے رحمت حق سے سوچھی اس کا اثر بر اطاعت ہوتا ہے۔

ہمارے وطن میں ایک لڑکی ہے۔ بچپن میں جب اس سے کوئی کہتا کہ تیرا بیاہ کب ہو گا تو وہ کہتی کہ بس اب کیا ہو گا۔ آخر اس کے بیاہ کی ایسی مشکل پڑی کہ اللہ اللہ کر کے بڑی مدت میں ہوا (اس وعظ کے آٹھ مہینہ بعد) مزن فالد بد کا درود حال بد۔

غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لئے اسی لئے حکم فرمایا کہ طبیعت میں قوت بڑھے۔

## آداب عیادت

ایک اور بات مریض کی طبیعت کی رعایت سے فرمائی کہ من عاد منکم المریض فلیخفف الجلوس۔ (مسند احمد: ۱۸: ۳)

(یا اور کوئی لفظ ہوں) یعنی مریض کے پاس تھوڑا بیٹھو۔ کیونکہ طبعی بات ہے کہ بتکلفی ہر ایک سے نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی آکر پاس بیٹھا تھا اب مثلاً اس کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتا۔ پشت نہیں کرتا۔ ادب کی وجہ سے اور اس سے اس پر بوجھ پڑتا ہے۔ اور بتکلیف ہوتی ہے۔

فقہاء نے خوب لکھا ہے کہ بعض لوگ بعض دنوں میں عیادت کو منحوس سمجھتے ہیں تو اس دن میں ان کی عیادت نہ کرو کیوں کہ ایک تو اس وقت اس کو اذیت ہو گی۔ دوسرے اگر اس کو کوئی ضرر پہنچ گیا تو اور زیادہ عقیدہ خراب ہو گا۔ اور یہ وقت اس کے جہل کے علاج کا وقت نہیں۔ یہ مرض کے علاج کا وقت ہے۔ پھر دوسرے وقت سمجھا دینا۔ مگر عیادت کے جملے میں غرض عیادت میں خلل

کیوں ڈالتے ہو۔ تو ہمارے فہمہا نے عجیب و غریب حقائق سمجھے ہیں۔ واقعی فہمہ بننا ہر ایک کام نہیں۔ کثرت روایت سے فقیہ نہیں ہوتا۔ فقة اس کا نام ہے حافظ نے خوب کہا ہے۔

نہ ہر کہ چہرہ برا فروخت دلبری داند      نہ ہر کہ آئینہ داروں سکندری داند  
ہرنکتہ باریک تر زموں اینجاست      نہ ہر کہ سر بترا شد قلندری داند  
”ہر چہرے کا چمکانے والا محبوب نہیں ہو سکتا۔ ہر آئینہ رکھنے والا سکندر نہیں بن سکتا۔ ہر سر منڈا قلندر نہیں ہو سکتا۔ قلندری کے لئے بال سے بھی زیادہ باریک رموز کا جانتا لازم ہے۔“

## حیات آخرت

صاحب! یہ انہی حضرات کا کام تھا کہ بخاری اور ترمذی سے مسائل استنباط کریں۔ غرض نعمتوں کے یاد کرنے سے بھی تنگی خاص طور پر دور ہوتی ہے۔ اور قلب کی یہ بھی یاد ہے کہ وطن اصل کو یاد کرو کہ وطن اصلی کی یاد سے بھی تنگی دور ہو گی اور ہمارا وطن اصلی آخرت ہے تو مصیبت کے وقت آخرت کی باتوں کو یاد کرنا چاہئے وہاں کے ثواب و عذاب پر غور کرنا چاہئے فرماتے ہیں۔

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۝ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْفُرُورُ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبٌ ۝ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهُمْ الْحَيَاةُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ (پ ۲۱)

یعنی اصل حیات دار آخرت کی ہے اور حیات دنیا عارضی ہے۔ افسوس! اس کو حیات نہ سمجھا کہ بلکہ اس کا نام موت رکھا۔ البتہ جو لوگ حقیقت سمجھ گئے وہ یہ کہتے ہیں

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بروم      راحت جاں طیم و زپے جانا بروم  
ندر کر کر دم کہ گرائیں غم بر آید روزے      تادر میکدہ شاداں و غرلخواں بروم  
حس دن میں اس ویران جگہ سے جاؤں گا خوش ہوں گا۔ جاناں کے پیچھے جا کر راحت جان پاؤں گا۔ میں نے منت مانی ہے کہ اگر یہم غم عشق کبھی ختم ہو گیا تو میکدہ کے دروازے تک خوش خوش غزل خوانی کرتا جاؤں گا۔“

خوش اوقت و خرم روز گارے      کہ یارے بر خوردا ز دصل یارے  
وہ وقت بڑا اچھا ہوتا ہے جب ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کرے۔“  
بس! وہ موت سے خوش ہیں اس کی تمنا کرے ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ پھر یہ سوچو

کہ یہاں کیا ہے۔ یہاں عیش کا کون سا سامان ہے جو وہاں نہیں اور یہاں جو سامان ہے اس سب کا منفعت کرنے والا خوف انقطع ہے۔ گھٹا کی رات اور حضرت بڑھا کی بخلاف عیش آخرت کے کہ اگر معصیت نہ کی تب تو لا خوف علیہم ولا هم يَحْزُنُونَ۔ (پا) (اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے) وہاں ہر سامان عیش موجود ہے۔

**فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرِمَانٌ** (پ ۲۷)

(ان دونوں باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے)

اور **فِيهِنَّ خَيْرٌ حِسَانٌ** (ان میں خوب سیرت خوب صورت عورتیں ہوں گی یعنی حوریں) اور **رُحْرُرٌ مَقْصُورٌ فِي الْخِيَامِ** اور **لَمْ يَطْمِثُنَ إِنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ** (وہ عورتیں گوری رنگت کی ہوں گی اور خیموں میں محفوظ ہوں گی اور ان لوگوں سے پہلے نہ ان پر کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ جن نے) اور **مُتَكَبِّرُونَ عَلَى رَفِيفٍ** (پ ۲۷) شاید کسی کو یہ شبہ ہوتا کہ اور تو سب چیزیں ہوں گی مگر گہنا پہنانہ ملے گا۔ اور بعضوں کا تو یہاں بھی پہننے کو جی چاہتا ہے۔

ایک مولوی صاحب بدھے گوئے پٹھے کے کپڑے پہننے کی تمنا کیا کرتے تھے۔ پٹھے میں گونا ٹکوایا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ نایبنا سے بینا ہوئے تھے سوال اللہ تعالیٰ نے زیور پہننے کی بھی خبر دے دی کہ **يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا** (پ ۷۱) کہ خوب پہنو۔ اب کیا چاہتے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ وہاں موتیوں کے مکان و باغ ہیں کہ جن میں نہریں جاری ہیں اور وہاں کی نعمتوں کا کیا بیان ہو سکتا ہے ان کی نسبت اتنا سمجھ لیتا چاہئے کہ اعدادت لعبادی الصالحین مala عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطرہ علی قلب بشر (مند احمد: ۳۳۸: ۲) اور جو کچھ نام و نشان آئے ہیں وہ صرف مشاہدت پر مبنی ہیں ورنہ

چہ نسبت خاک را باعالم پاک (خاک کو آسمان سے کیا نسبت)

اور وہاں ایک عجیب لطف ہوگا کہ بہت سے میووں کی صورت یکساں ہوگی اور مزہ مختلف۔ چنانچہ ارشاد ہے وَ اتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا (پا) کہ جنت کے میوہ جات صرف رنگ و اسم میں متشابہ و مشترک مگر چکھنے کے بعد مختلف۔ اس میں ایک خاص لطف ہوتا ہے کہ سمجھے تھے کچھ انکلا پچھا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ دو شخص اسی امیر سے ملنے گئے۔ ناشتہ کا وقت تھا۔ اس نے باور پچی سے کہا ناشتہ لاو۔ ایک پر تکلف دستر خواں بچھا اور

نہایت تکلی چھاتیاں آئیں، قورمہ آیا۔ ایک پیالہ میں اور ایک چھوٹی طشتری میں میٹھے چاول وہ اس مقدار قلیل کو دیکھ کر جل گئے۔ اور جلدی جلدی جو کچھ سامنے تھا سب صفا چٹ کر گئے جب کھا چکے تو باور پھی نے کہا یہ پیالہ اور طشتری بھی کھا لیجئے۔ وہ یہ سمجھے کہ تم خرکرتا ہے۔ ناخوش ہوئے۔ اس نے معافی چاہ کر پھر کہا۔ توڑا تو نمکین بالائی اور میٹھی بالائی۔

تو صاحبو! جب دنیا میں ایسے اطائف و غرائب ہیں تو وہاں کے اطائف کس سے بیان ہو سکتے ہیں۔ وہاں اسی قسم کے انار ہوں گے جن کو توڑتے ہی اس میں حوری نمودار ہو گی اور نفل آئے گی۔ جب میں کانپور میں تھا تو ایک شخص سائز عبداللطیف صاحب کے پاس حاضر ہوا تھا۔ مدرسہ میں آکر کہنے لگا کہ میں ایسا عمل جانتا ہوں کہ ابھی دیوار شق ہو جاوے اور اس میں سے ایک عورت نکلے جو غزل اس سے کہیں وہی گاوے گی۔ ہم نے اس کو عجیب سمجھا تھا وہاں رات دن ایسا ہوا کرے گا۔

غرض! ساری چیزیں عیش و عشرت کی وہاں موجود ہیں۔ خدا جزاۓ خیر دے اہل سنت کو۔ کہ کتاب و سنت سے ثابت کر دیا کہ لگا ہواباغ نہیں کہ لگے گا۔ اس سے جو سلی ہو سکتی ہے وہ بھی رافع ضيق ہے۔ اسی طرح کے حور و قصور اور میوے وہاں تیار ہوں گے۔ بعض روایات میں تصریح ہے فرماتے ہیں۔ الجنة قیعاد و غراسها العمل الصالح۔ (لم أجده الحديث في "موسوعة أطراف الحديث")

اب ایک نعمت اور باقی رہ گئی کہ سب کچھ ہو گا۔ اور اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر خلود ہو گا کہ تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے۔ مگر ان کی نعمتیں ختم ہی نہ ہوں گی۔ سوتھا را اون اصلی یہ ہے اور وہ دن بہت دور بھی نہیں کہ جب قیامت آوے گی تب ملے گا نہیں بلکہ مرتے ہی مل جاوے گا۔

### مراقبہ موت

مگر شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ مر نے کا تصور تو منغض ہے تو اس کا تصور یوں کیا کرو کہ ایک کرہ ہے۔ ہم اس کی چھت کے نیچے ہیں اور جنت اس کی چھت پر ہے اور وہ کمرہ آسمان ہے بس یہاں سے وہاں چلے جائیں گے۔ مرتا کیسرا ہا۔ یہ خیال کہ بڑی دور ہے وہاں تک رسائی کیسے ہو گی۔ تو اس سے بے فکر ہو۔ سرکاری اور قدرتی ریل گاڑی تم کو دم کے دم میں پہنچادے گی۔

اب ایک خیال اور ہو گا کہ دنیا میں تو ایسے ہیں جیسا کہ پاخانہ میں اور پھر اس میں آکر وہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہاں سے نکل کر فوراً کیسے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو سنو! کہ وہاں نہ راحتو و حمام ہے۔ جھٹ غسل دے کر حکم ہو گا کہ لے جاؤ باغ میں۔ مگر خدا کے واسطے کہیں باغ والے کا انکار نہ کر دینا

اور نہ باغ کی خبر دینے والے کا۔ تو حق تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان کے سوچنے کے بعد کوئی مصیبت نہیں رہتی۔ اور یہ طریقے ہیں حب دنیا گھٹانے کے اس سے دنیا کی بے وحشی ذہن نشین ہوتی ہے اور آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جن کی آنکھیں کھل گئیں وہ یہاں کے مال و جاہ کو بے وقعت سمجھ کر یہ کہتے ہیں۔ اے دل آں بہ کہ خراب از مئے گلگلوں باشی بے زرو گنج بصد حشمت قاروں باشی اے دل اگر شراب عشق پے تو بغیر خزانے کے تجھے قاروں کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔

دررہ منزل لیلے کہ خطرہ است بجاں شرط اول قدم انت کہ مجنون باشی لیلے تک پہنچنے میں جان کیلئے بہت خطرے ہیں اور پہلے قدم اٹھانے کی شرط یہ ہے کہ تو مجنون ہو جائے۔ آز مودم عقل دور اندیش را بعد ازیں دیوانہ کر دم خویش را میں نے اپنی دور اندیش عقل کو آزمالیا اور پھر دیوانہ بننا۔! اور فرماتے ہیں ما اگر فلاش و گر دیوانہ ایم مست آں ساقی و آں پیاناہ ایم ہم فلاش ہیں یاد دیوانے، اپنے ساقی اور پیاناے کے مست ہیں۔

## محبت کا اثر

حضرت اہل محبت سے یہ بعید نہ سمجھو۔ دیکھئے دنیا میں جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی طلب میں کتنی ہی ذلت اٹھانی پڑے سب گوارا ہوتی ہے بلکہ جب دیکھتے ہیں کہ اسی کے تصرف سے ہے تو پھر احتمال بھی ناگواری کا نہیں ہوتا۔ اسی کی نسبت کہتے ہیں۔

از خدا داں خلاف دشمن دوست کہ دل ہر دور تصرف اوست

دوست دشمن کی بات خدا کی طرف سے ہے کیونکہ دونوں دل اسی کے ہاتھ میں ہیں۔

بس یہ تو سب مشینیں ہیں جو کہ کسی کے چلانے سے چلتی ہیں اور بدلوں اس کی اعانت کے بیکار محض ہیں لیکن جس نے اصل چلانے والے کو نہیں دیکھا وہ سمجھ رہا ہے کہ انہیں سے آناتا ہے مگر اہل معرفت سمجھتے ہیں کہ ان کی رفتار عارضی ہے اصلی نہیں ہے۔ یہ اپنی رفتار میں خیر کے محتاج ہیں۔

دو دہاں داریم گویا ہچونے یک دہاں پہاں ست درلب ہائے وی

یک دہاں نالاں شدہ سوئے شما ہائے ہوی درفلنڈہ درہا

ماچو چنگیم و تو زخمے مے زنی زاری ازمانے تو زاری میکنی

”بانسری کی طرح ہمارے دومنہ ہیں ایک منہ بجانے والے کے لبوں میں ہے اور دوسرا منہ سے آواز نکل رہی ہے جس نے زمین و آسمان میں ہل چل مچا دی۔ ہم تو چنگ کی طرح ہیں مضراب لگانے والے تم ہو۔ یہ رونا ہمارا رونا نہیں تمہارا رونا ہے۔“ اور فرماتے ہیں

ہما ہمس شیراں والے شیر علم  
حملہ شاں زا باد باشد و مبدم  
حملہ شاں پیدا و تا پیدا است باد  
آنچہ تا پیدا است ہر گز کم مباد

”ہم تو پر چم کے شیر ہیں جو ہوا ہو تو حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کا حملہ ظاہر ہوتا ہے اور ہوا پوشیدہ۔ اور جو پوشیدہ ہے (خدا کرے) وہی کم نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں

عشق من پیدا و معشوق نہاں یار ببروں فتنہ او در جہاں  
میرا عشق ظاہر ہے اور معشوق مخفی۔ دوست کے حسن نے جو فتنے اٹھائے وہ تو موجود ہیں۔  
مگر دوست مخفی ہے۔ غرض سب کچھ ادھر ہی سے ہے مصیبت ادھر سے دکھ ادھر سے۔ مگر یاد رکھو کہ  
محبت پیدا کرو۔ بس سب مصیبتوں آسان ہیں۔

از محبت تلخیاں شیریں بود (محبت سے تلخیاں میٹھی ہو جاتی ہیں)

ورنه پھر مصائب کفر کا پھانک ہے اور اس محبت پر میں خوبخبری دیتا ہوں کہ جن کو محبت ہے  
اپنے اللہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ویحهم ویحبنہ مولا نافرماتے ہیں

آب کم جو تشنگی آور بدست تابحوشد آبت از بالا و پست

تشنگاں گر آب جوینداز جہاں آب ہم جوید بعالم تشنگاں

پانی نہ ڈھونڈ پیاس پیدا کر۔ تاکہ پانی ہر طرف سے تمہارے پاس آئے پیاسے پانی کو ڈھونڈتے ہیں تو پانی بھی پیاسوں کی تلاش کرتا ہے۔

توجہ ہم اللہ کو اپنا محبوب بنالیں گے تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنالے گا تو محبت ادھر سے بھی ہوگی۔  
مگر فرق یہ ہے محبوب کا عشق خفی ہوتا ہے اور عاشق کا عشق ظاہر کہ عاشق تمام عالم میں عمل مچا دیتا ہے۔

## علامت قبول طاعت

باتی یہ بات کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کو بھی ہم سے محبت ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ  
قلب میں باری تعالیٰ ایک تعلق اپنے ساتھ پیدا کر دیتے ہیں جس سے ذکر و طاعت آسان ہو جاتا  
ہے۔ بس یہی علامت ہے کہ ہم بھی مقبول و محبوب ہیں۔

حضرت حاجی صاحب نے قول عبادت کی یہ علامت بتائی ہے کہ جب پھر اسی کے کرنے کی توفیق ہو تو سمجھ لو کہ پہلی عبادت مقبول ہو گئی ورنہ دروازہ پر چکلنے ہی کیوں دیتے۔ مولانا نے ایک حکایت لکھی ہے کہ کوئی عابد تھا ایک بار مالیوں ہو کر کہ وہاں سے کچھ پتہ ہی نہیں ملتا۔ سورہ۔ فرشتہ آیا اور کہا گفت آں اللہ تو بلیک ماست ویں نیاز و سوز و درود پیک ماست فرشتے نے بتایا کہ یہ سوز و درد ہمارے مقصد ہیں۔

تو یہ درد شوق ہمارا مقصد ہے اور یہ علامت ہے کہ خدا کو محبت ہے یہ ہے علاج مصائب کا۔ صاحبو! بڑے بڑے عقول یوں سمجھتے ہیں کہ رونے سے نفع ہو گا مگر جو ہم بتلاتے ہیں اسی سے نفع ہو گا اور اسلی اسی سے ہو گی یعنی مشغولی و توجہ بحق یہ ہے اسلی کام رمایہ۔ بات تو مختصر تھی مگر تمہیدوں میں لمبی ہو گئی۔ مگر یہ طول سب جھال را اور چین تھے۔ اگر یہ نہ ہو تو کپڑا تو ہو یعنی اصل مقصود۔

## توکل و رضا

وہ یہ کہ جب مصیبت آوے خواہ عام جیسے طاعون یا خاص جیسے۔ مقدمہ۔ پس اگر تم نے یہ طریقہ مشغولی و تعلق بحق اختیار کیا جو میں نے بیان کیا تو وہ مثال بہلوں کی مخاطب بزرگ کی صادق آوے گی۔ کہ بہلوں نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ کیا مزاج ہے کہا کہ ایسے شخص کے مزاج کا کیا پوچھنا کہ تمام مخلوق اس کی خواہش کے موافق چلتی ہو۔ کوئی کام اس کے ارادے کے خلاف نہ ہوتا ہو۔ بہلوں نے شرح پوچھی۔ فرمایا کہ میں نے اپنے ارادہ کو اس کے تابع کر دیا ہے جس کے بدلوں حکم ایک ذرہ نہیں بل سکتا تو جب اپنی خواہش کو اس کے تابع کر دیا۔ تو جو واقعہ اس کے ارادہ کے موافق ہو گا۔ میرے ارادہ کے بھی موافق ہو گا پھر غم کہاں۔

یہ توکل و رضا وہ ہے کہ جو کچھ ہو گا یہی سمجھو گے کہ بہت مناسب بہت بہتر پس لامحالہ وہ حالت ہو جاوے یگی جو ان بزرگ کی سنی اور واقعی اگر غور کرو تو بلا وس میں بھی نعمتیں ہیں جب رضا و طاعت اختیار کرو گے ان مصائب کے اسرار بھی منکشف ہو جاوے گے جس سے اور اسلی ہو گی۔ اسی انکشاف کو مولانا فرماتے ہیں

بینی اندر خود علوم انبیاء	بے کتاب و بے معید وادستا
اپنے اندر تم انبیاء کے علوم پاؤ گے	بغیر کتاب اور بغیر استاد کے سب کچھ سمجھ آنے لگے گا۔

منجملہ اسرار بلا کے ایک وہ ہے جو تفسیر مظہری میں ایک حدیث سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں کہ بعضے میرے بندے ایسے ہیں کہ اگر انکو تدرست و متمويل رکھوں تو وہ کفر کرنے لگیں۔ چنانچہ اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں۔ وذا لک بانی اعلم بعجاجی۔ بعض کی نسبت ارشاد ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوا فِي الْأَرْضِ جیسا حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑا تھا۔ بظاہر کوئی مصلحت نہ تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا۔ مگر اس میں کتنی بڑی مصلحت نکلی۔

اس طرح اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حکمت و مصلحت سے بھرا ہوتا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلوا عن الحکمة۔ (داتا کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا) چنانچہ ایک مصلحت یہ ہے کہ اہل مصیبت کو وہ وہ درجے میں گئے کہ اغذیاء یہ تنہ کریں گے کہ کاش! ہمارا بدنا..... قینچیوں سے کافی جاتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم خود بلا مانگو۔ تم تو عافیت ہی مانگو۔ اگر وہ مرابت اور عافیت دونوں دے دیں۔ تو ان کے یہاں کس چیز کی کی ہے۔ حضور یہاں سے پچھنے کی بھی دعا مانگتے تھے اور عافیت کی بھی۔ تم بھی ہر مراد مانگو۔

### صورت شکر

مگر ساتھ ہی یہ نیت کرو کہ اگر حاصل ہو گئی تو شکر کی توفیق عطا ہو اور اگر حاصل نہ ہو تو شکایت نہ ہو گی۔ پس ایسا شخص ہمیشہ ہر حال میں تسلی کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت ایسا شخص جھونپڑوں میں محلوں کے خواب دیکھتا ہے گو ظاہر میں وہ خستہ حال ہو مگر حقیقت میں وہ بادشاہ ہوتا ہے۔

فرماتے ہیں ایسا شخص تمام لوگوں کی نظر وہ محبوب ہو جاتا ہے اور اگر ظاہر میں اس کے پاس ساز و سامان نہیں ہوتا۔ مگر حقیقت میں ان کی یہ حالت ہوتی ہے

گداۓ میکدہ ام لیکن وقت مستی میں                      کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم  
”ہوں تو میں میکدہ کافقیر مگر مستی کے وقت آسمان پر ناز کرتا ہوں اور ستاروں پر حکم چلاتا ہوں۔“  
اور کہتے ہیں

میں حقیر گداۓ ایاں عشق را کیں قوم                      شہان بے کم و خراں بے کلہ اند

”عشق کے گداوں کو حقیر نہ جان کہ یہ قوم بے کمر اور بے تاج کے بادشاہ ہیں۔“

پس حاصل علاج کا یہ ہوا کہ نافرمانیاں بالکل چھوڑ دو۔ وہ عالمیں مانگو۔ ہر نتیجہ پر راضی رہو۔ یہ ہے وہ نسخہ جس کو حق تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے استعمال سے یہ گو ضروری نہیں کہ تنگی زائل ہو جائے۔ مگر مغلوب ضرور ہو جائے گی جس سے وہ کا اعدم ہی ہو جاوے گی۔

دیکھو! کوزہ کی مصری میں جوتا کا ہوتا ہے وہ بھی مصری کے بھاؤ بکتا ہے تو اگر کچھ ضمیق رہا بھی تو اس

میں بھی لطف ہوگا۔ چنانچہ عارف کو تکلیف میں بھی ایک اطف ملتا ہے۔ اب چونکہ بعضے ایسے لوگ تھے کہ تنگی کے وقت تو عبادت کرتے ہیں لیکن جب تنگی دور ہو جاتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لئے آگے فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہونا چاہئے بلکہ واعبد رب حتیٰ یاتیک یقین۔ کہ موت آنے تک عبادت کرو پھر چھوڑ دو۔ لیکن خود عقل کا مقتضانہ تو یہ ہے کہ جب یقین آجائے تو زیادہ کرنا چاہئے۔ مولیٰ بات ہے کہ اگر کسی کے سامنے پلاو کی رکابی آئے اور اسے یقین نہ آئے کہ پلاو اس وقت بک رک کر کم کھائے گا۔ لیکن جب یقین آجائے تو اور دل کھول کر زیادہ کھائے گا۔ مگر یہاں عجیب بات ہے کہ جب یقین آجائے تو بہت ظاہر ہے کیونکہ محاورہ عربی میں یقین آنے کے معنی میں تيقن آتا ہے اتنا یقین نہیں آتا۔ تو اگر یہ مراد ہوتی تو یوں فرماتے حتیٰ یقین۔

غرض یہ معنی بالکل مہمل ہیں اور یہاں یقین کے معنی موت ہے۔ تو معنی یہ ہوئے حتیٰ یاتیک الموت اور موت کو یقین اس لئے کہا کہ وہ یقینی ہے۔

سبحان اللہ! اس آیت میں میں نے دو اعذاد فنوں کو جمع کر دیا جیسا کہ میں نے مفصل بیان کیا۔ مگر اس علاج سے علی سبیل الکمال منتفع ہونے کے لئے بزرگوں کی صحبت کی ختن ضرورت ہے مولا نافرماتے ہیں گر تو سنگ و خارہ و سنگ مرمر شوی چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی ”اگرچہ تم جب کسی صاحب دل کے پاس جاؤ گے تو موتی بن جاؤ گے۔“

اب حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مکمل نسخہ کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمين یا رب العلمين۔

## الاجر النبيل

لتحیح عقیدہ اور ازالہ غم کے متعلق یہ وعظ ۲۳ شعبان ۱۳۳۲ھ بوقت  
 صبح ساڑے آٹھ بجے اپنے مکان پر حافظ جلیل احمد علی گڑھی کے پچہ  
 کے انتقال کے سلسلہ میں بطور تعزیت کری پر بیٹھ کر بیان فرمایا  
 جو چار گھنٹے پانچ منٹ میں ختم ہوا۔ مستورات کے علاوہ ۵۰ کے  
 قریب مرد بھی موجود تھے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قلمبند فرمایا۔

## خطبہ ما ثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ  
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا  
مُضِلٌّ لَهُ، وَمِنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَنَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا  
شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدَ عَبْدَهُ، وَرَسُولَهُ، وَصَلَى  
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.  
إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَيْحٌ وَيَمْيِثُ طَوَّماً لَكُمْ مِنْ  
ذُونِ اللَّهِ مِنْ وَلَيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (ب ۱۰)

(ترجمہ: بے شک آسمان آسمانوں اور زمینوں کی اللہ ہی کے لئے ہے زندہ کرنا اور مارنا  
اپنے اختیار میں ہے اور تمہارے لئے اللہ کے سوا اور کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے)

## الْقَصْحَاجُ عَقَائِدُ

یہ ایک آیت ہے سورۃ توبہ کی جس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا مالک الملک  
ہونا ظاہر فرمایا ہے۔

اس وقت کے بیان سے مقصود غرض یہ ہے کہ ہمارے بعض احتیاب کو بعض واقعات حزن پیش آئے  
ہیں جس کا اثر ان کے قلب پر معمول سے زیادہ ہوا۔ کچھ تو شدت واقعہ کی وجہ سے کچھ ضعف قلب کی وجہ  
سے اور وہ اس وقت اسی غرض سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تاکہ دین کی باقی میں سن کر کچھ دل کو تقویت ہو۔

ان کے آنے کے ساتھ ہی میرے قلب میں یہ بات آئی تھی کہ اس کا سب سے بڑا علاج صحیح عقائد و تبلیغ احکام ہے اور صحیح عقائد مراد یہ ہے کہ عقائد صحیحہ کی یاد و ہانی کی جائے کیونکہ محمد اللہ سما معین اور صاحب واقعہ سب کے عقائد صحیح ہیں۔ مگر واقعات حزن میں ان کی طرف التفات نہیں ہوتا اور ان کو بالقصد ہے، ان میں حاضر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ کہ ان عقائد کو ازالہ غم میں دخل ہے۔

اس وقت میں اسی پر تنبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور صحیح عقائد و تبلیغ احکام ہی سے اس حزن کے غم کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اس مسئلہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بیان فرمایا ہے۔

وَمَنْ يُؤْمِنْ مِنْ مِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ (۲۸)

کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کر دیتے ہیں۔

یہ تو ترجمہ ہے مگر اصطلاحی لفظوں میں اس کا حاصل یہی ہے کہ صحیح عقائد سے ہدایت ہو جاتی ہے کیونکہ ایمان کے بھی معنی ہیں۔ اب رہایہ کہ اس سے یہ کیونکہ معلوم ہوا کہ صحیح عقائد سے غم زائل ہو جاتا ہے کیونکہ ازالہ غم کا کوئی ذکر نہیں صرف ہدایت کا ذکر ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ بے شک صرف ہدایت کا ذکر ہے مگر ہدایت کے لئے مفعول کی ضرورت ہے جو اس جملہ میں مذکور نہیں۔ تو سیاق و سبق میں تامل کر کے مفعول مقدر کرنا چاہئے سواں سے پہلے ارشاد ہے: مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (۲۸) ”کہ کوئی مصیبت بدون اذن خداوندی کے نہیں پہنچتی۔“

وَمَنْ يُؤْمِنْ مِنْ مِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ (۲۸)

کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اس کے دل کو ہدایت ہو جاتی ہے۔

یعنی اس مضمون سابق کی کہ وہ مسئلہ قدر ہے اس کو ہدایت ہو جاتی ہے اس طرح سے اس کو مسئلہ تقدیر پر جزم واطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ یا یوں کہو کہ اس کو ازالہ غم کی ہدایت ہو جاتی ہے کیونکہ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (کوئی مصیبت بغیر حکم خداوندی کے نہیں پہنچتی) کا مضمون ہی ایسا ہے جس کے استحضار سے مصیبت و غم زائل ہو جاتا ہے تو مضمون مذکور اور ازالہ غم کی ہدایت گویا دونوں متراوف ہیں اور اس کی بھی دلیل مشاہدہ ہے جو لوگ اس مضمون پر جازم و مطمئن ہیں۔ ان کی حالت کو دیکھ لیا جائے کہ وہ مصائب و حادث میں کیسے مستقل و صابر و شاکر رہتے ہیں۔ غرض صحیح عقیدہ کو ازالہ غم میں بڑا دخل ہے۔

## محل مصائب

مگر ازالہ سے مراد تسلیل و تخفیف ہے اور یہی مطلوب ہے زوال کلی مراد نہیں۔ کیونکہ طبع غم کا زوال مقصود نہیں بلکہ اس کی خفت مطلوب ہے۔ ہاں اس خفت کے لئے لازم یا مشل لازم کے زوال ہے اور مشل لازم اس لئے کہا کہ بعض ضعیف طبائع کو عمر بھی خفیف ساغم یا کلفت رہتی ہے مگر اس کا ازالہ خود مطلوب ہی نہیں کیونکہ اس سے زیادہ اذیت نہیں ہوتی اور تھوڑی بہت کلفت تو کھانے میں بھی ہوتی ہے چنانچہ ظاہر ہے۔ خصوص آرام طلب لوگوں کو تو منہ میں لقمہ لے جانا ہی گراں ہے۔

چنانچہ واحد علی شاہ کے زمانہ کے احديوں کو چھاتی پر رکھا ہوا بیر بھی منہ میں ڈالنا دشوار تھا۔ وہ اس کام کے لئے راستہ میں چلتے ہوئے سواروں کو پکارتے تھے کہ ذرا یہ بیر سینہ پر سے اٹھا کر ہمارے منہ میں ڈال دو۔ مگر کیا ان احمقوں کی رائے کو کوئی معتبر کہے گا اور رکھانے پینے کو مصیبت یا دشوار کہے گا ہرگز نہیں چنانچہ قرآن میں بھی جوع کو تو مصائب میں شارکیا گیا ہے۔ اکل کو مصیبت نہیں کہا گیا۔

یہ تقریر تو اس تقدیر پر تھی کہ یہ مدد قلبہ کے لئے مفعول مقدر کیا جائے اور یہ بھی احتمال ہے کہ مقطوع عن المفعول ہوا اور معنی یہ ہوا۔

من يؤمن بالله يحصل له الهدایة ای الوصول الى المطلوب  
کہ جس شخص کے عقائد صحیح ہوں اس کے ول کو ہدایت ہو جاتی ہے یعنی وہ ان مصائب و حوادث کے حکم و اسرار سے باخبر ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو مصیبت مصیبت نہیں رہتی کیونکہ کوئی مصیبت اپنی ذات سے مصیبت نہیں بلکہ محل کے اعتبار سے مصیبت ہے۔ ممکن ہے کہ جو چیز ایک محل میں مصیبت ہو دوسرا محل میں مصیبت نہ ہو۔

چنانچہ قطع جلد تدرست کے لئے مصیبت ہے مگر مریض محتاج اپریشن کے لئے صحت ہے فاقہ تدرست کو مصیبت ہے اور مریض بد نصیبی کے لئے راحت و صحت ہے وعلیٰ ہذا۔

اسی طرح یہ حوادث النفس و اموال و اولاد وغیر عارف کے لئے مصائب ہیں مگر عارف کے لئے جو حکم تکوینیہ کو سمجھتا ہے مصائب نہیں۔ بہر حال صحیح عقائد و اعمال کو تخفیف و ازالہ غم میں بڑا دخل ہے۔ اس لئے میرا ارادہ ہوا کہ اسی کو بیان کرو اور اس کے بعد بھی اگر کچھ غم رہے تو یہ نہ کہا جائے کہ علاج سے شفا کو تخلف ہوا۔ ہرگز نہیں غم میں خفت ضرور ہوگی اور یہی مطلوب ہے زوال نہیں۔

## محل غم

یہاں سے میں تصوف کا بھی ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اخلاقِ رذیلہ کا جو مجاہدہ سے علاج کیا جاتا ہے اس سے بھی تخفیف ہی مقصود ہے یعنی انسان کا ایسا تقاضا نہیں رہتا جو مفہومی الی المعصیت ہو جائے زوال مقصود نہیں کہ مطلب داعیہ و اثر ہی نہ رہے۔ پس مجاہدہ کے بعد اگر رذیلہ کا اثر خفیف باقی رہے تو اس سے بدولت نہ ہوں اور اس کو مجاہدہ کی ناکامی نہ سمجھیں کیونکہ تمام رذائل طبی ہیں اور ان میں فی نفسہ نہ موم کوئی نہیں بلکہ بوجہ افشاء الی المعصیت کے نہ موم لغیرہ ہو جاتے ہیں۔

اور اگر کسی میں خلقِ رذیل م موجود ہو مگر اس سے معصیت صادر نہ ہو تو وہ خلقِ رذیل ہی نہیں۔ نہ اس کے بقاء سے غم ہونا چاہئے۔ یہ بات تصوف کے متعلق درمیان میں یاد آگئی تھی اس لئے اس کو حل کر دیا گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ خفیف غم کا عمر بھر باقی رہنا بھی مفہوم نہیں کیونکہ غم مطلقاً مضر نہیں ہے اگر غم فی نفسہ نہ موم یا مضر ہوتا تو حضرات انبیاء علیہم السلام کے لئے غم تجویز نہ ہوتا۔ حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے غم تجویز ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لئے غم تجویز ہوا۔ پس غم کوئی فی نفسہ مضر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ افھا ایلی اخلال الدین کی وجہ سے مضر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ غم سے دنیا کا ضرر بہت ہوتا ہے۔ جیسے ضعف یا مرض وغیرہ تو میں اسی لئے ازالہ غم کا طریقہ بتلانا چاہتا ہوں۔ اور میں اسی آیت سے یہ بھی ثابت کروں گا کہ غم فی نفسہ مضر نہیں۔ ہاں اس کا التزام ضروری ہے کہ انسان خود اپنے لئے غم کو تجویز نہ کرے۔

صاحبِ عقائدِ اسلامیہ میں سے ہر عقیدہ کو ازالہ غم میں بڑا دخل ہے اور اس کی لم اور وجہ بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ بلکہ اسلام کا بالخاصہ یہی اثر ہے کہ اس سے سکون واطمینان حاصل ہوتا ہے۔

## برکات اسلام

اطباء جانتے ہیں کہ بعض اشیاء مفید بالکلیفیت ہیں اور ان کے افادہ کی لم بیان ہو سکتی ہے اور بعض مفید بالخاصہ ہیں جن کے افادہ کی لم بیان نہیں ہو سکتی۔ مثلاً مقناطیس و قوت کہ بالخصوص میں جو فوائد ہیں وہ سب بالخاصہ ہیں۔ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ مقناطیس لوہے کو کیوں جذب کرتا ہے اور زلزلہ آنے سے کچھ پہلے مقناطیس کی یہ قوت کیوں زائل ہو جاتی ہے۔ آخر اس کی کیا لم ہے۔ نیز اس کی کیا وجہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے گدگدی کیوں نہیں اٹھتی و دسرے ہی کے ہاتھ سے

انھتی ہے۔ عربی میں گدگدی کو دغدغہ کہتے ہیں شاید اسی کو بگاڑ کر گدگدی بنایا گیا ہو۔ غرض ثابت ہوا کہ بعض اشیاء موثر بالخاصہ ہیں۔ اس لئے ان کے لمکی وجہ بیان نہیں ہو سکتی۔

میرا خیال تو یہ ہے کہ ہر دواموثر بالخاصہ ہی ہے۔ کیفیت کا نام ہی نام ہے کیونکہ مثلاً بخشش کے مزاج کی کیفیت جو ہے یعنی جس درجہ میں اس کی حرارت و یوست ہے۔ اسی درجہ کی حرارت یا بس دوائیں بہت ہیں۔ مگر وہ زکام میں گل بخشش کی طرح نفع نہیں کرتیں۔ اور ہم جیسے طالب علموں کو طب میں مہارت نہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے عقل تو دی ہے۔ اس لئے وہ طب کے بعض مسائل میں عقلی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور خیر! طب کے متعلق کوئی میرا قول مانے یا نہ مانے لیکن عقائد اعمال شرعیہ کے متعلق تو میں یہی کہوں گا کہ سب مفید بالخاصہ ہیں۔ اور میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں اور کیوں نہ قسم کھاؤں۔ اول تو مجھے اس کا مشاہدہ ہے اور مشاہدہ بھی نہ ہو تو حق تعالیٰ کا ارشاد کافی ہے۔

آلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ (جان لو کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے) (پ ۱۳) وَمَنْ يُؤْمِنْ مَ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ (پ ۲۸) (اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو) (عبرا و رضا کی راہ و کھاتا ہے)

میں نے ایک اخبار میں ابھی ایک حکایت دیکھی ہے کہ امریکہ میں یا اور کہیں ایک بہت بڑا انگریز مسلمان ہوا ہے جو بڑے درجہ کا اور بڑا مالدار آدمی ہے۔ وہ سینما کمپنی میں افسر تھا جس میں بائیکسکوپ اور فوٹوگراف کو ملا کر تماشا کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے اسلام کا قصہ یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ہم کو یہ خیال ہوا کہ مسلمان کی اذان کا تماشا کیا جائے اور اذان کی آواز کو بند کر کے موزن کا فوٹو لیا جائے۔ چنانچہ اس غرض کے لئے ہم نے ایک عربی موزن کو بلا یا اور ہم آلات لے کر بیٹھے۔ اس نے اذان دینا شروع کی۔ بس یا تو ہم نے تماشے کے لئے موزن کو بلا یا تھایا خود ہی تماشہ بن گئے۔ یعنی کلمات اذان سے دل پر ایک چوٹ لگی اور میری حالت ہی بدل گئی۔ جب موزن اذان دے چکا تو میں نے اس کو اپنے خاص کمرے میں بلا یا اور تھائی میں اسلام کی تعلیم کو پوچھنا شروع کیا اور اس طرح اسلام قبول کر لیا۔

دیکھئے! حالانکہ اس شخص نے اذان کے کلمات کو سمجھا بھی نہ ہو گا کیونکہ اذان تو انگریزی میں نہیں ہوتی۔ جیسے ایک سرحدی نے کہا تھا کہ اذان پشتو میں ہوتی ہے۔ وہ بے چارہ ہندوستان آیا تھا اردو نہ سمجھتا تھا اور پشتون کوئی نہ یوں تھا۔ اس لئے بڑا پریشان ہوا۔ ایک مدت کے بعد تنگ ہو کر کہنے لگے کہ یہاں کوئی پشتون نہیں جانتا۔ البتہ صرف دو چیزیں پشتون میں ہوتی ہیں۔ ایک تو اذان

پشتو میں ہوتی ہے دوسرے کے پشتو میں بھونکتے ہیں (کیونکہ سرحد اور ہندوستان کی اذان یکساں تھی۔ اور دونوں جگہ کے کے بھی ایک ہی طرح بھونکتے ہیں۔)

تو کوئی ایسا عقلمند ہو تو اس کے نزدیک اذان انگریزی اور پشتو میں ہو سکتی ہے۔ ورنہ اذان تو سب جگہ عربی میں ہوتی ہے اور عربی کو انگریزی کیا سمجھتے خاص کرتا شاکمپنی کا ملازم اور اگر سمجھا بھی ہو تو اذان ایک مختصر کلام ہے جو حفص اعلان نماز کے لئے اسلام میں مقرر کیا گیا ہے نہ اس میں دلائل و برائین نہ کوئی طویل مسئلہ ہے۔

ہاں! اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے ساتھ اسلام کے اصل الاصول توحید و رسالت کا اعلان ہے مگر اسی کا دیکھنے کیسا اثر ہوا۔ پھر جو موذن سینما کمپنی میں اجرت پر اذان دینے آیا ہوگا۔ اس کی معلومات کا حال بھی معلوم ہے ظاہر ہے کہ اس کے معلومات کیا ہوں گے۔ پھر اس اذان میں اخلاق بھی نہ تھا۔ چند پیسوں کے لئے بے محل اذان تھی۔ مگر ایک کافر کو ہدایت کرنے کے لئے اسلام کا اس شان کا ادنیٰ موذن بھی کافی ہے۔ بشرطیکہ مخاطب کی طبیعت میں سلامتی اور انصاف ہو۔ اور اس سے اندازہ سمجھئے کہ زیادہ اور خالص علوم اسلامیہ کی تو کیا شان ہوگی

جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند صاف گر باشد ندام چوں کند

جب مشی ملی ہوئی شراب کا ایک گھونٹ دیوانہ بنادتا ہے تو اگر صاف ہو جائے تو نہ جانے کیا کرے۔ سو وہ نو مسلم انگریز لکھتا ہے کہ مجھے اس موذن سے تعلیمات اسلام کا جو کچھ بھی علم حاصل ہوا۔ اسی سے مجھے اسلام کی طرف میلان شروع ہوا اور بالآخر میں نے اسلام قبول کر لیا۔

اب اسلام کے بعد اس کا کیا حال ہوا۔ وہ لکھتا ہے کہ بس اسلام کی اور برکات کو توبیان کرنا طویل ہے۔ ایک ظاہر اور کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ جو سکون و راحت میرے قلب کو اسلام کے بعد حاصل ہوا ہے یہ بھی حاصل نہ تھا۔ مجھے سکون و راحت کی خواب میں بھی زیارت نہ ہوئی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اب میری یہ حالت ہے کہ تمام دن اکیلا کمرہ میں پزارہتا ہوں۔ اور اسلام کی حلاوت کے مزے لیتا ہوں۔ بس میں ہوں اور خدا کی یاد ہے۔ نہ کسی سے ملنے کی خواہش رہی، نہ سیر و تفریح کی نہ مال کی محبت رہی نہ مکانات و جائیداد کی۔ ہائے! جو شخص عمر بھر لہو لعب میں مشغول رہا۔ اب وفتحا اس کی وہ حالت ہو گئی

خلوت گزیدہ را بتاشا چہ حاجت ست چوں کوئے دوست ہست صحر اچ حاجت

گوشہ میں بیٹھنے والے کو سیر کی کیا ضرورت ہے۔ جب کہ دوست کی گلی میسر ہے۔ جنگل  
جانے کی کیا ضرورت ہے۔

صاحب! دل صاف ہو جائے تو اسی کے اندر ایسی بہار نظر آتی ہے کہ کسی باغ اور تفریح گاہ کی  
طرف التفات نہیں ہوتا۔ مولا نافرماتے ہیں

اے برادر عقل یک دم با خود آر و مبدم در تو خزان ست و بہار

”اے بھائی! تھوڑی دیر عقل سے کام لے۔ ہر وقت تجھ میں بہار و خزان موجود ہے۔“

اور ایک بزرگ فرماتے ہیں

تم است گر بدست کشد کہ بسیر سکن در آ تو زغنجپ کم ند میدہ در دل کشا نجمن در آ  
معشوق کا ظلم اگر تجھے باغ کی سیر پر مجبور کرے تو تو کہہ کہ تو زغنجپ سے کم نہیں ہے۔ دل کا  
دروازہ کھول اور باغ میں آ جا۔“

اور جس کو یہ دولت حاصل ہواں کو کسی تکلیف اور مصیبت کی پرواہ نہیں رہتی۔ بلکہ وہ ہر حال  
میں خوش رہتا ہے کیونکہ اس کو ایک بڑی دولت حاصل ہے جس کے یہ خواص ہیں

ہر کجا یوسف رخ بآشد چو ماہ جنت ست آں گر چہ باشد قعر چا

ہر کجا دلبر بود خرم نشین فوق گردوں ست سے قعر زمین

با تو دوزخ جنت ست اے جا فزا بے تو جنت دوزخ سے اے دل ربا

جس جگہ خوبصورت معشوق ہوتا ہے وہ جگہ باغ ہو جاتی ہے چاہے گہرائی کیوں نہ ہو۔

جس جگہ معشوق ہو خوش بیٹھ جا۔ نہ آسمان کی بلندی کا خیال کر۔ نہ زمین کی گہرائی کا۔ تیرے ساتھ

تکلیف بھی راحت ہے۔ اے دوست اور تیرے بغیر جنت بھی دوزخ ہے اے دوست غرض!

اسلام سے دولت حاصل ہوتی ہے کہ بندہ کو خدا مل جاتا ہے۔ اسی کو مولا نافرماتے ہیں

اتصال بے تکلیف بے قیاس ہست رب الناس رابا جان ناس

لوگوں کی جان کیساتھ اللہ تعالیٰ کا شامل ہونا بغیر و میافت کے (جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا) بے انہا ہے۔

### اثر اسلام

اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جاہل صوفیا کی طرح یوں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں  
سما جائے گا اور نعوذ باللہ! وہ انسان کے دل میں اتر جائے گا۔ اور جہلاء صوفیہ نے اس دعویٰ پر آیت وَ فُنْ

اَنْفِسُكُمْ طَ اَفَلَا تُبْصِرُونَ (پ ۲۶) سے استدلال کیا ہے جس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ خدا تمہارے اندر ہے پھر کیا دیکھتے نہیں ہو مگر یہ استدلال و ترجمہ غلط مختص ہے کیونکہ و فی انصاف کم معطوف ہے و فی الارض پر جو آیت سابقہ میں ہے و فی الْأَرْضِ إِيَّٰتُ لِلّٰهِ مُؤْقَنِينَ۔ اور یہ معنی ہوئے کہ زمین میں الہ یقین کے واسطے نشانیاں ہیں اور تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں پھر کیا دیکھتے نہیں ہو۔

غرض میرا وہ مطلب نہیں جوان جاہلوں کا ہے بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے بندہ کو خاص تعلق ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ کو بندہ سے خاص تعلق قرب و رضا کا ہو جاتا ہے جس کی کیفیت اور حالت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور قرب کا ثبوت نصوص میں موجود ہے۔

**وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** (پ ۲۶)

(اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ)

**وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.** (پ ۲۷)

(اور ہم اس وقت (اس منیوالے) شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں)

(اور یہ شخص قرب علمی نہیں ہے کیونکہ وہ قرب مبصر نہیں جس کی مخاطب سے نفع کی گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی دوسرا قرب ہے جو باصار کے متعلق ہو سکتا ہے)

غرض محققین عارفین کو جو اثر اسلام کا مشاہدہ ہوتا ہے وہ اثر اس نو مسلم کو ابھی سے حاصل ہو گیا۔ اور یوں دیکھا گیا ہے کہ نو مسلموں کو اسلام کا اثر زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے۔

گونعت ہمارے اوپر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پشت ہاپشت سے ہم کو مسلمان کیا ہے۔ کیونکہ اسلام سے زیادہ مناسبت ہم کو ہی ہے۔ نو مسلم کو مناسبت دیر میں حاصل ہو گی۔ مگر اس کے اثر کا مشاہدہ نو مسلم کو ہم سے زیادہ ہو گا۔

بھائی کے یہاں ایک کارندہ تھے حاجی عبد الرحیم! جن کا اب انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جب شروع شروع اسلام لائے ہوئے تھے کہ ابھی تک اس کا اظہار بھی کسی پر نہ کیا تھا۔ اور اس وقت چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت کی نماز میں جو لطف آتا تھا وہ لطف پھر نہیں آیا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت دولت نئی نئی ملی تھی اس لئے زیادہ لطف تھا (جیسے ذا کرین کو ابتدائے سلوک وابتدائے ذکر میں بہت ذوق و شوق و لذت و کیفیت حاصل ہوئی ہے۔ بعد میں یہ بات نہیں رہتی کہ ذکر سے مناسبت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح نکاح میں اول اول بڑی لذت آتی ہے جو بعد

میں نہیں آتی۔ مگر مناسبت بعد ہی میں بڑھتی ہے اور ابتداء میں گونہ اختیت ہوتی ہے۔

پس وہ انگریز لکھتا ہے کہ حقانیت اسلام کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس سے اطمینان کامل و سکون و راحت دل حاصل ہوتی ہے۔ اسلام کے برابر کسی چیز میں دل کی راحت اور سکون و چیزوں نہیں۔

میرا مقصود تو اس حکایت ہی سے حاصل ہو گیا کیونکہ مجھے اس وقت یہی بیان کرتا تھا کہ ازالہ غم کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام کو کامل کرو۔ اس طرح کہ عقائد شرعیہ کو متاخر رکھو اور احکام شرعیہ کی پابندی کر کے دیکھو۔ ان شاء اللہ راحت سے رہو گے۔ لیکن باوجود مقصود حاصل ہو جانے کے اس وقت میں ذرا تفصیل سے اس مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ اور غرض اوپر معلوم ہو چکی ہے۔ پہلے میں آیت کا ترجمہ کر دوں پھر مقصود کی تقریر کروں گا۔

## کیفیت ایمان

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے سلطنت آسمان وزمین کی، وہی زندہ کرتے ہیں وہی مارتے ہیں اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ رہا یہ کہ اس کو ما قبل سے ربط و تعلق کیا ہے۔ سو بظاہر اس کا ربط ما قبل سے غامض ہے کیونکہ اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ مذکور ہے۔

**مَا كَانَ أَسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لَا يُهِ لَا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ طَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَا وَاهَ حَلِيلُمْ (ب ۱)**

کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لئے استغفار کرنا صرف ایک وعدہ کی بنا پر تھا جو اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے (اور کفر ہی پر خاتمہ ہوا ہے) تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بیزاری ظاہر کی اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مشرکین کے لئے استغفار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

ان حضرات انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کو رحمت و شفقت اس قدر تھی کہ اپنے ستانے والوں سے بھی شفقت کا برداشت کرنا چاہتے تھے کہ ان کے لئے استغفار کرنے کو تیار ہو گئے تھے اور اس کا مختاری تھا۔ کہ اس وقت صرف رحمت پر نظر تھی اور اللہ تعالیٰ کی سب حکمتیں پر اس قدر نظر نہ تھی جتنی بعد نزول آیات و احکام کے ہوئی اور اس میں کچھ نقص نہیں کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لذت نفسانی کا مدار ہی اختیت پر ہے۔ ۱۲ جامع۔

علیہ وسلم کے علوم بھی تدریجیاً بڑھتے تھے اور قبل وحی ان کے علوم کی وہ شان نہ تھی جو بعد وحی کے ہوتی۔ چنانچہ خود نص میں ہے وَعَلِمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ (پ ۵) اور ایک مقام پر ارشاد ہے وَقُلْ رَبُّ زَوْلِي عَلَمًا اور ایک جگہ تو ایسا ارشاد ہے کہ اس کو تو ہم لوگ زبان سے بھی نہ کہہ سکتے تھے۔

### هَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ (پ ۲۵)

کہ آپ کو وحی سے پہلے کچھ خبر نہ تھی کہ کتاب کیسی ہوتی ہے اور ایمان کے کہتے ہیں اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ نعوذ باللہ قبل از وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوعن الايمان لازم آتا ہے ہرگز نہیں۔ کیونکہ آیت میں صرف علم و خبر کی نفی کی گئی ہے وجود ایمان کی نفی نہیں کی گئی۔ اور عدم علم متلزم عدم وجود کو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک چیز ہو مگر اس کی اس کو خبر نہ ہو کہ میرے پاس یہ چیز ہے۔ جیسے ایک شخص کو جس نے جواہرات کبھی نہیں دیکھے تھے ہیرا یا قوت کہیں سے مل جائے تو یہ بات صادق ہے کہ اسکے پاس ہیرا یا قوت ہے مگر اس کو خبر نہیں۔

اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام میں وہ کیفیت نبوت سے پہلے بھی موجود ہوتی ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے مگر نبوت سے پہلے خبر نہیں ہوتی کہ اس کیفیت کا نام ایمان ہے۔ بعد نبوت کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیفیت تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ غرض نبوت وحی سے پہلے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو بعض امور کا علم نہ ہوتا۔ پھر وحی سے علم حاصل ہونا نقش نہیں۔ بلکہ عین کمال ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر کیا کمال ہو گا کہ آپ کے علوم بلا واسطہ حق تعالیٰ کی وحی سے ماخوذ ہیں۔ عقل و قیاس یا تعلیم بشر پر ان کی بنیاد نہیں۔ مگر جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ال بنا نا چاہتے ہیں وہ اس بات کے ماننے کو تیار نہ ہوں گے لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ تم اگر حضور کو والہ بناوے گے تو والہ ناقص بناوے گے۔ اور ہم آپ کو انسان کہتے ہیں۔ مگر انسان کامل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشرطو ہیں۔ مگر ایسے جیسے ایک بزرگ نے کہا ہے۔

### بَشَرٌ لَا كَالِبٌ شُوَبٌ هُوَ كَالِبٌ أَقْوَتٌ بَيْنَ الْحَجَرِ

یعنی آپ بشرطو ہیں مگر اور آدمیوں کی طرح نہیں بلکہ ایسے ہیں جیسے پھر وہ میں یا قوت۔ پھر تو ہے مگر ایسا پھر جس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پھر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسراے انسانوں کے ساتھ نوع یا جنس میں تو اشتراک ہے مگر صنف ایسی ممتاز ہے کہ کسی کو دھوکا ہو سکتا ہے کہ آپ بشرطیں پکھا اور ہیں اسی لئے بعض مغلوب الحشق ایسی باتیں کہہ گئے

ہیں جو شان بشریت سے ارفع ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے

بمقام میکہ نشان کف پائے تو بود سالہا سجدہ صاحب نظر ان خواہد بود  
”جس مقام پر آپ کے پائے مبارک کا نشان ہو۔ برسوں صاحب نظر لوگوں کا سجدہ ہو گا۔“

## بے نظر و بے مثال انسان

مگر ایک بات سمجھ لینا چاہئے کہ سجدہ علی القدم اور سجدہ للقدم میں فرق ہے یعنی کسی جگہ پر اس لئے نماز پڑھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی ہے یہ سجدہ علی القدم ہے یہ حرام نہیں بلکہ اتنا عست ہے اور سجدہ للقدم یہ ہے کہ آپ کا قدم یہاں پڑا ہے اس لئے اس جگہ کو سجدہ کرو۔ یہ حرام ہے مگر یہ شاعر غلبہ عشق میں کہہ رہا ہے اس لئے تکفیر نہ کی جائے (نیز چونکہ اس کے کلام میں سجدہ علی القدم ہونے کا بھی احتمال ہے گو بعید کہی اسلئے تکفیر سے احتیاط لازم ہے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کی مثل ہونا نصوص میں مصرح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہی ہے اکیم مثلی۔ مگر قرآن میں بھی اس مضمون کو دوسرے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

**يَسَاءَ النَّبِيَّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ (ب ۲۲)**

کہ اے ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔  
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق ارشاد ہے اور ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات کی یہ شان محض اس وجہ سے ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی بشر نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شان امتیازی سے بعض لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے اور وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔

اور آیت **يَسَاءَ النَّبِيَّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ الْقَيْمَنَ** (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یوم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقویٰ اختیار کرو) پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ آیت عَسْنِي رَبَّهِ إِنْ طَلَقْتُنَّ أَنْ يُبَدِّلَةَ أَرْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ قِنْتَبَتِ (آلیت)  
(اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم عورتوں کو طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بد لے ان کو تم سے اچھی بی بیاں دے دے گا جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، فرنبرداری کرنے والیاں،  
تو بہ کرنے والیاں، عبادات کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں کچھ یوہ اور کچھ کنواریاں)

اس کے معارض ہے کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کی مثل بلکہ ان سے بہتر دوسری عورتیں ہو سکتی ہیں۔ جسمی تو یہ ارشاد فرمایا گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق

دیدیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمہارے بدلہ میں تم سے بہتر عورتیں دیدیں گے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی فضیلت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنے ہی کی وجہ سے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیتے اور دوسری بیویوں سے نکاح کر لیتے تو آپ کے نکاح کی وجہ سے اب وہ ان سے افضل ہو جاتیں۔ بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بے نظیر و بے مثال ہونا حدیث و قرآن دونوں سے ثابت ہے۔ مگر اس میں اتنا غلوت کرو کہ حضور گواہ کہو بلکہ عبد کامل کہو۔

### حدودِ عشق

یہاں سے میں اس مسئلہ پر بھی تنبیہ کرتا ہوں کہ عشق کی تمنا نہ کرو وہاں محبت کی تمنا کرو۔ کیونکہ عشق میں حدود کی رعایت فوت ہو جاتی ہے۔ عاشق کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلوکیا ہے۔ وہ اہل عشق ہی تھے۔

عاشق کی زبان کے بے قابو ہو جانے پر ایک حکایت یاد آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ایک پرندہ نے مادہ سے کہا کہ اگر تو میرا جوڑا بن جائے تو میں تمہیں سلطنت سلیمان دے دوں گا۔ حضرت سلیمان نے سن لیا اور وہ منطق المطیر کے عالم تھے۔ اس لئے مطلب بھی سمجھ لیا۔ فوراً بلا یا اور فرمایا اور گستاخ! یہ کیا بد تیزی تھی؟ اس نے کہا حضور میں عاشق ہوں اور عاشق کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے وہ عشق میں جو چاہے بکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جواب پر نہیں پڑے اور اس کو چھوڑ دیا۔

اسی طرح امید ہے کہ عشاوق کو رب سلیمان بھی چھوڑ دے گا۔ اس لئے تم ان کو برانہ کہو۔ ہاں! ان کی تقلید بھی نہ کرو۔ نہ ان کی حالت کی تمنا کرو۔ یہ گفتگو اس پر چلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں وحی سے ترقی ہوئی اس لئے بعض اوقات صرف ایک پہلو پر نظر ہوئی جو داعی ہو گیا استغفار للہ مشرکین کی طرف اور وہ نازل ہونے سے دوسرے پہلو کی خبر ہوئی۔

### قدر نعمت

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو تدریس کیوں کامل کیا۔ ایک دم سے کامل کیوں نہ کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں کہ سب علوم ایک دم سے عطا فرماؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد بھی کامل تھی۔ پھر تا خیر کیوں ہوئی؟

اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی حکمت ہوگی جو ہم کو معلوم نہیں دوسرا جواب اپنے ایک واقعہ کو بیان کر کے دوں گا۔ ایک دفعہ مجھے طریقے کے متعلق کچھ پریشانی پیش آئی اور اس وقت یہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم کو اسی وقت وصال عطا فرمادیں۔ ایک مقدمہ اثبات قدرت ہوا۔ اور ان کو ہماری طلب کا حال بھی معلوم ہے خواہ ناقص ہو یا کامل مگر طلب تو ہمارے اندر ہے ہی۔ یہ دوسری تیر مقدمہ ہوا۔ اثبات طلب۔ پھر وصال میں تاخیر کیوں ہے۔ اس خیال کے بعد میں نے مثنوی بطور فال کے کھوی (میرا یہ عقیدہ نہیں کہ مولانا آکر ورق کھوں جاتے ہیں۔ بلکہ محض برکت و تسلی کے لئے اس سے فال لینے لگا۔ اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ کوئی تسلی بخش جواب ظاہر فرمادیں) تو سر ورق ہی پر یہ اشعار نکلے جن میں بعضہ میرا سوال بھی مذکور تھا اور اس کا جواب بھی مسطور تھا فرماتے ہیں۔

یہ گویا حق تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے کہ ہم تمہاری آہ سردن رہے ہیں اور مجھے تمہارے درد و طلب کی بھی خبر ہے۔ اس میں اپنے علم کو اور ہماری طلب کو تسلیم کر کے وہ مقدموں کو مان لیا گیا کہ یہ مقدمات صحیح ہیں۔

می تو انہم من کہ بے ایں انتظار  
رہ نہایم واد، ہم رہ گذار

”میں ایسا کر سکتا ہوں کہ بغیر اس انتظار کے راستہ بتاؤں اور گزرنے والا راستہ کھول دوں“

اس میں تیسرے مقدمہ کو تسلیم کر لیا گیا کہ یہ بھی صحیح ہے کہ میں اس پر قادر ہوں کہ بدلوں تاخیر کے اسی وقت تم کو وصال سے سرفراز کر دوں۔

تازیں طوفان دوراں وارہی  
برسر گنج و صالم پانجی  
تاکہ زمانے کے اس طوفان سے تو چھوٹ جائے اور میری ملاقات کے خزانہ پر تقدیر کھے۔  
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سب مقدمات تو صحیح ہیں لیکن ایک مقدمہ اور بھی اس کے  
سامنے ملا۔ جو تمہاری نظر سے مخفی رہ گیا ہے وہ کیا

لیک شیرینی و لذات مقرر ہست براندازہ رنج سفر  
آنگہ از فرزند و خویشاں برخوری کز غریبی رنج و زحمت ہابری  
”لیکن آرام اور خوشی آدمی کو سفر کی تکلیف کے اندازہ سے معلوم ہوتی ہے اس وقت اولاد  
اور اقارب اچھے معلوم ہوتے ہیں جب کہ مسافرت میں رنج و تکلیف اٹھاتے ہو۔“

اس مقدمہ کا حاصل اثبات حکمت ہے یعنی حکمت کا مقتضای یہی ہے کہ مقصود جلدی عطا نہ کیا جائے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مستقر پر پہنچنے کی قدر زیادہ اس کو ہوتی ہے جس کو سفر میں تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ اسی کو گھر پہنچنے کی لذت کا زیادہ احساس ہوتا ہے اور جس کو سفر میں کلفت ہی نہ ہوتی ہو۔ اس کو گھر اور باہر دونوں یکساں ہوں گے تو وہ وصولِ المستقر کی قدر نہ کرے گا کیونکہ

ہر کہ او ارزانِ خرد ارزانِ دہد گو ہرے طفے بقرض ناں و بد

جو شخص اس سے ستارخیدنا چاہے وہ ستارخیدتا ہے اولادِ جسمی نایاب چیز ایک روئی کے بد لے دیدتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ بعض عورتیں اولاد سے گھبرا کر کہتی ہیں کہ اے اللہ! کیا سارے بچے میرے ہی واسطے پھٹ پڑے۔ اے اللہ! بس اب بند کر دے اور جس کے اولاد نہیں ہوئی وہ کہتی ہے کہ چاہے چو ہے کا بچہ ہی ہو جائے یا ہو کرفور آہی مر جائے مگر میرا نام ہو جائے۔ کہ ہاں اس کے بھی اولاد ہوئی تھی۔ جس کے اولاد نہ ہوتی ہو اس کو تمنا کے بعد بچہ مل جائے تو اس کی بڑی قدر کرتی ہے چاہے کیسا ہی برا ہو۔ کانپور میں ایک عورت کا بچہ ایسا کالا تھا جیسے جبشی۔ مگر اس سے اس قدر محبت تھی کہ کھلاتے ہوئے یوں کہتی تھی کہ ماشاء اللہ ایسا ہے جیسا چیز نہ اس کی سیاہی ایسی محبوب تھی کہ اس کو نظر لگ جانے کے ذر سے ماشاء اللہ! کہا کرتی تھی۔ ایک شاعر اپنے محبوب کی تعریف میں جس کے بدن پر پہنچا ہوا کرتا تھا کہتا ہے

لا تعجبوا من بلى غلالته قد زرا از راده على القمر

اسی طرح ایک شاعر کے معشوق کے چہرہ پر چمپ کے سیاہ سیاہ داغ تھے لوگوں نے ملامت کی کہ اس سے محبت کیسی؟ تو وہ اس کی تعریف میں لکھتا ہے

شربت قذست دردے تخم ریحان رینختہ کھانڈ کا شربت ہے جس میں تخم ریحان چھڑ کا ہوا ہے۔

## ظهورِ حکمت

غرض میں یہ کہ رہا تھا کہ قدر اسی نعمت کی ہوتی ہے جو مشقت سے ملے تو حکمت اسی میں ہے کہ سب علوم و حکم ایک دم سے عطا نہ ہوں۔ بلکہ مدد ریجنا عطا کئے جائیں۔ یہ جواب تھا میرے سوال کا جو منشوی سے لکلا۔ اور گویہ جواب پہلے جواب کے قریب ہی ہے مگر اتنا فرق ہے کہ پہلے جواب میں کسی حکمت کا علیٰ تعین ذکر نہ تھا۔ اس میں حکمت معینہ کا ذکر بھی ہے۔ اب چاہے یہی حکمت ہو یا اور حکمتیں ہوں حکمت کا مقتضای یہی ہے کہ علوم میں شیئاً فشیئاً تزايد ہوا کرے۔

بہر حال صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اول رحمت پر تھی حکمت پر نظر نہ تھی اس لئے آپ

نے اور صحابہ نے مشرکین کے لئے استغفار کیا جب اس سے ممانعت نازل ہوئی تو حکمت پر نظر ہوئی۔ اور تزاید علوم تدریسجا میں ایک اور حکمت میری سمجھ میں بھی آئی ہے۔ وہ یہ کہ اگر آپ کے علوم تدریسجا متزاں نہ ہوتے بلکہ شروع ہی سے رحمت و حکمت دنوں پر نظر ہوتی تو آپ کی شفقت و رحمت کا اس درجہ ظہور نہ ہوتا جیسا کہ اب ہوا کیونکہ اس حالت میں آپ کفار کے ساتھ رحمت و شفقت اس درجہ نہ فرماتے کہ ان کی بدحالی پر رنج و فسوس کرتے۔ حالانکہ اس میں بھی حکمت تھی کہ آپ کی اس شفقت و رحمت بے انہما کا ظہور ہو۔ کیونکہ اس سے بہت سے کفار پر توبیا شہر ہوا کہ ہم کو آپ سے بہت امیدیں ہو گئیں کہ

دوستاں را کچا کنی محروم تو کہ پادشمنا نظر داری

”دوستوں کو تو کیوں محروم کرے گا جب کہ تو دشمنوں پر مہربانی فرماتا ہے۔“

ان حکمتوں کا ظہورِ جسمی تو ہوا کہ آپ کے علوم میں تزایدِ مدرسی ہوا ورنہ واقعاتِ شفقت و رحمت کا اس شان سے ظہور نہ ہوتا۔ اسی لئے ملا دوپیازہ نے اپنے آل نامہ میں کہا ہے الرسول خیر خواہ دشمناں۔ واقعی صح کہا۔ رسول کی تبھی شان ہوتی ہے کہ وہ دشمنوں سے بھی خیر خواہی کرتے ہیں اور تبھی راز ہے زلات انبیاء کا کہ اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں جن میں بڑی حکمت یہی ہے کہ ان سے تزايدِ علوم مدرسی ہوتا ہے۔ سو حضرات انبیاء علیہم السلام کے لیے زلات موجبِ تنزل نہیں ہوتیں۔ بلکہ رُتقی کا سبب ہوتی ہیں۔

ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زلت میں ترقی معرفت تھی کیونکہ اب تک آپ نے بعض صفات جمال ہی کا مشاہدہ کیا تھا۔ صفت جلال کا جیسے فتنم اور بعض صفات جمال کا جیسے تواب کا مشاہدہ اس زلت کے بعد ہی ہوا اور یہی ترقی ہے کہ جن صفات الہیہ کا مشاہدہ پہلے نہ تھا اب ہو گیا۔ غرض حکمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے بطور نہ مومن کے اس وقت چند باتیں بتلا دی ہیں۔

مشابہت ملت ابر ہیمیں

اب یہاں ایک اور سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ تو مسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں تزاید تدریجی ہوا اور ابتداء میں آپ کی نظر رحمت پر تھی۔ لیکن رحمت کا ظہور اس صورت سے کیوں ہوا کہ اقرباء مشرکین کے لئے آپ نے دعا فرمائی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال بے جا ہے کیونکہ جس صورت سے بھی ظہور ہوتا ہے۔ اس میں یہی سوال ہو سکتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ ایسی صورت سے ظہور ہونا چاہئے تھا۔ جس میں ممانعت نہ ہوتی کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اس صورت ہی میں کیا حرج ہوا۔ یہ فعل بعد ممانعت ہی کے تو ممنوع ہوا۔ اس سے یہی تو مباح تھا۔ پھر فعل مباح میں کیا حرج ہوا۔

پس یہ سوال گوبے جا ہے۔ مگر میں تم بھی اس کی حکمت بھی بتلائے دیتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ملتی جلتی ہے۔ اس لئے درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کما صلیت علی ابراہیم ولیٰ آل ابراہیم جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء سابقین میں درجہ صلوٰۃ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے لئے عطا ہوا ہے ورنہ سلام تو سب انبیاء پر ہوا ہے۔

سَلَمٌ عَلَى مُوسَى وَ هَرُونَ (حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر سلام ہو) (پ ۲۳) سَلَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ۵ (حضرت نوح علیہ السلام پر سلام ہو عالم والوں) (پ ۲۳) سَلَمٌ عَلَى إِلَيْيَاسَيْنَ (پ ۲۳) (آل یا میں پر سلام ہو)

اور اسی مشابہت شانیں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ملت ابراہیمیہ سے بہت مشابہت ہے۔ اسی لئے اتباع ملت ابراہیم کا آپ کو امر ہوا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لئے استغفار کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اس سنت کا اتباع فرمایا۔ رہایہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر تو تبری فرمادی تھی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کو اس تبری کی اطلاع وقت استغفار کے نہ تھی۔ اس اطلاع کے بعد پھر آپ نے استغفار نہیں فرمایا۔ اور قبل اس اطلاع کے آپ نے بعض اقرباً مشرکین کے لئے اقتداء با ابراہیم علیہ السلام استغفار فرمایا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے درمیان میں اس شبہ کو دفعہ دخل کے طور پر رفع فرمایا:

وَمَا كَانَ أَسْتَغْفِرُ أَبْرَاهِيمَ لَا يَبْدِي إِلَّا عَنْ مُؤْعَدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ طَإِنَّ أَبْرَاهِيمَ لَأَوْاَهَ حَلِيلِهِمْ (پ ۱)

کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لئے استغفار فرماتا بوجہ وعدہ کے تھا کہ وہ باپ سے وعدہ کر چکے تھے وہ رقیق القلب بہت تھا اس کے بعد ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلِّ قَوْمًا مَّا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُسِّيَّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ (پ ۱)

کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان کے لئے مانتکون کو بیان نہ کر دے۔ اس پر یہ شبہ نہ ہو کہ حفیہ کے یہاں تو توحید بدوس ارسال رسول کے بھی واجب ہے اور اس کے ترک سے ضلال و عذاب کا وقوع ہو گا۔

جواب یہ ہے کہ یہاں پر تبیین فرمایا ہے یو جی تو نہیں فرمایا اور بیان ارسال رسول پر موقوف نہیں عقل سے بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے متعلق بعض فروع ہیں مثلاً یہ کہ کسی شخص کی عقل کامل نہ

ہوا اور وہ مجنون و معمتوہ بھی نہیں لیکن اس کی عقل تہا بدوں رسول کے تو حید کے پہچانے کو کافی نہیں اس کو عذاب ہو گا یا نہیں۔ اس میں اختلاف ہے۔

بعض اس طرف، گئے ہیں کہ ایسے شخص کو عذاب نہ ہو گا۔ گودہ عاقل ہے مگر قلت عقل کی وجہ سے معدود ہے اور بعض نے کہا ہے کہ عذاب ہو گا۔ اور یہ مسئلہ وَمَا أَنْتَ مُعَذِّبٌ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا (پ ۱۵) کے معارض نہیں کیونکہ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ اس میں عذاب دنیا مراد ہے اور گفتگو عذاب آخرت میں ہے گریہ جواب ضعیف ہے کیونکہ غیر عذاب دنیا بر جہا اولیٰ مستلزم ہے غیر عذاب آخرت کو کیونکہ عذاب دنیا اہون ہے جب بدوس بعثت رسول کے عذاب دنیا نہیں ہوتا تو عذاب آخرت اولیٰ نہ ہو گا اور جواب ثانی یہ ہے کہ یہاں رسول عامل ہے عقل کو بھی اور پیغمبر کو بھی۔ یہ اس مسئلہ کے چند فروع ہیں ان کے علاوہ اور بھی فروع ہیں مگر میں نے اجمالاً اشارہ کر دیا ہے۔

## غلوٰۃ التقویٰ

اب قابل غور یہ امر ہے کہ اس آیت کو پہلی آیت سے کیا ربط ہے۔ بظاہر کچھ ربط نہیں معلوم ہوتا۔ اور میں نے دیر تک غور کیا کچھ سمجھہ میں نہ آیا۔ تو اپنی تفسیر دیکھی اس میں عجیب ربط بیان کیا ہے۔ تفسیر لکھنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی امداد فرمائی تھی کہ عجیب و غریب علوم قلب پر فائز ہوئے تھے۔ تو وہاں یہ ربط لکھا ہے کہ اوپر کی آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک خطرہ وارد ہو سکتا تھا کہ شاید استغفار سابق کی وجہ سے ہم سے معصیت کا صدور ہو گیا ہو ہر چند کہ اس سے پہلے استغفار للمشرک منی عنہ نہ تھا۔ مگر بعد نزول نبی کے یہ وسوسہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ پہلے ہی سے قبیح لغیرہ ہوا اور صدور قبیح سے خطرہ الازم ہے مگر اس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم پر خوف و خشیت کا غالبہ نہیں ہے جن پر خشیت کا غالبہ ہے ان کی یہ حالت ہے کہ ہمارے ایک دوست صادق ایقین صاحب مرحوم کہتے تھے کہ مجھے ذر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یوں نہ فرمائیں کہ تو اتنا زیادہ متمنی کیوں تھا۔ اور لوگ تو قلت تقویٰ سے ذرتے ہیں ان کو زیادت تقویٰ سے خطرہ تھا۔ اس کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔

**مگر باتیں افسوسی ہیں کیونکہ شریعت میں ہر شکری حد ہے تقویٰ کی بھی ایک حد ہے اس طبق اس حد ہے**

۱۔ قلت واکمل الاحوال ما کان علیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم و كذلك الانباء كانت لهم ازواج وذریة و دعا ابراہیم وزکریا علیہما السلام ان یولد لہما واستجبیا و عیسیٰ علیہ السلام یو لدله بعد النزول وفي الحديث تزویج وجو الودود الولود فانی ابا هی بکم الا مم فلنبغی ان یراعی جانت ذلك في الكلام ا۱۲ ااظ.

## حدود خاطر و مدارت

خاطر و مدارت کی بھی ایک حد ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے اپنے مہمان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے کہا نہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے کہا نہیں۔ اس نے بار بار اسی بات کی رٹ لگائی کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے مہمان نے کہا کہ اب تک تو کوئی تکلیف نہ تھی مگر اب ہے واقعی کسی سے ایک ہی بات دس دفعہ کبھی جائے تو وہ گھبرا جائیگا۔

جیسا کہ غدر کے قبل ہمارے قصبه میں ایک مجلس بڑا رہ کے نام سے قصبه کے لڑکوں اور شہروں نے قائم کی تھی جس کا ایک مقصود یہ بھی تھا کہ بستی میں جو واقعات و معاملات کا فیصلہ بھی ہو اکرتا تھا اس مجلس کے بعض عہدیداروں کو میں نے بھی دیکھا ہے کوئی لفڑت گورنر تھا، کوئی کلکٹر تھا، کوئی ڈپٹی کلکٹر، کوئی نجج۔ کوئی صدر اعلیٰ۔ اتفاق سے اسی زمانہ میں قصبه کے اندر باہر سے کوئی میاں جی آگئے جو فارسی اچھی جانتے تھے۔ بستی کے میاں جی کو ان سے خطرہ پیدا ہوا کہ شاید میری جگہ ان کو نہ مل جائے۔ اس نے اس مجلس میں باضابطہ درخواست دی کہ بستی میں ایک نیا میاں جی آگیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اپنی روزی کا خطرہ ہے۔ اس لئے مناسب انتظام کیا جائے۔

چنانچہ یہ مسئلہ کمیٹی میں پیش ہوا اور فیصلہ کرو دیا گیا کہ اس نووار کو شہر سے نکال دیا جائے۔ اور ایک لڑکے کو متعین کیا گیا کہ اس کام کو تم انجام دو۔ چنانچہ اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ آج صبح کو سوریے کھانا پکا دینا۔ میں ایک کام کو جاؤں گا۔

پھر صبح ہی کھانا ساتھ لے کر اس مسجد میں جا پہنچا جہاں وہ میاں جی نماز پڑھتے تھے جب وہ مسجد سے باہر آنے لگے ان کو سلام کیا۔ انہوں پھر جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سلام کیا۔ انہوں نے پھر جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سلام کیا پھر جواب دیدیا۔ اس کے بعد پھر سلام کیا تو میاں جی جھلا گئے کہ یہ کیا الغور کرت ہے۔ اب یہ دل میں خوش ہوئے کہ ہاں بس اب کام مار لیا۔ اس نے کہا۔ حضور! میں سلام ہی تو کر رہا ہوں گا لیا تو نہیں دیتا۔ پھر آپ جھلاتے کیوں ہیں۔ میرے سلام کا جواب دیجئے۔ انہوں نے پھر جواب دیا اور اس نے پھر سلام کیا۔ آخر میاں جی گھبرا کر اپنے جائے قیام میں جانے لگے۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا کہ جاتے کہاں ہو۔ میرے سلام کا جواب دو۔

حافظ صاحب بولے۔ میاں مجھے اپنے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرنا ہے کہا اس سے بے فکر رہئے۔ میرے پاس کھانا بہت ہے دونوں کھالیں گے بس آپ یہیں تشریف رکھیں اور میرے

سلام کا جواب دیتے رہیں۔ دونوں نیک کام میں مشغول رہیں گے۔ غرض سلام ہی سے ان کو پریشان کر دیا۔ اب ان کو سوا اس کے کچھ نہ سو جھا کر اپنا بستر سمیٹ کر قصبه سے چل دیئے۔ تو دیکھنے سلام اچھی چیز ہے اور راحت و خوشی کی چیز ہے مگر جب حد سے بڑھ جائے تو عذاب و کلفت کا سبب ہو جاتا ہے۔

اسی طرح ایک شخص نے ہمزاد کو تابع کیا تھا اس نے اول ہی حاضری میں پوچھا کہ بتلا و کیا کام ہے۔ اس نے ایک کام بتلا دیا۔ اس کو پورا کر کے پھر آموجود ہوا کہ کیا کام ہے۔ اس نے دوسرا کام بتلا دیا۔ اس کو ختم کر کے پھر پوچھا بتلا و کیا کام ہے۔ اگر یہ سویا ہوتا تو جگا کر پوچھا بتلا و کیا کام ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا بلا پچھے لگی۔ مگر تھا ہشیار آدمی! اس نے اپنے مکان کے صحن میں ایک بلی گاڑوی۔ جب کوئی کام نہ ہوتا اور وہ پوچھتا کہ بتلا و کیا کام ہے تو کہہ دیتا اس بانس پر چڑھواور اترو۔ یہ کام کرتے رہو جب تک کہ ہم دوسرا کام بتلا میں۔

تواطاعت کی بھی ایک حد ہے۔ جب اس سے تجاوز ہو جائے تو وہ اطاعت باقی نہیں رہتی۔ اسی کو مولوی صادق الیقین صاحب سمجھے۔ صوفیاء اور فقہاء نے بھی اس کو سمجھا ہے۔ اسی لئے فقہاء نے فرمایا ہے کہ جو شخص گیہوں کے ایک دانہ کی تعریف و تشریف کرے۔ اس کو تغیری کی جائے (یعنی سزا دی جائے) اس کا منشاء ہی ہے کہ یہ شخص درع و تقویٰ میں غلوکرتا ہے اور غلومنی التقویٰ اس لئے منہی عنہ ہے کہ یہ شخص دین میں اضافہ کرتا ہے کہ تقویٰ کے لئے ان امور کی بھی ضرورت ہے جن کی میں رعایت کرتا ہوں۔ حالانکہ شریعت نے ان کی رعایت نہیں کی اور دین میں اضافہ کرنا بدعت ہے اور بدعت سخت جرم ہے۔ کیوں کہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص تعزیرات ہند میں ایک قانون کا اضافہ کر دے۔ گودہ قانون سلطنت کی اغراض کے لئے مفید ہی ہو۔ مثلاً کوئی یہ قانون بڑھادے کہ روزانہ کلکٹر کو سلام کرنا ضروری ہے ورنہ دس روپے جرماتے ہو۔ تو یہ قانون کوئی با غیانت نہیں۔ بلکہ اس کا منشاء تعظیم حکام ہے جو ظاہر میں مستحسن ہے۔ مگر کوئی تعزیرات ہند میں اس قانون کا اضافہ کر کے تو دیکھنے فوراً جرم قائم ہو کر سزا ہو جائے گی۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ یہ شخص اپنے کو امور سلطنت میں دخیل سمجھتا ہے کہ میں بھی جماعت قانون ساز کا ایک فرد ہوں۔

## احداث فی الدین

اسی طرح جو شخص احداث فی الدین کرتا ہے وہ در پرده مدعی نبوت کا ہے کہ مجھے بھی شریعت میں اضافہ کرنے کا اختیار ہے۔ نیز در پرده شریعت پر شخص کا اتزام لگاتا ہے کہ ابھی شریعت مکمل نہیں۔ بلکہ

میرے اضافہ کی ضرورت ہے اور اس کا سخت جرم ہونا ظاہر ہے۔ اب لوگ اس راز کو تو سمجھتے نہیں خواہ خواہ علماء سے جھگڑتے ہیں کہ فاتحہ اور مولود میں کیا خرابی ہے یہ تو اچھا کام ہے پھر اس سے کیوں منع کرتے ہیں اس کا حقیقی جواب بھی ہے کہ جن قیود کے ساتھ تم ان افعال میں ثواب کے قائل ہو شریعت نے ان قیود پر ثواب نہیں بیان کیا۔ مگر عوام اس کو کیا سمجھیں۔ اس لئے میں ان لوگوں سے اذامی گفتگو کیا کرتا ہوں۔

چنانچہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ گاؤں میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ پہلے آپ یہ بتلا میں کہ بھی میں جمع کیوں نہیں ہوتا۔ بس خاموش ہو گئے۔

اسی طرح ایک گاؤں والے نے مجھ سے پوچھا کہ فاتحہ دینا کیا ہے۔ میں نے کہا میاں تم نے کبھی لکڑیاں بھی اللہ واسطے دی ہیں کہا جی ہاں! میں نے کہا تم نے کپڑا بھی کبھی دیا ہے کہا ہاں! میں نے کہا پھر اس پڑھی فاتحہ پڑھی تھی کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر کہانے ہی پر فاتحہ کیوں پڑھتے ہو۔ تو وہ گاؤں والا کہنے لگا کہ جی ہاں! بس یہ تو فضولی بات ہے۔ میں نے کہا ہاں خود سمجھلو۔ اگر ثواب ہی پہنچانا ہے تو فاتحہ الگ پڑھ دو۔ کھانا الگ دے دو۔ دونوں میں جوڑا گانے کی کیا ضرورت ہے۔ گاؤں والے سمجھنے کے بعد جھیں نہیں نکالتے کیونکہ ان کی طبائع میں سلامتی ہوتی ہے۔

اسی طرح ایک صاحب نے فاتحہ کے متعلق مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ آپ پوری دیگ پر فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے۔ پلاو کی دیگ میں صرف ایک طباقی میں کھانا رکھ کر اسی پر کیوں پڑھتے ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نمونہ دکھلاتے ہو۔

اور ایک شخص کو میں نے یہ جواب دیا کہ بتلاو ثواب پہنچتا ہے پکانے کا یا کھلانے کا۔ کہا ثواب تو کھلانے کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر کھلانے کے بعد فاتحہ پڑھ دینا اور ثواب پہنچا دینا۔ یہ چند نمونے میں نے بتا دیئے ہیں کہ اہل بدعت کو اذامی جواب اس طرح دینے چاہیں۔ کیونکہ وہ حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھنہیں سکتے۔ ہاں اگر کوئی فہیم ہو تو اس کو حقیقت بھی بتلاوی جائے۔

ایک بات اور سمجھ لینا چاہئے وہ یہ کہ احداث فی الدین، اور شے ہے اور احداث اللہ دین اور شے ہے۔ یعنی ایک تو یہ صورت ہے کہ نئی بات کو دین میں داخل کیا جائے۔ یہ تو بدعت محمر مہ ہے۔ ایک یہ صورت ہے کہ نئی بات دین کی حفاظت وغیرہ کے لئے ایجاد کی جائے۔ جیسے ہر زمانہ میں اسلجہ جات نئے نئے ایجاد ہوتے رہتے ہیں۔ کیونکہ پرانا اسلجہ آج کل کار آمد نہیں۔ یاد دین کی حفاظت کے لئے مدارس وغیرہ قائم کئے جاتے ہیں۔ یہ بدعت نہیں کیونکہ ان کو دین میں داخل کر

کے جزو دین نہیں بنایا گیا۔ بخلاف مولود و فاتحہ وغیرہ کے کہ ان کو دین میں داخل کیا جاتا۔ اور دین کا جزو سمجھا جاتا ہے یہ سب بدعاں ہیں خوب سمجھلو۔

## استغفار للمسرکین

بہر حال جب یہ مقدمہ سمجھ میں آ گیا کہ شدید الخوف کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید فعل حسن بھی قابل گرفت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی عن الاستغفار کا حکم سن کر یہ وسوسہ ہوتا کہ شاید یہ ہمارا استغفار نزول نص سے پہلے بھی قبیح ہوا اور ہم سے معصیت کا صدور ہوا ہو۔ قبیح لنفسہ ہونے کا تو احتمال نہ تھا کیونکہ آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا صدور ہو چکا ہے۔ ہاں قبیح لغیرہ ہونے کا احتمال ہو سکتا تھا اس لیے حق تعالیٰ نے درمیان میں اس شبہ کو رفع فرمایا۔ خواہ یہ شبہ واقع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ کیونکہ قرآن ان شبہات کو بھی رفع کر دیتا ہے جن کا وقوع متحمل و مظنون ہے اور اس قسم کا شبہ تحویل قبلہ اور تحریم خمر کے وقت واقع بھی ہو چکا ہے جس وقت تحویل قبلہ کا حکم وار ہوا تو بعض صحابہ کو احتمال ہوا کہ شاید ہماری وہ نمازیں ناقص ہوئیں جو بیت المقدس کا استقبال کر کے پڑھی گئیں اس پر آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيِّعَ إِيمَانَكُمْ (۲۷) نازل ہوئی اور تحریم خمر کے وقت صحابہ کو شبہ ہوا کہ ہمارے جو بھائی اس سے پہلے شراب پیتے ہوئے مر گئے ہیں شاید ان کی حالت ناقص رہی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا أَتَقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ثُمَّ أَتَقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ أَتَقَوْا وَأَحْسَنُوا طَوَّافًا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۲۷)

تو کچھ بعید نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کو استغفار للمسرکین کے متعلق بھی یہ خلجان ہوتا کہ شاید ہمارا استغفار قبل انہی قبیح لغیرہ ہو گیا ہو کسی عارض کی وجہ سے اور منحلہ عوارض کی تعددی عن الحدود بھی ہے کیونکہ ہر شے کیلئے ایک حد ہے۔ افعال مباح کیلئے بھی ایک حد ہے اعمال مسحہ کی بھی ایک حد ہے۔

## حدود غنا

یہاں سے ایک اور اشکال مرتفع ہوا۔ وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن دو نابالغ اڑکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گارہی تھیں۔ حدیث میں اس کے ساتھ ہی یہ

بھی آتا ہے ولیتا بمعتین کہ وہ گانے والیاں نہ تھیں یعنی انکو باقاعدہ گانا نہیں آتا تھا۔ یوں ہی بے قاعدہ محض خوشی کے طور پر گارہی تھیں۔ پس اس سے مطلق غنا کے جواب پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ غرض حدیث میں آتا ہے کہ وہ لڑکیاں گارہی تھیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ آئے جب بھی وہ گاتی رہیں پھر حضرت عمرؓ آئے تو ان کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئیں اور گانا بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تبسم فرمایا اور فرمایا اے عمرؓ! شیطان تم سے بھاگتا ہے خدا کی قسم! اگر تم ایک راستہ کو چلو گے تو شیطان اس راستہ کا چلنا چھوڑ دے گا۔

اب شہبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ غنا حرام تھا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ منع فرمایا اور جائز تھا آپؐ نے ان کے قطع غنا پر یہ کیوں فرمایا شیطان عمرؓ سے بھاگتا ہے۔

اس کا بھی جواب اسی قاعدہ سے نکلتا ہے کہ ہر شے کی حد ہے۔ مباح کی بھی ایک حد ہے اور یہ غنا حرام مباح کے اندر تھا۔ مگر اس وقت مباح کی حد ختم ہو چکی تھی کہ حضرت عمرؓ افاقت اُتریشیف لے آئے اور ان کے دیکھتے ہی گانے والیاں خاموش ہو گئیں۔ اگر وہ خاموش نہ ہوتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمادیتے۔ مگر حضورؐ کو تعجب تبسم اس پر ہوا کہ حضرت عمرؓ کی صورت دیکھتے ہیں بدول ان کے کچھ کہنے گانے والیاں خود ہی چپ ہو گئیں۔

اس پر حضورؐ نے حضرت عمرؓ کو بشارت دی کہ شیطان تم سے بھاگتا ہے (اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غنا اس وقت بھی حد مباح پر تھا۔ مگر یہ ایسا مباح ہے جس کو شیطان اپنی کامیابی کا وسیلہ بنایا کرتا ہے کماں الحدیث والشعر من مزامیر ابلیس اور حضرت عمرؓ کا رعب ایسا تھا کہ ان کے سامنے ایسا مباح واقع نہ ہو سکتا تھا جس میں شیطان کا کچھ بھی حصہ ہو ویجوز مثل هذا المباح بحضورة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لكونه شارعاً لحدود المباح والحرام ونحوهما۔

اس کے بعد ارشاد ہے۔ *إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ* (ب ۱)

بے شک اللہ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔

اس کا ربط ماقبل سے یہ ہے کہ اس جگہ یہ سوال ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو استغفار لامر شرکیں سے کیوں منع فرمایا بلکہ یوں ہوتا کہ وہ استغفار کرتے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہے اس کو قبول کرتے یا نہ کرتے اور شرکیں کو بخشنے یا نہ بخشنے۔ اس سوال کا جواب *إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ* میں دیا گیا ہے اور جواب حاکمانہ ہے کہ ہماری سلطنت آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس لئے ہم کو حق ہے کہ تم کو استغفار سے روک دیں۔

## حاکمانہ کلام

قرآن میں زیادہ تر حاکمانہ ہی جواب دیئے گئے ہیں۔ چنانچہ شیطان سے جب انکار سجدہ کی وجہ پوچھی گئی اور اس نے جواب دیا۔ آنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ۔ (آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا) (پ ۸) تو اس کی اس دلیل کا حاکمانہ ہی جواب دیا گیا۔ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ (پ ۱۲) (تو یہاں سے نکل جا بے شک تو مردود ہے اور تجوہ پر قیامت کے دن تک لعنت)

اسی طرح مقبولین کو بھی حاکمانہ جواب دیا گیا۔ یعنی فرشتوں جب کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کی خلافت پر سوال کیا تو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون (پ ۱) کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ اور یہی تو قرآن کی خاص بات ہے جس سے اس کا کلام الہی اور شاہانہ کلام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ اگر ہر سوال کا حکیمانہ جواب دیا جاتا تو شاہانہ کلام نہ معلوم ہوتا۔ بلکہ فلسفی کا کلام معلوم ہوتا۔

اس لئے حکیمانہ جواب کم دیئے گئے ہیں۔ اور اگر دیئے بھی ہیں تو حاکمانہ جواب کیسا تھا دیئے ہیں۔ مگر افسوس! طلباء مصنفوں کی کتابیں پڑھنے کے بعد قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس میں بھی وہی طرز ڈھونڈتے ہیں۔ اس لئے ان کو قرآن کا پورا لطف نہیں آتا اور نہ عجیب پر لطف کلام ہے۔ پس إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمانوں اور زمینوں کی) (پ ۱۱) میں اس شبہ کا حاکمانہ جواب دیا گیا ہے۔

## حکیمانہ جواب

حکیمانہ جواب تبرعاً میں بیان کرتا ہوں گوہمارے ذمہ تو نہیں وہ یہ کہ کفار سے بعض و دعاوت رکھنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ محبت الہیہ کا حق یہ ہے کہ اعداء اللہ سے عداوت و بعض رکھا جائے دوسرے اسلام کی اشاعت بھی زیادہ تر بعض فی اللہ ہی سے ہوئی ہے اگر مشرکین کے لئے استغفار جائز ہوتا تو اس بعض میں کمی ہو جاتی۔ کفار پر جوش و غصب نہ رہتا اس حکیمانہ جواب کی طرف اس آیت میں بھی اشارہ ہے چنانچہ عنقریب معلوم ہو گا اس کے بعد ارشاد ہے۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (پ ۱۱)

(اور اللہ تعالیٰ کے سواتھ مہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں)

میرے خیال میں اس کا ربط

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا مَّا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ (پ ۱۱)

(اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے پیچھے گراہ کر دے)

سے بھی ہے اور اس اعتبار سے یہ جملہ آیت سابقہ کے مضمون کی دلیل ہے۔ کہ تم کو قبل نبی کے استغفار کرنے سے گناہ اس لئے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سواتھا را کوئی دوست و مد و گار نہیں ہے۔ اور یہ بات محبت ولایت کے خلاف ہے کہ نبی سے پہلے کسی فعل کے ارتکاب پر عذاب کیا جائے یا گناہ کی فرد جرم قائم کی جاوے۔ نیز اس میں ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو کسی کے گھمنڈ پر منا ہی کا ارتکاب کرے کہ ہم فلاں کی شفاعت یا استغفار سے فوج جائیں گے۔

جواب کا حاصل یہ ہوا کہ خدا کے سواتھا را کوئی مد و گار نہیں۔ دوست نہیں اس لئے کسی دوسرے کے بھروسہ اور گھمنڈ پر گناہوں کا ارتکاب نہ کرنا چاہئے مگر اس سے شفاعت کی نفعی لازم نہیں آتی۔ کیونکہ شفاعت تو خدا تعالیٰ کے اذن سے ہوگی۔ من ذالذی يشفع عنده الا باذنه۔ (پ ۳) تو اجازت اسی شخص کے متعلق ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ خود بخشنا چاہیں گے اور جس کی ولایت و نصرت وہ نہ چاہیں گے اس لئے اذن شفاعت ہی کیوں دیں گے۔

نیز اس آیت میں اس شبہ کا حکیمانہ جواب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اور مسلمانوں کو استغفار للمرکین سے کیوں منع فرمایا بلکہ ان کو استغفار کرنے والیت اور خود استغفار کو قبول کرتے یا نہ کرتے۔ اس کا حکیمانہ جواب اس طرح دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سواتھا را کوئی دوست و مد و گار نہیں۔ پس تم بھی دوستی اسی سے کرو جو خدا کا دوست ہو۔ اور جو خدا کا دشمن ہو اس سے دشمنی کرو۔ پس کفار سے دوستی نہ کرو اور استغفار بھی اسی کی فرد ہے۔ اس لئے کفار کے واسطے استغفار ہرگز نہ کرو کیونکہ واعداء اللہ ہیں تم بھی ان سے عداوت ظاہر کرو۔

غرض! یہاں تین مضمون تھے یعنی نبی عن الاستغفار بحیثیت حاکیت و نبی عن الاستغفار بحیثیت حکمت و عدم تاثیم قبل النبی۔ تینوں پر اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے۔

**تفسیر آیت کریمہ**

اب میں مقصود کو شروع کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے یہ ثابت ہوا کہ احکام شرعیہ کے مقرر کرنے کا حق تعالیٰ کو پورا اختیار ہے کیونکہ وہ صاحب سلطنت ہیں اور

اسی سے دوسرا مقدمہ یہ مفہوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو احکامِ تکوینیہ کے مقرر کرنے کا بھی پورا اختیار ہے کیونکہ انَّ اللَّهَ لَهُ الْمُلْكُ السُّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ ہر قسم کے احکام کو عام ہے تشریعیہ کو بھی اور تکوینیہ کو بھی۔ مگر شاید کوئی عموم کو تسلیم نہ کرے کیونکہ عموم و خصوص کا سمجھنا مجتہد ہی کا کام ہے۔ مگر اس آیت میں ایک جملہ ایسا موجود ہے جس سے آیت کا عموم واضح ہو گیا اور وہ بھی ویمیت ہے کیونکہ احیاء و اماتت تو احکامِ تکوینیہ ہی سے ہیں۔

ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اللہ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ وہی زندہ کرتا ہے وہ ہی مارتا ہے۔ تو بھی ویمیت میں ان تصرفات کا ذکر ہے جو سلطنت کی وجہ سے عالم میں نافذ کئے جاتے ہیں اور یہ تصرف احکامِ تکوینیہ سے ہے۔ اس لئے آیت دونوں قسم کے احکام کو عام ہو گئی۔ سبق میں احکام تشریعیہ کا ذکر تھا اور سیاق میں تکوینیہ کا ذکر ہو گیا تو ہر طرف سے جکڑ بند کر دیا گیا۔ اب خصوص کا احتمام نہیں رہا۔ یہ تو آیت کی تفسیر تھی۔

ابھی میں نے مقصود کو شروع نہیں کیا۔ تمہید بہت لمبی ہو گئی مگر مقصود مختصر ہو گا کیونکہ تمہید تو عموماً لمبی ہی ہوتی ہے۔ دیکھئے کہیت میں گیہوں ڈالنا، مل جوتنا، پانی دینا، کاشنا، یہ کتنا مبارکام ہے۔ اور اس کے بعد آٹا پینا، گوندھنا، آگ جلانا، روٹی پکانا یہ بھی تمہید ہی ہے۔ اور لقمه بنا کر کھالینا کتنا مختصر کام ہے اور یہ مختصر محض لفظوں ہی میں نہیں کہ میں نے تلفظ میں اس کو مختصر کر دیا ہو جیسے یہاں ایک شاعر تھے جن کے اشعار میں ایک مصرع لمبا اور ایک چھوٹا ہوتا تھا۔ کسی نے ان پر اعتراض کیا تو آپ نے دعویٰ کیا کہ مولانا جامیؒ کے کلام میں بھی تو ایسا ہی واقع ہے پوچھا کہاں تو آپ نے یہ شعر پڑھا۔

اللہی غنچہ امید بکشا اے اللہ میری امید پوری فرمادے

اس مصرع کو تو خوب کھینچ کر تان کر پڑھا پھر جلدی سے کہہ دیا

گلے از رو ضه جاوید بنما ایک پھول آخرت کے باغ سے مجھے دکھا۔

تو جیسے اس شخص نے تلفظ میں دوسرے مصرع کو مختصر کر دیا تھا۔ میں کھانے کو اس طرح مختصر نہیں کہتا۔ بلکہ وہ واقع میں مختصر ہی ہے سب سے زیادہ دیر کھانے میں انگریز کرتے ہیں۔ کہ بہت آہستہ آہستہ کھاتے ہیں اور دنیا بھر کی باتیں اسی وقت کرتے ہیں مگر پھر بھی بہت سے بہت ایک دو گھنٹے میں کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ سو یہ بھی تمہید کے سامنے تو مختصر ہی ہے اور دیکھئے انگریز وقت کی قدر کے بھی مدعی ہیں مگر کھانے میں اتنا وقت صرف کرتے ہیں کہ جس کی حد نہیں۔ بعض

لوگ اس میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ انسان کے لئے تفریح اور جی بھلانے کے لئے بھی تو کچھ وقت چاہئے انہوں نے اس کے لئے کھانے کا وقت رکھا ہے تاکہ ایک وقت میں دو کام ہو جائیں۔ چہ خوش بود کہ ہر آید بیک کر شمہ دو کار کتنا اچھا ہو کہ ایک وقت میں دو کام پورے ہو جائیں۔ مگر اس میں خرابی یہ ہے کہ جی بھلانے میں بعض دفعہ بھی آجاتی ہے اور کھانے کے وقت بھی آنے سے بعض دفعہ گلے میں پھندا الگ جاتا ہے۔

ہمارے فقہاء نے اس راز کو سمجھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے کسی کو سلام کرنا مکروہ ہے کیونکہ فطری بات یہ ہے کہ سلام کو سن کر سننے والے کے دل پر جواب کا تقاضا ہوتا ہے (کیونکہ جواب سلام فرض ہے) اور ممکن ہے کہ اس وقت لفڑے گلے کے نیچ میں ہی ہو تو تقاضا جواب سے پھندا الگ جانے کا خطرہ ہے۔

یہ علت میری سمجھ میں بہت دنوں کے بعد آئی پہلے میں بھی سوچتا تھا کہ فقہاء نے اس وقت سلام کیوں مکروہ کہا۔ عرصہ کے بعد یہ علت سمجھ میں آئی اور اس وقت فقہاء کی قدر ہوئی کہ واقعی یہ حضرات امت کے لئے رحمت ہیں غرض کھانے کے وقت میں تقاضے کا کام نہ کیا جائے۔

### علاج غموم و افکار

اب میں مقصود عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام غموم و افکار کا علاج بتالا یا ہے کیونکہ فرماتے ہیں ان اللہ لہ ملک السموات والارض کہ اللہ تعالیٰ کے لئے سلطنت ہے تمام آسمانوں اور کی زمینوں کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر طرح تصرف کا حق ہے تم کو کسی تجویز کا کوئی حق نہیں۔ تو اس آیت میں ہم کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمکو شریعت و تکوینیات کے متعلق کوئی تجویز اپنی طرف سے نہ کرنا چاہئے۔ جیسے شیخ چلی کا واقعہ ہے کہ وہ دوپیسہ کی مزدوری پر ایک شخص کا تیل کا گھڑا لے کر چلا اور راستہ میں سوچنا شروع کیا کہ ان دوپیسوں کے دوانڈے لوں گا۔ ان کو کسی مرغی کے نیچے رکھوں گا۔ ان میں سے ایک مرغی نکلے گی اور ایک مرغا۔ پھر دنوں کے بہت سے نیچے ہوں گے۔ ان سب کو نیچ کر کر بکریاں لوں گا۔ پھر ان کے بہت سے نیچے ہوں گے کہ جنگل بھر جائے گا۔ ان سب کو نیچ کر گائے بھینس خریدوں گا۔ ان کے بہت سے نیچے ہوں گے ان سب کو نیچ کر اونٹوں کی پھر ہاتھی کی تجارت کروں گا۔ پھر میں بڑا تاجر اور مالدار ہو جاؤں گا پھر بڑا سامکان بناؤں گا اور روز یزدادی یا با دشہزادی کو نکاح کا پیغام دوں گا۔ وہ فوراً میرے مال و دولت کو دیکھ کر پیغام منظور کر لیں گے اور

نکاح ہو جائے گا پھر اولاد ہوگی۔ اور بچہ بڑا ہو گا تو مجھ سے پیسے مانگے گا۔ میں کہوں گا ہشت! اس کہنے کے ساتھ آپ کا سر ہلا۔ گھر اگر کرنٹ ٹوٹ گیا۔

تیل والے نے کہا ابے یہ کیا کیا۔ کہا میاں جاؤ۔ تمہارا تو دور و پیسے کا تیل ہی گیا۔ میرا تو سارا خاندان بر باد ہو گیا۔

تو دیکھتے اس تجویز کی کوئی حد ہے ہم لوگ اس قصہ پر تو ہستے ہیں مگر افسوس! اپنے حال پر نہیں ہستے کہ ہم سب ایسی حماقت میں گرفتار ہیں کہ ہر وقت خیالی پلاو پکایا کرتے ہیں جن میں اکثر تو ناکامی ہی ہوتی ہے اور یہی جڑ ہے رنج کی۔ اگر کامیابی بھی ہو جائے تو وہ کامیابی بھی ہزاروں ناکامیوں کو اپنی آنغوں میں لیے ہوتی ہے۔

چنانچہ اگر اس شخص کی تجویز کا قوع ہو جاتا تو انجام یہ ہوتا کہ ایک شخص تو امیر ہو جاتا۔ مگر اسی کے ساتھ بہت سے غریب بر باد ہی ہو جاتے ہیں اور بہت چنانچہ شب و روز یہی حالت دیکھی جاتی ہے کہ ایک شخص امیر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ غریب ہو جاتے ہیں اور بہت سے آدمیوں کے غریب ہونے کے بعد ایک آدمی امیر بنتا ہے۔

اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک شخص گاؤں کا رہنے والا کہیں پر دلیں میں جا کر پانچ سوروپے کا نوکر ہو گیا۔ اس نے اپنی ترقی کی اطلاع گھر بھیجی تو سارے گاؤں میں خط کا پڑھنے والا صرف ایک میاں جی تھا جو اس شخص کے مکان پر بچوں کو پڑھاتا تھا گھر پر خط پڑھنے کے لیے اس کو بلا یا گیا تو وہ خط دیکھ کر رو نے لگا۔ بیوی نے کہا میاں جی خیر تو ہے کیا لکھا ہے کہا بتلاؤں گا مگر پہلے تو بھی رو وہ رو نے لگی۔ اس شور و غل کو سن کر محلہ والے جمع ہو گئے۔

سب نے پوچھا کیا بات ہے کیوں رو ہے ہو۔ میاں جی نے کہا بتلاؤں گا تم بھی رو وہ سب بھی رو نے لگے۔ آخر کہا گیا میاں خط تو سناو۔ یہ تو معلوم ہو کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ میری ترقی ہو گئی اور میں پانچ سوروپے کا ملازم ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کم بخت پھر یہ بات رو نے کی تھی یا خوشی کی۔ میاں جی نے کہا یہ بات رو نے ہی کی ہے میرے لئے تو اس واسطے کہ اب وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائے گا جس کے لئے میں کافی نہیں اس لئے مجھ کو ملازمت سے جدا کر دے گا کوئی انگریزی و ان ماستر بچوں کے واسطے بلا یا جائے گا اور بیوی کے لئے اس واسطے کہ اب وہ اتنے بڑے عہدہ پر پہنچ کر اس گاؤں کی دیہات پر کیوں کفایت کرے گا۔ اب وہ

کسی تعلیم یا فتح عورت سے نکال کرے گا۔ اور تمہارے لئے اس واسطے کا بہ وہ ہزاروں روپ پر کر لائے گا۔ اور اپنا مکان عالی شان بنانے کی فکر کرے گا اور محلہ کے غریب آدمیوں کے مکانات خرید کر کسی کے مکان کو اصطبیل بنائے گا کسی کو بینھک۔ کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ۔

ممکن ہے یہ دلکشی کسی نے گھڑی ہو۔ مگر دنیا کی حالت ہے یہی جو اس حکایت میں ظاہر کی گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمام کلفتوں کا مدار تجویز پر ہے اگر اس کو قطع کر دیا جائے تو پھر کوئی کلفت نہیں۔ کسی رنجیدہ واقعہ کے پیش آنے سے گلت اس لئے ہوتی ہے کہ ہم نے اس کا خلاف ذہن میں تجویز کر رکھا تھا۔ اور اگر انسان پہلے سے اس کیلئے آمادہ رہے بلکہ اس سے زائد کیلئے بھی آمادہ رہے تو پھر کچھ بھی کلفت نہیں۔

جیسے ایک شخص کی حکایت ہے جس کا لقب مرزا یموم تھا۔ کیونکہ اس کا معمول یہ تھا کہ ایک یموم ساتھ لے کر سڑائے میں چلا جاتا اور جب کسی متمول مسافر کو دیکھتا کہ کھانا کھانے بیٹھا ہے۔ تو جیب سے یموم نکال کر سالن میں ذرا سا نچوڑ دیتا کہ لیجھے اس سے کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے پھر اکثر تو ایسا ہوتا کہ کھانے والا خود ہی اس کی تواضع کرتا کہ آپ بھی کھا لیجھے اور اگر وہ تواضع نہ کرتا تو یہ خود کھانے میں شریک ہو جاتے۔ پر دستِ خوان پر سے کسی کو اٹھانا عرفًا میغوب ہے۔ اسلئے کوئی کچھ نہ کہتا۔ اور اسی طرح اپنا پیٹ بھر لیتے۔ مگر سب آدمی یکساں نہیں۔

ایک شخص کے ساتھ اس نے ایسی ہی حرکت کی کہ بدلوں کہنے کھانے میں شریک ہو گئے تو اس نے کان پکڑ کر اس کو باہر نکلوا دیا تو آپ نے بہت جھک کر اسے فرشی سلام کیا۔ اس نے کہا یہ سلام کیسا۔ کہا! حضور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ مجھے تو ایسے موقع پر جوتا کھانے کی عادت ہے آپ نے بڑا کرم کیا کہ کان پکڑ کر نکلوا دینے ہی پر کفایت کی۔

خیر! یہ حکایت تو کسی ذلیل نامعقول مسخرہ کی ہے مگر اس میں اتنا سبق قابل اخذ ہے کہ جو شخص بڑی مصیبت کے لئے آمادہ ہو اس کو چھوٹی مصیبت غنیمت معلوم ہوگی۔ پس تمام تر کلفت کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے اپنے لئے ایک خاص تجویز کر لیتے ہیں مثلاً اپنے متعلقین سے کچھ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں اور اگر پہلے ہی سے اس توقع کو قطع کر دیا جائے تو پھر زیادہ کلفت نہ ہو۔

### راضی بر ضار ہنے کی ضرورت

یہی وہ بات ہے جو اہل اللہ کو حاصل ہے وہ کسی مخلوق سے توقع نہیں رکھتے نہ کوئی تجویز اپنے لئے قائم کرتے ہیں۔

چنانچہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بار اپنے خدام کو اسی بات کی وصیت کی کہ اگر راحت چاہتے ہو تو مخلوق سے توقع قطع کر دو۔ پھر فرمایا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو۔ خدام نے عرض کیا کہ ہم آپ کو اپنی ذات سے زیادہ اپنے حال پر مہربان سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے سے بھی امید نہ رکھو۔ تاکہ تم کو کلفت نہ ہو اگر نفع یا ارشاد میں کچھ کوتا ہی اور کمی ہو تو تم کو رنج نہ ہو۔ غالب نے اسی مضمون کو خوب بیان کیا ہے۔

جب توقع ہی اٹھ گئی غالب                  پھر کسی سے کوئی ٹھک نہ رہا

مگر آج کل حالت یہ ہے کہ ہر شخص اپنے لئے ایک خاص تجویز قائم کئے ہوئے ہے جس میں بعض کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ جہلا دین موت کے متعلق بھی مفتی بننا چاہتے ہیں کہ ملک الموت اول ان سے فتویٰ حاصل کرے کہ چہ فرمانیں جہلا دین دریں مسئلہ کہ بر شما کدامی وقت موت آور دہ شود، پھر جان قبض کرنے کو آیا کرے چنانچہ جس کے دو چار بچے ہوں وہ یوں چاہتا ہے کہ ان کی شادی وغیرہ سے فراغت ہو جائے تب موت آئے اس سے پہلے نہ آئے۔

صاحب! ان تجویزوں کو قطع کرو۔ کیونکہ تم کو تجویز کا کوئی حق نہیں بلکہ ائمۃ اللہ الہ ملک

السموٰت والارض طیخی ویمیٰت۔ (پ ۱۱)

آسمان و زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لئے زندہ کرنا مارنا ان ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہیں جس حالت میں چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں تم کو اس میں دخل در معقول کا کوئی حق نہیں۔ یہی تعلیم ہے جو اس آیت میں دی گئی ہے اس پر عمل کرنے سے غم کی جڑ کٹ جائے گی۔ ہاں طبعی غم ہے ہو گا مگر وہ دیر پا نہیں ہوتا۔ اور طبعی غم بھی اس لئے ہوتا ہے کہ اس میں حکمتیں ہیں۔ ہمارے لئے بڑی حکمت یہ ہے کہ غم سے شکستگی کی شان پیدا ہوتی ہے جس سے تکبر و غرور وغیرہ کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت حکمتیں ہیں۔

یہ میں نے اسلئے کہہ دیا کہ آپ کو دھوکا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں طبعی غم کی نفی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والا کون ہو گا۔ مگر طبعی غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا۔ چنانچہ اپنے صاحب زادے کے انتقال پر آپ نے فرمایا:

انَا بِفِرَاقِكَ يَا ابْرَاهِيمَ لِمَحْزُونِنَّوْنَ . کہاے ابراہیم! ہم کو تمہاری جداوی کاغم ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و حقانیت کی بڑی دلیل ہے کہ حضور نے اپنے غم کو ظاہر فرمادیا۔ بنا ہوا صوفی ایسے موقع پر کبھی یہ نہ کہے گا کہ مجھے غم ہوا بلکہ تکلف و قصع کر کے غم کو چھپائے گا۔ مگر صادقین کی یہ شان نہیں وہ تو حضور کا اتباع کرے گا۔

## اتباع سنت کی برکت

چنانچہ مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب نے ایک بار فرمایا کہ ایک دفعہ ہم یہاں ہوئے ہم بڑے گھبرائے۔ ہم کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ (اس کو بے تکلف ظاہر کر دیا کہ ہم کو موت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ طبعاً تو ہر شخص کو موت سے خوف ہے، ہی) حالانکہ مولانا مرحوم صاحب جذب تھے اور اہل جذب واستغراق کو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ مگر مولانا کو خوف تھا تو بے تکلف اس کو بھی ظاہر کر دیا۔

پھر فرمایا کہ ہم نے حضرت فاطمہ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے ہم کو اپنے سینہ سے لگایا۔ بس صبح کو ہم اچھے ہو گئے۔ اس واقعہ سے تو یہ معلوم ہوا کہ مولانا کو موت سے ڈر تھا۔ مگر اس کے ساتھ ان کے کمالات سنئے۔ کہ مولانا نے خود مجھ سے ہی فرمایا کہ جب حوریں جنت میں ہمارے پاس آئیں گے (ایسی طرح کہا کہ جیسے یقین ہو کہ جنت میں تو جائیں ہی گے) تو ہم ان سے صاف کہہ دیں گے کہ بی اگر ہم کو قرآن سناؤ تو میٹھوور نہ لمبی بنو۔ قرآن سے مولانا کو بڑا عشق تھا۔

ایک بار فرمایا کہ سجدہ میں ایسا مزہ آتا ہے کہ جیسے خدا تعالیٰ نے پیار کر لیا ایک دفعہ فرمایا کہ ہم نے ایک جز امی کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے پھر فرمایا کہ اس اتباع سنت کی برکت یہ ہوئی کہ وہ جز امی اچھا ہو گیا۔

سبحان اللہ! اس کو اپنی کرامت نہیں سمجھے بلکہ اتباع سنت کی برکت سمجھے۔ کوئی ناقص ہوتا تو اس کو اپنی کرامت سمجھتا۔

تو یہ کمالات تھے مولانا کے۔ اب ان کمالات کے ہوتے ہوئے مولانا کا یہ فرمانا کہ ہمیں موت سے بہت ڈر لگتا ہے لقص کی وجہ سے نہ تھا۔ بلکہ اس کا مشا صدق و خلوص تھا کہ جو حالت تھی صاف صاف ظاہر کر دی۔ بنا ہوا صوفی بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ صادقین و عادی سے بڑی ہوتے ہیں۔

## توحید خالص

کانپور میں ایک صوفی میرے پاس آئے اور اپنی حاجت ظاہر کی کہ مجھے دس روپے کی

بہت ہے اس کا انتظام کر دو۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہنے لگے کہ مجھے کیا پرواہ ہے جنت  
و، ایسا پرواہ ہے دوزخ کی۔ میں نے کہا۔ صوفی جی بس بیٹھو۔ تم سے وس روپیہ سے تو استغناۓ نہ  
ہو۔ ۵۔ جنت سے کیا استغناۓ کرو گے جنت کو دیکھا نہیں ہے اس لئے باتیں بناتے ہو۔

بہر حال تجویز کو قطع کرو کیونکہ تجویز سے کلفت ہوتی ہے اور یہ کلفت اور چیز ہے اور طبعی غم اور  
چیز ہے۔ تجویز کے قطع کرنے سے یہ کلفت اور پریشانی قطع ہو جاتی ہے۔ گوطبی غم باقی رہے۔ مگر  
قطع تجویز کے بعد جو طبعی غم ہو گا اس سے کلفت و پریشانی نہ ہوگی۔ اہل دنیا کو مصائب میں اسی لئے  
کلفت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ تجویز میں قائم کر لیتے ہیں۔

اور اہل اللہ کی تو یہ حالت ہے کہ وہ تو موت تک کے مشاق ہوتے ہیں جو اکبر المصالب ہے

چنانچہ عارف فرماتے ہیں

خرم آں روز کریں منزل ویراں بروم	راحت جاں طیم وزپے جاناں بروم
نذر کردم کہ گر آید بسر ایں غم روزے	تادر میکدہ شاداں وغزل خواں بروم
”وہ دن بہت اچھا ہے کہ اس ویرانہ مکان (دنیا) سے جاؤں۔ جاں کا آرام مانگتا ہوں اور معشوق کے لئے جاتا ہوں۔ میں نے نذر مانی ہے جس دن یہ کام ہو جائے گا۔ شراب خانہ کے دروازہ تک خوش اور گاتا ہو جاؤں گا۔“	

ایک بزرگ نزع کی حالت میں تھے۔ سب لوگ رور ہے تھا اور وہ خوش ہو کر یہ شعر پڑھ رہے تھے  
وقت آں آمد کہ من عربیاں شوم      جس بگذارم سراسر جاں شوم  
”وہ وقت قریب آگیا ہے کہ میں ننگا ہو جاؤں گا۔ جسم کو چھوڑ کر صرف جاں ہو جاؤں گا۔“

اور یہ فرمار ہے تھے

چیست تو حید آنکہ از غیر خدا	فرو آئی در خلا و در ملا
تو حید کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ خدا کے سواتھانی اور ملاقات کے وقت جھکا رہے۔ اس تو حید کا پورا ظہور موت کے وقت ہوتا ہے کیونکہ تو حید خالص تو یہ ہے کہ غیر حق سے تعقات منقطع ہو جائیں اور تعلقات ماسوی اللہ کا انقطاع کلی موت سے ہوتا ہے۔ اس لئے اہل اللہ جو تو حید خالص کے عاشق ہیں وہ تو موت کے مشاق ہیں۔ کوئی طبعاً مشاق کوئی عقلاء مشاق۔ مگر اہل اللہ اسی کے ساتھ دعا اور داد بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے جمع میں الاضداد کر کے	

دکھلایا ہے۔ وہ تجویز کو بھی قطع کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی دعا بھی الحاج سے کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں حکم ہے۔

لیعزم المسئلة وان الله يحب الملحدین فی الدعا (فتح الباری لابن حجر ۹۵:۱)

اور دوا کے ساتھ پرہیز بھی کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا کی ہے۔ تو ظاہر میں تفویض قطع تجویز کے ساتھ اس کا جمع ہونا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ خصوصاً دعا بال الحاج کا۔ کیونکہ دعا میں تو طلب ہے اور طلب تجویز ہے مگر حقق کی نظر وسیع ہے وہ سب کو جمع کر لیتا ہے اس لئے کہ دعا الحاج سے کرتا ہے۔ مگر دل سے ہر شق پر راضی رہتا ہے کہ جو کچھ ہو گا ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کو یہ فکر اور سوچ و بچارہ نہیں ہوتا کہ اب کیا ہو گا۔ اس کے بعد کیا ہو جائے گا۔ وہ دل سے ہر شق پر راضی رہتا ہے کہ جو چاہے ہو جائے جو کچھ ہو گا عین حکمت ہو گا۔ پس اس فکر اور سوچ ہی کا قطع کرنا مطلوب ہے اور یہی قطع فکر مذول ہے اس آیت کا

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمَّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَالْقِيَمُ فِي الْيَمِّ وَلَا  
تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي (پ ۲۰)

اس میں حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال کر بے فکر ہو جانا۔ خوف و حزن نہ کرنا۔

### درجات خوف و حزن

اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیا عدم خوف و عدم حزن اختیاری ہے ظاہر میں تو غیر اختیاری معلوم ہوتا ہے پھر غیر اختیاری کے ساتھ امر نہیں کا تعلق کیسا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو خوف و حزن کا ابتدائی درجہ ہے وہ تو غیر اختیاری ہے اور ایک وہ درجہ ہے جو اس سوچ بچارے پیدا ہوتا ہے کہ ہائے وہ بچہ میرے پاس کھلتا تھا مجھے پہتا تھا۔ اب میری گود سے الگ ہو گیا نہ معلوم کس حال میں ہو گا۔ نہ معلوم کس نے پکڑا ہو گا۔ یہ درجہ اختیاری ہے اس سے ان کو ممانعت کی گئی کہ اس دریا میں ڈال کر بے فکر ہو جاؤ۔ ہمارے پر دکر کے پھر کچھ نہ سوچو کہ اب کیا ہو گا۔

اسی سے سمجھ لو کہ بعض لوگوں کو جو خوف خدا نہ ہونے کی شکایت ہے اس میں یہ لوگ غلطی کرتے ہیں کیونکہ جو خوف مامور ہے وہ اختیاری ہے جو فکر اور سوچ سے پیدا ہوتا ہے اور جس کے فقدان کی شکایت ہے وہ غیر اختیاری ہے اور وہ مامور ہے نہیں۔ پس غیر مامور ہے کے فقدان

سے غم کیوں ہے ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سوچ اور فکر قطع کرو کہ ہائے وہ بچہ ایسا تھا ویسا تھا اس کے قطع کرنے سے ان شاء اللہ غم کو ترقی نہ ہوگی۔

اس پر شاید یہ شبہ ہو کہ بعض لوگ کچھ سوچتے بھی نہیں پھر بھی ان کا غم کم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ مگر میرے دل میں ابھی اس کی وجہ آئی ہے۔ وہ یہ کہ لوگ جس طرح اس واقعہ کو نہیں سوچتے جس سے غم برہتا۔ اسی طرح اسبابِ تسلی کو بھی نہیں سوچتے جس سے کم ہوتا۔ اس وجہ سے غم میں کمی نہیں ہوتی۔ اور بحالہ رہتا ہے۔

ان کو چاہئے کہ اسبابِ تسلی کو سوچا کریں مثلاً یہی کہ حق تعالیٰ کے افعالِ حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ اس میں ضررِ حکمت ہے اور یہ کہ موتِ مسلمان کے لئے باعثِ راحت ہے وغیرہ وغیرہ۔ غرضِ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جولا تخفافی ولا تحزنی میں قطع خوف و حزن کا امر فرمایا ہے اس کامیرے نزدیک یہ مطلب ہے کہ خود ملت سوچنا کہ ہائے اب کیا ہو گا۔ اب بچہ کس حال میں ہو گا۔ بلکہ ان کو دریا میں ڈال کر بے فکر ہو گئیں اور کچھ نہیں سوچا کہ اب کیا ہو گا۔

اس سے عجیب تر حضرت ہاجرہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کے لطف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحب زادے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم کی توجہ حضرت ہاجرہ پر پہلے سے زیادہ ہو گئی تو حضرت سارہ کو یہ امر ناگوار ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہاجرہ کو میری نگاہ سے غائب کر دو مجھ سے اس رقبابت کا تحمل نہیں ہو سکتا۔

اس پر وحی نازل ہو گئی کہ اے ابراہیم! اللہ تعالیٰ کو علاوہ سارہ کی خاطر منظور ہونے کے ہاجرہ کی مہاجرت میں کچھ حکمتیں بھی منظور ہیں۔ پس تم ہاجرہ کو مع اسماعیل کے زمین مکہ میں چھوڑ آؤ۔ جہاں ہمارا گھر ہے جس کو تم اور اسماعیل بناؤ گے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہما السلام کو سواری پر سوار کیا اور زمین مکہ میں لا کر ان کے پاس چھوڑ کر ملک شام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس وقت زمین مکہ میں کسی قسم کی کچھ آبادی نہ تھی۔ لق و دق میدان تھا جہاں آدمی تو آدمی پرندو چرند کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ کیونکہ یہاں نہ کھانے کی کوئی چیز تھی نہ پینے کے لئے پانی تھا۔

جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ اے ابراہیم، ہم کو یہاں چھوڑ کر چلے کیا یا آپکی رائے ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپکو اس کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ہاں حکم دیا ہے۔ بس یہ سن کر حضرت ہاجرہ کو اطمینان ہو گیا اور فرمایا اذ لا یضیغنا کہ اگر خدا کا حکم ہے تو وہ ہم کو ضائع نہ کرے گے۔

ہائے کیسا کلیجہ تھا۔؟ کیسا خدا پر بھروسہ تھا کہ حضرت ہاجرہ نے یہ نہ کر کہ خدا کی مرضی یونہی ہے پچھنہیں سوچا کہ اب کیا ہوگا؟ صاحبو! حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال ایمان تو اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہی ہے مگر حضرت ہاجرہ کا ایمان گوان سے اکمل نہ ہو مگر عجیب تر ضرور تھا۔ کیونکہ حضرت ابراہیم تو مرتضیٰ پھر مرد کامل کیونکہ نبی تھے۔ اور نبی بھی بڑے درجے کے کہ ہزاروں انبیاء ان کے قبیع ہوئے۔ ان کا ایمان گو اکمل ہو۔ مگر ایسا عجیب نہیں جیسا حضرت ہاجرہ کا ایمان عجیب تھا کہ ان کو باوجود عورت ہونے کے اور نبی نہ ہونے کے ذرا بھی تشویش نہیں ہوئی۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ہاجرہ کا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان سے بڑھا ہوا تھا کیونکہ عجیب ہونے سے افضل واقویٰ ہونا لازم نہیں آتا۔ پس ہر چند کہ حضرت ہاجرہ کا ایمان اعجب تھا مگر اقویٰ و اکمل و افضل حضرت ابراہیم کا ایمان تھا۔

اور یہی جواب ہے اس حدیث کا جس میں وارد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے پوچھا کہ بتاؤ کس کا ایمان عجیب تر ہے صحابہؓ نے عرض کیا ملائکہ کا ایمان۔ فرمایا ملائکہ کا کیا ہوا کہ وہ ملکوت سمود و ارض کا مشاہدہ کر کے بھی ایمان نہ لاتے۔ صحابہؓ نے کہا پھر حضرات انبیاء علیہم السلام کا ایمان عجیب ہے فرمایا ان کا کیا ہوا کہ وحی کے نزول اور معجزات کے عطا ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں۔ صحابہؓ نے کہا پھر حضرات انبیاء علیہم السلام کا ایمان عجیب ہے فرمایا تمہیں لیا ہوا کہ میں تمہارے سامنے ہوں۔ رات دن تم میرے مجازات دیکھتے ہو۔ نزول وحی کا مشاہدہ کرتے ہو پھر بھی ایمان نہ لاؤ۔ صحابہؓ نے عرض کیا پھر حضورؐ نے بتاؤ میں کس کا ایمان عجیب ہے فرمایا عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے جو صرف چند اور اق قرآنی گو دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کا سب مال و متعال لے لیا جائے اور ایک نگاہ سے مجھ کو دیکھ لیں۔ تو ان لوگوں کے ایمان کے عجیب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا ایمان انبیاء ملائکہ و صحابہؓ کے ایمان سے اکمل وقویٰ ہے ہرگز نہیں عجیب ہونا اور بات ہے۔ کامل وقویٰ ہونا اور بات ہے۔

میں یہ کہہ رہا تھا کہ طبعی غم اور چیز ہے اور فکر کرنا۔ سوچنا اور چیز ہے اول غیر اختیاری ہے اور دوسرا درجہ اختیاری ہے۔ اسی کے قطع کرنے کا حکم ہے کہ تم نہ سوچو کہ ہائے اب کیا ہوگا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت ہاجرہ نے نہیں سوچا۔

حیف باشد ول دانا کہ مشوش باشد  
افسوس ہے کہ عقلمند آدمی کا دل پر یشان رہے

## فکر عذاب آخرت

شاید اس پر یہ سوال ہو کہ کیا عذاب آخرت کا سوچنا بھی برا ہے کہ ہائے میرا کیا انجام ہو گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب آخرت کا سوچنا دوسری خاصیت رکھتا ہے وہ تو مجھی ہے کہ تمام پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے۔ اس سے کلفت و کدورت نہیں ہوتی۔ بلکہ اس فکر سے قلب میں نورانیت وال شراح ہوتا ہے جس کا راز یہ ہے کہ اس فکر سے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور تعلق ہو جاتا ہے اور تعلق مع اللہ تمام پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے۔ حدیث میں ہے

من جعل الهموم هما واحداً هم الآخرة كفى الله همومه ومن تشعبت همومه في  
الدنيا لا يبال الله به باى واد هلك (سن ابن ماجہ: ۲۵۷) (او کما قال)

یعنی جس نے اپنے سب فکروں کو ایک فکر میں مغم کر دیا۔ یعنی آخرت کے فکر میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے افکار کو دور کر دیتے ہیں اور جس نے دنیا کے اندر افکار کو منتشر کر رکھا ہے خدا کو اس کی پرواہ نہیں کرہے کہیں جا کر ہلاک ہو۔ اسی لئے شریعت نے فکر آخرت کی تعلیم تاکید کے ساتھ کی ہے کیونکہ یہ فکر تمام مضر افکار کو قطع کرنے والا ہے حدیث میں ہے

يَا عَبْدَ اللَّهِ عَدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ إِذَا اصْبَحْتَ فَلَا تَحْدُثْ

نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَإِذَا امْسَلَيْتَ فَلَا تَحْدُثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ (لم

أَجَدَ الْحَدِيثَ فِي "مُوسَوعَةِ أَطْرَافِ الْحَدِيثِ") (او کما قال)

اے عبد اللہ بن عمر و اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ جب صبح ہو تو شام کی امید نہ کرو۔ جب شام ہو تو صبح کی امید نہ کرو۔

بتلا یئے جس شخص کی یہ حالت ہو گی۔ وہ کیونکر مشوش و پریشان ہو سکتا وہ تو یہ سمجھے گا کہ کوئی مصیبت باقی رہنے والی نہیں۔ کیا خبر صبح سے شام اور شام سے صبح بھی ہو گی یا نہیں۔

اب سب اشکالات رفع ہو گئے اور ثابت ہو گیا کہ پریشانی کی جڑ تجویز ہے اور طبعی غم اس سے بڑھتا ہے کہ لوگ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہائے اب کیا ہو گا کیونکر ہو گا کبھی مستقبل کو سوچتے ہیں کبھی ماضی کو سوچتے ہیں کہ ہائے وہ بچہ مر گیا وہ یوں کھلیتا تھا۔ اس طرح باقیں کرتا تھا۔ یوں آکر لپٹتا تھا۔ پس تم دنیا کے مصائب کو از خود سوچ سوچ کرنے بڑھاؤ نہ کسی تجویز کو طے کرو بلکہ خدا کی تجویز میں اپنی تجویز کو فنا کر دو۔

ابتداء میں تو اہل اللہ کو یہ حالت تکلف کے ساتھ حاصل ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی حکمت و قدرت کو سوچ سوچ کر اپنے ارادہ اور تجویز کوفتا کرنا پڑتا ہے پھر یہ حالت ان کے لئے امر طبعی بن جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت بہلوں نے کسی عارف سے پوچھا کہ مزاج کیسا ہے فرمایا! اس شخص کا مزاج کیا پوچھتے ہو کہ عالم میں کوئی فعل اس کی خواہش کے خلاف نہیں ہوتا کہا یہ کیونکر؟ فرمایا کہ میں نے اپنی خواہش کو خدا کی خواہش میں فنا کر دیا ہے اور خدا کی خواہش کے خلاف عالم میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو میری خواہش کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوتا۔

صاحب! یہ کچھ مشکل کام نہیں کہ اپنے ارادہ کو دوسرا کے ارادہ کا تابع کر دیا جائے۔ ایک بچہ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک لڑکا کانپور میں زبردستی ایک شخص کا امام بن گیا۔ اس نے یہ کیا کہ اس کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ اور گوشہ چشم سے دیکھتا رہا کہ وہ کیا کرتا ہے جب وہ رکوع میں جانے کو ہوتا یہ اس سے پہلے رکوع کر دیتا۔ جب وہ سجدہ کرتا چاہتا یہ اس سے پہلے سجدہ میں چلا جاتا۔ اسی طرح ساری نماز میں اس کا امام بنا رہا۔

توجب ایک بچے نے اپنے ارادہ کو دوسرا کا تابع کر کے دھکلادیا تو کیا آپ خدا کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے ارادہ کو اس کے ارادہ کا تابع کر دیں کہ جو کچھ ہو گا ہم اس پر راضی ہیں۔ اس پر عمل شروع کر دیجئے اور برابر کرتے رہئے۔ ان شاء اللہ ایک دن ملکہ رائخ پیدا ہو جائے گا۔ اور اسی سے راحت حاصل ہو گی۔ بدؤں اس کے راحت نہیں مل سکتی۔ اور یہ کچھ مشکل نہیں کیونکہ کثرت تکرار سے سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔

دیکھئے! آج کل جو لوگ پختہ حافظ ہیں وہ پہلے ہی دن سے پختہ نہیں ہوئے بلکہ کثرت تکرار سے پختہ بنے ہیں۔ آج جو خوشنویں ہے وہ کثرت مشق ہی سے خوش نویں ہوا ہے۔ اسی طرح آپ بھی کثرت تکرار سے تفویض کو حاصل کر لیں گے۔ اور یہ کوئی بزرگی نہیں کہ عوام اپنے کو اس کا اہل نہ سمجھیں بلکہ یہ تو عبدیت اور بندگی ہے۔ غلام کو ایسا ہی ہونا چاہئے۔

### تقلید شخصی

صاحب! اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق کیونکر نہ پیدا کیا جائے حالانکہ شیخ کے ساتھ بھی جو ایک مخلوق ہے اسی معاملہ کی ضرورت ہے۔ شیخ سے جس کام کے لئے تعلق پیدا کیا جاتا ہے وہ بدؤں تفویض کے نہیں ہو سکتا کو جو حالت پیش آئے۔ اس کو شیخ سے عرض کر کے بے فکر ہو جائے۔ اس کے بدؤں کام نہیں چل سکتا۔ کیونکہ تسلی کی یہی صورت ہے کہ ایک شخص پر اعتماد کر کے جو وہ کہے اس

کے موافق کام کرتے جاؤ بے فکر ہو جاؤ۔ اور یہی حکمت ہے تقلید شخصی میں۔ واللہ بدھوں تقلید کے غیر مجتہد کو۔ بشرطیکہ خدا کا خوف اس کے دل میں ہو کبھی چین نہیں مل سکتا۔ جب چاہو تجربہ کر کے دیکھ لو۔ پس اگر شیخ تمہاری تسلی کرے تو تم تسلی رکھو اور فکر میں نہ پڑو۔

یہاں تھانہ بھون میں ہی ایک حافظ صاحب تھے۔ وہ مولانا گنگوہی سے بیعت تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے کچھ حالات مجھ سے بیان کئے میں نے تسلی کی کہ یہ حالت بری نہیں بے فکر ہو۔ کہنے لگکے کہ میں نے حضرت مولانا گنگوہی سے بھی عرض کیا تھا۔ انہوں نے بھی تسلی کی تھی۔ میں یوں سمجھا کہ ویسے ہی میرا دل بہلانے کو تسلی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا حافظ صاحب تو بے کیجئے۔ مولانا کو جھوٹی تسلی کی کیا ضرورت تھی۔ وہ کسی کے نوک ہیں ان کی جوتی کو کیا عرض پڑی ہے۔ جو بلا وجہ آپ کی تسلی کریں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو حضرت پر اعتماد نہیں۔ اب ان کی آنکھیں کھلیں اور چین سے بیٹھے۔

میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر شیخ کی تسلی غلط بھی ہو جب بھی تم کو وہی نافع ہے۔ اگر تم اس کو غلط سمجھو گے تم کو نقصان ہو گا۔ توجہ شیخ کے ساتھ بھی اسی معاملہ کی ضرورت ہے تو حیرت ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تفویض کا تعلق نہ ہو۔

## روح اور عقل

اسی کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر بیان فرماتے ہیں اَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كہ خدا ہی کی سلطنت آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ پس ہر قسم کا تصرف حق اسی کو ہے دوسروں کو کسی تجویز کا حق نہیں۔ گواں میں یہ اختال تھا کہ تصرفات تشریعیہ کا حصر مراد ہو۔ مگر آگے بھی دیمیت بھی مذکور ہے جو میرے مقصود کے مناسب ہے بلکہ اس میں تصریح ہے کہ مراد تمام تصرفات تکوینیہ کو بھی عام ہے کیونکہ احیاء و اماتت امور تکوینیہ سے ہے اور یہ بات تو کل ہی سمجھ میں آئی ہے کہ بھی دیمیت سے کوئی تصرف خارج نہیں بلکہ تمام تصرفات کا حاصل احیاء و اماتت ہی ہے۔

شاید تم کہو کہ کیا کھیتی کا اگانا اور پکانا بھی اس میں داخل ہے تو میں کہوں گا ہاں وہ بھی احیاء کا ایک فرد ہے۔ اسی لئے ارشاد ہے کہ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (جان او کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے)۔ (پ ۲۷) حاورات میں احیاء نفع روح کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ عام ہے اور ہر شے کا احیاء الگ ہے۔

دوسرے میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ ہر چیز میں روح بھی ہے۔ صوفیاء کو تو اس کا کشف ہوا

ہے اور فلاسفہ دلائل سے اس کے قائل ہوئے تھیں اور میری رائے تو یہ ہے کہ حیوانات میں علاوہ روح کے عقل بھی ہے کیونکہ بعض حیوانات کے افعال اس پر مجبور کرتے ہیں کہ ان کو ذی عقل مانا جائے۔ لیکن اس سے ان کا مکلف ہوتا لازم نہیں آتا کیونکہ عقل کا ہر درجہ تکلیف کے لئے کافی نہیں۔ دیکھئے صحیحی مراہق میں بھی عقل کا ایک درجہ موجود ہے۔ مگر مراہق مکلف نہیں۔ تو اگر ایسا ہی درجہ حیوانات میں تسلیم کر لیا جائے تو اس پر کوئی اشکال وار نہیں ہوتا۔

یہیں سے سمجھ لیا جائے کہ بعض مبادیوں کے متعلق جن میں بظاہر کچھ عقل بھی معلوم ہوتی ہے شہنشہ کیا جائے کہ عقل کے ساتھ ان سے افعال و اقوال غیر مشروع کا صدور کیونکر ہوتا ہے۔ تم ان کو کافرنہ کہو کیونکہ ممکن ہے وہ صبی کے مثل ہوں کہ باوجود کسی قدر عاقل ہونے کے مکلف نہ ہوں۔ بلکہ حیوانات سے تجاوز کر کے ممکن ہے کہ نباتات میں بھی عقل کا ایک درجہ موجود ہو جو عقل حیوانی سے کم ہو۔ آپ کو حیرت ہو گی کہ آج کل بعضی اس کے قائل ہیں کہ نباتات میں روح ہے۔ اور قدما فلاسفہ میں بھی بعض اس کے قائل ہوئے ہیں۔ سو ہم کو اس کے انکار کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ممکن ہے کہ جمادات میں بھی عقل و روح موجود ہو اور ان کی عقل نباتات سے بھی کم ہو۔ اسی لئے جمادات کا نقطہ ممکن ہے اور جن احادیث میں حجر و شجر کی شہادت کا ذکر ہے وہ اس کی مؤید تھیں اور جب ہر چیز میں روح ہے تو احیاء و اماتت سے کوئی تصرف خالی نہ ہوا۔

شاید تم کہو کہ ابرادماء میں احیاء اماتت کہاں ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں ایجاد برودت ہے اور ایجاد ہی کا نام احیاء ہے اب اگر کسی کوشش ہو کہ یہ کام تو بندہ بھی کر سکتا ہے چنانچہ پنکھا کر کے یا شورہ ملا کر پانی کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بندہ صرف اسباب کو اختیار کرتا ہے جن پر برودت کے وجود کو اللہ تعالیٰ مرتبہ فرماتے دیتے ہیں۔ اگر تم کو ایجاد برود پر قدرت ہے تو ذرا ان اسباب کو اختیار کر کے برودت کو روک دو۔ جب یہ نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا کہ تم برود کو ایجاد نہیں کرتے ورنہ اس کے روکنے پر بھی قادر ہو تے کیونکہ قدرت کا تعلق ضدین سے ہوا کرتا ہے۔

### حضرت ابراہیم اور نمرود مردوں

خلاصہ یہ کہ ابرو حقیقی اسباب برداختیار کرنے کا نام نہیں بلکہ ایجاد برداخت کا نام ہے اور یہ تمہارا کام نہیں کیونکہ تم اسباب و سببات کے ایجاد پر قدر نہیں صرف ان کو اختیار کرتے ہو تو اختیار کے بعد ان کا اثر نہیں روک سکتے۔

یہی وہ بات ہے کہ نمرود بوزن مردوگد ہے نہیں کبھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحی و یحیت (پ ۳) کہ میرا خدا احیاء و اماتت کرتا ہے تو اس نے کہا رکام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اسکے بعد قید خانہ سے دو قیدیوں کو بلا کر ایک کو مارڈا لایک کو رہا کر دیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ تو محض گدھا ہے اس پر گھوڑے کا پالان کیوں لادا۔ تو آپ نے دوسری دلیل بیان فرمائی کہ میرا خدا تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال دے اس پر وہ بہوت ہو گیا اور کوئی جواب نہ بن پڑا۔

اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ نمرود اس کے جواب میں کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے تو میں نکلتا ہوں اگر خدا کوئی ہے تو اس سے کہو کہ مغرب سے نکالے۔

اس کا جواب ہمارے بعض اساتذہ نے یہ دیا ہے کہ ہاں اس کو اس کہنے کی گنجائش تھی۔ مگر خدا تعالیٰ نے یہ جواب اس کے دل میں نہیں ڈالا کیونکہ اگر وہ یہ جواب دیتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ سے دعا کرتے اور آفتاب مغرب سے طلوع ہو جاتا۔ اور یہ علامت قیامت سے ہے تو اسی وقت قیامت قائم ہو جاتی۔ مگر اللہ تعالیٰ کوابھی عالم کا بقاء مقصود تھا۔ اس لئے نمرود کے دل میں یہ سوال نہیں ڈالا۔

خارق روشن کو طلوع الشمس من المغرب پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ روشن ایک ساعت کے لئے اس طرح ہوا کہ کسی کو معلوم ہوا کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ اور طلوع من المغرب مثل طلوع من المشرق کے تمام آفاق کو عام ہو گا۔

پس آیت کے عظیم ہونے کے سبب اس کا اشرط ساعت سے ہونا مناسب ہے۔

وَهُی میرے استاد یہ بھی فرماتے تھے کہ بہت الذی کفر (پ ۳) میں بہت بصیرہ مجہول اسی لئے لایا گیا کہ اس کافر مجہول کو حیران بنادیا گیا۔ اس لفظ میں اشارہ ہے کہ اس کو سوال کی گنجائش تھی مگر اس کو حیران بنا دیا گیا مگر یہ نکتہ اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب کہ بہت معروف بھی متعدد حیرت میں ڈالنے کے معنی میں مستعمل ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ بہت مجہول ہی تحریر کے معنی میں ہے اور اس کا معروف متعدد مستعمل نہیں۔ اس مقام پر ایک علمی اشکال ہے۔ میں اس کو بھی رفع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ علم مناظرہ میں یہ طے ہو چکا ہے کہ مناظر کو ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال جائز نہیں ورنہ مناظرہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل کی طرف کیوں انتقال کیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال اپنی مصلحت سے منوع ہے اور مخاطب کی مصلحت سے جائز ہے جب کہ وہ بلاوت فہم کی وجہ سے دلیل اول کو نہ سمجھ سکے۔ نمرود احمد تھا وہ سمجھا نہیں کہ احیاء و ممات کے معنی ایجاد حیات و ایقاع موت کے ہیں اور ابقاء حی کو احیاء نہیں کہتے نہ قتل کو ممات کہتے ہیں کیونکہ قتل عین موت نہیں۔ بلکہ سبب موت ہے اور بعض دفعہ قتل سے موت کا تخلف بھی ہو جاتا ہے۔

چنانچہ ایک معتبر شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک پادری پر کچھ تہمت لگ گئی تھی۔ اس نے غلبہ حیاء میں کمرہ میں بند ہو کر خود کشی کر لی۔ اس طرح آئینہ سامنے رکھ کر استرے سے گلا کاٹ دیا۔ اور گلا کٹ کر کمر کی طرف انک گیا صرف تھوڑی سی کھال الجھی ہوئی رہ گئی۔ نوکروں کو جو کمرہ سے خون بہتا ہوا نظر آیا انہوں نے فوراً اکٹھا اور پولیس کو اطلاع دی۔ ڈاکٹر آیا اس نے دیکھا کہ ابھی بیض و جسم میں حرارت موجود ہے۔ اس نے فوراً سر کو اپنی جگہ پر رکھ کر نکنے لگادیئے اور دوالگادی۔ چند گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آگیا اور بے حیاء اچھا خاصا ہو کر بہت عرصہ تک زندہ رہا۔ البتہ آواز ذرا لگنگی ہو گئی تھی۔

پس ایسے واقعات اس کی دلیل ہیں کہ قتل اور قطع حلقوم عین موت ہیں۔ بلکہ محض اسباب میں سے ہے۔ جیسے سنکھیا کھانا اسباب میں سے ہے عین موت ہیں۔ اسی لئے بہت سے سنکھیا کھا کر رفع بھی جاتے ہیں۔ پس نمرود کی یہ حماقت تھی کہ اس نے قتل کو ممات سمجھا اور ایک مجرم کو رہا کر دینے کو احیاء اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیقق دلیل کو چھوڑ کر ظاہر دلیل اختیار کی۔

یہ گفتگو اس پر چلی تھی کہ اسباب برداختیار کرنے کا نام ابراد ہیں۔ جیسا کہ نمرود نے اسباب قتل کو ممات اور ترک اسباب موت کو احیاء سمجھا تھا۔ بلکہ ابراد میں حقیقت ہے۔ ایجاد برداختیا کہ احیاء کی حقیقت ہے ایجاد حیات اور یہ بجز خدا تعالیٰ کے کسی کے قبضہ میں نہیں۔ پس سچی ویسیت کا حاصل یہ ہوا کہ تمام تصرفات اللہ تعالیٰ کے تفضیلی میں ہیں۔

## مسئلہ تقدیر کی حکمت

رہایہ کہ اس عقیدہ کے بتلانے کی کیا حکمت ہے۔ سوں کو بھی ایک نص میں خود ہی بیان فرمادیا ہے۔

**مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتْبٍ مِنْ قَبْلِ**

**أَنْ نُبَرَّأَهَا طَإِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (۲۷)**

(کوئی مصیبہ نہ دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں (یعنی لوح محفوظ میں) لکھی ہے قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں یہ اللہ)

یہاں تک تو مسئلہ تقدیر کا بیان تھا۔ آگے اس کی حکمت بتلاتے ہیں  
 لَكِنَّا لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَخُوا بِمَا أَتَكُمْ۔ (پ ۷۷)  
 (یہ بات) (بتلا اس واسطے دی ہے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پر (رنج) اتنا مت  
 کرو اور تاکہ جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے اس پر اتراؤ نہیں)  
 کہ یہ مسئلہ تم کو اس لئے تعلیم کیا گیا تاکہ تم کو کسی فوت ہونے والی شے پر رنج نہ ہو۔ اور کسی  
 حاصل ہونے والی شے پر فرح نہ ہو کیونکہ فرح مطلقاً محمود نہیں بلکہ فرح شکرا ہو وہ محمود ہے اور اسی کا  
 ذکر ہے اس آیت میں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيَفْرَخُوا (پ ۱۱)  
 (آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں کو خدا کے اس انعام اور رحمت پر خوش  
 ہونا چاہیے) اور جو فرح بطرأ ہو وہ محمود نہیں بلکہ مذموم ہے چنانچہ قارون کے قصہ میں ارشاد ہے۔

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمَهُ لَا تَفْرَخُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِجِينَ (پ ۲۰)

(جبکہ اس کو اس کی برادری نے (سمجھانے کے طور پر) کہا کہ تو اس (مال و حشمت پر) اترا  
 مت۔ واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا)  
 اسی تقسیم کی بناء پر حدیث میں ہے من اعطی لله ومنع لله فقد استكممل الايمان  
 (سنن الترمذی: ۲۵۲۱، مسند احمد: ۳۲۸: ۳) (اوکما قال)

(جس نے اللہ تھی کے لئے دیا اور اللہ تھی کے لئے روکا اس کو ایمان کامل نصیب ہوا)

اس میں اعطاء و منع دونوں کے ساتھ اللہ کی قید ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سخاوت مطلقاً  
 محمود نہیں نہ بخل مطلقاً مذموم بلکہ اگر خدا کے لئے ہوں، تو دونوں محمود و رونہ دونوں مذموم۔

اب آپ کو حاجی صاحب کی ایک تحقیق کی قدر ہو گی۔ فرماتے تھے کہ اخلاق رذیلہ فی نفسہا  
 مذموم نہیں۔ بلکہ خاص مصرف کے اختیار سے مذموم ہیں اور اگر ان کو طاعات میں صرف کیا جائے  
 تو یہ محمود ہیں۔ اسی طرح اخلاق حمیدہ بھی افضلی طاعت الحق کی وجہ سے محمود ہیں۔ پس اگر سخاوت  
 وغیرہ معاصی کی طرف مفہومی ہو جائے تو محمود نہیں بلکہ مذموم ہیں۔

غرض! اخلاق سب فطری اور جملی ہیں اور درجہ فطرت میں کوئی خلق نہ مذموم نہ محمود۔ بلکہ  
 موقع استعمال سے ان میں مدح و ذم آجائی ہے۔ اسی کی نوع سے فرح بھی ہے یہ مطلقاً محمود نہیں  
 بلکہ بعض افراد اس کے مذموم بھی ہیں۔ جن کا ترجمہ عجیب اور پندرہ اور اترانے ہے۔

تو مسئلہ تقدیریں لئے بتایا گیا تاکہ مصائب میں کسی شے کے فوت ہونے سے رنجیدہ نہ ہو اور نعمت و راحت پر اترائے نہیں کیونکہ قائل تقدیر یہ سمجھے گا کہ جو کچھ حاصل ہوا میرے کسب و کمال سے نہیں بلکہ تقدیر میں یوں ہی تھا۔ اور آئندہ کی خبر نہیں کہ تقدیر میں کیا ہے تو وہ کبھی نہ اترائے گا نہ دنیا سے دل لگائے گا۔ اور یہ راحت کی چیز ہے کیونکہ مشاہدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو دنیا سے زیادہ خوشی ہوتی ہے زوال کے وقت ان کو اسی قدر رنج بھی ہوتا ہے اور اگر خوشی نہ ہو یا اعتدال سے ہو تو رنج بالکل نہ ہو یا اعتدال سے ہو۔

حضرت! میں سچ کہتا ہوں کہ قلب کو جتنی قوت اعتقاد تقدیر سے ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ کفار چاہے لاکھ یا قوتویاں کھائیں۔ مگر اس اکسیر کے سامنے سب گرد ہیں۔ بخدا تقدیر کا اعتقاد دل کو نہایت مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ شخص کسی حالت میں متزلزل نہیں ہوتا جو مصیبت سامنے آئے گی یوں کہے گا کہ یہ تو مقدر تھی ملنے والی نہ تھی خواہ میں راضی ہوں یا ناراض۔ پھر خدا کی تقدیر سے ناراض ہو کر عاقبت بھی کیوں خراب کی۔

نیزانی کی ساتھ اس کے دل میں یہی آتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ یہ تو حکمت کا علم اجمانی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چاہئے کہ احادیث میں جو تفصیلی حکم تین مصائب و حوادث کی مذکور ہیں۔ نیزان پر ثواب بتایا گیا ہے ان کو پیش نظر رکھیں تو ان شاء اللہ عَمْ بہت کم ہو جائیگا۔

### بچپن کی موت کی اہمیت

چنانچہ چھوٹے بچوں کی موت میں ایک بڑی حکمت ہے۔ اگر وہ پیش نظر رہے تو چھوٹے بچوں کے مرنے پر غم کے ساتھ خوشی کا بھی ایک پہلو سامنے ہو گا لوگوں کو اولاد کے بڑے ہونے کی خوشی محس اس لئے ہے کہ ان کا نفس یوں ہی چاہتا ہے۔ ورنہ ان کو کیا خبر کہ بڑے ہو کر یہ کیسا ہو گا۔ باعث راحت والدین ہو گا یا وصال جان ہو گا۔ پھر وہ بڑا ہو کر مرے تو یہ خبر نہیں کہ وہ والدین کو آخرت میں کچھ لفظ دے گایا خود ہی سہارے کا محتاج ہو گا۔ اور بچپن میں مرنے والے بچے بہت زیادہ کار آمد ہیں۔ ان میں یہ احتمال ہی نہیں کہ دیکھئے آخرت میں یہ خود کس حال میں ہو کیونکہ غیر مکلف تو یقیناً مغفورالہ ہے وہ آخرت میں والدین کے بہت کام آئے گا۔

ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ انہوں نے جوانی میں نکاح تھا کیا تھا۔ اور مجرد ہی رہنے کی نیت کی تھی۔ ہر چند مریدوں نے عرض بھی کیا۔ مگر آپ نے منظور نہ کیا ایک دفعہ دو پھر کو سوکراٹھے تو اسی وقت تقاضا کیا کہ جلدی میرا نکاح کرو۔ مریدوں نے فوراً تعمیل کی۔ ایک مرید نے اپنی لڑکی سے نکاح کر دیا آپ نکاح کے

حقوق ادا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک لڑکا بھی پیدا ہوا۔ اور کچھ دنوں کے بعد مر گیا۔ تو آپ نے فرمایا الحمد للہ صراحتاً حاصل ہو گئی۔ اور بیوی سے کہا کہ اب مجھے تیری ضرورت نہیں میرا جو مقصود تھا پورا ہو گیا۔ اب اگر تو نکاح کا لطف حاصل کرنا چاہے تو میں طلاق دے کر کسی جوان صالح سے تیرانکاح کر دوں اور اگر میرے پاس رہنا چاہے تو کھانے پہنچنے کی تیرے واسطے کمی نہیں مگر حقوق نکاح کا مطالبہ نہ کرنا۔ وہ لڑکی بھی نیک تھی۔ اس نے کہا مجھے صرف آپ کی خدمت مقصود ہے اور کچھ مطلوب نہیں۔

مگر خدام کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی کہ یا تو اس تقاضے سے نکاح کیا تھا یا اب طلاق کو اماماً دہ ہو گئے۔ انہوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے نکاح کا تقاضا کسی نفسانی ضرورت کی وجہ سے نہیں کیا تھا۔ بلکہ اس کا مشایع تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان قیامت برپا ہے اور لوگ پل صراط سے گزر رہے ہیں جو دوزخ کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے قدم ڈگھا کے اور قریب تھا کہ جہنم میں جاگرے و فتحاً ایک بچہ نے آ کر اس کو سنجالا اور مضبوطی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر بجلی کی طرح پل صراط سے پار کر کے لے گیا۔ میں نے دو فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون بچہ تھا کہاں اسی شخص کا بیٹا تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا تھا آج اس کا شفیع ہو گیا۔ خواب سے بیدار ہو کر مجھے فکر ہوئی کہ میرے پاس آخرت کی اور جائیدادیں تو ہیں نماز، روزہ وغیرہ یہ جائیداد نہیں۔

زمیندار کو ہر قسم کی جائیداد جمع کرنی چاہئے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایک جائیداد میں پیداوار نہیں ہوتی۔ دوسری میں ہو جاتی ہے کبھی نیشکر میں نفع ہو گیا اور گیہوں کے کھیت میں نقصان۔ دونوں مل کر اوسط برابر ہو جاتا ہے کبھی باعث میں فائدہ ہو گیا۔ جانوروں میں خسارہ ہو گیا تو ہر قسم کی جائیداد والا فائدہ ہی میں رہتا ہے۔ اس لئے ان بزرگ نے چاہا کہ یہ جائیداد بھی پاس ہونا چاہئے۔  
چنانچہ نکاح ہوا اور بچہ پیدا ہو کر مر گیا۔ تو ان کا مقصود حاصل ہو گیا۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے جنت میں بھی بچے ہی رہیں گے۔ اور ان کی خصلتیں بھی بچوں کی سی رہیں گی۔ وہی ضد کرنا اور اپنی بات پر اڑ جانا۔ سر ہو جانا۔ مگر یہ حالت دخول جنت سے پہلے ہو گی پھر جنت میں پہنچ کر باپ بیٹے سب برابر ایک قد کے ہو جائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ بچے اڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے جب تک ہمارے ماں باپ کو ہمارے

حوالے کیا جائے۔ ہم تو ان کو اپنے ساتھ ہی لے کر جنت جائیں گے تو حق تعالیٰ فرمائیں گے:

ایها الطفل المراغم ربہ ادخل ابویک (المصنف لابن ابی شیبۃ ۳۵۳:۳)

کہ اے صدی بچے اپنے خدا سے ہٹ کر نیوالے، جا اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جا۔

اس وقت یہ خوش خوش جنت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جائیں گے تو یہ بے گناہ بچے اللہ میاں سے بھی آپ ہی بخشش کے لئے ضد کریں گے اور اگر بچہ بڑا ہو کر مر جائے تو حضرت خضر کا واقعہ یاد کر کے دل کو یہ سمجھا لو کہ نہ معلوم اس میں کیا حکمت ہو گی۔ شاید اگر یہ اور زندہ رہتا تو دین کو بگاڑ لیتا یاد نیا میں و بال جاں ہو جاتا۔ مولا نا فرماتے ہیں

آں پر راکش خضر بیر یہ حلق سر آں در نیا بد عام خلق  
”جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا اس کا بھید عام لوگ نہ پاسکے۔“

## اولاد نہ ہونے کی حکمت

اگر کسی کے بالکل ہی اولاد نہ ہو وہ یوں سمجھے کہ میرے لئے یہی حکمت ہے نہ معلوم اولاد ہوتی تو کون کن مصائب کا سامنا ہوتا۔ چنانچہ خدا نے مجھے اولاد نہیں دی۔ میں اس کو اپنے واسطے میں حکمت سمجھتا ہوں۔

حضرت حاجی صاحب سے میرے گھر میں خالہ نے دعا کے واسطے عرض کیا تھا کہ اشرف علی کے اولاد ہو جائے۔ حاجی صاحب مجھ سے فرمانے لگے کہ بھائی تمہاری خالہ اولاد کے لئے دعا کرنے کو کہتی تھی۔ دعا سے کیا انکار ہے لیکن میراجی تو یہی چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں ایسے ہی تم رہو۔ میں نے دل میں کہا کہ بس تو خیر صلا ہے اگر آپ دعا بھی کریں گے جب بھی اولاد نہ ہو گی کیونکہ دل منشأ تو یہ ہے اور تو چنیں خواہی خدا خواہ ہر چنیں مید ہد یزداد مراد متنقین

”تو ایسا چاہتا ہے اور خدا ایسا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کی مراد پوری فرماتا ہے۔“  
میں نے کہا حضرت بس! میں وہی چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔

اولاد نہ ہونے میں بعض کے لئے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس شخص کے تعلقات دنیا میں نہیں بڑھتے۔ اور اولاد والے کے تعلقات بہت بڑھ جاتے ہیں چنانچہ ہماری پھوپھی صابہ میرے لئے اس طرح دعا کیا کرتی تھیں کہ اے اللہ! میرے بھتیجے کا بھی سا جھا دنیا میں رلا دے (یعنی اولاد دیدے) میں غصے ہوتا تھا کہ تم مجھے کوئی ہو دنیا دار بنا نا چاہتی ہو مگر یہ عنوان بتلار ہا ہے کہ اہل عرف کے نزدیک دنیا کے اندر وہی پھنستا ہے جو صاحب اولاد ہو اور اس سے خود سمجھا لو کہ جو

صاحب اولاد نہ ہو وہ کیا ہو گا۔ وہ دنیا سے بے تعلق و بے لوث ہو گا۔ بلکہ یوں کہئے کہ اللہ والا ہو گا۔ اب تم خود مجھ لو کہ اللہ والا ہونا اچھا یا دنیا والا ہونا اچھا۔ مگر یہ بعض کے اعتبار سے ہے ورنہ بعض اولاد والے بے تعلق رہتے ہیں اور بعض بے اولاد دنیا دار ہوتے ہیں۔

چنانچہ اگر میرے اولاد ہوتی تو شاید میرے لئے تکلیف کا سبب ہوتی کیونکہ مجھے تعلقات سے پریشانی ہوتی ہے نیز مجھے انتظام کا ہیضہ ہے مدار نظامی سے مجھے خستا جھن ہوتی ہے اور اولاد کا انتظام سب سے زیادہ ٹھوار۔

## اولاد اور امانت

بس حاصل یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دیں۔ اس کے لئے ہی اچھا اور جس کو نہ دیں اس کے لئے یہی اچھا اور جس کو دیں دے کر چھین لیں اس کے لئے یہی مصلحت ہے لله ما اخنو لله ما اعطی کا یہی مطلب ہے جو حدیث میں مصائب کی تسلیہ کے لئے وارد ہے اور یہی مطلب ہے انا لله کا اور اس اعتقاد کو صبر کے پیدا کرنے میں بڑا دخل ہے اور یہ قرآن کا طرز خاص ہے کہ ہر چیز کا طریقہ ساتھ ساتھ بتلا دیا جاتا ہے۔ یہاں صبر کا حکم تھا تو صبر کا طریقہ ساتھ ساتھ ہی بتلا دیا جیسا کہ سہولت نماز کا طریقہ بتلتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے انہا لکبیرہ کہ بے شک نماز گراں ہے آگے طریق سہولت مذکور ہے۔ الی علی الخشعين جس سے معلوم ہوا کہ خشوع کے بعد نماز ہل ہو جاتی ہے آگے خشوع کا طریقہ ارشاد ہے۔

الَّذِينَ يَظْنُنُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (ب ۱)

جس میں خشوع کا طریقہ یہ بتلایا کہ لقاء رب اور یوم آخرت کا وھیان رکھے اسی طرح یہاں انا لله اکن ۔ کے مضمون کو تحصیل صبر میں بڑا دخل ہے اور یہی وہ مضمون ہے جس کی وجہ سے حضرت ام سليم صاحبیہ نے کامل صبر فرمایا اور اپنے خاوند کو بھی صابر بنایا۔

ان کا قصہ حدیث میں اس طرح ہے کہ ان کا ایک بچہ بیمار تھا۔ حضرت طلحہ باہر سے آکر اس کا حال دریافت کیا کرتے۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا اور شام کو حضرت طلحہؓ نے تو حضرت ام سليم نے ان پر نظر اٹھیں کیا کہ بچہ کا انتقال ہو گیا تاکہ سن کر پریشان نہ ہوں اور پریشانی میں کھانا نہ کھائیں۔ بلکہ جب انہوں نے دریافت کیا کہ بچہ کیسا ہے تو یہ جواب دیا کہ اب سکون ہے۔ (یہ

۱۔ قلت واکمل الاحوال ما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و كذلك الا نباء كانت لهم ازواجا وذرية ودعا ابراہیم وزکریا عليهما السلام ان یولد لهم و استجبنا وعیسیٰ علیہ السلام یو لدلة بعد التزول ولی الحديث تزوجوا الودود الولود فانی اباہی بکم الا مم فینبغی ان یراعی جانت ذالک فی الكلام اظہر۔

جھوٹ نہ تھا کیونکہ موت سے بڑھ کر کیا سکون ہوگا جس کے بعد حرکت کی امید ہی نہیں) یہ سن کر انہوں کھانا کھایا اور رات کو بیوی کی طرف میلان بھی ہوا۔ بیوی نے بے انتہا صبر کیا کہ اس سے بھی انکار نہ کیا جب صبح ہوئی تو کہا کہ میں تم سے ایک مسئلہ پوچھتی ہوں۔

بھلا اگر کسی نے ہم کو کوئی چیز بطور امانت کے دی ہو پھر بعد میں وہ اپنی امانت کو واپس لینا چاہے تو کیا کرنا چاہئے۔ حضرت طلحہؓ نے جواب دیا کہ یہی چاہئے کہ جب مالک اس کو واپس لینا چاہے تو بڑی خوشی کے ساتھ واپس کر دیا جائے۔ حضرت ام سلیمؓ نے کہا تو اپنے بچہ کو صبر کرو اور خوشی کے ساتھ اس کے دفن کا سامان کرو۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنی امانت لے لی ہے۔

حضرت طلحہؓ بڑے جھلائے کہ تم نے رات ہی کو کیوں نہ خبر کی۔ کہا کیا ہوتا رات کو دفن کرنے میں مصیبت ہوتی اور رات بھر پر یشان رہتے۔ کھانا بھی نہ کھاتے اس لئے رات خبر نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت طلحہؓ گئے تو آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ام سلیم کا فعل بہت پسند آیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آج رات تم دونوں کو خدا نے مبارک اولاد عطا فرمائی ہے۔

(چنانچہ عبد اللہ بن طلحہؓ پیدا ہوئے جو بڑے عالم بڑے سخن اور صاحب اموال و اولاد تھے)

تو حضرت ام سلیمؓ نے سچ فرمایا کہ یہ اولاد اللہ کی امانت ہے اس کو جب وہ لینا چاہیں خوش ہو کر خدا کے حوالے کر دینا چاہئے۔

اس پر شاید یہ سوال ہوگا کہ یہ امانت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت کیوں دی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے تاکہ پروردش ہو سکے کیونکہ بدoul محبت کے اس پاخانہ کے ذمہ کی پروردش کرنا مشکل ہے۔ اسی لئے غیر کی اولاد پالنا بہت دشوار ہے اور جب بچہ کی پروردش ہو چکتی ہے تو محبت میں بھی کمی ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بیٹے کے ساتھوں یہی محبت نہیں ہوتی۔ جیسی چھوٹے سے ہوتی ہے۔

غرض اولاد کو بھی خدا کی چیز سمجھو کر اس کی امانت چند روز ہمارے پاس ہے پس کے فوت ہونے پر زیادہ ملاں نہ ہوگا۔ کیونکہ پریشانی کی بنا تو یہی ہے کہ تم ان کو اپنی چیز سمجھتے ہو اور یہ سمجھ کر ان کے متعلق تجویزیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنَّ اللَّهَ لَهُ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يعنی مالک بھی وہی ہیں ملک بھی وہی ہیں یہاں ملک سے ملک کامل مراد ہے جس کے ساتھ ملک بھی جمع ہو کیونکہ بدoul اس کے ملک ناقص ہے اور خدا نقسان سے بری ہے۔ اسی لئے ملکِ یوْم الدِّینِ بل مالکیت اور ملکیت دونوں کو جمع کیا گیا ہے دونوں قراءتوں میں۔ اور قراتین بنزلہ آتین کے ہیں۔

ہر ایک کا مفہوم ثابت کرنا لازم ہے کیونکہ ضرورت دونوں کی ہے ایک جہت سے ملکیت میں توں اور ایک جہت سے مالکیت میں۔ اس لئے مقصود دونوں کو جمع کرنا ہے۔ اسی لئے میں نے کہا کہ یہاں ملک سے مراد ملک کام ہے یا یوں کہو کہ لام دلمیں) ملک کے لئے ہے تو مالک ہونا اسی سے ثابت اور ملک ہونا لفظ ملک سے ثابت۔ اور ایک آیت میں وقراءتوں کو ایک ساتھ عمل میں جمع کرنا فقہا کے عمل سے ثابت ہے۔ چنانچہ حتیٰ یطہرون میں فقہا نے دونوں قراءتوں کو جمع کر کے احکام مستبط کئے ہیں۔ اسی طرح میں نے وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ میں دونوں قراءتوں کو جمع کیا ہے کہ دونوں کے مجموعہ کا مطلب یہ ہوا کہ پیروں کو مل کر دھویا کرو کیونکہ ان پر پانی بہالینا عموماً کافی نہیں ہوتا۔ اسی لئے فقہا نے دلک کو مطلقاً اور دلک رجلین کو خصوصاً مستحب کہا ہے۔

اسی طرح مالک یوم الدین میں دونوں کو جمع کیا گیا ہے مطلب یہ کہ وہ مالک بھی ہیں ملک بھی ہیں۔ ثواب جہاں اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ ملک مطلق آیا ہے وہاں یہی مجموعہ مراد ہو گا اور نہ محض ایک کے اعتبار میں لفظ لازم آتا ہے اور یہی نکتہ ہے من ولی ولا نصیر میں دونوں کے جمع کرنے میں کیونکہ ولی دوست کو کہتے ہیں خواہ وہ نصرت پر قادر ہو یا عاجز ہو اور نصیر مد دگار معاون کو کہتے ہیں خواہ دوست ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تم سے تعلق بھی ہے اور وہ تمہاری نصرت داعاثت پر بھی قادر ہیں اور اس مضمون کو صیغہ حصر کیا تھے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواتھمہارے کوئی مد دگار نہیں۔ اس حصر میں اس طرف اشارہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق رکھو اور کسی سے بالذات تعلق نہ رکھو۔

یہی خلاصہ ہے سارے سلوک کا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے سواتھمہارے کے سو اکسی شے سے تعلق نہ ہو گا تو پھر کسی شے کے فوت ہونے سے زیادہ قلق و غم بھی نہ ہو گا۔ بلکہ اس وقت حق تعالیٰ کو خطاب کر کے یوں کہے گا

روز ہا گر رفت گور و باک نیت تو بہاں اے آنکہ جز تو پاک نیت

”زمانہ اگر گزرتا ہے گزرنے دے کوئی خوف نہیں ہے تو نہ سمجھا کیونکہ تیرے بغیر مجھے چیز نہیں ہے۔“

### سالکیں کو تنبیہ

بس اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ البتہ اخیر میں سالکیں کو متذمہ کرتا ہوں کہ اس وقت جو مضمون میں نے بیان کیا ہے۔ جس طرح یہ مصائب دنیا کا خاتمہ کرنے والا ہے اس طرح سلوک کی تمام پریشانیوں کا بھی قلع قلع کرنے والا ہے۔ کیونکہ سلوک کی تمام تر پریشانیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سالک کو ثراۃ واحوال کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اور ان کے متعلق اپنی تجویزیں اور امیدیں قائم کر لیتا ہے۔ جب تجویز کے

خلاف ثمرات و کیفیات کے ظہور میں دیر ہوتی ہے تو پریشان ہوتا۔ اور شیخ سے شکا نہیں کرتا پھر تا ہے اور اس وقت کے بیان کا حاصل یہی ہے کہ بندہ کو تجویز کا کچھ حق نہیں۔ اپنی تجویز کو قطع کرو۔

دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تو اس کو چھوڑ کر دل لگانا غلطی ہے اور ثمرات و کیفیات غیر حق ہیں، اس لئے ان کا طالب نہ ہونا چاہیے۔

فرق وصل چہ باشد رضاۓ دوست طلب کہ حیف باشد از وغیر او تمیٰ جدائی اور ملاقات کیا ہوتی ہے دوست کی رضا طلب کر۔ بڑے افسوس کی بات ہے اس کا ہوتے ہوئے غیر سے آرزو رکھے۔

اور ثمرات سے مراد ثمرات غیر اختیار یہ ہیں ثمرات اختیار یہ نہیں۔ شاید کوئی عام سمجھ کر اختیارات کے فوت پر بھی راضی رہا کرے ہرگز نہیں۔ کیونکہ اختیاری امور میں اپنے اختیار کا صرف کرنا واجب ہے۔ ہاں ثمرات غیر اختیار یہ کے عدم حصول یا فوت سے غم نہ کرے۔ بس سمجھ لے کہ حق تعالیٰ کا تصرف ہے۔ ان کی یہی تجویز ہے مجھے اس پر راضی رہنا چاہیے۔

باغیاں گرچھ روزے صحبت گل بایدش بر جفاۓ خارہ جراں صبر بلبل بایدش  
اے باغیاں اگر تھوڑے دن کے لئے تجھ کو پھول کی صحبت نصیب ہو جائے سخت جدائی کے وقت تجھ کو بلبل جیسا صبر کرنا پڑے

اے دل اندر بند لفشد از پریشانی منال مرغ زیر چوں بدام افتتحمل بایدش  
اے دل اس کی زلف کی قید میں پریشانی سے مت رو۔ ہوشیار پرندہ جب جال میں پھنس جائے تو صبر کرنا چاہیے۔

سالکین کو بعض احوال ایسے پیش آتے ہیں کہ میں قسم تو نہیں کھاتا۔ گوغلہ نظر پر قسم کھانا بھی جائز ہے کہ اگر یہ حالات پہاڑ پر وارد ہوں تو پہاڑ پھٹ جائے اور وحی کے متعلق تو خود نص میں وارد ہے۔

لَوْأَنْزَلْنَا هذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لِرَأْيَتَهِ خَابِشَعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ (ب ۲۸)

(اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو (اے مخاطب) تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا)

یہ تو پہاڑ کے متعلق ارشاد ہے کہ اگر اس پر قرآن نازل ہوتا تو مکڑے مکڑتے ہو جاتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحمل مشاہدہ ہے کہ آپ نے تیس سال تک نزول قرآن کا ثقل برداشت

فرمایا۔ اور وہی میں یہ اثر عالم ملکوت سے تعلق ہونے کی وجہ سے ہے۔ اسی پر دوسرے حالات کو قیاس کرلو۔ جو عالم ملکوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پہاڑ تو کیا چیز ہے۔ عارفین نے تو اس امانت کا بار اٹھا رکھا ہے جس کے اٹھانے سے زمین و آسمان بھی عاجز تھے۔

قرعہ قال بنام من دیوانہ زدنہ  
آسمان بار امانت نتوانست کشید  
امانت کا بوجہ آسمان نہیں اٹھا سکا۔ قال کا پانسہ مجھ دیوانہ کے نام نکلا۔

تو سالکیں پر اگر ایسے حالات طاری ہوں جن سے پہاڑ پھٹ جائے تو کیا تعجب ہے تو ان کو اس مضمون کی کہ کیفیات کے متعلق خود کچھ تجویز نہ کرو اور ہر کیفیت کو خیر سمجھو۔ بہت قدر ہو گی۔ اس وقت اس سے بہت سہارا ملے گا اور رنج و غم زائل ہو جائے گا۔

## تعلق مع اللہ کی افادیت

صاحبوااللہ اگر حق تعالیٰ سے تعلق ہو جائے تو سب کافنا ہو جانا بھی ہل ہو جائے لور جس کو تعلق مع اللہ نصیب ہو گیا لور تقویض محض اختیار کر لی اس کے سامنے دنیا کے واقعات کیا چیز ہیں ان کو تو وہ چیزوں میں اڑادیتا ہے صاحبو اتم ای غرض سے سلوک اختیار کر لو کہ اس کذریعے سے حادثہ صائب ہل ہو جائیں گے سالک کے سامنے واقعات دنیوی کی ایسی مثال ہے جیسے سلطان محمود سلطانگیں کے شکر میں نقارہ جنگ کا اٹھانے والے اونٹ تھے یہ نقارے بہت بڑے بڑے اور بھاری تھے۔ ایک دفعہ شکر جارہا تھا اور نقارہ جنگ کا اونٹ ایک کھیت میں سے گزر ل کاشتکار کے لڑکے نے ڈھپر یا بجائی تاکہ اس کی آواز سے اونٹ بدک کر کھیت میں سے نکل جائے۔ ڈھپر یا کو دیکھ کر اونٹ بہت ہسا کہ میری کمر پر تو اتنا بڑا نقارہ بجتا ہے جس کی صدائے زمین و آسمان گونج اٹھتے ہیں۔ اس سے تو میں ذرتا ہی نہیں تیری ڈھپر یا سے ضرور ڈرول گا۔

حضرت! جس کے کمر پر کوئی محمودی رکھا ہوا ہو اس کو دنیا کی ڈھپر یا کب پریشان کر سکتی ہے۔ بس انہوں نے ایک غم لے لیا ہے جس نے عصائی موسیٰ کی طرح غم کے تمام سانپوں کو نگل لیا ہے اور خوشی بھی ان کو ایسی ہے کہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں۔

اس لئے ایک بزرگ فرماتے ہیں

لو علم الملوك بما عندنا لجادلونا بالسيوف.  
کہ اگر بادشاہوں کو اس دولت کی خبر ہوتی جو ہمارے پاس ہے تو وہ تکواریں لے کر ہم پر چڑھ آتے۔ اور اس دولت کو چھیننے کی کوشش کرتے۔

وہ حال میں خوش کیوں نہ ہو جب کہ جانتے ہیں کہ مصیبت غم سب محبوب کا دیا ہوا ہے پھر خوشی کیوں نہ ہو  
 نا خوش تو خوش بود بر جان من      دل فدائے یار دل رنجان من  
 تیراستا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے (یعنی جب تو مجھے ستاتا ہے) دل ایسے دوست کے قربان جو مجھے  
 ستاتا ہے۔ محبوب اگر عاشق کو آغوش میں لے کر زور سے دبانے لگے تو کیا عاشق کو اس رنج ہو گا ہرگز نہیں۔  
 گوہڈیاں پسلیاں نہ ٹلکیں اور گواں کے منہ سے آہ و نالہ نکل جائے۔ مگر دل سے خوش ہو گا اور کہہ گا  
 نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت      سر دوستاں سلامت کہ تو خجر آزمائی  
 دشمن کو نصیب نہ ہو کہ تیری تکوار سے ہلاک ہو۔ دوستوں کا سر سلامت ہے کہ تو اس پر خجر آزمائے۔  
 وہ آغوش سے نکنا بھی نہ چاہے گا۔ بلکہ آغوش یار ہی میں مر جانا چاہے گا اور یوں کہے گا  
 بحرم عشق تو ام می کشند دغوغانیست      تو نیز بر سر عام آ کہ خوش تماشا نیست  
 تیرے عشق کے قصور میں تکلیف اٹھا رہے ہیں اور شور کر رہے ہیں۔ تو بھی کوئی پڑھے پر آ جا کہ  
 بہت عمدہ تماشا ہے۔ اس وقت اس مراقبہ سے کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے تمام کلفت آسان ہو جاتی  
 ہے اور یہی مراقبہ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حادث کے وقت تعلیم فرمایا ہے۔  
 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (پ ۲۷)

(اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی (اس) تجویز پر صبر سے بیٹھے رہے کہ آپ  
 ہماری حفاظت میں ہیں)

خلاصہ علاج کا یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھا اور غیر خدا سے حالاً و عملاء و قاتل اور تعلق کم کرو۔  
 پھر دنیا و آخرت کی راحت تمہارے ہی لئے ہے اگر فقر و فاقہ بھی ہوا جب بھی تم کو راحت و چین، ہی  
 ہو گا۔ اور اس شعر کے مصدقہ ہو جاؤ گے  
 اے دل آں بہ کہ خراب از مے گلکوں باشی      بے زرخ گنج بعد حشمت قاروں باشی  
 ”اے دل یہ بہتر ہے کہ سرخ شراب سے مست ہو جائے۔ بغیر روپیہ اور خزانہ کے تو بڑا مال  
 دار ہو جائے۔“ بدلوں سرمایہ اور سامان کے تم سلطانین سے بڑھ کر سلطان ہو گے اور بادشاہوں کو  
 خطاب کر کے تم یوں کہو گے

میں حیر گدایاں عشق را کیں قوم      شہاں بے کمر و خسروان بیکله اند  
 ”مغلس عاشقون کو حقارت سے مت دیکھ کر یہ قوم کر کے لمبے شاہی کپڑے اور بغیر تاج کے بادشاہ ہیں۔“

گدائے مکیدہ ام لیک وقت مستی بیس کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم  
شراب خانہ کا فقیر ہوں لیکن بے خودی کے وقت آسمان پر ناز اور ستاروں پر حکم کرتا ہوں۔  
یعنی آپ کو حیات طیبہ حاصل ہو جائیگی۔ یہ توزندگی کی حالت ہوگی اور مرتے ہوئے یہ حالت ہوگی۔

**إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَسْرِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا  
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أُولَئِكُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَ إِنَّفْسَكُمْ وَلَكُمْ  
فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ (پ ۲۲)**

( بلاشبہ جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر مستقیم رہے ان پر فرشتے اتریں گے تم نہ  
اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو اور تم جنت پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا ہم تمہارے رفیق تھے  
دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور اس میں جس چیز کو تمہارا بھی چاہے گا موجود ہے  
اور نیز اس میں تمہارے لئے جو مانگو گے موجود ہے یہ بطور مہمانی کے ہو گا غفور رحیم کی طرف سے)  
یعنی مرتے ہوئے فرشتے بشارتیں دیں گے خوش خبری سنائیں گے جس سے ہر نیک بندہ کو  
اپنے اصلی کھنی کا اشتیاق و انتظار ہو جاتا ہے اسی لئے تعجیل جنازہ کا امر ہے۔

اب سمجھ لو کہ یہ موت کیسی خوشی کی ہوگی۔ اور قبر میں یہ ہو گا کہ جنت کی طرف کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ وہاں بھی فرشتے بشارتیں سنائیں گے اور میدان حشر میں یہ حال ہو گا۔

**لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ (پ ۱۷)**

(اس کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے)  
میں نے مولانا محمد فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنائے  
عاشقان را با قیامت روز محشر کار نیست عاشقان را جز تماشائے جمال یار نیست  
”عاشقوں کو محشر کی تکلیف سے کچھ مطلب نہیں۔ عاشقوں کو تو جمال یار نصیب ہونا چاہیے۔“  
حدیث میں بھی تو آیا ہے کہ قیامت کا دن کافر کے لئے پچاس ہزار سال کا ہو گا۔ اور مومن کو ایسا معلوم  
ہو گا جیسے فرض نماز کا وقت اور پل صراط پر گزرتے ہوئے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ یوں کہہ گا:

جز یا مؤمن فان نور ک اطفاء ناری

(لم أجده الحديث في "موسوعة أطراط الحديث")

”کے مون جلدی پار ہو جا کہ تیرے نور کی برودت نے تو میری نار کی حرارت ہی کو بجھا دیا۔“  
بتلائیے یہ پا کیزہ زندگی اچھی ہے یا یہ کتنا حسی جس میں ہم چنے ہوئے ہیں۔ پس تعلق مع  
اللہ حاصل کرو۔ جس کا تفصیلی طریقہ اس طرح معلوم ہو گا کہ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیدو یعنی  
اپنے کو اس کے سپرد کر دو۔ بس پھر جنت ہی جنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

اب میں ختم کر چکا۔ دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو اپنے ساتھ تعلق عطا فرماؤں  
اور فہم سلیم اور عمل نصیب ہو۔ آمين!

وصلى الله على سيدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ  
اجمعین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين.

## سلوہ الحزین

فضائل صبر کے متعلق یہ وعظ ۱۲ شوال المکرم ۱۴۳۵ھ کو  
جلال آباد میں عبد الرحیم طالب علم کی بیکار پری کے دوران میں  
بیٹھ کر فرمایا جو تین گھنٹہ ۲۳ منٹ میں ختم ہوا۔ سمعین ۱۲۵  
کی تعداد میں تھے مولوی اشراق الرحمن کاندھلوی نے قلمبند کیا۔

## خطبہ ما ثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَعْمَدُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ  
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا  
مُضِلٌّ لَهُ، وَمِنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا  
شَرِيكَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ، وَرَسُولَهُ، وَصَلَى  
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَغَلَبَ إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

أَمَا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔  
وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ فَإِذَا خَفِتَ عَلَيْهِ فَالْقِيَهُ فِي الْيَمِّ وَلَا  
تَخَافِي وَلَا تَحْزَنْيِ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (پ ۲۰)

(ترجمہ: اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ تم ان کو دودھ پلاو پھر تم کو جب ان کی نسبت (جاسوسوں کے مطلع ہونے کا) اندیشہ ہوتا ان کو (بے خوف و خطر) دریا (نیل) میں ڈال دینا اور نہ تو (غرق سے) اندیشہ کرنا اور نہ (مفارقت) پر گم کرنا کیونکہ ہم ضرور ان کو پھر تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر (اپنے وقت پر) ان کو پیغمبر بنادیں گے)

تمہید

یہ ایک آیت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ مذکور ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جوان کی والدہ ماجدہ کو خطاب ہوا تھا۔ وہ اس آیت میں مذکور ہے۔ ہر چند کہ اس مضمون کی خود فی نفسہ بھی ضرورت ہے کیونکہ مفید ہے لیکن اس وقت اس کے اختیار کرنے کی

زیادہ وجہ یہ ہے کہ یہ مضمون کیرانہ میں بیان کیا گیا تھا۔ اور چونکہ وہ بیان عمدہ مضمایں اور تقاریر مناسبہ پر مشتمل تھا اور ضبط ہوانہ تھا اس لئے اس کا اعادہ مناسب معلوم ہوا۔ اور گوکیرانہ میں خاص موقع اور خاص ضرورت تھی مضمون خاص کی۔ اس لئے بعض مضمایں تو اسی موقع کے لئے مخصوص تھے اور اس وقت کوئی ضبط کرنے والا نہ تھا۔ اس لئے ان مضمایں کے نہ ہونے کا افسوس رہا۔ سو آج اس کا اعادہ کرتا ہوں کیونکہ ضبط کا سامان موجود ہے۔

نیز جن ایام اور تاریخوں اور جس دن میں وہاں بیان ہوا تھا وہ زمانہ یہاں بیان کے لئے مموقود تھا۔ مگر اتفاق سے وہ زمانہ وہاں صرف ہو گیا۔ سواں وجہ سے بھی کہ وہ بیان اور تاریخ اور زمانہ یہاں مموقود تھا۔ اس کا یہاں بیان کرو دینا مناسب ہے۔ اعادہ مضمون کے لئے ایک نکتہ یہ بھی مرنج ہو گیا۔ اور اصل وجہ توبیہ ہے کہ مضمایں پسند آئے۔ جی چاہا کہ ضبط ہو جائیں۔ باقی یہ ضروری نہیں کہ اس کا بعد این اور بالفاظہ اعادہ کروں جو باشیں بیان کردہ یاد آ جاویں گی ان کا اعادہ کروں گا۔ اور جوئی باقی اس وقت ذہن میں آ جائیں گی ان کو بھی بیان کروں گا۔ کیونکہ یہ پہلے سے ذہن میں نہ تھا کہ اس مضمون کے اعادہ کی حاجت ہو گی۔

غرض خدا کے نام پر شروع کرتا ہوں جتنے یاد آ گئے ان کو بیان کروں گا اور نہ اور جس قدر مضمایں ہوں گے وہ بھی انشاء اللہ مفید ہوں گے وہاں پر اس مضمون کے بیان کی ایک وجہ تو خاص یہ تھی کہ وہاں پر اس گھر میں موت کا واقعہ ہو گیا تھا۔ اس ضرورت سے یہ مضمون اختیار کیا گیا تھا اور اسی وجہ سے بیان بھی کیا گیا تھا۔ دوسری حقیقی وجہ اس کی عام ضرورت تھی اس لئے کہ یہ مضمون سب کی ضرورت کا ہے کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اس کی ضرورت نہ ہو۔ قرآن مجید میں دونوں قسم کے احکام ہیں۔ وہ بھی ہیں جن کی شان نزول واقعہ خاص ہے اور حکم بھی اسی واقعہ کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ بھی ہیں جن کی شان نزول کو خاص ہے مگر حکم خاص نہیں بلکہ عام ہے اور زیادہ حصہ قرآن کا ایسا ہی ہے۔ جس کا حکم شان نزول کے ساتھ خاص نہیں اور یہ بیان بھی ایسا ہی ہے۔ لہذا اس معنی کر اس کا اعادہ یہاں پر بے ربط بھی نہ ہو گا اب مضمون سنئے۔

### ضرورت صبر و شکر

اس آیت میں صبر کے متعلق مضمون ہے اور صبر کی سب ہی کو ضرورت ہے اس لئے ثابت ہو گیا کہ یہ مضمون سب کی ضرورت کا ہے۔ وجہ یہ کہ دنیا میں واقعات دو قسم کے ہوتے ہیں ملائم اور مخالف۔ یعنی بعض واقعات وہ پیش آتے ہیں جو طبیعت کے مناسب اور موافق ہوتے ہیں اور بعض واقعات طبیعت کے موافق اور مناسب نہیں ہوتے۔ غرض ہر شخص کو دونوں قسم کے حالات پیش آتے

ہیں۔ جب مناسب طبیعت کے واقعات پیش آؤں اس وقت شریعت کی تعلیم شکر ہے اور جب ناملائم اور مخالف طبیعت کے واقعات پیش آؤں اس وقت شریعت مقدسہ نے ضبط کی تعلیم فرمائی ہے اور اسی کا نام صبر ہے اور چونکہ عام طور پر بہ نسبت ملائم واقعات کے ناملائم اور غیر مناسب طبیعت کے واقعات کا ظہور بکثرت ہوتا ہے یعنی ہر شخص کو مختلف طبع واقعات بکثرت پیش آتے ہیں اس لئے مضمون صبر کی ضرورت عامد کی اور زیادہ ہوئی۔ پس مناسب ہوا کہ یہ مضمون ضرور بیان کیا جائے۔

## طلب دنیا و آخرت

انسان کی ہر خواہش کا پورا شہ ہوتا جس کا بھی ذکر ہوا مشاہد بھی ہے اور منصوص بھی ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

**آمُلِإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى (پ ۲۷)**

کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے (سو ایسا نہیں ہے) کیونکہ ہر تمنا خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی۔ ایک جگہ ارشاد ہے۔

**مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ (پ ۱۵)**

جو شخص دنیا کی نیت دکھلے گا، ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے جسکے واسطے چاہیں گے فی الحال دیدیں گے تو ظاہر ہے کہ آیت میں دو قیدیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ جتنا چاہیں گے یعنی ہر شخص کو اس کی مقدار طلب پر نہ دیں گے اور دوسرے یہ کہ جس کے واسطے چاہیں گے اس کو دیں گے ہر شخص کو نہ دیں گے۔ دنیا کے طالب کے ساتھ تو حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے اور آخرت کے طالب کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے۔ آگے اسی آیت کے متصل فرماتے ہیں۔

**وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانُوا سَعْيَهُمْ**

**مُشْكُورًا (پ ۱۵)**

یعنی جو شخص آخرت کی نیت رکھے گا اور اس کے لئے جیسی سعی کرنا چاہیے ویسی سعی بھی کرے گا بشرطیکہ شخص مومن بھی ہو سوایے لوگوں کی یہ سعی مقبول ہوگی۔ ان لوگوں کی سعی کی قدر کی جاوے گی۔ حاصل یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کی سعی کے مطابق ثمرہ ملے گا۔ بلکہ سعی سے زیادہ ملے گا جس کا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

**مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثً**

الْدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (پ ۲۵)

”جُو خُص آخِرَت کی کھیتی کا طالب ہو، تم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے (اس میں زیادہ دینے کی تصریح ہے) اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو تم اس کو کچھ دنیا دیں گے اور آخِرَت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔“ غرض دنیا ہماری خواہش پر اور حق تھی، تم چاہیں نہیں مل سکتی۔ بلکہ حق بجانہ کی مشیت کے مطابق اور جس قدر وہ چاہیں ملتی ہے۔ اور آخِرَت جس قدر تم چاہیں اسی قدر ملتی ہے۔ بلکہ اور زیادتی اور ترقی کے ساتھ ملتی ہے۔ دنیا کی عجیب خاصیت ہے۔ بہر حال ان نصوص سے معلوم ہوا کہ دنیا کے مقاصد بہت کم پورے ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ کہنا صحیح ہوا کہ امور ملائکہ کم پیش آتے ہیں اور امور ناملامائکہ زیادہ۔

### نعمت اور مصیبت کی مقدار

اس پر ظاہر میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک آیت سے تو نعم غالب معلوم ہوتی ہے اور مصائب مغلوب۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُّوْهَا (پ ۱۳)

اور اللہ کی نعمتیں اگر شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لاسکتے۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نعم بے شمار ہیں۔ نعم کی بابت تو یہ ارشاد ہے اور دوسری جگہ مصائب کی نسبت فرماتے ہیں۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُ أَيْدِيهِكُمْ وَيَغْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (پ ۲۵)

”اور تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے آتی ہے۔ اور بہت سے تو اللہ تعالیٰ درگذر کر رہی دیتا ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصائب قلیل ہیں تو امور ناملام کا بکثرت پیش آنا کیسے صحیح ہوا؟ جواب یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ نعم بکثرت ہیں مگر ہماری حالت یہ کہ ہم حق تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی پسند نہیں کرتے یعنی حق تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہماری ملامت طبع نہیں۔ گو واقع میں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں بے شمار ہیں مثلاً یہماری میں ہمارے لئے دوائیں اور مکانات کا مہیا کرنا اور ہر وقت ہر طریقے سے ہماری مدارات ہونا حتیٰ کہ غیر مہربان دشمن کا مہربان ہو جانا یہ کیا تھوڑی نعمت ہے بلا بودے اگر اسی ہم نبودے (اگر یہ بھی نہ ہو تو بڑی مصیبت ہے)

چنانچہ جنگ میں بکثرت آدمی زخمی ہوتے ہیں۔ اپنے آدمی تو اٹھا کر ان کو آرام دیتے ہیں لیکن اگر اپنے آدمی بکھست کھا کر فرار ہو جاتے ہیں اور میدان میں زخمی رہ جاتے ہیں تو غمیم بھی ان کے ساتھ بد معاملگی سے پیش نہیں آتے بلکہ ان کی مرہم پئی کرتے ہیں اور راحت پہنچاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے اسی طرح غور کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ مصیبت میں بھی حق تعالیٰ کی طرف سے متعدد نعمتیں ہمارے اوپر ہوتی ہیں۔ یکاری ہونا ظاہر میں مصیبت ہے لیکن طبیب اور دوا اور تمارداروں کا ہونا کتنی عظیم نعمت ہے۔

ان تمام واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ واقع میں تو مصادب بہت کم پیش آتے ہیں۔ اور نعمت بکثرت پیش آتے ہیں جیسا بھی مذکور ہوا کہ ہمارے ضعف و جہل سے وہ نعم بھی ناملاکم طبع ہوتے ہیں۔

### انسان کی ناشکری و ناقداری

یہ عجیب جمع بین المذاہیین ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان ہر نعمت کو اپنے موافق نہیں سمجھتا۔ بلکہ بہت سی نعمتوں کو خلاف طبع اور ناگوار سمجھتا ہے اور انسان تو ایسا ناشکرا ہے کہ جو مزاج کے موافق نعمتیں ہیں بسا اوقات ان کو بھی پسند نہیں کرتا۔ عجیب نظرہ باز ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ تو نعمتیں دیتے ہیں اور انسان ناک منه چڑھاتا ہے۔

مثلاً اللہ میاں کھانا دیتے ہیں تو کھانا اس کے موافق مزاج نہیں ہوتا۔ کہ یہ تو اچھی طرح بھنا نہیں۔ اس میں تو ہلدی زیادہ ہے، ہلدی کی بو ہے۔ بالکل ہی خشک ہے۔ گھنی نہیں ہے۔ حالانکہ اصل یہ ہے کہ ہم تو اس کے بھی مشکق نہیں ہیں۔ مگر انسان کو پھر بھی اس قدر نخرہ ہے جس کی حد نہیں۔ یہ ہر نعمت کی ناشکری اور ناقداری کرتا ہے۔ ہر وقت ناک منه چڑھاتا ہے۔ اور یوں چاہتا ہے کہ نعمت بھی ملے تو اس طرح ملے جس طرح میں چاہتا ہوں۔

چنانچہ اگر کبھی اس کو روپے کی ضرورت ہو تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ قرض نہ لیں کوئی ہدایۃ دیدے۔ مثلاً میرے پاس اسی واسطے کہ میں کسی کا قرض کرنا نہیں چاہتا۔ حق تعالیٰ کتنے ہدایا بھجواتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی شاذ و نادر قابل مقدار بھی قرض کرنا پڑے تو گراں ہوتا ہے۔

بتلا یئے اس میں ہمارا کون سا استحقاق تھا۔ پھر جب ہمارا کوئی استحقاق نہیں اور حق تعالیٰ بدلوں استحقاق کے نعمتیں دیتے ہیں تو کیا پھر بھی ہم کو ذرا سی خلاف تجویز بات پر ناک منه چڑھانا چاہیئے؟ ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریف تھی کان لا یعیب شيئاً (اتحاد)

السادۃ الْمُتَقِّین ۵: ۲۱۸) کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے۔ دین یہ ہے۔ دین محض نوافل اور تسبیح کا نام نہیں۔ ایک مقام پر ایک واعظ تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی دعوت کرتا اور گھنی کم ڈالتا تو کھانا نہ کھاتے کہ اس میں گھنی کم ہے یا متعدد کھانے نہیں ہیں افسوس مصلحیں دین کی یہ حالت۔ تجуб ہے۔ مگر یہ حالت دوسروں ہی کے گھر پر ہے۔ اپنے گھر شاید ایسا نخرہ نہ کرتے ہوں۔ کیونکہ گھر کا خرچ ہوگا۔

## آ جکل کے واعظین

بعض احباب نے دہلی میں ایک جلسہ میں مجھ کو مدعو کیا۔ اور چلتے وقت پچیس روپیہ تھا نہ بھون کی زادراہ کے لئے دینے لگے۔ میں نے کہا کہ تھا نہ بھون دوڑ نہیں صرف چار روپیہ کا تقریباً صرف ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ کل پرسوں ایک مولوی صاحب تشریف لائے تھے وہ ایک دن میں گیارہ روپے کے پان کھائے گئے۔ بکری کو بھی مات کر دیا مگر آبرو کی بکری ہو گئی۔ اور خود تو کیا کھاتے بس جو آیا تو اوضع پر تواضع کی کہ آپ بھی کھائے اور آپ بھی کھائے۔ کیونکہ مفت کا مال تھا۔ مال مفت دل بے رحم۔ ایک واعظ صاحب کے متعلق معلوم ہوا تھا کہ رخصت کے وقت سانحہ روپے کرایہ کیلئے۔ کیونکہ فرست کلاس کا نکٹ اسی کے قریب ہوگا۔ گوسفر کیا ہو تھرڑ ہی میں۔ آج کل یہ امور بھی بزرگی کے خلاف نہیں۔ آج کل کی بزرگی بھی بی بی تمیزہ کا وضو ہے کہ کسی طرح نہیں ٹوٹتا۔

بی بی تمیزہ کا قصہ یہ ہے کہ وہ ایک فاحشہ عورت تھی۔ اس کو ایک مولوی صاحب نے نماز کی نصیحت کی اور وضو کرا کے نماز پڑھوائی۔ لباس وغیرہ بدلوایا۔ سال دو سال کے بعد پھر مولوی صاحب کا آنا ہوا تو مولوی صاحب نے بی بی تمیزہ سے دریافت کیا کہ بی نماز بھی پڑھتی ہو۔ کہا حضرت پانچوں وقت۔ پوچھا کہ وضو بھی کر لیتی ہو۔ کہا جب آپ نے نماز پڑھوائی تھی اس وقت تو آپ نے وضو کر دیا تھا اسی سے پڑھ لیتی ہوں۔ بندی خدا کا وضو اجا بت سونے سے بھی نہ گیا اور حیض و نفاس سے بھی نہ نوما۔ بدکاری سے بھی باطل نہیں ہوا۔ عجیب وضو تھا۔

ایسی ہی آ جکل کی بزرگی ہے کچھ ہی کرلو۔ مگر بزرگ کے بزرگ اور ارزاز اتنی کہ علم تک کی ضرورت نہیں۔ پس مشتوی کے کچھ اشعار پاڈ کر لئے مجلس کے گرم کرنے کو ذرا خوش آوازی سے اشعار موقع بے موقع پڑھ دئے جیسے تمیزہ کی مجلس ہوتی ہے۔ بس سامعین کی طبیعت خوش ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے۔ آ جکل کے واعظین کے واعظی کی۔

مجھے ایک مرتبہ الہ آباد میں بیان کرنے کا اتفاق ہوا۔ اول تو میری آواز کچھ زیادہ اچھی نہیں۔ مزید برآں زکام کی بھی شکایت تھی تو ایک صاحب نے فرمایا کہ وعظ تو اچھا ہے مگر آواز اچھی نہیں۔ مجھے معلوم ہوا۔ میں نے کہا کہ میرا باپ ڈوم نہ تھا۔ نہ میں نے آواز صاف کرنے کی کوئی تدبیر کی۔ نہ خارجی تدبیر کے حلوہ وغیرہ باندھتا۔ نہ داخلی تدبیر کی کہ کوئی ایسی چیز کھاتا اور اس کی کوئی حاجت تھی کیونکہ مقصود تو کام چلانا ہے چلا لیا۔

افسوس ہے کہ آ جکل خوش آوازی کی بناء پر میراثی بھی واعظ ہو گئے یہ مطلب نہیں کہ کم ذات ہونے کی وجہ سے وعظ نہ کہنا چاہئے تھا کیونکہ اگر کوئی میراثی عالم محقق بن جائے تو اس کو وعظ کہنا بجا ہے۔ میرا مقصود یہ ہے کہ آ جکل میرا شیوں نے بھی دو چار اردو کی کتابیں یاد کر کے وعظ گوئی شروع کر دی۔ مضمون تو خاک نہیں ہوتا۔ بس اشعار کو گا کراچھی آواز بنا کر پڑھ دیتے ہیں لیجھے بس واعظ ہو گئے۔ اور زیادہ افسوس یہ ہے کہ ایسے جھلا آج کل مقتداۓ دین شمار کئے جاتے ہیں۔ لوگوں کو قابل ونا قابل کا بالکل امتیاز ہی نہیں رہا۔ یہ تو جاہلوں کی حالت ہے کہ اشعار پڑھ کر واعظ بن جاتے ہیں اور جو واقعی پڑھے لکھے مولوی ہیں ان میں یہ کسر ہے کہ ان میں بجائے شان علم کے ریاست اور نوابی کی شان آگئی کہ وہ جہاں جاتے ہیں ساتھ میں دو چار خادم ہوتے ہیں اور رجھے عمامہ اور قبیقی کپڑے پہننے ہیں حالانکہ یہ بھی نقش کی دلیل ہے۔

### بزرگی کی علامات

ہم نے اپنے بزرگوں کی سادگی دیکھی ہے اور یہ بزرگ ایسے تھے کہ اگر کوئی ان کے علم وفضل کا حال نے اور ان کا نام نہ لیا جائے تو ضرور کہے گا کہ یہ لوگ متقدمین علماء کی جماعت سے ہیں۔ مگر سادگی ایسی کہ جناب مولانا فتح محمد صاحبؒ کے مکان پر ایک بار ایک نائب تحصیلدار ملنے کی غرض سے آئے۔ اس وقت مولانا تشریف فرمانہ تھے گنگوہ تشریف لے گئے تھے۔ یہ معلوم کرنے کے بعد انھوں نے ایک طالب علم کو ایک شعر چلتا ہوا پرچہ میں لکھ کر دے دیا کہ جب مولانا تشریف لاویں تو یہ شعر دکھادیں اور آپ جلال آباد چلے گئے۔ شعر یہ تھا

چو غریب مستمندے بدرت رسیدہ باشد	چہ قدر تپیدہ باشد چوڑا نہ دیدہ باشد
---------------------------------	-------------------------------------

جب ایک غریب حاجت مندا آپکے در پر پہنچا ہو گا تو آپ کونہ دیکھ کروہ کس قدر تر پا ہو گا اتفاق سے مولانا اسی دن مغرب کے وقت تشریف لے آئے۔ اس طالب علم نے وہ پرچہ پیش کر

دیا۔ مولانا دیکھ کر بے چین ہو گئے کہ ان صاحب کو میرے نہ ملنے سے بہت قلق ہوا ہوگا۔ اپنے اوپر قیاس فرمایا۔ چنانچہ فوراً اسی وقت جلال آباد تشریف لائے جو تھانہ بھون سے دو میل ہے اور ان صاحب سے مل کر فوراً واپس ہوئے۔ یہ ہے بزرگی!۔

عجب بات یہ ہے کہ یہ بزرگ جن کی یہ حکایت ہے اپنے عہد میں مشہور بزرگوں کے کسی درجہ میں شمار نہیں کئے جاتے تھے۔ چاہے وہ عند اللہ سب سے افضل اور مقدم ہوں۔ مجھے تو ان حضرات کے حالات پیش نظر کر کے یہ شعر یاد آ جاتا ہے

اوْلُكَ ابَائِي فَجَتَنِي بِمُثْلِهِمْ      اذَا جَمِعْتُنَا يَا جَرِيرِ الْمَجَامِعِ  
”یہ میرے باپ دادا ہیں۔ ان جیسے باپ دادا لے آئے جریر جب کہیں مجمع میں اکٹھے ہونے کا موقع ملے تو ایسے باپ دادا کا ذکر سنانا۔“

یہ ہیں بزرگ جن پر تمام دنیا کو فخر ہے۔ محض نام کے درویش نہیں کہ موئے موئے داؤں کی تسبیح ہاتھوں میں لٹکالی ہو۔ تسبیح کی تسبیح اور تھیار کا تھیار یہ لوگ ایسے درویش نہیں تھے۔

یاد رکھو بزرگی تسبیح سے نہیں ہے بلکہ اس کے لئے بزرگوں کے سے اخلاق ہونے چاہیں۔ صرف یہ بھی کافی نہیں کہ کسی کھانے میں عیب نہ نکالیں اور وہ محض اس غرض سے لوگ کہیں کہ کیسے بے نفس ہیں کہ کسی بات پر کچھ نہیں فرماتے۔ سو یہ تو کچھ بزرگی نہیں بلکہ تکبر اور جاہ طلبی ہے۔ اصل یہ ہے کہ نہ افراط مناسب ہے اور نہ تفریط شایاں ہے۔ اعتدال کی ضرورت ہے اور یہی بزرگی ہے اور یہی اعتدال مشکل ہے۔ کیونکہ اعتدال میں کمال مخفی ہو جاتا ہے ایسے شخص کو لوگوں کی نظروں میں امتیاز حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے تعریف نہیں ہوتی۔ اور بدؤں امتیاز و تعریف کے شہرت دشوار ہوتی ہے۔ اس لئے آجکل گزر کر دہ امور اختیار کرتے ہیں جن میں شہرت ہو۔ مثلاً کھانا چھوڑ دیں گے۔

غلہ اور انماج ترک کر دیں گے۔ مگر غذا میں آدھ پاؤ بالائی۔ چھٹا نک بھر مغز بادام اور دوسرا میوہ جات وغیرہ وغیرہ۔ غرض تمیں پاؤ وزن کا سامان کھالیں گے اور کہنے کو یہی رہے گا کہ حضرت کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اور کیا کھاویں گے۔ بس اب تو یہ کسر باتی رہ گئی کہ مجھے اور تمہیں کھالیں۔ صاحبو! جو لوگ کھانا کھانے والے سمجھے جاتے ہیں یہ غذا تو ان کو بھی نہیں ملتی۔

یہ نہ کھانا تو ایسا ہو گیا جیسے ایک طبیب کے پاس ایک مریض امیر آیا اور ضعف معدہ کی شکایت کی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ ایک دن میرے سامنے کھاؤ۔ چنانچہ مریض ایک دن طبیب کے

سامنے کھانے بیٹھا۔ طبیب نے ایک خالی برتن پاس رکھ دیا کہ جس قدر کھاتے جاؤ اسی قدر اس میں جمع کرتے جاؤ۔ چنانچہ جتنا اس نے کھایا اتنا ہی اس برتن میں جمع کر دیا۔ جو بعد میں تو لا گیا تو سیر بھر تھا۔ طبیب نے کہا کہ میاں اگر اس پر بھی ضعف معدہ ہے تو کیا دستر خوان اور برتن کھاؤ گے۔ پہت کیا ہوا داستان امیر حمزہ کی زندگی ہو گئی۔ اسی طرح آجکل بزرگی کیا ہوتی تو ابی ہو گئی۔

صاحب! بزرگی کا مکمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتیازات کبھی نہیں فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل بھی زیب تن فرمایا ہے اور سنہری گھنڈیاں بھی لگانا ثابت ہیں۔ جیسے کمبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ سنہری گھنڈی بھی عزیز و مرغوب تھی۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ میرے ماموں صاحب ایک برات میں کمبل اوڑھ کر گئے اور میرے والد صاحب دوشالہ اوڑھے ہوئے تھے تو والد صاحب نے ان سے کہا کہ میاں شادی میں تو کمبل اتار دیا ہوتا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے دوشالہ اتار دیا ہوتا۔ آپ کو دوشالہ جیسا مرغوب و پسند ہے مجھے کمبل اس سے کم مرغوب نہیں۔

خیر! یاں کا حال تھا ورنہ اسی پابندی کرنا اس میں بھی ایک شان امتیاز پیدا ہوتی ہے تو یہ مکمال نہیں۔

### شان بندگی

بلکہ مکمال یہ ہے کہ نہ کمبل کا پابند ہونہ دوشالہ کا۔ کیونکہ بندہ تو سرکاری ملازم اور غلام ہے۔ جو پہنچا یا پہن لیا اور جو اڑھایا اور ڈھلیا۔ ملازم کا تو یہ کام ہے  
 زندہ کنی عطا ہے تو دریکشی فدائے تو دل شدہ بتلا ہے تو ہر چہ کنی رضاۓ تو  
 ”تو اگر زندہ کرے تو تیراعطیہ اور اگر قتل کرے تو میں تجھ پر قربان۔ دل تمہارا بتلا ہوا ہے تم جو چاہو وہی میری رضا ہے۔“

ایک بزرگ تھے کمبل اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے کہ اچانک کمبل اتار کر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص دوشالہ لے کر حاضر ہوا جس کے پلوں پر زری کا کام چارائیش بقدر جواز لگا ہوا تھا۔ آپ نے قبول فرمایا کہ زیب تن کیا اور بنے۔ کسی نے دریافت کیا کہ حضرت یہ کیا بات تھی۔ فرمایا کہ میں کمبل اوڑھے ہوئے بیٹھا تھا۔ حکم ہوا کہ اس میں اچھے نہیں لگے۔ اس کو پھینک دو۔ ہم دوشالہ پہننا کر دیکھیں گے۔ میں نے کمبل اتار کر پھینک دیا۔ اور دوشالہ پہن لیا۔ غرض غلام کی یہی شان ہونا چاہیے کہ آقا جس حال میں رکھے اسی میں خوش رہے۔ جیسے ایک شخص نے ایک غلام خریدا

تحا۔ خریدنے کے بعد دریافت کیا کہ میاں تمہارا کیا نام ہے۔ اس نے جواب دیا کہ حضور آج سے تو وہی نام ہے جس نام سے آپ پکاریں۔ دریافت کیا کہ کیا کھایا کرتے ہو کہنے لگا کہ حضور آج سے خوراک بھی وہی ہے جو آپ کھلاؤیں۔ دریافت کیا کہ پہنا کیا کرتے ہو کہنے لگا کہ آج سے پوشک بھی وہی ہے جو حضور پہناویں۔ تحققی آقا کے سامنے بندہ کی یہ شان ہوتا چاہئے۔

## عبدت و طاعت کا فرق

حضرت حاجی صاحب کے سامنے آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ (میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا) پراشکال کیا گیا کہ اس میں جن و انس کی تخصیص کی کیا وجہ ہے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت تو ساری ہی مخلوق کرتی ہے کچھ جن و انس کی تخصیص نہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو عبادت ہے اور ایک طاعت ہے اول ایک مثال سے ان دونوں مفہوموں میں فرق کجھ لو۔ وہ یہ کہ ایک تو نوکر ہے اور ایک غلام۔ نوکر کا کام تو معین ہوتا ہے خواہ ایک یا متعدد مثلاً باورچی ہے کہ اس کیلئے کھانا پکانے کی خدمت معین ہے یا سپاہی ہے یا مکان پر بازار اور گھر کام کرنے کے واسطے کوئی نوکر ہے تو جس خدمت کے واسطے یہ لوگ نوکر ہیں ان سے وہی خدمت لی جا سکتی ہے۔ خود آقا بھی اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔

حتیٰ کہ اگر باورچی سے آقا کہے کہ یہ خط لے کر گنگوہ چلے جاؤ تو نوکر ضابطہ میں انکار کر سکتا ہے۔ اور غلام کی کوئی خدمت معین نہیں ہوتی۔ بلکہ تمام خدمات اس کے ذمہ ہیں جس کا بھی حکم ہو جاوے۔ چنانچہ ایک وقت اس کو آقا کا پاخانہ بھی انھانا پڑتا ہے۔ اور ایک وقت میں آقا کی پوشک پہن کر آقا کا قائم مقام اور نائب بن کر جلسہ میں یاد ربار میں جانا پڑتا ہے۔ غرضیکے غلام کو کسی وقت بھی کسی خدمت سے انکار نہ ہوگا۔

اسی طرح جن و انس کے تمام مخلوق کی طاعت معین ہے ہر شے مخلوقات میں سے ایک خاص کام پر معین ہے کہ اس کے سوا دوسرا کام اس سے نہیں لیا جاتا۔ مگر انسان کی کوئی خدمت معین نہیں۔ چنانچہ ایک وقت میں انسان کا سونا عبادت ہے۔ ایک وقت میں پاخانہ پھرنا بھی عبادت ہے مثلاً جماعت تیار ہوا اور پیشاب پاخانہ کا زور ہو تو اس وقت پیشاب وغیرہ سے فراغت حاصل کرنا واجب ہے اور نماز پڑھنا اس وقت حرام ہے اگر پیشاب پاخانہ سے فراغت حاصل نہ کی تو حرام فعل کا مرتكب ہوا۔ اس وقت اس کا بیت الخلاء میں جانا عبادت ہے۔

ایک وقت تو انسان کی یہ حالت ہے اور ایک وقت انسان کی یہ شان ہے کہ مظہر حق بنا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی زبان سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔

غرض جو شانِ غلام کی ہوتی ہے وہی شان انسان کی ہے۔ عبد شدن کے لئے انسان ہی ہے باقی تمام مخلوق ذا کر شاغل ہے۔ مگر عابد صرف انسان ہی ہے۔ یہ کسی خاص حالت اور خاص کام کو اپنے لئے تجویز نہیں کر سکتا بلکہ حضرت حق جس حالت میں رکھیں اس میں اس کو رہنا چاہیے۔ کمبل اوڑھائیں تو کمبل اوڑھے دوشالہ اوڑھائیں تو دوشالہ اوڑھے۔ بھوکار کھیں تو بھوکار ہے۔ گھنی دودھ کھلائیں تو گھنی دودھ کھائے یہی شان تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔

### آج کل کی بزرگی کا معیار

مگر آج کل اس کے خلاف لوگوں نے تجویز اور امتیاز کا نام بزرگی رکھ لیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت بزرگ ہیں گھنی نہیں کھاتے۔ بس یہ معیار رہ گیا ہے بزرگی کا۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں بزرگ گائے کا گوشت نہیں کھاتے۔ بڑے رحم دل ہیں کہ قربانی نہیں کرتے۔ جانور کے گلے پر کچھری رکھنے کو اچھا نہیں سمجھتے حالانکہ قربانی میں جانور کو خدا کے نام پر فدا کرنا ہے اور اس وقت وہ جانور ہماری جانوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔

اگر حق تعالیٰ ہماری جاں طلب فرماتے تو ہمیں اس میں بھی دریغ نہ ہونا چاہیے تھا۔ چ جائے کہ وہ ہماری بجائے جانوروں کی جانیں طلب کرتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ ہمارے نام پر قربانی کرو جس سے اس شعر کی مصدقاق واقع ہو جائے

آنکہ جاں بخشد اگر بخشد رووا است      نائب است و دست او دست خداست

جس نے جاں بخشی ہے وہ اگر قتل بھی کرے جائز ہے۔ وہ اللہ کا نائب ہے اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ ایک ہندی مثال ہے گھنی کہاں گیا کچھری میں۔ کچھری کہاں گئی پیٹ میں تو گھنی بھی پیٹ میں گیا۔ اصل یہ ہے کہ جانور تمہارے لئے ہیں اور تم خدا کے لئے ہو کہ خدا کی عبادت کرو اور اپنی چیزوں کو خدا کے نام پر قربان کرو۔ تو وہ جانور بھی خدا کے لئے ہوا۔ سواس صورت میں قربانی کا جانور تمہارے لئے فدائیں ہوا بلکہ خدا کے لئے فدا ہوا۔ پھر اس سے احتراز کرنا سخت حماقت ہے۔ غرض تفویض کلی عبدیت ہے اور اپنی تجویز سے امتیازی شان بنانا عبدیت کے بالکل خلاف ہے مثلاً خدا تعالیٰ کھانے پینے کو اچھا دیں تو اس وقت خست حالت میں رہنا ناشکری اور نعمت کی نا

قد ن اور خلاف اطاعت ہے کیونکہ جیسے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے نوکروں کو تխواہ دو اور کہنا کپڑا دو۔ ایسے ہی یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنی جان کو بھی راحت دو۔ پس جیسے نوکر خدا کی مخلوق و مملوک ہے تمہاری جان بھی خدا کی مخلوق و مملوک ہے اس لئے تم کو اپنے اندر بھی بدوس اب رت حق تعالیٰ کے کسی تصرف کا حق نہیں۔ اگر تو کر کو حکم الہی سے کھانا کپڑا دیتے ہو تو اسی آقا کے حکم سے تم اپنی بھی خدمت کرو کیونکہ تمہاری جان بھی خدا ہی کی ہے تمہاری ہر گز نہیں۔ اسی حقیقت پر نظر کر کے ایک عارف فرماتے ہیں۔

نازم پچشم خود کہ جمال تو دیدہ است  
اپنی آنکھوں پر میں اس لئے نازاں ہوں کہ انھوں نے تمہارا جمال دیکھا ہے اور اپنے پاؤں پر میں اسلئے گرتا ہوں کہ انھوں نے مجھے تیرے کوچے تک پہنچایا ہے۔  
کہ مجھ کو اپنے اعضاء پر اس وجہ سے ناز ہے اور ان کی قدر ہے کہ آپ سے ان کا تعلق ہے۔

## حقوقِ نفس

صاحب! ہمیں اپنی آنکھ سے اس وجہ سے تعلق نہ ہونا چاہیئے کہ وہ ہماری آنکھ ہے بلکہ اس وجہ سے تعلق ہونا چاہیئے کہ حق تعالیٰ کی چیز ہے اور ان کی خدمت کرتی ہے اس نے ان کا جمال دیکھا ہے گو بواسطہ مظاہر ہی سہی۔ آگے فرماتے ہیں۔

ہر دم ہزار بوس زخم دست خوبیش را  
کو دامت گرفتہ بسویم کشیدہ است  
ہر وقت اپنے ہاتھوں کو ہزاروں بو سے دیتا ہوں کہ انھوں نے تیرا دا ان کپڑا کرائی طرف آپکو کھینچا۔  
اس اعتبار سے عارف کو اپنے نفس سے بھی محبت ہوتی ہے اور اسی لئے حدیث میں ہے۔

ان لنفسک علیک حقاً (مسند احمد ۲۶۸: ۶، مسند درک حاکم ۲۰: ۳)

”کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے“

تو عارف کو اپنے نفس سے اس لئے محبت ہوتی ہے کہ وہ سرکاری چیز ہے دیکھو اگر کوئی مشین سرکاری کسی کے پر دہو تو اس شخص کو اس کے آلات صاف کرنا اور تیل دینا ضروری ہوگا۔ البتہ اگر اپنی ملک ہے اس وقت اختیار ہے کہ چاہے صاف کر کے تیل دے چاہے نہ دے۔ مگر جب ملک سرکاری ہے اس کو صاف کرنا تیل دینا ضروری ہے ورنہ باز پرس ہوگی۔

اب یہاں پر لوگوں سے ایک غلطی تو یہ ہوا کرتی ہے کہ تیل نہیں دیتے اور اپنی جان کو اپنی ملک

سمجھتے ہیں۔ اور ایک غلطی بعض سے یہ ہوتی ہے کہ تیل بہت دینے لگتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ بعضے دنیادار فقیر یا تو اساب حفاظت نفس کو اختیار نہیں کرتے اور اس کو نفس کشی کہتے ہیں یا اختیار کرتے ہیں تو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور نوابی رنگ کوشان محبوبیت سمجھتے ہیں۔ صاحبو اسر میں تیل لگانا بھی اس اعتبار سے محمود ہے کہ یہ سرکاری چیز ہے میرا سر نہیں۔ میں مالک نہیں۔ یہ مضمون شاعرانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے مگر اس حقیقت تک رسائی مدرسہ ہوتی ہے ایک دن میں نہیں ہوتی اور ابتداء میں کسی قدر تکلف بھی کرنا پڑتا ہے۔ مگر اخیر میں ملکہ ہو جاتا ہے۔ غرض عارف اس اعتبار سے حقوق نفس ادا کرتا ہے تا کہ خدا کا کام کرے اسی طرح عارفین قربانی کے جانور کو خدا کے نام پر فدا کرتے ہیں اپنے اوپر فدا نہیں کرتے۔ خواہ اپنے ہی کھانے کے لئے ذبح کریں۔ یہ حقیقت ہے قربانی کی۔ بعضے بزرگ ترجم کے غلبہ سے قربانی نہیں کرتے تھے بلکہ بجائے قربانی کے دام ادا کر دیتے تھے۔ اور یہ ان کی غلطی تھی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ سواریوں پر بیٹھ کر پل صراط کو قطع کر رہے ہیں۔ انہوں نے سواری کی درخواست کی۔ مگر یہ جواب ملا کہ یہاں پر تمہارے لئے کوئی سواری نہیں ہے انہوں نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو سواریوں پر گزر رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی کرتے تھے تم قربانی کرتے نہیں اس لئے تمہاری کوئی سواری نہیں۔ پیادہ جا سکو تو چلے جاؤ۔ جب بیدار ہوئے اپنی غلطی پر تنبہ ہوا۔ توبہ کی اور قربانی شروع کر دی۔

### شرعی چله

مگر آج کل جہلاء اس قسم کی درویشی کو دلیل ترجم اور بزرگی خیال کرتے ہیں جس کی خدا کے یہاں کچھ بھی قدر نہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص چله کھینچ رہا ہے اور چله میں گوشت سے پرہیز ہے سبحان اللہ۔ لبیں وہ عورتوں کا چله ہو گا۔ جس کو زچلی کہتے ہیں شرعی چله ہرگز نہیں۔ کیونکہ شرعی چله میں گناہوں کے سوا کسی چیز کا پرہیز نہیں ہوا کرتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبل نبوت کچھ ایام کیلئے غار حرام میں بغرض خلوت تشریف لے جانا ثابت ہے۔ مگر آپ نے کبھی گوشت سے پرہیز نہیں کیا۔ پھر یہ کیسی بزرگی ہے کہ چله کی وجہ سے لوگ ایک ایک مہینہ تک گوشت چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ حدیث میں ہے سید الطعام اللحم۔ (کشف الخفاء للعجلونی ۱: ۵۱۰، ۲۲۶: ۲) گوشت کا گوشت کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے بلکہ آپ کو بہت مرغوب تھا۔ یہ گوشت کا پرہیز حضور صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس لئے اتباع سنت نہیں۔

حاجی صاحب کے سامنے ایک بڑے تاجر عالم نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ ترک حیوانات کے ساتھ چلہ کچھوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مولا نا تو بے کچھے بدعت ہے۔ حالانکہ یہ سائل بہت بڑے عالم اور محدث تھے۔ مگر ان کی نظر اس پر نہ پہنچی مگر حاجی صاحب نے فوراً فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ حالانکہ حاجی صاحب اصطلاحی عالم نہ تھے مگر عالم گرت تھے

اسی لیے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا تھا کہ لوگ حضرت حاجی صاحب کے مختلف کمالات سے معتقد ہیں۔ مگر میں علم کی وجہ سے معتقد ہوں۔ اصل یہ ہے کہ جب قوت حاسہ درست اور صحیح ہو تو کھانے میں کتنا ہی بار ایک بال کیوں نہ ہو محسوس ہو جاتا ہے۔ اسی طریق سے جب فہم درست ہو تو حق و باطل میں فوراً امتیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت اپنے زمانہ میں صدیق اعظم تھے (جو بہت بڑا مرتبہ ہے مراتب ولایت میں سے) ہم لوگ اگر ترک حیوانات کو بدعت کہتے تو کچھے تعجب نہ تھا۔ کیونکہ رات دن درس و تدریس و افتاء کا شغل رہتا ہے۔ کتابیں دیکھ کر بدعت و سنت کا علم ہر ایک کو ہو سکتا ہے۔ مگر حضرت تو درسی عالم بھی نہ تھے حضرت نے محض نور قلب اور ذکاوت فہم سے فوراً اس کو بدعت فرمایا۔

پس قربانی سے احرار اور گوشت وغیرہ سے پرہیز یہ کیا ہے کیا دکا اور مکر ہے شیطان کا کہ عبادت کے رنگ میں دھوکا دیتا ہے۔ درحقیقت اس شخص کا مقصود اصلی شہرت ہے کہ کوئی جدید کام کیا جاوے تا کہ شہرت ہوا کی واسطے ایسے لوگ گوشت نہیں کھاتے کہ مشہور ہو جاویں۔ باقی کاملین تو شہرت سے بھاگتے ہیں۔ ان کی نظر ہر وقت عبدیت پر ہے۔ اس لئے وہ پلاو اور قنجن اور چننی ایک ہی رغبت سے کھاتے ہیں اور اگر وہ کسی مصلحت سے غذا میں تقلیل بھی کرتے ہیں تو کسی پر خاہ نہیں ہونے دیتے۔

ہمارے حاجی صاحب ایک چپاتی یا دو چپاتی کھایا کرتے تھے مگر کھانے پر سب کیا تھا اٹھتے تھے۔ تاکہ دوسروں سے پہلے اٹھنے میں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ کہ بہت کم کھاتے ہیں اور چپاتی کی شمار کوں کرتا ہے۔

### شکر نعمت

صاحب اکملات ہیقیہ یہ ہیں کہ جن کی کوئی خاص امتیازی صورت نہ ہو اور مصنوعی صورت سے بالکل خالی ہو۔ غرض کمال بزرگی کی شان عدم امتیاز ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہی تھی کہ کوئی امتیاز نہ تھا۔ چنانچہ کھانے کی حالت یہی کہ

لا یعیب شيئاً ان اشتھاہ اکله وان لم یشته لم یا کلہ۔ (الحاد السادة المتفقین ۵: ۲۱۸)

کہ آپ صَلَّی اللہ علیہ وسَلَّمَ کسی شے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر خواہش ہوتی تو تناول فرمالیا اور نہ چھوڑ دیا۔

یہ نہ تھا کہ اگر مرغوب طبع نہ ہو تو برائی بیان کرنا شروع کر دیں نہ یہ تھا کہ زبردستی اس کو کھاویں۔ بلکہ اگر خواہش ہوئی تو تناول فرمائیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ یہ اعتدال ہے اور اعتدال ہی بہت مشکل ہے۔ اعتدال پر چنان اور حالت معتدلہ پر قائم رہنا سخت کٹھن راستہ ہے کہ پل صراط کی طرح باریک ہے اس میں کسی قسم کا حظ نفس نہیں اور نہ کوئی خاص امتیازی حالت ہے کہ حق تعالیٰ بجا نہ تو ہمیں کھانے کو دیتے ہیں اور ہم لوگ عیوب نکالنے میں بتارہتے ہیں کہ اس میں نمک کم ہے یا مرج زیادہ ہے۔ لذت نہیں ذائقہ درست نہیں۔ گرم مصالحہ کی خوبیوں نہیں۔ ہلدی کی بوآتی ہے وغیرہ ذالک۔ حالانکہ ہمارے ذمہ یہ حق ہے کہ ہم حق تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر حال میں شکر ادا کریں اور جب ہمارے ذمہ یہ حق ہے تو پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمارے عیوب نہ نکالنے پر اجر ملے۔ کیونکہ ہم نے اپنے ذمہ کے حق کو ادا کیا تو اس پر اتحاق اجر کیسا۔ پس موادِ خذہ سے فج گئے۔ یہی بڑی بات ہے۔

اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی کے گھر میں آ کر رہے اور مہمانی کے طور پر قیام کرے۔ رخصت کے وقت میزبان سے کہے کہ میرا شکر یہ ادا کرو کہ میں نے تمہارے مکان میں آگ نہ لگائی۔ واقعی یہ شخص احمد ہے۔ اس کو آگ لگانے کا کیا حق تھا جو نہ لگانے پر شکر یہ کا طالب ہے کس بات کا شکر یہ ادا کیا جاوے۔ بلکہ مہمان کے ذمہ تو یہ ضروری ہے کہ میزبان کے مکان کو خراب نہ کرے۔ تو پھر حق واجب کے ادا کرنے پر شکر یہ کا اتحاق کیسے ہو سکتا ہے۔

اسی طرح کھانے میں عیوب نہ نکالنے پر عقل کا مقضات ا تو یہ ہے کہ ہم بھی ثواب کے مستحق نہ بنیں۔ مگر حق تعالیٰ کی عجیب رحمت ہے کہ باوجود یہ کہ ہمارے ذمے عیوب نہ نکالنا ضروری اور لازمی ہے لیکن ہم کو اس پر بھی اجر اور ثواب عنایت فرماتے ہیں۔

چنانچہ ہمارے ایک استاد تھے ملک محمد صاحبؒ بہت سادہ اور پاک طینت بزرگ تھے۔ میں نے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا دیافت کیا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ بخش دیا۔ میں نے پوچھا کہ کس بات پر بخش دیا۔ جواب دیا کہ میں ایک مرتبہ گھر میں آیا اور کھانا کھانے بیٹھا۔ کچھ دی میں نمک ٹھیک نہ تھا۔ مگر میں نے کچھ کہا نہیں اور کوئی عیوب نہ نکالا۔ اسی طرح کھانا کھالیا۔ حق تعالیٰ کے یہاں میرا معاملہ پیش ہوا۔ اس پر میری مغفرت ہو گئی۔

اللہ اکبر! غور کیجئے کہ یہ بھی کوئی بڑی بات تھی جس پر مغفرت ہوئی حق تعالیٰ بڑے قدر داں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مغفرت فرماتے ہیں۔ دیکھئے صرف کھانے میں عیب نہ نکالنے پر مغفرت ہو گئی۔ حالانکہ اس نعمت کا ہمارے سذمہ خود ہی یہ حق تھا کہ ہم اس میں عیب نہ نکالیں مگر حق بجانے کی قدر تو دیکھئے کہ اس پر بھی ہم کو ثواب عطا فرمادیتے ہیں اور ثواب اتنا کہ صرف اسی وجہ سے مغفرت فرمادی۔ حق تعالیٰ کی عجیب شان ہے۔

## نعمتوں پر ناگواری

صاحبوا! ذرا غور و خوض سے کام لجھتے تو صاف معلوم ہو کہ ہم پران کی کس قدر بے شمار نعمتیں ہیں مگر ہماری حالت یہ ہے کہ حق تعالیٰ تو ہم کو نعمتیں عطا فرماویں اور ہم عیوب نکالنے پر کمر بستہ ہیں چنانچہ ہمیں کپڑا پہننے کو ملتا ہے۔ مگر اس کی پسندیدگی میں بھی ہزار ہاتھ کے نخزے ہیں پھر سلواتے ہیں تو اس میں بھی شکن اور جھوول کی شکایت ہے کہ اس میں تو جھوول پڑ گیا۔

مگر افسوس اس کا اصل اور مطلقاً خیال نہیں کہ اس سے ہمارے دین میں جھوول پڑا جاتا ہے۔ اسی طرح کہیں سے کھانا آیا تو اس میں عیب نکال کر واپس کر دیا۔ ایک شخص نے تروپیہ خرچ کر کے بھائیوں کو کھانا کھایا مگر ادھر پر حضرت ہیں کہ ایٹھے گئے۔

چنانچہ میرے اعزہ میں ایک شخص ایک متاز عہدے پر مأمور تھے یعنی سب انکپڑتے۔ وطن آ کر ایک تقریب میں برادری کی دعوت کی مگر ایک شخص آنکھوں سے اندھے۔ کپڑوں سے میلے کچلے روٹھ گئے اور تماشا یہ کہ وہ معز زریں دوپھر کے وقت دھوپ میں ان کے منانے اور راضی کرنے کے واسطے چلے گو دھوپ اور تپش کے باعث مسجد میں بھی نہیں جاتے تھے۔ مگر ان کے منانے کو دوپھر کو دھوپ میں بے تکلف چلے جا رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے منانے کو کبھی مسجد میں نہیں گئے۔ ہماری بھی عجیب حالت ہے۔ حالانکہ وہ صاحب اپنے عہدہ پر اسے شکستہ حال اور کم حیثیت لوگوں سے بات بھی نہ کرتے ہوئے۔ مگر تقریب کی شان باقی رکھنے کو سب کچھ گوارا کیا۔

ایک شخص ذی شرودت کا ایسا ہی واقعہ ہے جو ہمارے وطن میں ہوا کہ شادی کی رسم میں کنبہ برادری کی دعوت کی۔ برادری میں ایک غریب آدمی کو بڑا حسد ہوا کہ اس کو اس قدر وسعت کیوں ہوئی جو اس نے دعوت کی آخر کار ایسے موقع کے منتظر ہے کہ اس موقع پر اس ذی شرودت کو ذلیل کیا جائے۔ حق تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ شیطان جیسے یعنی کی بھی مرادیں پوری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب کھانا کھانے پیشے تو سقة کا رخانے میں پانی لینے جا رہا تھا۔ اتفاق سے اس کی مشک میں سوراخ تھا۔ اس

میں سے پانی کی پھواراں پر جا پڑی۔ فوراً ہی بگڑ گئے۔ اور مجلس سے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ کھانا کھلاتا ہے یا ذلیل کرتا ہے۔ اس سے خوش ہوتا ہے کہ لوگوں کو پانی میں نہلا دے۔ کھلانے کا سلیقہ نہیں اور چھوٹ کی طرح کھلانے کو تیار ہو گیا۔ ان کے اٹھنے سے اور دس پندرہ آدمی معیت میں اٹھ گئے صاحبِ دعوت نے معافی چاہی کہ بھائی صاحبِ خدا کے واسطے معاف کر دیجئے۔ بہت خوشامد درآمد کے بعد مزاج کی اصلاح ہوئی یہ تو مقصود ہی تھا کہ رئیس کی بیٹی ہو۔ مگر رئیس کی کیا بیٹی ہوئی۔ ان کی تو وعظ میں تعریف ہو رہی ہے۔ ہاں ان حاصل صاحب کی ہی بیٹی ہوئی کہ وعظ میں ان کی تتفیص ہو رہی ہے۔

صاحب! تکبرِ خدا کو پسند نہیں بالخصوص غریب آدمی سے تو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ تین شخصوں کو بہت مبغوض رکھتے ہیں۔

ایک وہ! جو بوڑھا ہو کر زنا کرے۔ دوسرے وہ جو بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے۔ تیسرا وہ جو غریب ہو کر تکبر کرے۔ فرعون بے سامان ہو جاوے۔ ایک فرعون بے سامان بھی تھا۔ لیکن اگر ان کے پاس سامان ہوتا تو ابھیس سے کم نہ ہوتے۔

غرض! بعض لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ کی نعمتیں بھی ناگوار ہیں۔ وہ تو نعمتیں عطا فرماتے ہیں اور یا اپنے خرے کرتے ہیں۔ ہر چیز میں خرہ ہے ناکمالے کوئی شے پسند ہی نہیں۔ ہر چیز میں عیب و شکوہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گوحق تعالیٰ کی نعم کثیرہ اور بے شمار ہیں مگر زیادہ دو حالتیں پیش آتی ہیں جو موافق مزاج اور مناسب طبع نہیں۔ اس وقت ضبط و استقلال کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی معنی ہیں صبر کے۔ اسی واسطے اس آیت کو اختیار کیا گیا ہے کہ اس آیت میں مضمون صبر کو قصہ کے پیرا یہ میں بیان فرمایا ہے اور قصہ سے مقصود اصلی واقعات کا نہ نہیں بلکہ ترغیب و تہذیب مقصود ہوتی ہے کہ ہم بھی اگلے لوگوں کی حالت محمودہ کو دیکھ کر عمل کی کوشش کریں اور نہ مومہ کو دیکھ کر اس سے احتراز کریں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّلْأُولَى الْآلَابِ

ان کے قصہ میں سمجھداروں کے لئے عبرت ہے

اور عبرت کے معنی ہیں قیاس حال نفسہ علیٰ حالہم سواء کان محموداً او مذموماً۔

حَكْمَتُ وِلَادَتِ حَضْرَتِ مُوسَىٰ

پس حق تعالیٰ اس آیت میں والدہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ

علیہ السلام کی والدہ کا الہام کیا کہ تم ان کو دودھ پلاتی رہو فرعون کو کاہنوں اور نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہو گا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہو گا۔

فرعون نے یہ پیشین گولی سن کر بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اسی زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حق تعالیٰ نے والدہ موسیٰ علیہ السلام کو شر فرعون سے محفوظ رہنے کی تدبیر بتلائی جو اس آیت میں مذکور ہے۔ ہر چند کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ولادت موسیٰ سے پہلے ان کی والدہ کو حق تعالیٰ کا الہام یوں ہو جاتا کہ سفر کر کے مصر سے باہر ایسی جگہ چلی جاؤ جہاں فرعون کی سلطنت نہ ہو اور جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو جاتے تب مصر میں تشریف لے آتے جیسا کہ جوان ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون سے خائف ہوئے تو مدین کی طرف چل دیا اور شعیب علیہ السلام سے ملے۔

**وَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصَ . قَالَ لَا تَخَفْ . نَجُوتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ**

اور شعیب علیہ السلام سے تمام قصہ بیان کیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب خوف نہ کرو۔ قوم ظالمین سے تم نے نجات پالی۔

کیونکہ دین میں فرعون کی سلطنت نہ تھی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام حد قریب سے نکل گئے تھے۔ اسی طرح یہ بھی ایک طریق مفید تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو مصر سے سفر کرنے کا الہام ہو جاتا ہے کہ مدین چلی جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام وہیں پر پیدا ہوتے۔ مگر خدا تعالیٰ کو یہ دکھلانا تھا کہ ہم خدا ہیں۔ مصر میں ایسی حالت میں پیدا کیا کہ فرعون ہر بچہ کے قتل پر کر بستہ تھا۔ پھر فرعون کے ہاتھوں میں پلوایا۔ تو اپنی قدرت پر استدلال بتایا ہے کہ اتنی بڑی قدرت ہے طاہر ہونے پر بھی فرعون دعویٰ خدا سے باز نہ آیا۔ واقعی دل پر مہر ہی ہو چکی تھی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

**خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ**

اور فرماتے ہیں **الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ** آج ہم ان کے مونہوں پر مہر لگادیں گے۔

**إِلَيْهِ قَوْلَهُ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ (ب ۲۳)**

اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے۔

چنانچہ قدرت عظیمہ کا ظہور اس طرح ہوا کہ موسیٰ کی پورش فرعون کے ہاتھ سے کراٹی۔ مخلوق میں کوئی کتنا ہی بڑا قاہر اور زبردست کیوں نہ ہوا پسے محبوب کو دشمن کے ہاتھ میں ہرگز نہیں دیتا۔ گو دشمن کو کیسا ہی اور کتنا ہی مغلوب و عاجز کر دے۔ مگر یہ اندیشہ ضرور ہوتا ہے کہ کہیں یہ

میرے بچہ کو قتل نہ کر دے اذیت نہ پہنچائے۔ مگر یہ خدا ہی ہے جس کو کسی قسم کا اندیشہ نہ ہو۔ جس کو اپنی قدرت کا علم جازم ہو کہ بدلوں ہماری مشیت کے کسی کی مجال نہیں جو کچھ بھی کر سکے۔

چنانچہ حق تعالیٰ نے موئی جیسے اپنے محبوب کو دشمن کے ہاتھ میں دیدیا۔ اور ایسے وقت میں دیا کہ موئی کچھ بھی نہ کر سکتے تھے اور ہاتھ پاؤں بھی نہ ہلا سکتے تھے۔ اور جب دو تین برس میں ہاتھ پاؤں چلانے کے قابل ہوئے تو ایسا فعل صادر کرایا۔ جس سے خواہ مخواہ فرعون کو شہر ہو جاتا کہ یہ لڑکا وہی ہے جو میرا دشمن ہو گا۔

چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بار فرعون کی گود میں تھے وہ آپ کو پیار کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرعون کے منہ پر ایک طماںچہ رسید کیا اور اس کی داڑھی نوچ لی۔ فرعون کو اس کی سہار کھاں تھی۔ اس نے تو ہمیشہ وہی تعظیم و تکریم دیکھی تھی ہمیشہ نعمتوں میں رہا۔ اور انسان کے لئے ایسی نعمت بھی بلا ہے فرعون نے بلانہ دیکھی تھی۔ اور جب تک انسان کو کچھ چڑ کہ نہ لگے۔ اس وقت تک اسے اپنی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ انسان کے واسطے چڑ کہ لگنا اور کسی مصیبت میں پڑنا جڑ ہے تمام محاسن اور خوبیوں کی۔ فرعون تو تمام عمر ناز نعمت میں رہا تھا۔ اس نے کوئی رنج اور تکلیف نہ دیکھی تھی۔ اس لئے اپنے کوس سے بڑا سمجھتا تھا جیسے بعض مسلمان بھی اپنے دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک کافر فرنگ سے اپنے کو بدتر نہ سمجھے۔ شاہ جی تو کل شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنے کو کتے سے بھی بدتر سمجھنا چاہئے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے اس کی توجیہ میں فرمایا کہ کتے میں اندیشہ بے ایمانی کا نہیں اور مسلمان کو بے ایمانی کا اندیشہ ہے اس لئے مسلمان کو چاہئے کہ اپنے کو کتے سے بھی بدتر سمجھے۔ حقیقت میں زندگی ختم ہونے تک انسان کو کچھ حق نہیں اپنے کو اچھا سمجھنے کا۔ رات دن تبدیل و تغیر ہوتی رہتی ہے۔ کوئی آج عابد وزاہد ہے اور کل کوشیطان ہو جاتا ہے۔ کوئی آج کافر ہے اور کل کو مسلمان ہو جاتا ہے اس لئے زندگی میں اپنے کو کسی سے اچھا سمجھنے کا کچھ حق نہیں۔ ہاں مرنے کے بعد اگر اسلام پر خاتمہ ہو گیا تو جو کچھ چاہے سمجھ لینا۔ اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں

گہہ رشک بر د فرشتہ بر پا کی ما گہہ خندہ زند دیو ز نا پا کی ما

ایمان چو سلامت بہ لب گور بریم احسنت بریں چستی و چالاکی ما

”کبھی فرشتہ ہماری پاک دامانی پر رشک کرتا ہے۔ اور کبھی شیطان ہماری ناپاکی پر بنتا ہے۔

اگر سلامتی کے ساتھ ایمان قبرتک لے گئے تو ہماری اس چستی و چالاکی پر آفریں ہو گی۔“

## یزید اور لعنت

ایک شخص نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد قبر میں جائز ہے۔ جب یہ اطمینان ہو جاوے کہ ہماری حالت یزید سے اچھی ہے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اس پر لعنت کریں اور کل کو ہماری حالت اس سے بھی بدتر ہو جاوے تو یزید کہے گا کہ سبحان اللہ! آپ دنیا میں کس سرخروئی کی بناء پر مجھ پر لعنت کیا کرتے تھے۔ اب گریبان میں منہ ڈال کر تو دیکھو۔ کسی کو کاتا وہ شخص کہے جس کو اپنے اندر ہے ہونے کا اندیشہ نہ ہو اگر یزید براحتا تو اس کا کیا اطمینان ہے کہ ہم اس سے اچھے ہو کر مرسیں گے۔ میاں بس زندگی میں تروتے ہی رہو۔

حضرت رابعہ بصریہ شیطان پر بھی لعنت نہ کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ جس قدر وقت لعنت میں صرف کیا جاوے اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ وقت ذکر محبوب ہی میں صرف کیا جائے۔ ہر چند کہ شیطان پر تمہارا جائز ہے مگر بزرگ اس کے درپے نہیں ہوتے۔ کیونکہ مرنے تک اپنا ہی کچھ پہنچنے نہیں۔ پھر ضروری ہی کام میں نہ لگے جیسا حضرت رابعہ نے فرمایا اس لئے اپنے کو اچھا سمجھنے کا کسی کو حق نہیں۔ اکثر یہ بلا اہل سمع کو ہو جاتی ہے۔

## امتحان حضرت موسیٰ علیہ السلام

چنانچہ فرعون کی حالت اسی لئے خطرناک تھی کہ اس نے بلا اور بے تعظیمی کبھی دیکھی نہ تھی اسی لئے اس نے انا ربکم الا علیٰ کا دعویٰ کیا۔ جب موسیٰ نے اس کی داڑھی نوچ لی تو فرعون غصہ سے بے تاب ہو کر کہنے لگا کہ ہونہ ہو یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کے زوال کا باعث ہو گا اور اس قسم کی واہی بتاہی با تین ہانکنے لگا۔ اور آمادہ قتل ہو گیا۔

حضرت آیہ کہنے لگیں کہ تم تو بے وقوف ہو گئے ہو۔ یہ تو نا سمجھ بچہ ہے اس نے اپنے فہم کے مطابق نا سمجھی سے یہ فعل کیا ہے۔ بچہ میں کہاں سمجھ ہوتی ہے جو وہ کوئی کام سمجھ کر کرے۔ فرعون بولا ہرگز نہیں۔ یہ بچہ نا سمجھ نہیں ہے اس نے دانتہ یہ فعل کیا ہے۔ حضرت آیہ نے اس کی اُنفی کی تو فرعون نے کہا کہ اچھا میں اس کی فہم و عدم فہم کا امتحان کرتا ہوں۔ ایک طشت آگ کا اور طشت جواہرات کا منگوایا۔ اور دونوں موسیٰ کے سامنے رکھ دیئے کہ اگر یہ نا سمجھ ہیں تو آگ اور جواہرات کو یکساں سمجھیں گے ورنہ جواہرات کی طرف میلان کریں گے۔

یہ بھی فرعون کی حماقت تھی۔ کیونکہ جب بچہ میں عقل نہیں ہوتی تو اتفاقاً جس طرف بھی چاہے متوجہ ہو جاوے مگر موسیٰ سمجھ دار تھے وہ سمجھ گئے کہ آگ قابل توجہ نہیں۔ چنانچہ جواہرات کے طشت کی طرف ہاتھ دوڑانا چاہا مگر جبریل کو حکم ہوا کہ ان کا ہاتھ آگ کی طرف پھیر دو۔ چنانچہ حضرت جبریل نے آگ کے طشت کی طرف منہ پھیر دیا۔ تو موسیٰ نے انگارے صرف ہاتھ ہی میں نہیں لئے بلکہ منہ میں رکھ لئے جس کی وجہ سے زبان میں لکنت ہو گئی۔

یہ قصہ متدرک حاکم جلد ثانی کتاب التاریخ ذکر موسیٰ میں مفصل مذکور ہے من قوله فبینا هو يلعب بين يدي فرعون الى قوله و كان امر بقتله و رواه مختصرًا في الدر المنشور سوره طه برواية عبد بن حميد و ابن المندزروا و ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير امّر بقول مشهور بعد نبوت کے یہ لکنت جاتی رہی تھی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ نبوت کے بعد بھی خفیف اثر باقی رہا تھا۔ اور زیادہ اثر زائل ہو گیا تھا۔ جس سے بات سمجھی میں آنے لگی تھی۔

اب فرعون کاطمینان ہو گیا کہ بچے نے میرے ساتھ بھی یہ حرکت ناجھی سے کی ہے اور پھر شفقت و محبت بدستور کرنے لگا۔ ایک حرکت تو بچپن میں یہ کی اور بڑے ہو کر یہ کیا کہ ایک قبطی آدمی کو مارڈالا۔ فرعون نے اس قصہ کو سن کر وازنگ گرفتاری کا انکال دیا۔ اشتہاروںے دیا کہ موسیٰ جہاں ہوں پکڑ لئے جائیں۔ موسیٰ کو جب یہ معلوم ہوا تو مصر سے سفر شروع کر دیا۔ اور تن تھا بلا کسی رہبر کے مصر سے روانہ ہو گئے۔

اعبیاء علیہم السلام کو تمام امور میں جانب اللہ ہل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ باوجود داں کے کہ راستہ معلوم نہ تھا کبھی سفر نہ کیا تھا۔ مگر خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے چل پڑے اور کامیاب ہو گئے۔ تو کل کی بھی برکت ہے۔ متوكل کے ساتھ بے دست و پا بچوں کا سامعاملہ کیا جاتا ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں۔

طفلتا گو یا وتا پویانہ بود                  مرکبش جز گردن بابا نہ بود

”بچہ جب تک بولنے نہ لگتا اور چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوا سکی سواری بابا کی گردن پر ہوتی ہے۔“

## حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل

جب آدمی خدا تعالیٰ کے بھروسہ پر کام شروع کرتا ہے تو حق تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اس وقت موسیٰ نے دارالکفر سے بھرت کی تھی۔ جاہل آدمی یہ سمجھے ہو نگے کہ موسیٰ بھاگے بھاگے پھرے اور خلاف توکل کا کام کیا حالانکہ موسیٰ کا مصر سے چلا جانا خلاف توکل نہیں تھا۔ بلکہ واقع میں بہت بڑا توکل ہے۔

تقریر مقام کی یہ ہے کہ اختیار مذکور کامل یا ترک مذکور مطلقاً کے متعلق توکل کے اقسام و احکام تو قوم میں مشہور اور کتب قوم میں مفصلانہ مذکور ہیں مگر مذکور ناقص کے اختیار کرنے کا حکم اور درجہ غالباً کم معلوم ہے۔ اس لئے اس کے متعلق تحقیق کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ اس کو عام طور سے ظاہر نظر میں یہ دیکھ کر کہ مذکور تو اختیار کی توکل نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہی مشاء شبہ بالا کا ہوا حضرت موسیٰ کی نسبت۔ مگر واقع میں مذکور کے ضعیف اور ناکافی ہونے کی صورت میں ایسی مذکور کے ترک کی نسبت اس مذکور کے اختیار کرنے میں زیادہ توکل ہے غیریب اس کی توجیہ آتی ہے۔

یہاں موسیٰ نے جس مذکور کو اختیار کیا ہے وہ اس لئے ناکافی تھی کہ ظاہر الفاظ آیت

**فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنْيُونِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ . (پ ۲۰)**

”پس موسیٰ وہاں سے نکل گئے خوف اور دہشت کی حالت میں کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار! مجھ کو ان طالبوں سے بچائیے۔“ اور آیت۔ **وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَذَيْنَ قَالَ عَسْنِي رَبِّيْنِي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَآءَ السَّبِيلِ۔ (پ ۲۰)**

”اور جب موسیٰ مدین کی طرف ہو لئے کہنے لگے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھے راستے پر چلائے گا۔“

سے مفہوم ہوتا ہے کہ آپ کو راستہ مدین کا معلوم نہ تھا۔ کسی سے پوچھنا منقول ہے۔ محض حق تعالیٰ سے دعا اور کسی مامن کا راستہ مل جانے کی رجائے پر سفر شروع فرمادیا۔ جس کی برکت سے مدین کی طرف قدرتی طور پر رخ ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ مذکور نجات کی محض ناکافی تھی۔

اب حسب وعدہ ایسی مذکور کے اختیار کرنے میں زیادہ توکل ہونا بیان کرتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو عام لوگ اس کو توکل نہیں سمجھتے جیسا شروع تقریر میں مذکور ہوا تو بوجہ خفی ہونے کے اس میں زیادہ اخلاص ہے اس کا اختیار کرنا محض عبدیت ہے کہ باوجود ناکافی ہونے کے امثال امر سمجھ کر اس کو اختیار کیا۔ طبع و عادات کی مزاحمت پر عمل نہیں کیا۔ تیسرے اس صورت میں حق تعالیٰ کی قدرت کے موثر ہونے پر یہ نظر ہونا (کہ وہ غیر موثر کو موثر کر سکتے ہیں) عجیب ہے۔ بخلاف ترک کے کہ اس صورت میں اگر قدرت پر نظر نہ ہوگی تو کسی چیز پر ہوگی۔ اس لئے یہ توکل اکمل واقوی ہے۔ غرض موسیٰ کا ایسی حالت ناواقفی میں بلا دریافت کے سفر کرنا ظاہر اتو مذکور پر عمل ہے مگر واقع میں نہایت کامل اور دقيق توکل ہے اگرچہ ظاہر میں مذکور کی تھی مذکور یہ بھی جبکہ راستہ وغیرہ معلوم نہ تھا ناقص

تھی اسلئے یہ مدیر محض براۓ نام تھی ورنہ حقیقت میں پورا توکل تھا۔ البتہ آپ نے عام مذاق کے موافق توکل نہیں کیا کہ وہاں سے سفر ہی نہ کرتے بلکہ اپنی امکانی مدیر بھی گوتا مہی کی مدیر تھی اور توکل بھی کیا۔

## حضرت یوسف علیہ السلام کا توکل

یہ سخت مشکل ہے کہ ایسی حالت میں مدیر اور بھروسہ کو شش بھی کرے جب کہ مدیر کی بظاہر کافی صورت نہ ہو ورنہ ایسی حالت میں طبعی اقتداء مطلاقاً ترک مدیر ہے تو حق تعالیٰ کی قدرت پر نظر کر کے طبیعت کو مغلوب کرنا بڑا مجاہدہ ہے۔ اسی کی نظر حضرت یوسف علیٰ عیناً و علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ زیخا کے ہاتھ میں آگئے اور مکانات میں مقفل ہو گئے اور مکان بھی سات درجوں کا تھا تو اس وقت توکل ظاہری تھا کہ وہاں سے نہ اٹھتے اور مدیر کامل یہ تھی کہ کچھی پاس ہوتی تو بھاگ کر کھول لیتے۔ کیونکہ وہ قفل کوئی معمولی قسم کے نہ تھے کہ ہاتھ کے زور سے ٹوٹ جانے کی توقع ہوتی غایت درجہ کے مضبوط قفل تھے۔ اس صورت میں ظاہر نہیں کو خواب میں بھی مدیر کا خیال نہیں آ سکتا۔ کیونکہ کنجیاں پاس نہیں اور قفل معمولی کمزور نہیں۔ اب مدیر کرے تو کس بھروسہ پر کرے۔

مگر یوسف علیہ السلام کو ہم سوالوں کی طرح وساوس نہ آتے تھے کہ قفل کس طرح کھلے گا۔ بس انہوں نے یہ سوچا کہ مجھ کو یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ میرا اتنا ہی کام ہے آئندہ قفل کھولنا حق تعالیٰ کا کام ہے۔ مگر یہ ظرف یوسف علیہ السلام کا تھا اور یہ نبوت کی قوت تھی جوان کو یہ خیال آیا کہ میں تو یہاں سے بھاگوں میرا کام اتنا ہی ہے آئندہ حق تعالیٰ شانہ کا کام ہے قفل کا کھولنا نہ کھولنا غیر نبی کو اس حالت میں بھاگنے کا کبھی خیال نہ آ سکتا تھا۔ یہ کام نبی ہی کا تھا۔ چنانچہ اس خیال کے ذہن میں آنے ہی پر دروازے کی طرف دوڑ پڑے اور قفل ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ زیخا دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ مولانا مشنوی میں اسی مضمون کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں۔

گرچہ رخنه نیست عالم را پدید  
خیرہ یوسف دار می باید دوید  
”اگر چہ دنیا میں کسی قسم کا راستہ نہیں مگر یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگ دوڑ کرنا تو فرض ہے۔“  
مقصود مولانا کا یہ ہے کہ قیود نفسانیہ سے نکلنے کی اپنی قدرت بھروسہ کو شش کرو آئندہ حق تعالیٰ مالک ہیں ان کے سپرد کر دو۔

## والدہ موسیٰ علیہ السلام اور توکل

اسی طرح موسیٰ کا کمال دیکھئے کہ بے خبری ہی کی حالت میں مصر سے نکل کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے اور رحمت حق سے مایوس نہیں ہوئے اور نہ راستہ کی ناواقفیت سے پریشان ہوئے۔ ہم سوالوں کا تو یہ حشر ہوتا کہ نا امید ہو کر رہ جاتے کہ کہہ رجاء میں۔ مگر موسیٰ سید ہے ایک طرف کو روانہ ہو گئے اور فرعون کے قبضہ سے نکل گئے۔ جس پر فرعون ساری عمر دانت پیتا رہا کہ میرے قبضہ سے کیونکر نکل گئے۔ اس وقت فرعون کی ایسی مثال ہو گئی کہ

در بہ بست و دشمن اندر خانہ بود              حیلہ فرعون زیں افسانہ بود  
یعنی دروازہ بند کر دیا کہ چور نہ آئے اور چور اندر گھر کے موجود ہے فرعون نے ہزار ہاتھ ایک  
کیس مگر دشمن کا پتہ ہی نہ چلا۔

غرض! عمر بھر فرعون کے ہاتھ میں رہنے کے بعد مہالک سے اس طرح نجات پائی۔ اور فرعون کے ہاتھ میں آنے سے پیشتر مہالک سے جس طریق سے نجات پائی تھی وہ بھی اسی طریق سفر مدین کے ہم رنگ تھی۔ کیونکہ کسی بچہ کی نجات کی یہ شکل کہ اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا جائے بظاہر نہایت ہی ضعیف و ناکافی تدبیر ہے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ کی شان اسی معاملہ کے مناسب ہے۔ اس کا قصہ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے جس کی میں نے خطبہ میں تلاوت کی۔

**وَأُوحِيَ إِلَى أُمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ آخِرَ آيَتِ تِكَ**

(اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ تم ان کو دودھ پلا دو)  
یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی یعنی الہام کیا کہ موسیٰ کو دودھ پلا و آگے ان کے چھپا دینے کے لئے دریا میں ڈال دینا نہ کو رہے۔ اور اسی اخفاء کے لئے یہ سامان فرمایا گیا کہ جب پیدا ہوئے تو موسیٰ روئے نہیں تا کہ اخفاء کی ظاہری تدبیر بھی پوری ہو جائے۔

حق تعالیٰ کی بھی عجیب شان ہے کہ کہیں تو طاہری اسباب اور تدبیر بھی استعمال فرماتے ہیں اور کہیں استعمال نہیں فرماتے اور ہر ایک میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ غرض ای وحی ہوتی کہ دودھ پلا دیں اور جب اندیشہ ہو کہ فرعون کو بچہ کا پتہ چل جاویگا اس وقت اس کو دریا میں ڈال دینا۔ بچاؤ کی تدبیر بھی ایسی بتائی کہ اس کو کوئی تدبیر ہی نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ اگر دریا سے فرعون کے ہاتھ آ جاویں تو اندیشہ قتل ورنہ دریا میں ڈوب جائیں۔

اور دریاڈانے کی صورت یہ فرمائی کہ صندوق میں رکھ کر پھینکنا چنانچہ دمری جگہ ارشاد ہوتا ہے  
**فَاقْدِفِيهِ فِي الْيَمِ فَلَيُلْقِهِ الْيَمُ** (پ ۱۶)

(ایک صندوق میں رکھو پھر ان کو دریا میں ڈال دو)

غرض جب تک دریا میں رہے اس وقت تک مہالک ہی کے ذریعہ سے دریا میں نجات دی  
 یعنی مہالک کو سبب نجات بنادیا۔ اور والدہ موسیٰ کی تسلی کے لئے یہ فرمادیا کہ دریا میں ڈال کر  
 رنجیدہ اور خائف نہ ہونا۔ ہم بے شک موسیٰ کو پھر تمہارے پاس بھیج دیں گے اطمینان رکھو۔

یہ بھی ظاہر میں بہت بعید بات تھی اور اسی رنگ کی تدبیر تھی جو صورۃ عدم تدبیر تھی کیونکہ کہاں  
 تو محل فرعون اور کہاں موسیٰ کی والدہ۔ بھلا فرعون کے ہاتھ میں موسیٰ کے پہنچ جانے پر بھی یہ خیال  
 کیونکر ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ بھی محلات فرعون میں بلای جائیں گی پھر ارشاد ہے۔

**وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ** اور ہم موسیٰ کو رسول بنادیں گے

اس آیت میں بشارت ہے موسیٰ علیہ السلام کی درازی عمر کی کہ ۲۰ سال سے کم نہ ہوگی۔  
 کیونکہ بعادت غالباً رسول چالیس سے کم میں نہیں ہوتے۔ یہ حاصل ہے آیت کا۔

چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح سے صندوق میں بستر بچھا کر اور موسیٰ کو اس میں لٹا کر  
 بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عجیب کمال ثابت ہوتا ہے کہ ماں کو اولاد  
 سے ظاہر ہے کہ بے حد محبت ہوتی ہے کہ افیت کے احتمال بعید بلکہ غیر واقعی سے بھی وہم پیدا ہوتا ہے۔

نسائی کی حدیث میں ہے کہ ایک بچہ کو غسل کے وقت غسال سے حضور اقدس کے سامنے<sup>۱</sup>  
 اس کی ماں نے یہ کہا تھا کہ میرے بچہ پر زیادہ سُخنڈا پانی نہ ڈال دینا کبھی سردی سے تکلیف ہو۔  
 جیسے زندہ بچے کی حفاظت کی جاتی ہے ایسے ہی وہ مرنے کے بعد اس کی حفاظت کرتی ہے۔

مگر با وجود اس کے والدہ موسیٰ ان کو صندوق میں رکھ کر اور صندوق بند کر کے بسم اللہ کہہ کر  
 دریا میں چھوڑ آئیں۔ خدا کے اوپر کیسا اوثوق تھا۔ یہ سوال بھی نہیں کیا کہ دریا میں کیا ہوگا۔ اور حق  
 تعالیٰ نے جو کچھ مجملًا فرمابھی دیا تھا۔

**يَا أَخْذُهُ عَدُوُّ لَهُ كَمَا كُوِيرَ إِلَّا إِنَّمَا يَكْلُلُ لَهُ**

اس پر انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ دشمن کیڑا کر کیا کرے گا اور جو کریگا بہتر ہو گایا شر۔ کیسا انقیاد  
 ہے۔ بس جان لیا کہ یہ میری چیز نہیں مجھے اس قسم کے سوالات کا کوئی حق نہیں۔ جیسے کوئی باوشاہ اپنے

خازن سے کہے کہ اس الماری کی اشیاء کو اس میں سے انھا کر اس الماری میں رکھ دو تو خازن کو یہ منصب نہیں کہ یہ کہے کہ جتاب کیوں رکھ دوں۔ بلکہ بادشاہ جس طرح چاہے اس کو اس طرح کرنا چاہئے۔

## حضرت آدم علیہ السلام اور ایاز

جیسے بادشاہ محمود غزنوی کے ایک حکم کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ وزراء نے سلطان محمود سے شکایت کی کہ آپ کو ایاز کے ساتھ تعلق زیادہ ہے اور حضور ایاز کو زیادہ چاہتے ہیں۔ اس وقت تو محمود اس کا سن کر ٹال گیا۔ اور دل میں خیال کیا کہ کسی موقع پر بتلاوں گا کہ ایاز کے ساتھ زیادہ تعلق کیوں ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ دربار عالم کیا اور خزانہ میں جو ایک بہت بڑا اور بیش بہا قیمتی موتو تھا کہ اس کے ساتھ کا اور کوئی موتو خزانوں میں نہ تھا اس کو منگوا کر دربار میں رکھا اور وزیر اعظم کو حکم دیا کہ اس موتو کو توڑ دو۔ وزیر نے سوچا کہ شاید اس وقت بادشاہ نے کسی حالت کے جوش میں ایسے ہی کہہ دیا ہے بعد میں پشمیان ہو گا۔ ادب سے عرض کیا کہ حضور یہ تو بے نظیر موتو ہے۔

بادشاہ نے وزیر دوم سے کہا کہ تم توڑ دو۔ وزیر دوم نے بھی یہی سوچ کر کہ جب وزیر اعظم نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ دوں۔ وزیر اول کی طرح اس کے بیش بہا اور بے مثل ہونے کا اعذر کر دیا۔ بادشاہ نے ایاز کی طرف نظر انھائی کرتم توڑو۔ ایاز نے فوراً دو پتھرا اور پیچے رکھ کر دو ٹکڑے کر دیئے۔ جب وہ ٹوٹ گیا تو بادشاہ نے نظر غیظ و غضب سے ایاز کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیا کیا؟ ایاز نے کہا حضور قصور ہوا۔ وزراء خوش ہوئے کہ آج ایاز پر بھی خفگی ہو گی اور ہم بڑے عقلمند تھے کہ باوجود امر شاہی کے اپنی عقل سے رک گئے۔ کیونکہ ہم جانتے تھے کہ بعد میں بادشاہ کو رنج ہو گا۔

ایاز نے جو یہ عرض کیا کہ بندہ سے قصور ہوا حضور معاف فرماویں۔ یہ اس کے مشابہ ہے جیسا حضرت آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کھالیا تھا و حق تعالیٰ کی خفگی ہو کر جنت سے جدا کر دیئے گئے۔ تو انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا۔

**رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنْكُونَنْ مِنَ الْخَسِيرِينَ (پ ۸)**

اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جاویگا۔

تو حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی نسبت اپنی طرف کی اور اپنے نفس کو خط او ار بنا کر معاف کی درخواست کی برخلاف شیطان کے کہ اس نے خطا کی نسبت اپنی طرف نہیں کی بلکہ رب بما

اغوئنی (پ ۸) کہہ کر خدا تعالیٰ کی طرف نسبت کی اور ادب کو ملحوظ نہ رکھا۔ اگر ادب کو ملحوظ رکھ کر اپنی طرف نسبت کرتا تو اس کی بھی معافی ہو جاتی۔ اسی مضمون کا عارف شیرازی فرماتے ہیں  
 گناہ گرچہ نبود اختیار ما حافظ      تو در طریق ادب کوش کیں گناہ من سنت  
 اگر گناہ ہمارے اختیار میں نہیں مگر ادب میں کوشش کرنا تو ہمارا فرض ہے جو ادب کو ملحوظ نہیں  
 رکھتا یہ اس کا گناہ ہے۔

غرض حضرت آدم علیہ السلام نے ادب کو ملحوظ رکھ کر معصیت کی نسبت اپنی طرف کی اور شیطان نے ادب کو پس پشت ڈال کر خدا تعالیٰ کی طرف نسبت کی ادب کی یہ برکت ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام مقبول ہوئے اور شیطان مردود ہوا شیطان نے تو یہ قول شرارت سے کہا تھا۔ اگر غلبہ حال میں کہتا تب بھی معافی ہو جاتی۔ مگر اس نے جیسا بعض اہل سیر نے لکھا ہے بھی سبب بیان کیا کہ میں نے جو کچھ کیا آپ کے لکھے ہوئے کے موافق کیا۔ مخالفت کا دعویٰ کرتا ہے۔  
 تو نے تو معصیت اور سرکشی ہی کی وجہ سے بجدہ سے انکار کیا۔

آج کل بھی اکثر آدمی نماز نہیں پڑھتے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری قسم میں نماز پڑھنا نہیں ہے۔ تو نہ پڑھنے کا یہ سبب ہے۔

غرض! حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی تو معافی چاہی۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفَسَنَا إِيَّا  
 نے بھی آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا کہ جب موتی توڑنے پر بادشاہ خفا ہوا تو بولا کہ حضور خطا  
 ہوئی۔ اور اس کے قبل جب وزراء نے موتی توڑنے پر ملامت کی تو ان سے مخاطب ہو کر یوں کہا میں  
 نے تو موتی ہی توڑا تم نے بادشاہ کا حکم توڑا۔ اور موتی کا توڑنا بادشاہ ہی حکم کے توڑنے سے ہل پے  
 نقض امر از کسر درد شوار تر      لا جرم بستم با مراد کمر

موتی توڑنا شاہی فرمان کے توڑنے سے کم دشوار تھا۔ اس لئے میں نے حکم کی تقلیل کی۔  
 ایاز نے امر کے بعد جو عمل کیا یہی مذاق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تھا کہ موتی کے  
 وہ مالک ہیں جہاں چاہیں رکھوائیں۔ مجھے چون وچرا کا کیا حق ہے۔ چنانچہ جس الماری میں رکھنے  
 کا امر کیا گیا۔ انہوں نے اسی الماری میں رکھ دیا جس کا ذکر آئندہ آیت میں ہے

فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَالْقِيَهُ فِي الْيَمِ (پ ۲۰)

(جب ان کی نسبت (جاسوس) کا خطرہ ہو تو ان کو دریا میں ڈال دینا)

## محققین کا مذاق

محققین کا مذاق جامع الاضداد ہوتا ہے۔ ان کو اس طرح جامع بنایا گیا کہ تھوڑی سی تدبیر بھی بتلائی کر تو کل کا نام نہ ہو۔ اور ظاہر میں ناقص و ناتکافی تھی۔ اسلئے تو کل بھی کامل ہوا۔ جیسا اور پر بیان ہوا ہے جب دو چیزیں متفاہد جمیع ہوتی ہیں۔ تو محققین دونوں پر عمل کرتے ہیں اور وہ صورت امتفاد ہوتی ہیں نہ کہ حقیقتاً تو کل محض میں تو ایک شان امتیاز کی ہے اور تدبیر محض میں صورتہ تو کل کی مخالفت ہے اس لئے عارفین ایسے موقع میں تدبیر تو کل دونوں متفاہد و جمع کرتے ہیں۔ البتہ جمع میں استھادین کا لون ہر جگہ جدا ہوتا ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو حضور سے روتا اور آنکھوں سے آنسو بہانا ثابت ہے اور آپ نے عبد الرحمن بن عوف کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ رحمت ہے یعنی جو کہ حق ہے اولاد کا دیکھئے! یہاں صبر اور ظہور حزن دونوں جمع ہو گئے۔ اور بعضے بزرگ جو اولاد کے مر نے پرنس پڑے۔ یہ دلیل کمال نہیں۔ کیونکہ یہ دلیل ہے عدم تعلق با لاولاد کی۔ بلکہ آنسوؤں کا بہنا ہی کمال ہے کہ اس میں جمع ہے دونوں حقوق کا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کمال تو کل تو اسی سے معلوم ہو گیا کہ حق تعالیٰ نے حکم فرمادیا کہ ان کو دریا میں ڈال دو۔ اور انہوں نے خدا پر بھروسہ کر کے فوراً ڈال دیا۔ اب اس کی دو صورتیں تھیں۔ ایک یہ کہ دریا میں ڈال دیتیں اور ڈال کر مایوس ہو کر اور صبر فرمائ کر فارغ القلب ہو کر جیٹھے جاتیں مگر حق..... سبحانہ نے یہ حکم دیکر موسیٰ علیہ السلام سے ان کے قلب کا تعلق قطع نہیں ہونے دیا۔ بلکہ واپسی کی خوشخبری رآڈُوہِ الیک (ہم ان کو ضرور تمہارے پاس واپس پہنچاویں گے) میں سن کر آتش شوق کو تیز کر دیا۔

غرض ایسے سخت مایوس کن حکم کے بعد ان کے اشتیاق کو بھی باقی رکھا اور ان کو ترساں و ہراساں بھی نہ ہونے دیا۔ یہ ایسا مشکل ہے جیسا میرٹھ میں ایک شخص تکوار کی دھار سے آنکھوں میں سرمدہ لگایا کرتا تھا۔ جب ان سے تکوار سے سرمدہ لگانے کا کمال ظاہر کیا تو کسی نے خوف کی وجہ سے سرمدہ نہ ڈلوایا اور یہ کہا کہ پہلے اپنے لڑکے کے سرمدہ ڈالو۔ چنانچہ اس نے اپنے لڑکے کو کھڑا کر کے تکوار میں سرمدہ لگا کر پینتر ابد لتے ہوئے صاف دونوں آنکھوں میں سرمدہ ڈال دیا۔ خدا جانے کیا غصب کیا دونوں آنکھوں میں صاف سرمدہ لگا گیا۔ اور آنکھوں پر کچھ ضرب نہ آئی۔

یہ تو ظاہر کمال ہے کہ حصی تکوار سے سرمدہ لگا دیا۔ اور یہ حقیقی کمال ہے کہ باطنی تکوار سے سرمدہ لگانے کی یہ صورت کی کہ دریا میں بچہ کو ڈلو اکرو واپسی کا وعدہ کر کے ترساں و ہراساں نہ ہونے دیا۔

سوموی علیہ السلام کی والدہ کے باطن میں بھی سرمه لگا دینا۔ اسی کو فرماتے ہیں انار آدوہ الیک جس سے اشتیاق کی تکوار کا پیدا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ پھر بھی باوجود ایسی دھاردار تیز تکوار کے از جارفۃ نہ ہو سیں۔ جیسے وہ لڑکا نہیں چکچایا اور سرمه لگوا لیا۔ اور ایسے وقت میں جب کہ شوق کا غلبہ ہو مستقل رہنا اور اس کا اخفا کرنا سخت مشکل ہے۔ مایوس ہو کر صبر کر لیتا اہل ہوتا ہے مگر جب ملنے کی امید بھی وابستہ ہو جاوے ادھرا اولاد کا تعلق بھی ہو اس وقت ضبط دشوار ہے مگر والدہ موسیٰ علیہ السلام کامل بشر تھیں۔ اس وقت بھی ضبط فرمائیں۔ ناقص نہ تھیں کہ قلبی حالت ظاہر ہو جاتی۔ چنانچہ صندوق میں رکھ کر صندوق کو دریا میں چلتا کر دیا۔ اور جب سب کام پورا کر لیا تو آرام سے بیٹھے گئیں۔

## كمال انسانی

آگے اسی مضمون کو فرماتے ہیں

وَاصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فِرِغًا طَ إِنْ كَادَتْ لَتُبَدِّي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطَنَا

عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (پ ۲۰)

اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا حال ظاہر کر دیتیں۔ اگر ہم اس کے قلب کو اس غرض سے مضبوط کئے رہیں کہ یہ یقین کئے رہیں۔

کسی ظاہر پرست کو اس پر یہ وسوسہ ہو سکتا ہے کہ اس میں والدہ موسیٰ کا کیا کمال ہوا۔ تمام اطلاعی امور وحی کے ذریعہ سے حق تعالیٰ نے القاء فرمادیے اور حق تعالیٰ ہی کے مضبوط کرنے سے وہ حالاً مضبوط ہو گئیں پھر ان کا کیا کمال ہوا؟

جواب یہ ہے کہ بشر کے کمال کے تو معنی یہی ہیں کہ خدا کے مضبوط کرنے سے مضبوط ہو جاوے یعنی خدا تعالیٰ نے کامل کر دیا وہ کامل ہو گیا۔ بغیر مدد خداوندی انسان کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ جب کمال انسانی کی حقیقت یہی ہے پھر موسیٰ کی والدہ کے کمال میں کیا شبہ رہا۔ بہر حال یہاں تک تو شان توکل کا غلبہ ظاہر ہوا۔ اس کے بعد تدبیر شروع کی گئی۔

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيُّهُ (پ ۲۰)

انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ ان کا سراغ تو لگا۔ ۱۲

موسیٰ کی والدہ نے ان کی ہمیشہ سے کہا کہ تلاش کرو کہ وہ صندوق کہاں گیا۔ وہ تلاش کے لئے نکلیں۔ دریا میں سے نہر کٹ کر فرعون کے محل کو گئی تھی۔ خدا کی قدرت نہر کو حکم ہوا کہ صندوق کو تو اپنے

اندر لے جا۔ دریا میں سے صندوق نہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب فرعون کے محل میں پہنچا فرعون نے نوکروں سے کہا کہ یہ صندوق جو سامنے سے بہر رہا ہے پکڑو۔ چنانچہ صندوق فرعون کے سامنے لا یا گیا۔ موسیٰ کی ہمیشہ محل میں آتی جاتی تھیں۔ فرعون نے صندوق کھلوا یا۔ اس میں موسیٰ کو دیکھا جو شان خداوندی یعنی محبت کے جوان میں حق تعالیٰ نے رکھی تھی آرام فرماتے تھے جیسا کہ ارشاد ہے۔

### وَالْقِيَّثُ عَلَيْكَ مَحْجَةُ مَبْنَىٰ (ب ۱۶)

اور میں نے تمہارے اوپر ایک اثر اپنی محبت کا ڈال دیا۔

جس کا یہ اثر تھا کہ جو شخص دیکھتا تھا عاشق و فریفہ ہو جاتا تھا۔ اس وقت موسیٰ صندوق میں لیئے ہوئے اپنے انگوٹھے کو چوں رہے تھے انگوٹھے میں حق تعالیٰ نے وہ غذا پیدا فرمادی جو مال کے پستان میں تھی اس لئے دودھ پے ہوئے جس طرح بچہ خاموش پڑا رہتا ہے یوں ہی موسیٰ خاموش پڑے ہوئے تھے فرعون دیکھتے ہوئے فریفہ ہو گیا۔ مگر ظاہر داری کو بولا کر کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو میرا شمن ہو گا۔ اس خطرہ میں بھی حق تعالیٰ نے حقیقت سے غافل نہیں رکھا بلکہ متنبہ کر دیا جو بڑی قدرت کی دلیل ہے کہ باوجود کھٹک کے ان پر قادر نہ ہو۔ جس کا ظاہری سامان یہ ہوا کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ باوقے ہوئے ہو۔ اس وجہ کا بنی اسرائیل میں انتظام کر رکھا ہے کوئی بچہ زندہ نہ ہنے پائے تو وہ بنی اسرائیل والا بچہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نہ معلوم کہاں سے بہتا ہوا آرہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے خاندان سے نہیں معلوم ہوتا کیونکہ ان کے بچوں پر تو پولیس کا پہرہ ہے اس لئے وہم نہ کرو۔ ہمارے اولاد نہیں۔ اسکو بینا بناؤں گے۔ فرعون بھی بعجه محبت مذکور کے یہی چاہتا تھا۔ بات سمجھ میں آگئی رضا مند ہو گیا۔ حکم دیا کہ اچھا اس کے واسطے اناوں کو بلا و کہ دودھ پلاویں چنانچہ اتنا میں بلائی گئیں۔ موسیٰ محل گئے اور کسی کا دودھ نہیں پیا۔ محل کو سر پر اٹھایا۔ موسیٰ کی ہمیشہ چونکہ محل شاہی میں آمد و رفت تھی وہ موقع پا کر محل میں گئیں تو دیکھا کہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتے۔

### وَخَرِّمَنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعُ مِنْ قَبْلٍ (ب ۲۰)

اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دودھ پلا یوں کی بندش کر رکھی تھی۔ ان کی ہمیشہ بولیں کہ:

**هَلْ أَذْلَكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ (ب ۲۰)**

”کیا میں تم لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پتہ بتا دوں جو تمہارے لئے اس بچہ کی پرورش کریں اور وہ اس کی خیر خواہی کریں۔“

یعنی کیا میں تم کو ایسا خاندان بتلا دوں جو اس بچہ کی کفالت کر لیں اور وہ خاندان اس کا خر خواہ بھی ہو۔ فرعون بولا کہ وہ بچہ کے خیر خواہ کیوں ہیں اور ان سے انہیں کیا علاقہ۔ یہ بھرا میں۔ مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی اور جواب ان کی سمجھ میں آگیا کہ لمب کی ضمیر سرکار کی طرف ہے یعنی وہ لوگ سرکاری خیر خواہ ہیں۔ اچھا لے میں لہو چٹا دیا۔ فرعون کو چکر میں لے لیا۔ انبیاء کے خاندان کے عالی دماغ اور ذکری ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ فرعون سمجھا کہ یوں ہی ہو گا بولا کہ اچھا ان کو بلا وہ۔ یہ دوڑی دوڑی اپنی والدہ کے پاس آئیں۔ والدہ نے ان کو دیکھا۔ اول تو اس لحاظ سے کہ خبر لے کر آئی ہوں گی۔ ثانیاً اچھہ سے صرت نمایاں تھی۔ اس لئے دیکھ کر والدہ کی جان میں جان آگئی۔ انہوں نے سارا قصہ بیان کیا تو والدہ وہاں گئیں اور بچہ کو چھاتی سے لگایا تو موئی فوراً دودھ پینے لگے۔ پھر تنخواہ کی بات چیت شروع ہو گئی تو انہوں نے لمبی چوڑی تنخواہ کی اور یہ کہا کہ بچہ کو بھی میں اپنے گھر رکھوں گی۔ میرا یہاں رہنا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرعون نے اس شرط کو اس لئے منظور کر لیا کہ دیکھ لیا کسی اور کا دودھ نہیں پینے۔ اگر وہ فرعون کے گھر رہنا منظور نہ کریں تو دودھ کا کچھ انتظام نہیں اور شرط منظور کر کے کہا کبھی کبھی نہیں دکھلا جایا کرو۔

انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اپنے گھر پر جی بھر کر بچہ کو دیکھوں گی تنخواہ کی تنخواہ ہو گئی۔ بچہ کا بچہ اپنے پاس آگیا۔ اور عزت و حرمت الگ حاصل ہو گئی کہ بادشاہ کے گھر کا شاہزادہ آگیا۔ یہ عجیب قدرت ہے بجان اللہ اکی صفتیں ہیں حق تعالیٰ کی اب افار آڈوہِ ایک کا مضمون پورا واقع ہو گیا۔ موئی کی ساری باشیں عجیب و غریب ہی ہو گیں۔ مجاہدہ و ریاضت بھی عجیب ہوا کہ دریا میں ڈالے گئے دشمن کے ہاتھ میں دیئے گئے مگر کوئی ضرر نہیں ہوا۔ نبوت بھی عجیب طرز سے ٹلی۔ سردی کا زمانہ تھا۔ مدین سے مصر کو اپنے گھر میں سے ساتھ لے کر آرہے تھے کہ راستے میں ان کو دروزہ شروع ہو گیا۔ اور موئی آگ لینے کو چلے تاکہ حالت دروزہ میں حرارت سے آرام ملے۔ مگر وہ تو نور حق تھا وہاں جا کر نبوت عطا ہوئی ہادی حق بنے۔

اسی طرح سے موت بھی عجیب و غریب طور سے آئی جس کا ابھی بیان کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی آپ کے نئے نئے قصہ اور معاملات ظہور میں آئے۔

### حضرت موئی اور عزرا ایل

وہ موت کا واقعہ یہ ہوا کہ عزرا ایل آپ کے پاس قبض روح کے واسطے تشریف لائے آپ نے ان کے ایک طماںچہ مارا۔ بعض ملاحدہ نے اس قصہ سے انکار کیا ہے۔

اصل قصہ یہ ہے کہ یہ لوگ انبیاء کے مراتب سے واقف نہیں موسیٰ کے طمانچے سے عزرا نئل کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تو عزرا نئل حق تعالیٰ کے حضور میں پہنچ اور عرض کیا انہ لا یرید الموت کہ موسیٰ تو موت سے گریز کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے اس طرح مارا۔

یہاں پاشکال یہ ہے کہ کیا موسیٰ کو خدا کے حکم سے انکار تھا جواب یہ ہے کہ موسیٰ نے ان کو پہچانا نہیں کیونکہ اس وقت عزرا نئل بُشَّل بُشَّل آئے تھے۔

انبیاء کا ادب یہی ہے کہ فرشتے ان کے پاس اپنی قاہر ان صورت میں نہ آؤیں۔ بلکہ کسی بشر کی صورت میں آؤیں۔ اس لئے عزرا نئل بُشَّل بُشَّل کی صورت میں آئے تھے۔ موسیٰ نے پہچانا نہیں اور ایک طمانچہ رسید کیا۔ اگر یہ شبہ کیا جاوے کہ فرشتوں میں توبڑی قوت اور طاقت ہوتی ہے موسیٰ کے طمانچے سے ان کی آنکھ کیسے پھوٹ گئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ میں قوت زیادہ تھی۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ مسلم ہے کہ فرشتوں میں قوت زیادہ ہوتی ہے مگر اصل اور غالب یہ ہے کہ جس نوع کی صورت میں وہ آتے ہیں اس وقت اسی نوع کے برابر قوت ہوتی ہے۔ جب فرشتہ شکل بُشَّل میں ہوگا تو اس وقت اس میں بُشَّل سے زیادہ قوت نہ ہوگی۔ اسی طرح جنات بھی جس شکل میں ہوں گے اسی جسمی قوت ہوگی۔

ہمارے یہاں کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مشرف خان تھے وہ رات کو اپنے گھر میں دیر سے آتے تھے۔ دیوان خانہ کا قصہ ہے کہ ایک رات اس کے نیچے سڑک پر بہت دھماکہ کی آواز ہوئی اور اس میں مشرف خان نظر آئے۔ صبح کو لوگوں نے مشرف خان سے دریافت کیا کہ میاں رات کیسی آواز تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میاں رات کو میں دیر میں آیا کرتا تھا۔ دو ایک روز ہوئے مجھے ایک جن ملا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ سوریے آ جایا کرو۔ رات کو دیر کر کے آنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس وقت ہم باہر نکلتے ہیں میں نے کہنا نہیں مانا۔ رات وہ پھر مل گیا۔ اس نے مجھے جانے نہ دیا میری اور اس کی خوب کشی ہوئی۔ میں نے اسے پچھاڑ لیا۔

غرض جن بھی جس کی شکل میں ہوگا اسی جسمی طاقت ہوتی ہے۔ مثلاً سانپ کی شکل میں ہو تو سانپ سی طاقت ہوگی۔ اور کتنے کی شکل میں ہو تو کتنے کی سی طاقت ہوگی۔

کتنے پر ایک حکایت یاد آئی۔ ایک شخص بیان کرتے تھے کہ ہم اور ہمارے ایک رفیق سرانے میں کھانا کھا رہے تھے کہ ایک کتاب سامنے سے آگیا تو وہ رفیق صاحب اسے جھک کر سلام کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ کیا وہیات حرکت تھی۔ کہنے لگا کہ ہم نے نہ ہے کہ جن اکثر کتنے کی شکل میں

آتا ہے۔ تو شاید یہ جن ہو اور جنوں کا بادشاہ ہو اور ہمیں خوش ہو کر روپیہ دے جاوے۔ حالانکہ اہل فن کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ بادشاہ کتے کی شکل میں نہیں آتا۔ اس قسم کی شکلوں میں غریب جن ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ امید بھی غلط نکلی۔ بادشاہ تو پاکیزہ جانوروں کی شکل میں آتے ہیں۔

غرض موسیٰ علیہ السلام نے عزرائیل گوبشہ کی صورت میں دیکھ کر طمانچہ مارا اور پہچانا نہیں۔ دوبارہ پھر عزرائیل بھیج گئے اور آکر انہوں نے حق تعالیٰ کا پیام پہنچایا۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو کسی نبی کی پشت پر ہاتھ کہ دو جتنے بال ہاتھ کے نیچا آجائیں گے اتنے ہی سال کا عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہو گا۔ جواب ملائکہ ہرموت آوے گل فرمایا کہ پھر میں ابھی چلتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے۔

غرض وفات بھی عجیب و غریب طریقہ سے ہوئی اور وادی تیہ میں وفات ہوئی۔ موسیٰ کی تمنا یہ تھی کہ بیت المقدس میں مدفن ہوں جہاں پر اور انبیاء کی قبریں ہیں تو خدا کے حکم سے زمین کی طناب میں کھنچ گئیں اور لغش بیت المقدس میں پہنچ گئی۔

### قصہ الکلیم والحسیف

غرض موسیٰ کے قصے سب ہی عجیب و غریب ہیں۔ اسی غراحت کی وجہ سے ان کے واقعات قرآن پاک میں جا بجا نہ کوئی ہیں۔

تفسیر بیان القرآن لکھتے وقت اتفاقاً خیال ہوا کہ ان واقعات کو یکجا جمع کر کے ان کو مرتب کر دیا جاوے ورنہ تفسیر کے وقت ان واقعات کا مرتب سمجھنا دشوار ہو گا اور تفسیر میں دشواری ہو گی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے قرآن پاک حفظ ہے اس لئے ایک جگہ ان سب آیات کا جمع ہونا سہل ہو گیا۔ پس آیات کو ایک جگہ جمع کر کے پھر ان میں غور کر کے ترتیب دے دی تا کہ قرآن کی تفسیر میں سہولت رہے پھر جی میں آیا کہ ان آیات کا ترجمہ کر کے اس کا ایک مجموعہ تیار کیا جاوے تا کہ بجائے ناولوں کے اس کا دیکھنا مفید ہو۔ اور تفسیر میں چونکہ یہ مضمایں مختلف جگہ ہیں۔ اس لئے متفرق مقامات سے ان کو مرتب کرنا عوام پر سخت دشوار ہوتا۔ لہذا یہ مجموعہ مستقل مرتب کر کے شائع کر دیا گیا۔ مگر وہ محض تفسیر سے تیار کیا گیا ہے۔ سیر کی روایات اس میں بالکل نہیں ہیں اور اس مجموعہ کے ساتھ ایک اور قصہ ابراہیم کا بھی اضافہ کیا گیا کہ وہ بھی بعض وجوہ سے عجیب و غریب اور قرآن مجید میں کثیر الدور قصہ تھا اور اس سارے مجموعہ کا نام الترتیب اللطیف فی قصہ الکلیم و الحسیف رکھا گیا۔ یہ اطلاع تفریح کے لئے کردی گئی۔ یہاں تک تو آیت کا ترجمہ مقصود تھا۔

## خوف وحزن کا فرق

اب صبر کا مضمون جو پہلی بار کے بیان میں زیادہ مقصود تھا وہ ان دو جملوں سے یعنی لا تَحْفَافِی  
اور لا تَحْزَنِی سے مستبط ہوتا ہے یعنی والدہ موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ

**فَإِذَا خَفِتْ عَلَيْهِ فَالْقِيَمُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحَافِي وَلَا تَحْزَنِی (پ ۲۰)**

یعنی جب تم کو یہ اندیشہ ہو کہ موئی و شمن کے ہاتھ آ جاویں گے اور وہ ان کو قتل کر دے گا تو ایسے وقت میں ان کو دریا میں ڈال دینا اور نہ اندیشہ کرنا نہ غمگین ہونا یعنی ضبط کرنا اور صبر سے کام لیتا۔

ایسے موقع پر دو چیزوں کا احتمال ہو سکتا تھا یعنی خوف کا اور حزن کا۔ حق تعالیٰ نے ان دو جملوں میں دونوں احتمالوں کو دفع فرمادیا۔ اور خوف و حزن میں فرق یہ ہے کہ خوف کہتے ہیں اس کو کسی آنے والے مضر واقعہ کا احتمال ہوا اور حزن کہتے ہیں اس کو کسی گزشتہ ناماگ واقعہ پرنا گواری اور افسوس ہو۔

یہاں واقعہ گزشتہ تو یہ تھا کہ ہائے میں نے بچہ کو اپنے ہاتھوں دریا میں ڈال دیا۔ اس کو یاد کر کے حزن ہو سکتا تھا اور واقعہ آئندہ کا خوف یہ تھا کہ دیکھنے کس کے ہاتھ آؤے اور وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ غرض یہاں دو چیزوں کا احتمال تھا۔ حق تعالیٰ نے دونوں کے متعلق فرمایا کہ تم نہ تو دریا میں ڈال کر اپنے فعل پر پچھتا نا اور نہ ڈالنے کے بعد آئندہ کا اندیشہ کرنا۔ دونوں باتوں سے دور رہنا اور ایسے وقت ضبط اور صبر سے کام لیتا۔

## ضبط نفس کی تعلیم

صاحب! اس موقع پر صبر کرنا صبر علی الموت سے بھی اشد ہے کیونکہ موت تو ایسا واقع ہے جہاں صرف حزن ہی ہوتا ہے اور خوف نہیں ہوتا اور یہاں پر دونوں جمع ہیں خوف بھی حزن بھی۔

غرض اکثر واقعات یا موجب حزن ہوتے ہیں یا موجب خوف اور یہ واقعہ خوف اور حزن دونوں کو مخصوص ہے اس لیے ایسے واقعہ پر صبر سخت مشکل ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایسا واقعہ شدیدہ پیش آتا اور پھر عورت ہو کر اس قدر صبر کرنا تعجب خیز امر ہے۔ ایسے وقت میں مردوں کے بھی قدم ڈگنا جاتے ہیں اور صبر کرنا دشوار ہو جاتا ہے اور چونکہ جب یہ دونوں امر مجتمع ہوں یعنی خوف بھی ہو حزن بھی ہو پھر عورت کا جگہ۔ اس کا تخل کرنا اور اصلاً دوسری طرف جنبش نہ کرنا عجیب بات تھی۔ اس لیے حق تعالیٰ نے تسلی کے لیے

اس موقع کے مناسب نہایت حکیمانہ مضمون ارشاد فرمایا کہ ہر ہر پہلو سے پوری تسلی فرمادی۔

آدمی کے طبائع اور جذبات اولاد کے متعلق مختلف ہوتے ہیں یہاں سب کی پوری رعایت ہے۔ اس لئے صبر کی تعلیم کے لئے واللہ یہ مضمون کافی ہے۔ کوئی عقائد آدمی بھی ایسا نہ ہو گا کہ اس قسم کی حکیمانہ تسلی سن کر رنجیدہ رہے۔ بلکہ یہ سن کر کہ بچہ سے پھر ملنا ہو گا۔ قلب سے ملال بالکل رفع ہو کر کیجئے میں شھنڈک پڑ جاوے گی چنانچہ موسیٰ کی والدہ کے قلب میں جو وساوس پیدا ہوئے سب کو علماء و عملاء دونوں طرح رفع فرمادی مضمون کو کامل کرو یا چنانچہ اول

إِنَّا رَأَدُوْهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

(ہم ان کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور اپنے وقت پر رسول بنادیں گے)

سے عقلی لم بیان فرمائی کہ تم غمگین نہ ہونا کیونکہ ہم ان کو تمہارے پاس واپس لاویں گے یعنی موسیٰ اس وقت دریا میں بھی ہلاک نہ ہونگے جو باعث غم ہو۔ اور آئندہ بھی ہلاک نہ ہوں گے جو باعث خوف ہو۔ بلکہ ان کی عمر اتنی دراز کریں گے کہ چالیس سال کے بعد ان کو رسولوں میں سے بناؤیں گے۔

غرض مصیبت کے وقت یہی دو باتیں پیش آتی ہیں خوف اور حزن۔ یہی دو امر اکثر واقع ہوتے ہیں مثلاً بیٹے کا مر جانا۔ اس وقت ایک تو اپنے اعتبار سے رنج ہوتا ہے کہ ہائے ہم سے جدا ہو گیا۔ اور ایک اس کے اعتبار سے رنج ہوتا ہے کہ ہائے وہ ہمارے پاس کھاتا پیتا تھا۔ اب ان باتوں سے روک دیا گیا۔ اب کی مرتبہ آم سے محروم رہا۔ اور آئندہ کے لئے اپنے اعتبار سے اندیشہ ہوتا ہے کہ دیکھتے اس کی مفارقت میں ہمارا کیا حشر ہو۔ تو حق تعالیٰ حزن و خوف دونوں کو اس جگہ رفع فرماتے ہیں کہ ہم موسیٰ کو تمہارے پاس واپس لاویں گے اور ان کو تنبیہ برناویں گے۔ تو آئندہ ہلاک بھی نہ ہونے دیں گے۔ عمر دراز ہو گی اس سے خوف کو رفع فرمادیا۔ نیز تم سے پھر میں گے لہذا یہم بھی نہ کتنا کہ میری آنکھوں سے غائب ہو گئے۔

غرض آیت لا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِی سے دونوں قسم کے واقعوں پر ضبط نفس کی تعلیم معلوم ہو گئی جس کا نام صبر ہے قواعد شرعیہ کس قدر جامع مانع ہیں کہ دونوں قسم کے اثر کا ازالہ فرمادیا۔ اسی قسم کے مضمون کو ایک بدودی نے حضرت عباسؓ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی وفات کے وقت حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے سامنے بیان کیا تھا۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عباسؓ کا جو کچھ غم تھا اس پر کسی کے قول سے اتنی تسلی نہیں ہوئی جتنی ایک گنوار آدمی کے قول سے مجھے تسلی ہوئی وہ مضمون تسلی بخش یہ تھا

اصبر نکن بک صابرین فانما صبر الرعیة بعد صبر الراس  
یعنی آپ صبر کیجئے ہم بھی آپ کی وجہ سے صبر کریں گے کیونکہ کچھوں کا صبر بڑوں کے صبر  
کے بعد ہوتا ہے۔ آپ بڑے ہیں پہلے آپ صبر کیجئے۔

خیر من العباس اجرک بعده والله خیر منك للعباس  
یعنی اس واقعہ میں تمہارا کچھ نقصان ہوا بلکہ نفع ہی ہے اور وہ نفع یہ ہے کہ تم کو ثواب ملا اور  
ثواب تمہارے لئے حضرت عباس سے بہتر ہے اور نہ حضرت عباس کا کچھ نقصان ہوا۔ اس لئے  
کہ وہ خدا تعالیٰ سے مل گئے اور اللہ تعالیٰ عباس کے لئے تم سے بہتر ہیں۔

یعنی تمہارے رہنے سے ان کا اللہ کے پاس رہنا زیادہ بہتر ہے تو کسی کا بھی نقصان اور گھانا  
نہ ہوا۔ دونوں نفع میں رہے پھر غم کیسا۔ عجیب مضمون بیان کیا۔ ایک اعرابی (بدوی) ایسا مضمون  
بیان کرے تجھ بخیز امر ہے نہ علم نہ صحبت پھر ایسا مضمون۔

## بدوؤں کی حالت

بدوؤں کی تو اکثر یہ حالت تھی کہ علم ان کے پاس کوئی نہ رکھتا۔ چنانچہ نماز میں ایک بدوسی  
شریک ہوا۔ امام نے یہ آیت پڑھی۔

الْأَغْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَاجْلَرُ الَا يَعْلَمُوا حَلُوذًا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (ب ۱)  
دیہاتی لوگ کفر و نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو احکام کا علم  
نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں جس میں بعض بدؤوں کی مذمت تھی۔ آپ  
بہت خفا ہوئے اور بگڑے جب دوسری آیت پڑھی۔

وَمِنَ الْأَغْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ (ب ۱)  
اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔  
جس میں بعض بدؤوں کی تعریف تھی جب ذرا خوش ہوئے کہ خیر تعریف بھی کرو۔ اسی  
طرح ایک بدوسی نے چوری کی اور چوری کر کے روپیہ داہنے ہاتھ میں لے کر نماز کی نیت ایک امام  
کے پیچھے باندھ لی۔ اتفاق سے اس کا نام موسیٰ تھا اور جہری نماز تھی امام نے پڑھا۔  
وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسِيٌّ یعنی اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے

تو آپ فوراً کہتے ہیں۔ قاتلک اللہ ما اسحرک تجھے خدا غارت کرے تو کتنا بڑا جادوگر ہے بدوسی تواب بھی اکثر ایسے جاہل اور ناواقف ہوتے ہیں کہ پانی موجود اور تمیم کر کے نماز پڑھ لی۔ امام کے آگے کھڑے ہو گئے اور اقتدار کر لیا یہ حالت ہے۔ بدوسی کی۔

ایک مولوی صاحب مکی بیان کرتے تھے کہ ایک بدوسی حراج (منڈی) میں اپنے کام کو بکشرت آتا تھا۔ ایک دفعہ وہ سوال کرتا ہے کہ لوگ چہار طرف سے مکہ میں کیوں آتے ہیں مکہ میں کیا بات ہے۔ اسکو یہ خبر نہ تھی کہ یہاں بیت اللہ کوئی چیز ہے مگر باوجود ان امور کے اور اس قدر جہالت کے ان کا دل بے حد صاف ہے کچھ غل و غش نہیں۔

چنانچہ وہی مولوی صاحب مدینہ طیبہ کی حکایت بیان کرتے تھے کہ ایک بدوسی مدینہ طیبہ میں آیا اور روضہ قدس پر آ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے یا محمد یا محمد۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کوامت پر بہت شفقت کی نظر ہے اور آپ پیغمبر ہیں۔ اگر یہ بات صحی ہے تو میرے گاؤں میں بارش نہیں ہوتی اور قحط ہو رہا ہے دعا کجھے! اگر میرے گاؤں میں بارش ہو جائے تو میں ایک مشکیزہ گھنی کا آپ کو دوں گا۔ خادموں نے اس کی یہ گستاخانہ گفتگوں کر اسکوڈا اٹا۔ وہ وہاں سے باہر کو بھاگا۔ تو گاؤں کی سمت کو کیا دیکھتا ہے کہ بادل گھرا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ فوراً ایک مشکیزہ گھنی کا خریدا اور پھر روضہ شریف پر یہ کہتا ہوا حاضر ہوا کہ آپ بالکل سچے ہیں اور وہ مشکیزہ گھنی سے بھرا ہوا لے کر روضہ مبارک پر کھڑا ہو گیا اور موقع دیکھتا رہا جب خادموں کی نظر پنجی فوراً مشکیزہ کا دھانہ کھول کر جالی شریف میں ڈال نکل کر بھاگ گیا۔ اس وقتاتفاق سے ایک سالک فیر بھی مسجد نبوی میں موجود تھا۔ جو ایک مدت سے مزار پر پڑا ہوا تھا۔ اور اس کا کوئی باطنی مقام انکا ہوا تھا جو حل نہ ہوتا تھا۔ وہ اس بدوسی کی گفتگوں رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے بارش کا واقعہ دیکھ رہا تھا۔ یہ قصہ دیکھ کر خفا ہو گیا۔ اور گستاخانہ بننے لگا کہ آپ کو بھی حیثت قومی کا خیال ہوا۔ آخر تو یہ بدوسی عرب تھا۔ اس لئے اس کی درخواست پر کسی توجہ کی اور ہم اتنے دنوں سے محروم ہیں۔  
نَعُوذُ بِاللَّهِ!

غرض وہ بدوسی گوئی تھا مگر تھا تو جاہل۔ اور ایک بدوسی یہ تھے کہ ابن عباسؓ کو فیصلت کی تھی۔ اور تسلی وی تھی جو اس آیت سے مانوذ تھی۔ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ (ب ۱۲)

”اور تمہارے پاس جس قدر چیزیں ہیں فنا ہونے والی ہیں اور خدا تعالیٰ کے پاس جس قدر چیزیں ہیں۔ باقی رہنے والی ہیں۔“ اور ایک ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ہم کو یہ باتیں سوچ کر بھی تسلی نہیں ہوتی۔

## مومن اور دوزخ

غرض! اعزہ واقربا کی موت سے ہمیں اجر ملے گا اور مردہ کو خدا کا قرب میسر ہو گا اور دونوں کا انحصار تسلی بخش یہ چیز ہے۔ اگر یہ شبہ کیا جاوے کہ مردہ کو قرب خدا کا ملنا جب ہے کہ یہ یقیناً معلوم ہو کہ مردہ مرحوم و مغفور تھا اور جب یہ معلوم نہیں تو عذاب کا بھی احتمال ہے۔ اس صورت میں تو دنیا ہی میں رہنا بہتر ہے۔ پھر اس استحضار کی گنجائش کہاں رہی؟

تو جواب یہ ہے کہ یہاں ذکر مومنین کا ہے اور مومن اگر فاسق بھی ہو تو آخرت اس کے واسطے دنیا سے ہر حال میں اچھی ہے۔ اس لئے کہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے دو شخص ہوں۔ ایک توباغ میں اور عیش میں ہو اور دوسرا تکلیف اور زحمت میں ہو۔ مگر جو عیش میں ہے وہ دو گھنٹے کے بعد تکلیف میں پڑنے والا ہے اور اس کو معلوم بھی کرادیا ہے۔ مثلاً پھانسی پر چڑھنے والا ہے اور تکلیف اس کے واسطے ہمیشہ کے لئے مقدر اور مقرر ہے تو اس وقت کا عیش بھی اس کے لئے عیش نہیں بلکہ اس سوچ اور اندریشہ کی وجہ سے کہ گھنٹہ کے بعد کیا ہو گا۔ اس عیش کی راحت اور جیسیں اسے معلوم بھی نہیں ہو گی۔ کہ اس میں کیا راحت اور جیسیں ہے اور جو شخص تکلیف میں ہے مگر دو گھنٹے کے بعد آرام میں جانیوالا ہے اور اس کو بھی معلوم کرادیا گیا ہے اسے وہ تکلیف نہیں معلوم ہو گی۔ بلکہ بعد کی راحت کی خوشی میں وہ تکلیف کو کچھ بھی نہ سمجھے گا۔

غرض جس عیش کے فوت کا اندیشہ ہو وہ عیش نہیں اور ایسے ہی جس مصیبت کے ختم ہونے کی امید ہو وہ مصیبت مصیبت نہیں۔ پس ایمان کے ساتھ اگر مومنین دوزخ میں بھی ہوں تب بھی وہ مصیبت مصیبت نہیں کیونکہ وہ ختم ہونے والی ہے۔ اس لئے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تکلیف میں ہے بلکہ یہی کہیں گے کہ راحت میں ہے۔ وجہ یہ کہ مومن دوزخی واقع میں دوزخی نہیں۔ بلکہ وہ جنتی ہے اور اس وقت زبان حال سے وہ یہ کہہ رہا ہے

اگر چہ دور افتادم بایں امید خور سندم                    کہ شاید دست مسن بار دگر جاتا ن من گیرد

”اگر چہ میں دور ہوں مگر اس امید پر خوش ہوں کہ شاید میرا ہاتھ میرا محظوظ پھر پکڑے۔“

اس کو یہ امید ہر وقت رہے گی کہ اب بھی ہاتھ پکڑ لیں۔ اب دوزخ سے نکال لیں گے۔ برخلاف کافر کے کہ وہ ابد الآباد کے لیے جہنمی ہو گا اور کوئی اس قسم کا دقيقہ بھی باقی نہ رکھا جاوے گا جس کی وجہ سے وہ امید کر سکے۔

اس گفتگو پر کسی قسم کا شک و شبہ نہ کیا جاوے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن دوزخ بھی اچھے حال میں ہو گا۔ اور نیز یہ شبہ بھی نہ کیا جاوے کہ اس قسم کے مظاہر کا اظہار بیان میں بھی مناسب نہیں۔

جواب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو خود بیان فرمایا ہے تو ہمیں کوئی منصب اخفا کا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو مسلم نے روایت کیا ہے کہ اہل ایمان کو دوزخ میں ایک قسم کی موت آ جاوے گی۔ یعنی نیند کی کیفیت طاری ہو گی جس سے اور اکالم کا کافر کے برابرنہ ہو گا۔ اور حضرت حق جل وعلا شانہ کافروں کے حق میں فرماتے ہیں لا یز کیهم اور عید میں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے تو اس سے صاف لازم آ گیا کہ مومنین کا تزکیہ کیا جاوے گا۔ پس تعذیب ان کے حق میں تہذیب ہو گی۔ اور دوزخ ان کے لئے بمنزلہ حمام کے ہو گا۔

جیسے کوئی آدمی کسی حکم سے ملنے کو جاتا ہے تو سفر کا جو کچھ میل کچیل ہوتا ہے اس سے پاک صاف ہو کر نہاد ہو کر غسل کر کے اس کو جانا چاہیے اگر کوئی ایسا نہ کرے اور شاہی انتظام سے اس کو حمام کرا دیا جائے تو وہ عنایت ہے کہ اس کو حاضری دربار کے لائق بنادیا گیا۔ اسی طرح مومنین میں جو کچھ میل کچیل ہو گا جو مانع ہے دخول جنت اور لقاء رب سے۔ اسکو حق تعالیٰ دوزخ میں داخل فرمایا کر صاف فرمادیں گے۔ گوئی شخص اپنے لئے اس کو تجویز کرے پس یہ حالت اس کی ایسی ہو گی

طفل مے لزد زندش احتجام      مادر مشق ازاں غم شاد کام

”بچہ خون نکالنے والے کے نشتر سے لرزائحتا ہے اور شفیق ماں خوش ہوتی ہے۔“

## دوخ کا حمام

اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک راجہ کے لڑکی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی سے اس کا عقد کرے مگر کسی کو اپنا کفونہ سمجھتا تھا۔ اتفاق سے ہوا گولہ میں ایک چمار کا لڑکا اڑ کر اس کی چھٹ پڑا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ غیبی لڑکا ہے جو کہ عقد کے لئے بھیجا گیا ہے۔ اور واقع میں تھا وہ غیبی۔ ان لوگوں نے اس کا سامان شروع کیا۔ اور حمام میں نہلانے کو لے گئے۔ گرم پانی سے نہلانا چاہا۔ وہ بہت چلا یا بہت کچھ بہلا یا کسی طرح بہلاتا ہی نہ تھا۔ جواہرات سامنے لائے گئے تو آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اس کو عمدہ کپڑے پہنانے گئے اور زیادہ چلا یا پھر لڑکی کو زیورات وغیرہ پہنا کے سامنے لایا گیا تاکہ اس کے حسن و جمال سے مانوس ہوتا تو بہت ہی پریشان ہوا۔

آخر یہ رانے ہوئی۔ یہ غیبی مختلف ہے ناسوت سے مانوس نہیں۔ چند روز کے لئے اس کو آزاد

چھوڑ دیا جائے۔ آخر ایسا ہی کیا گیا۔ مگر اس کی کسی طرح کوئی بات سمجھہ میں نہیں آئی۔ اتفاق سے اس کا دروازہ کی طرف جانا ہو گیا۔ نکل کر بھاگا۔ گھر پہنچ کر ماں سے مل کر بہت رویا کہے اماں! تجھے خبر بھی ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا۔ میرے اوپر تپتا پانی ڈالا کہ میں مر جاؤں جب بھی میں نہ مرا میا۔ پھر میرے سامنے کفن لایا گیا جب بھی میں نہ مرا میا۔ پھر ایک ڈائن کو میرے سامنے لائے کہ وہ مجھ کو کھا جائے جب بھی میں نہ مرا میا۔

تو جیسے یہ لڑکا حمام کو بلا سمجھا ایسی ہی ہماری حالت ہے کہ ہم بھی دوزخ کے حمام سے گھبرا تے ہیں۔ صاحبو! دنیا کی مثال بھی حمام کی ہے جس میں مومن کو مجاہدات و ریاضت سے صاف ہونے کا حکم ہے۔ تو جو شخص یہاں کے حمام میں طاعات اور بلیات پر صبر کر کے اپنے کو پاک صاف کر کے نہ گیا وہ دوزخ کے حمام میں ڈال کر پاک صاف کیا جائے گا۔ تاکہ لقاء خداوندی کے قابل ہو۔

کفار سے اسی کو منفی فرمانے کے لئے ارشاد فرمایا ہے والا یعنی ہم یہ کفار کے حق میں ہے کہ حق تعالیٰ کفار کو پاک صاف نہ کریں گے۔ اس سے مفہوم ہوا کہ مسلمانوں کو پاک صاف کریں گے اور ان کو دوزخ میں پاک صاف کرنے ہی کوئے جاویں گے۔ پس دوزخ حمامِ عظیم ہے بقدر میں کچیل کے وہاں رہنا ہو گا۔ دوزخ میں لے جا کر میں کچیل اتاریں گے غسل دیں گے مگر چونکہ آخر آگ ہے اس لئے مومنین کو بھی (پا وجود یکہ مقصود وہاں رہنا نہ ہو گا۔ صرف صفائی کے لئے جانا ہو گا)۔ اس حمام کی تکلیف کا حل نہ ہو سکے گا۔ اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ اس لئے یہ مضمون سن کر کسی کو جرأت کی گنجائش نہ ہو گی۔ لیکن ہر حال میں مومن کا دوزخ میں رہنا عذاب کے ساتھ بھی یہاں کے عیش و آرام سے اچھا ہے۔

اب وہ شبہ جاتا رہا کہ آخرت میں جاتا اسی کے واسطے بہتر ہے جسے دوزخ میں جانے کا خوف نہ ہو کیونکہ اور پر ثابت کر دیا گیا کہ مومن ہر حال میں یہاں کی حالت سے وہاں آرام ہی میں ہوں گے کیونکہ وہ ایک دن جنت میں واپس ہونے والے ہیں اور ان کو معلوم بھی کر دیا جاوے گا۔ پس جس مفارقت کے بعد وصال کی امید ہو۔ وہ بحکم وصال ہی ہے۔

## موت سے تعلیم

اس مضمون کو اٹا ر آدُوْهَ الْيَكِ سے بھی بطريق قیاس صحیح ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں بھی واپسی ہی سے تسلی کی گئی تھی کہ ہم مویں کو پھر تمہارے پاس لوٹاویں گے۔ تاکہ تم پھر مل لو اور آنکھوں کو نہنہ دک پہنچا کر اطمینان قلبی حاصل کرو۔ اس وجہ سے حزن نہ کرو۔ یہی علت دونوں جگہ مشترک ہے اور

ہی تسلی کی وجہ واقعہ میں ہمارے لئے بھی ہو سکتی ہے کہ مردہ گو ہمارے پاس دنیا میں واپس نہ ہوگا۔ لیکن جب ہم جاویں گے اور اس سے ملیں گے تو یہ بھی واپسی ہی کے حکم میں ہے کیونکہ مقصود جو کہ ملاقات ہے وہ اس صورت میں بھی بد رجہ اتم حاصل ہے کیونکہ اس ملاقات کے بعد پھر مفارقت کا اندریشہ ہی نہیں۔ اس لئے ہمیں بھی حزن زیبا نہیں کیونکہ سب کا اجتماع خدا کے یہاں ہوگا۔

چنانچہ حق تعالیٰ اسی کو دوسرے الفاظ میں فرماتے ہیں۔ انا الیه راجعون (ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں) کہ ہم سب یعنی مردہ اور اس کے سب متعلقین ان ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ وہاں سب مل لیں گے اسی لئے کسی عزیز کی موت کے وقت ہمیں اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اَنَا لِلَّهِ وَ اِنَا لِلَّهِ رَجِيعُونَ کے مضمون کو سوچا کریں۔ خدا تعالیٰ کے یہاں سب کا اجتماع ہوگا۔ اور سب آپس میں ہمیشہ کے لئے ملتے جلتے رہیں گے۔ آخرت تو کسی قدر شاید دور بھی جاوے۔

روايات سے تو معلوم ہوتا کہ مرنے کے ساتھ ہی سب مل جل لیتے ہیں چنانچہ حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے کہ جب کوئی مرکر یہاں عالم ارواح میں پہنچتا ہے تو وہیں بہت خوش ہوتی ہیں جیسے کوئی عزیز سفر سے آتا ہے اور اس سے مل کر ہم خوش ہوتے ہیں سب کی خیریت دریافت کرتی ہیں کہ ہمارا بھائی اچھا ہے۔ فلاں شخص اچھا ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص کو دریافت کرتی ہیں کہ وہ اچھا ہے یہ مردہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مر گیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ شاید دوزخ میں گیا ہوگا۔ وہ یہاں نہیں آیا۔ پھر کہتی ہیں کہ بھائی یہ تحکما ماندہ آیا ہے۔ اسے آرام لینے دو۔ پھر پوچھ پاچھ لینا پس جب مردہ سے ایک دن ہم کو ملنا نصیب ہوگا۔ تو یہ مفارقت محض عارضی ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص حیدر آباد جا کر ملازم ہو جاوے تو اس کی جدائی پر جب کوہ حیدر آباد میں یہاں سے زیادہ آرام میں ہو کون اس قدر روتا اور رنج کرتا ہے بلکہ تمباکیں کرتے ہیں کہ وہ حیدر آباد ہی میں ملازم ہے۔ باقی ہم کسی نہ کسی دن مل لیں گے اس اختصار میں عارفین کی بھی شان ہے۔

ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک شخص روتا ہوا آیا۔ اور عرض کیا کہ میری بیوی مردہ ہے۔ وہ کہجئے کہ تند رست ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ افسوس ایک شخص جیل خانہ سے چھوٹتا ہے اور دوسرا روتا ہے اور فرمایا کہ تم بھی اسی طرح چھوٹ جاؤ گے۔ پھر وہ بولا کہ حضرت میری روٹی کوں پکائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں بھائی جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ روٹی پکاتی ہوئی آئی تھی۔ حضرت نے یہ باتیں اس طرح فرمائیں کہ جیسے یہ مشاہدہ و اختصار حضرت

کا حال ہو۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت ایک شخص مجھے مدینہ طیبہ ہمراہ لے چلنے کو کہتا تھا۔ اب انکار کرتا ہے۔ دعا کیجئے کہ وہ مدینہ طیبہ لے چلے حضرت خفا ہو گئے کہ ہم سے اسی شرک کی باتیں نہ کرو۔ ظاہر بینوں کے نزدیک تو یہ بات بگڑنے کی نہ تھی۔ مگر جس نے سوئی دلکھی ہو کہ پتلی پتلی چمکتی چمکتی ہے مگر اس کی نوک نہ دلکھی ہوا سے کیا خبر۔ وہ تو سوئی کو یہ سمجھے گا کہ یہ خوب صورت تباہ ہے۔ مگر جس کنوں کا بھی احساس اور ادراک ہو۔ وہ واقعی اسے معمولی چیز نہ سمجھے اس لئے اس واقعہ میں ہمارے نزدیک بگڑنے کی کچھ بھی بات نہیں۔ مگر عارفین کو ہم باتوں سے شرک کی بوآتی ہے جیسے اس میں غیر اللہ پر نظر ہونے کا حضرت کو احساس ہوا۔ وہ تو ان کی نشرت سے بھی زیادہ ایذا اور سمجھیں گے۔ وہ رسول کو احساس نہ ہو۔

## عتاب الہی

ایک ایسا ہی اور قصہ ہے کہ ایک مرتبہ بارش ہونے پر ایک بزرگ کے منہ سے نکل گیا کہ بڑے موقع پر بارش ہوئی۔ اسی وقت عتاب ہوا کہ او بدمیز بے موقع بارش کب ہوئی تھی جو آج کی بارش کو بے موقع کی کہتا ہے۔

واقع میں وہ خلاف مصلحت کب کرتے ہیں۔ اللہ میاں تو حکیم ہیں ان کا کوئی فعل خلاف حکمت نہیں ہوتا۔ دیکھئے ظاہر میں یہ بات معمولی تھی۔ مگر سخت گرفت ہوئی۔ اسی طرح عارفین بھی بعض دفعہ طالبین پر معمولی بات پر عتاب کرتے ہیں کیونکہ واقعہ میں وہ معمولی نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ کے یہاں بھی جو باتیں ہمارے نزدیک ذرا سی اور چھوٹی ہیں اور ہم ان کو خفیف سمجھتے ہیں بعض اوقات ان پر پکڑ ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ الواقع میں بڑی باتیں ہیں۔

ایک عالم شخص کا قصہ میں نے اپنے ابتدائی کتابوں کے استاد سے سنا تھا۔ وہ بواسطہ شیخ دہان علی کے نقل فرماتے تھے کہ ان کا مکہ میں انتقال ہوا۔ کسی ضرورت سے قبر کھولی گئی تو دیکھا کہ قبر میں اس کی صورت مسخ ہو گئی۔ اس کی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ ایسا کیا عمل کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ بیوی سے مشغولی کے وقت نہاتا ہوا گھبرا تا تھا۔ اور اس مسئلہ پر عیسوی مذہب کی مدح کرتا تھا کہ ان کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں۔ تو ممکن ہے کہ کسی کی ظاہری نظر میں یہ ذرا سی بات ہو۔ مگر فی الواقع اسی ذرا سی بات ہے جیسی شیطان کی ذرا سی بات تھی کہ

ءَاسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (۱۵)

کیا میں ایسے شخص کو سمجھو کرو جس کو آپ نے مٹی سے بنایا۔

اور آنا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (ب ۸)

"میں آدم سے بہتر ہوں مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔"

مطلوب یہ ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور آدم کو مٹی سے۔ اور ظاہر ہے کہ آگ افضل ہے مٹی سے اور افضل کے سامنے مفضول کو بوجہ کرنا چاہیے نہ کہ افضل کو۔

دیکھئے بعض کے نزدیک تو یہ بھی ذرا ہی کسی بات تھی جو شیطان نے کہی تھی کہ خدا کے حکم کو خلاف حکمت کہا تھا۔ مگر واقع میں کتنی بڑی بات تھی اسی وجہ سے ابدال آباد کے لئے جہنمی ہو گیا۔

یہ نجع کا مضمون تو حضرت حاجی صاحب کے اس ارشاد کی مناسبت سے کہ ہمارے سامنے شرک کی باتیں نہ کرو استطراد آ آگیا۔ اصل مضمون یہ تھا کہ حضرت نے اس دعا کرانے والے سے فرمایا کہ ایک شخص جیل خانہ سے چھوٹ رہا ہے اور دوسرا افسوس کر رہا ہے۔

### جنت میں قیام کا عرصہ

حقیقت میں دنیا جیل خانہ ہی ہے جس کے ختم ہوتے ہی باعث وہاں ہے ہاں! جو لوگ یہاں سے پاک صاف ہو کر نہیں گئے وہ کچھ ندوں کو جمام اعظم (وزن) میں جاویں گے۔ کوئی ہزار برس کوئی دو ہزار برس۔ مگر ہزار دو ہزار برس گو ظاہر نظر میں بہت زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ مگر واقع اور حقیقت میں خلوص جنت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں۔ بہت تھوڑی مدت ہے کیونکہ یہ زمانہ موئین کے وزن میں رہنے کا محدود ہے اور جنت کا قیام غیر محدود ہے۔ پس کوئی مسلمان شخص آخرت میں نقصان میں نہیں۔ اسی طرح اس کے مرنے کے بعد دنیا میں بھی کسی کا نقصان نہیں۔ نہ مردہ کا کوہ یہاں سے اچھی جگہ چلا گیا نہ ندوں کا۔ ان کو مردہ سے اچھی چیزیں گئی۔ یعنی ثواب اور چند روز میں خود وہ مردہ بھی مل جاوے گا۔ جیسا مفصل بیان ہوا۔ اور یہاں جو لاتحریفی ولا تحریفی ارشاد ہے اس کے متعلق ایک نہایت ضروری اور مفید مضمون قابل بیان ہے۔

### پیدا اش عالم کی غایت

وہ یہ ہے کہ لا تحریفی کا یہ مقصود نہیں کہ مطلق غم نہ کرو کیونکہ وہ تو امر طبعی غیر اختیاری ہے اس کے ساتھ امر و نہی متعلق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مردی یہ ہے کہ تم اپنے اختیار سے غم نہ کرو۔ باقی جس قدر خود ہوا سے ہونے دو۔ یہاں دو سوال و جواب ضروری ہیں۔ دوسرے سوال کے جواب میں اس لے کیونکہ آگ عنصر خفیف ہے اور مٹی عنصر ثقل۔ اور عنصر خفیف ثقل کی طرف نہیں مائل ہوتا۔ بلکہ ثقل کا ہی بیش خفیف کی طرف میلان ہوتا ہے اور ثقل بیشہ پست رہتا ہے خفیف سے۔ ۱۲۔ جامع

کی تو شیع ہو جاوے گی کہ اختیار سے غم کرنے کی ممانعت ہے۔ اضطراری سے ممانعت نہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اللہ میاں نے غم کو اضطراراً ہو۔ پیدا ہی کیوں فرمایا۔ جب مرنے کے بعد ہر شخص کو اپنے وطن پہنچنا ہے اور اس کا مقتصد یہ ہے کہ کسی چیز پر غم نہ ہو تو جس طرح یہ مقتصد عقلی ہے اسی طرح طبعی و تکوینی بھی رکھا جاتا۔ اور اضطراری غم بھی پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ ایسے وقت بظاہر مناسب یہ تھا کہ حق تعالیٰ بندہ کی مدد فرماتے کہ غم ہی نہ ہونے دیتے۔

دوسرा سوال جو اسی پر متفرع ہے یہ ہے کہ جب اضطرار اغم پیدا کر دیا گیا تو پھر غم سے ممانعت ہمیں کیسی ہے۔ اضطراری کا رفع اختیاری کیسے ہو سکتا ہے۔

یہ دوسرا عجیب و غریب ہیں۔ پہلے سے علم میں نہ تھے یعنی اصل اور عمود تو ذہن میں تھا۔ مگر ان شاخوں کی طرف ذہن منتقل نہ ہوا تھا اسی وقت اس طرف ذہن منتقل ہوا اور ساتھ جواب بھی القا ہو گیا۔ سینے غم کے پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ تمام عالم کا قیام غم پر ہے آپ کو تعجب ہو گا کہ عالم کا قیام غم پر کیونکر ہے۔ ظاہراً تو خوشی پر معلوم ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ مدار تکوین مخلوق انسان ہے یعنی عالم کے پیدا کرنے سے اصل مقصود انسان کی پیدائش ہے۔ باقی مخلوقات اصل مقصود نہیں گو باقی مخلوقات انسان سے پہلے پیدا ہوئی ہے۔ مگر ان کا پہلے پیدا ہونا بھی اسی کی دلیل ہے کہ انسان مقصود ہے۔

اس لئے کہ جب کوئی شخص کہیں مہماں جاتا ہے تو میز بان سب سامان مہماں کا پہلے جمع کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ڈھیلے استنبج کے بھی مہماں کے آنے سے پہلے رکھ دیئے جاتے ہیں تاکہ وہ تلاش نہ کرے۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے گائے نیل۔ مکان۔ زمین پانی وغیرہ غرض تمام ضروری سامان انسان سے پہلے جمع کر دیا۔ تاکہ سکونت ارضی کے وقت اس کو دشواری نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے سامان پیدا کیا اور آدم بعد میں اترے۔

یہاں پر ایک حکایت یاد آئی۔ میری پیغمبر سے تفسیر پڑھا کرتی تھی ایک مرتبہ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ اگر آدم گیہوں نہ کھاتے تو زمین میں اترتے یا نہ اترتے اگر نہ اترتے تو فی الارض خلیفۃ کے کیا معنی اور اگر اترتے تو یہ گیہوں کھانے کا الزام کس بناء پر ہے۔

میں نے یہ شق اختیار کی کہ ضرور اترتے تاکہ خلافت کی تکمیل کی جاوے مگر اس صورت میں اکرام کے ساتھ اترتے۔ اب الزام کے ساتھ اترے جیسے اسکوں میں کوئی طالب علم بھیجا جائے۔ اگر وہ قانون کے موافق چلا آیا تو عزت سے آیا۔ اگر نافرمانی کر کے آیا تو گو آیا تو اس

وقت بھی۔ مگر عزت سے نہیں آیا۔ وہ لڑکی یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئی۔

ایک پچھی کے دل میں یہ اشکال ہونا عجیب ہے جواب تک کسی طالب علم سے بھی نہیں ناگیا۔ اگر کسی غیر طالب علم سے پڑھتی۔ مثلاً ملانی سے تو جواب میں دشواری ہوتی۔ اور یہ شبہ ہمیشہ کے لئے کھلکھلتا رہتا۔ اب وہ چونکہ مجھ سے پڑھتی تھی۔ اس لئے یہ شبہ رفع ہو گیا۔ اگر جواب میری سمجھ میں نہ آتا تو میں کسی عالم سے دریافت کر کے اس کو بتلاتا۔

بہر حال تمام مخلوقات انسان کے لئے پیدا ہوئی ہے جس کی ایک لطیف دلیل یہ آیت بھی ہے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهِيرَهَا مِنْ ذَآبَةٍ (پ ۲۲)

”یعنی اگر اللہ تعالیٰ آدمیوں سے اعمال پر مواخذہ فرماتے تو روئے زمین پر کسی داہ کونہ چھوڑتے۔“

اس قضیہ شرطیہ کے مقدم اور تالی میں بظاہر علاقہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ انسان پر مواخذہ کا مقتضیاً ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پر انسان کونہ چھوڑا جاتا۔ اب علاقہ ظاہر ہو گیا کہ چونکہ مخلوق کی پیدائش سے مقصود بالذات انسان ہے پس جب انسان ہی نہ رہتا تو اور مخلوق کو باقی رکھ کر کیا کرتے۔ وہ سب تو انسان ہی کے لئے پیدا ہوئی ہے وہ سب بھی فنا کر دی جاتی۔ پس علاقہ واضح ہو گیا۔ اور اس سے مقصودیت مذکورہ پر دلالت ثابت ہو گئی۔

## بقائے انسانی کامدار

اب یہ سمجھنا چاہیئے کہ انسان کی بقا کس شے پر موقوف ہے تو بالکل ظاہر ہے کہ تمام دارومندار تمدن پر ہے کہ سب آدمی جمع ہو کر ایک دوسرے کی مدد کریں کوئی گھر بنادے۔ کوئی کھیتی کرے وغیرہ وغیرہ۔ اگر تمدن نہ ہو تو کام اتنے ہیں کہ ایک آدمی سے انصرام سخت دشوار ہے۔ غرض! بقاء کا مدار اجتماع پر ہے اور اجتماع کا تعاقون پر اور تعاقون کا ترجم پر۔ ترجم کے بغیر کون کسی کی مدد کرتا۔ اب اہل قصبه جو اس کی مدد کر رہے ہیں محض ترجم کی بنا پر۔ اور ترجم بدلوں کسی کی مصیبت میں پڑے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ تو ترجم کا سبب غم ہوا اور ایک دوسرے کی اعانت جس کی وجہ سے دنیا کا قیام ہے ترجم پر موقوف ہے تو دنیا کا قیام بھی غم پر ہوا۔ جب غم ایسی چیز ہے تو اگر خدا تعالیٰ کسی کو غم دے تو سمجھو کہ بڑی نعمت دی یہ حکمت ہے غم کی پیدائش میں۔

## اضطراری اور اختیاری غم

اب رہا دوسرا سوال کہ پھر شریعت کا یہ حکم کیوں ہے کہ غم نہ کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے مطلق غم سے جس کا ایک درجہ اضطراری ہے ممانعت نہیں کی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا بفراقك يا ابواهیم لمحزونون۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو غم خود ہو جاوے اسے ہونے دو۔ اپنے اختیار سے نہ بڑھاؤ۔ پس ممانعت اختیاری غم ہے اس کا پتہ خود قرآن سے چلتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ امر و نہی اعمال اختیار یہ پر ہوتی ہے اگر غم بالکل غیر اختیاری ہے تو لا تَحَافِي وَلَا تَحْزَنُ میں یہ لانہی کا کیسا۔

پس حاصل یہ ہے کہ کچھ غم تو اضطراری ہے اس میں تو حکمت ہے جو اور پرمند کو رہوئی۔ اور کچھ ہم لوگ تدبیروں پیدا کر لیتے ہیں۔ بس اس کی ممانعت ہے کیونکہ یہ ضرر سا۔

وہ تدبیریں غم بڑھانے کی یہ ہیں کہ واقعہ کو قصد اس سچتے ہو۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سے غم بڑھتا ہے اور سوچنا اور بلا ضرورت تذکرہ کرتا جو کہ سبب ہے غم کا وہ اختیار میں ہے تو جب ان اسباب کو بند کر دو گے اور اس طرف سے توجہ اٹھا لو گے تو اتنا غم نہ ہو گا۔ یہی راز ہے اس کا کہ شریعت نے موقع غم میں ذکر اللہ کی تعلیم کی ہے جس سے توجہ دوسری چیز کی طرف منعطف ہو جاتی ہے اور دوسری چیز بھی ایسی جس کی شان یہ ہے آلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْفُلُوبُ (پ ۱۳) اور جس کی نسبت یہ ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُوا اتَّنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلِئَكَةُ الْأَلَا تَحَافُوا

وَلَا تَحْزَنُوا (پ ۲۳)

”جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر مستقیم رہے ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم تو اندر یہ کرو اور نہ غم کرو۔“

یہاں لَا تَحَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا انشاء بمعنی خبر ہے اور دوسری آیت میں لا خوف عليکم فرمانا اس کا قرینہ ہے یہاں لا خوف عليکم میں حقیقت مراد ہے وہیں لَا تَحَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا میں مجاز۔

الحمد للہ مدلول آیت کے بیان سے فراغت ہوئی سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کتبی جامع تعلیم ہے کہ قلت صبر کے دو سبب جدا جد ایمان فرمائے حزن و خوف پھر ان دو سببوں سے نصاً ممانعت فرمائی اور انا رَآدُوْهُ إِلَيْکِ میں اپنی اور مرنے والے کی بھلانی کے مراقبہ کی قیاساً تعلیم فرمادی۔ جیسے

اس قیاس کی تقریر جس جگہ اعرابی کے اشعار مذکور ہیں اصل برلنکن بک صابرین بیان کی گئی ہے آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی کسی جامع تعلیم ہے اور کیسے عنوانات ہیں جن سے وہ تعلیم عقلی بھی۔ اسی جامعیت پر کسی نے خوب کہا ہے

بہارِ عالم حنشِ دل و جان تازہ میدارو  
برنگ اصحاب صورت را برو ارباب معنی را  
”اس کے حسن کی بہارِ دل و جان کو تازہ رکھتی ہے۔ رنگ کے ساتھ ظاہر بینوں کو اور بو کے ساتھ حقیقت پانے والوں کو لبھاتی ہے۔“

خصوصیت کے ساتھ یہ مراقبہ یعنی تمام واقعات، مصیبت میں بھلانگی کا سوچنا بہت ہی نافع ہے اس سے غم کا فوراً ہوجاتا ہے اور وہ بھلانگیاں فرضی نہیں۔ بلکہ واقعی ہیں کیونکہ ہر مصیبت میں یقیناً منافع ضرور ہوتے ہیں۔ وقت نہیں رہا۔ ورنہ مصیبت کے ایک ایک واقعہ کو تفصیل وار بیان کرتا۔ ان واقعات کا اور ان کے منافع کا اجمالاً ایک دمرے موقع پر ذکر فرمایا گیا ہے چنانچہ ان واقعات کا ذکر تو اس آیت میں ہے۔

وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثُّمَرَاتِ (پ ۲)

اور ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر رخوف اور فاقہ سے اور مال و جان اور پہلوں کی کمی سے۔

اور شمرات کا ذکر کر اس آیت میں ہے۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْةً. قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِحُونَ (پ ۲)

”آپ ایسے صابرین کو بشارت سناتے ہیں! کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی ملک میں ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔“

اور کافی تعلیم صبر کے متعلق اس آیت میں بھی مذکور ہے جس کا بیان اس وقت کیا گیا۔ مگر ضمن میں ایک قصہ کے جواب کا مصدقہ ہے

خوش تر آس باشد کہ سر دلبر اس گفتہ آید در حدیث دیگر اس اچھا تو یہ ہے کہ محبوبوں کا راز دوسروں کی بات میں بیان فرمائیں کہ صمن میں جو مقصود ہو اور مطلوب عمل تھا وہ ہم پر ظاہر فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے ان کو کس قدر شمر لے ہیں۔ تم بھی اگر ایسا کرو گے تم کو بھی اس طرح شمرات ملیں گے۔

قرآن شریف بڑی نعمت ہے اس کی تعلیم کی طرف علماء عملاً توجہ کرو۔ ہمارے ذمہ حق ہے کہ قرآن نے جو تعلیم کی ہے اس پر عمل کریں۔ بالخصوص جس چیز کا اس وقت بیان کیا گیا ہے یعنی صبر۔ گو بعض وقت بعض عمل اور بعض احکام مثلاً صبر ہی ہے نفس کو ناگوار ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے

فہم میں اس کے مصالح نہیں آتے۔ مگر واقع میں اس میں مصالح ہوتے ہیں۔

جیسا کہ میرے بچپن کا قصہ ہے کہ مجھے اس وقت کنکوے کا شوق تھا گواڑانا نہ آتا تھا اور کتابیں بھی پڑھتا تھا۔ جہاں مدرسہ سے آیا کنکوے لے کر باہر چل دیا۔ اپنی تائی صاحبہ کے پاس رہتا تھا۔ سر پر بال تھے ان کو سرد ہونے کا خیال تھا۔ مگر میں جہاں مدرسہ سے آیا کنکوے لے کر چل دیا۔ کسی طرح ان کے ہاتھ نہ آتا تھا کہ وہ سرد ہو دیں۔

ایک روز انہوں نے کھلی کٹورے میں بھگو کر پہلے سے رکھی۔ جب میں مدرسہ سے آیا تو فوراً میرے سر میں ڈال دی۔ پھر میں تو مجبور ہو گیا اور سرد ہلوانہ پڑا گواں وقت ان کا یہ عمل مجھے نامگوار ہوا۔ مگر انہوں نے بسبب محبت کے مال کار پر نظر کر کے میرے نفع کے واسطے ایسا کیا۔

اسی طرح حق تعالیٰ بھی بندہ کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ تو اس پر راضی ہو۔ خصوص جب تم کو دعا یہی محبت کا ہے تو ذرا سے چہ کہ سے بھاگنا نہ چاہیے اگر بلا اختیار کچھ منافع فوت ہو جاویں خواہ ظاہری یا باطنی۔ حتیٰ کہ اگر باطنی حالات و کیفیات بھی چلے جاویں تو اس میں خدا کی حکمت ہے گھراؤ نہیں، وہ حال یا اس کا بدل پھر لوئے گا ورنہ یہی کہا جاوے گا۔

تو بیک زخم گریزانیِ عشق                  تو بجز نامے چہ میدانیِ عشق

تم جو عشق کے ایک زخم سے بھاگتے ہو۔ تم عشق کے نام کے سوا اس کا کچھ بھی نہیں جانتے۔  
بس یوں سمجھ لیا کرو کہ اس وقت اس کے فوت ہی میں تمہارے لئے مصلحت ہے۔ اگر باقی رہنا ہمارے حق میں مناسب ہوتا تو کبھی بھی زائل نہ ہوتا۔ ہمیں خدا سے محبت کر کے اس قدر نازک مزاجی مناسب نہیں۔ بس اب ختم کرتا ہوں دعا کیجئے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علیٰ اللہ  
واصحابہ اجمعین۔ واخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمین۔  
برحمتك يا ارحم الراحمين۔

## تحريم المحرم

یہ خطبہ ۸ محرم الحرام بعد خطبہ ہوم الجمعة ۱۳۳۶ھ کو ارشاد فرمایا جسے  
مولوی اشراق الرحمن صاحب کاندھلوی نے قلمبند کیا۔

## خطبہ ماٹورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ  
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا  
مُضِلٌّ لَهُ، وَمِنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا  
شَرِيكَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدَ عَبْدَهُ، وَرَسُولَهُ، وَصَلَى  
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

**زمانہ فضیلت:** - آج ۸ محرم ہے۔ کل نو پرسوں دس ہو گی کل اور پرسوں بجز روزہ  
کے اور کوئی عمل مسنون نہیں اور کسی عمل کا جو فی زمانہ راجح ہیں کوئی ثواب اور اجر نہیں۔ البتہ حدیث  
میں نویں دسویں کے روزوں کی فضیلت آتی ہے کہ اس سے سال بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں  
لہذا اس طرح سے یہ زمانہ فضیلت کا ہے اور اس زمانہ میں فضیلت خاصہ روزہ کی ثابت ہوئی ہے  
باقی اور کسی عمل کی فضیلت نہیں ثابت ہوئی اور اتفاق سے دن بھی ٹھنڈے اور چھوٹے ہو گئے تو  
ایسے موقع کو غیمت جان کر جانے نہ دیجئے۔ مگر روزہ کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک دن کا یعنی  
صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ پہلے یہ جزئیہ میری نظر سے نہیں گز راتھا۔ اس لئے میں محرم  
لے دسویں محرم کا روزہ تو حدیث فعلی سے ثابت ہے کہ حضور نے رکھا ہے اور نویں کا حدیث قولی سے کہ اگر میں آئندہ  
سال زندہ رہا تو نویں کا روزہ رکھوں گا۔ (اشراق)

کے ایک روزہ کو مکروہ نہیں کہتا تھا۔ اب چونکہ یہ جزئیہ میری نظر سے گزرا تھا۔ اس لئے میں محرم کے ایک روزہ کو مکروہ کہتا ہوں۔ اب چونکہ یہ جزئیہ میری نظر سے گزرا ہے اس لئے میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں اور محرم کے صرف ایک روزہ رکھنے کو مکروہ کہتا ہوں۔

باقی یہ جو مشہور ہے کہ ایک روزہ رکھنا مطلقاً مکروہ ہے سو یہ شہرت خلاف اصل ہے۔ ایک روزہ رکھنا مطلقاً مکروہ نہیں۔ اس کراہت میں صرف عاشوراء کی تخصیص ہے۔ تمام زمانوں کو عام نہیں۔ یہ تروزہ کے متعلق تحقیق تھی۔

### تکشیر جماعت کا اثر

دوسری بات یہ سمجھنے کہ جس زمانہ میں طاعت کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس زمانہ میں معصیت کی عقوبات بھی سخت ہوتی ہے۔ اس لئے اس زمانہ میں بدعاں وغیرہ سے سخت احتراز لازم ہے۔ مثلاً بعض لوگ اس زمانہ میں تعزیہ کی رسیں کرتے ہیں جو بے اصل ہیں۔ اور بعضے لوگ جو ذرا مہذب ہیں وہ اس سے تو بچتے ہیں مگر مجالس میں جو کہ اس زمانہ میں ہوتی ہیں شرکت کرتے ہیں۔ میں اس وقت ان لوگوں کو نہیں کہتا جن کے مشرب اور مذہب میں یہ مجالس محبوب ہیں میرا خطاب صرف اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اور گواں شرکت میں اہل سنت والجماعت کے عقائد تو عام طور سے وہ نہیں ہوتے جو شیعہ کے ہوتے ہیں بلکہ کوئی تماشہ کی نیت سے چلا جاتا ہے کسی کو وہ لوگ خود بلا تے ہیں۔ اس لئے مردتو سے چلا جاتا ہے بعضوں کی اور خاص غرضیں بھی ہوتی ہیں۔ مگر سب صاحب خوب سن لیں حدیث میں صاف موجود ہے۔ من کثر سواد قوم فهو منهم (کنز العمال : ۱۲۸، ۲۳۵، اتحاف السادة : ۶)

کہ جس نے کسی قوم کی جماعت کو زیادہ کیا (خواہ عقیدہ اسے برآجھتا ہو) قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس پر مجھا ایک بزرگ کی حکایت یاد آئی کہ ہولی کا زمانہ تھا سب جانوروں پر رنگ لگا ہوا تھا وہ بزرگ جا رہے تھے دیکھا کہ ایک گدھا بیٹھا ہے اور اس پر رنگ نہیں ہے اور بچارے گدھے پر کون رنگ لگاتا۔ دیکھا ان بزرگ نے مزاح فرمایا کہ تو ہی خالی ہے تجھے کسی نہیں رنگا یہ کہہ کر پان کھا رہے تھے پیک اس پر تھوک دی کہ لا تجھے میں رنگ دوں بعد مرنے کے عذاب میں گرفتار ہوئے اور اس کی پوچھ ہولی کہ تم ہولی کھلیے تھے تو کسی جماعت کی تکشیر کرنا اور اس کی زیادتی کرنا سرسری بات نہیں ہے اور پکڑ سے خالی نہیں۔

غرض تکشیر جماعت خواہ استہزاء ہو یا بطور تماشہ یادل جوئی وغیرہ کے ہو غرض کسی صورت

سے ہو ہر صورت میں بروئے قانون قیامت کے دن پوچھ ہوگی اور قیامت میں انہی کے ساتھ حشر ہو گا اس لئے نہ خود مجلس کرنا جائز ہے نہ کسی کی مجلس میں جانا جائز ہے۔

بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان ایام میں امام حسین کی شہادت کا قصہ کوئی کتاب لے کر پڑھتے ہیں اور دوسروں کو سناتے ہیں یہ فعل بھی تخصیصاً ان ایام میں کرنا جائز نہیں اس لئے کہ شریعت میں غور اور مدبر کرنے سے شریعت کا مقصود واقعات مصیبت میں ازالہ غم اور رفع غم معلوم ہوتا ہے اور یہ قصہ پڑھ کر اور سن کر یا سن کر غم کا تازہ کرنا مقصود ہے تو یہ اچھا خاصاً شریعت کا مقابلہ ہے اسی قسم کی باتوں کی جس کی شریعت میں کچھ اصل نہ ہو بدعت کہتے ہیں شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ولیکن میفزائی بر مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر کچھ مت بڑھا۔

## اختراع فی الدین

تو ان ایام میں شہادت نامہ کا پڑھنا بھی ایک فضول رسم ہے غرض ان ایام میں ان دونوں کی تخصیص سے ایصال ثواب کوئی زیادتی اجر ہے بلکہ اس خیال کے ہوتے ہوئے اس کے بعدت ہونے میں کلام ہی نہیں اور کوئی صاحب خلاصہ کمال کر مجھ پر یہ الزام نہ لگاویں کہ میں ایصال ثواب کرو کتا ہوں ہرگز نہیں البتہ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ عاشورہ کی تخصیص کر کے ایصال ثواب کرنا اور یہ خیال کرنا کہ آج زیادہ ملے گا ضرور بے اصل اور اختراع فی الدین ہے۔ الغرض اس دن میں کوئی ایسا عمل جس پر اجر ملے بجز روزہ کے ثابت نہیں ہوا۔

## زیادت فی الدین

البتہ صرف دنیاوی برکت کے بارہ میں ایک اور عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور وہ بھی برداشت ضعیف ثابت منقول ہے جس کا ضعف من جر بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہے:

من وسع على عباده و اهله يوم عاشوراء و سع الله عليه سائر سننه.

کہ جس نے عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال یہ فراخی کی تو حق تعالیٰ اس یہ تمام سال فراخی کھیں گے۔

۱۔ قلت كلا بل هو ثابت صحيح اخرجه البهیقی فی الشعب من حدیث ابی سعید و ابی هریرة و ابن مسعود و جابر قال اساتیله کلها ضعیفة ولكن اذا ضم بعضها الى بعض الاواده قوۃ و قال الحافظ ابو الفضل العراقي فی امالیه حدیث ابی هریرة ورد من طرق صحيح بعضها ابو الفضل بن ناصروا و رہ ابن الجوزی فی الموضوعات من طريق سليمان بن ابی عبد الله عنه وقال سليمان مجھول و سليمان ذکرہ ابن حباب فی الثقات فالحدیث حسن علی رایہ وقال و له طرق عن جابر علی شرط مسلم اخرجه ابن عبد الرفری الاستذکار من روایة ابی النبیر عنه وهو صح طرقه قال و قلور و ايضاً من حدیث ابن عمر اخرجه الدارقطنی فی الافراد و موقوفاً علی عمر اخرجه ابن عبد البر سند جيد اد کذا فی الدر المنثور للسيوطی ۱۲

تو صرف دنیاوی برکت کے واسطے یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک درجہ میں ثابت ہوا اور اگر اس سے ایصال ثواب کی کوئی اصل نکالے تو وہ بھی نہیں بنتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اہل و عیال پر وسعت کرنے کو فرمایا ہے لینے دینے کو نہیں فرمایا۔ تو اس دن میں تخصیصاً کچھ دینا زیادت فی الدین ہے اور یہ ضروری نہیں کہ جو کام اطلاق کے ساتھ اچھا ہو وہ تقید کے ساتھ بھی اچھا ہو مثلاً حضن خدا واسطے دینا تو، ہر زمانہ میں اچھا ہے اور بعض زمانہ میں اچھا ہے اور بعض زمانہ میں خصوصیت سے اور اچھا ہے جہاں دلیل ہو مگر عاشوراء کے دن خصوصیت کے ساتھ کسی دلیل سے ثابت نہیں۔

پس اس دن میں ایصال ثواب کی تخصیص کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بجائے چار رکعت کے پانچ رکعت پڑھے۔ تو ہر شخص اس کا ممنوع ہونا تسلیم کرتا ہے تو نماز باوجود یہ کہ اچھی چیز ہے مگر پانچ رکعت پڑھنا زیادت فی الدین ہے اس وجہ سے ہر شخص اس کو برآسمحتا ہے تو ایسے ہی خاص محرم کے دن ایصال ثواب کی تخصیص مکروہ ہے۔ اسی طرح کچھرا وغیرہ پکانا بھی از قبیل الترام مالا ملزم ہے۔

غرض سوائے عمل کے ایک دینوی ہے یعنی وسعت عیال پر اور ایک آخری ہے یعنی نویں دویں کا روزہ باتی اور کوئی عمل ثابت نہیں تو فضول اپنے نفس پر کسی قسم کا بارہ النا اور اپنے کو خلجان میں ڈالنا ہے لہذا ان امور سے اجتناب ضروری ہے اور وسعت عیال کو دنیاوی برکت کا عمل میں نے اس واسطے کہا کہ اس پر وسع اللہ علیہ کو مرتب فرمایا جس سے ظاہر ہے کہ دنیاوی برکت ہو گی۔ آخری برکت یعنی ثواب وغیرہ کا ذکر نہیں۔

### یوم عاشوراء کی فضیلت

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے بلکہ اکثر عوام کا یہی خیال ہے کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت بوجہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے تو یہ خیال بالکل غلط ہے عاشوراء کے دن کی فضیلت اس وجہ سے نہیں بلکہ عاشوراء کا دن پیشتر سے شرائع سابقہ میں افضل ہے جیسے روایات سے معلوم ہوتا ہے پھر شریعت محمدیہ مقدسہ میں بھی اس کی فضیلت وارد ہے جب کہ اس شہادت کا وقوع بھی نہ ہوا تھا سو اس کی فضیلت اس شہادت سے نہیں بلکہ خود یہ شہادت اس یوم میں اس لئے واقع ہوئی کہ یہ فضیلت کا دن تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس دن کو اپنے مقبول بندہ حضرت امام حسینؑ کی شہادت کے واسطے منتخب فرمایا غرض اس دن کو حضرت امام حسینؑ کے قصہ سے کوئی فضیلت نہیں ہوئی بلکہ خود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس دن میں شہید ہونے سے فضیلت ہوئی۔